




تاریخ ابن کثیر البتایہ والنہیۃ

حصہ پنجم ششم



نفس اکردوبازا کراچی طبعی

علامہ حفظہ ابو الفداء عماد الدین ابن کثیر دمشقی

تاج ابن كثير

www.muhammadiLibrary.com

ابوالفدا حافظ ابن كثير دمشقى

وَذَكَرَهُمْ بِأَيْدِمِ اللّٰهِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰرٍ شٰكُوْرٍ

تاریخ ابن کثیر

شہرہ آفاق عربی کتاب

الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ

کا اردو ترجمہ



۹ھ سے ۱۱ھ تک کے حالات، غزوہ تبوک، مسجد خرابہ، عبداللہ بن ابی کی وفات، مسلمانوں کے کذاب کی حضور ﷺ کے پاس آمد، حضرت عدی بن حاتم کا واقعہ، حجۃ الوداع کے لیے آپ کی روانگی، آپ ﷺ کے ورثے کے متعلق ارشادات، آپ کے احرام کی کیفیت، تلبیہ و طواف، نیز آپ کی تجہیز و تکفین کے واقعات اور آپ کی ازواج، لونڈیوں، غلاموں اور خادموں کے اسماء شامل ہیں۔

تصنیف * علامہ حافظ ابوالفدا عماد الدین ابن کثیر (۷۰۱ھ-۷۷۴ھ)

ترجمہ * مولانا اختر فتح پوری

نفسِ اکیسی

اُردو بازار، کراچی

طبعی

الْبَدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ

مصنفه علامه حافظ ابو الفدا عماد الدين ابن كثير کے حصہ سوم چہارم کے اردو
ترجمے کے جملہ حقوق اشاعت و طباعت تصحیح و ترتیب و تہویب قانونی بحق

طارق اقبال گاہندری

مالک نیس اکیڈمی کراچی محفوظ ہیں

تاریخ ابن کثیر	نام کتاب
علامہ حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر	مصنف
مولانا اختر فتح پوری	ترجمہ
نیس اکیڈمی - کراچی	ناشر
جنوری ۱۹۸۹ء	طبع اول
آفسٹ	ایڈیشن
۴۷۲ صفحات	ضخامت
۰۲۱-۷۷۲۲۰۸۰	ٹیلیفون

مطبوعہ: احمد برادرز پرنٹرز - ناظم آباد - کراچی

تعارف

جلد پنجم

البدایہ والنہایہ کی جلد پنجم ۹ھ سے لے کر اھ تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ جس میں غزوہ تبوک، مسجد ضرار، عبداللہ بن ابی کی وفات، میلہ کذاب کی آپ کے پاس آمد، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا واقعہ نیز بے شمار وفود کی آمد، حجۃ الوداع کے لیے آپ کی روانگی۔ آپ کے احرام کی کیفیت، تلبیہ و طواف اور رمی و نحر کے حالات، نیز آپ کی وفات، تجہیز و تکفین، قبر و جنازہ کے واقعات و حالات، آپ کی وفات کے متعلق اہل کتاب کی روایات، آپ کے ورثہ کے متعلق ارشادات، آپ کی ازواج، لوٹنیوں اور غلاموں اور خادموں کے اسماء اور حالات و واقعات کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور ان میں بعض ایسے روح پرور اور ایمان افروز واقعات ہیں کہ جن کے مطالعے سے انسان کے ایمان میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔

وہ حضرات جو نبی کریم ﷺ کے جنازے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کا جنازہ نہیں پڑھا اور حصول خلافت کے لیے تگ و دو کرتے رہے اور مصطفیٰ راہے کفن بگذاشتند کے مصداق بنے۔ نعوذ باللہ من ذالک

وہ اس جلد کا مطالعہ کریں۔ ان پر سب حقیقت واقع ہو جائے گی۔ یہ نیکہ اس جلد میں آپ کی وفات کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور کسی پہلو کو تشنہ نہیں چھوڑا گیا۔ امید ہے یہ جلد ان بہت سی غلط فہمیوں کے ازالے کی بھی باعث بنے گی۔ جن کے جال میں پھنس کر بعض لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب و شتم کر کے اپنی عاقبت کی رسوائی کا سامان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

والسلام

اختر فتح پوری

۸۷-۱۰-۲۷



فہرست عنوانات

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۴۱	مسجد ضرار کا واقعہ	12		باب اول	
۴۵	کعب بن مالک کی کہانی ان کی اپنی زبانی	13	۱۳	ہجرت کانواں سال	1
	شاہ عثمان کا خط حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہما کے نام		۱۳	رجب میں ہونے والے غزوہ تبوک کا بیان	2
۴۷	ان کے علاوہ نافرمانوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا ذکر	14		باب ۲	
۴۹	حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ	15	۱۷	رونے والوں وغیرہ میں سے جو لوگ معذوری کی بنا پر پیچھے رہے	3
۵۰	تبوک سے آپ کی واپسی کے بعد ہونے والے واقعات	16	۲۰	باب ۲	
۵۲	۹ھ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس وفد ثقیف کی آمد	17	۲۰	تبوک کی طرف روانگی	4
۵۳	آدم		۲۵	تبوک کی طرف جاتے ہوئے آپ کا حجر میں شمود کے مسکن سے گزرنا	5
۵۷	عبداللہ بن ابی کی وفات	18	۲۹	تبوک میں کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ کے خطبہ دینے کا بیان	6
۶۱	باب ۵	19	۳۱	حضرت معاویہ بن ابی معاویہ کی نماز جنازہ	7
	انصار کی مدح میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اشعار	20	۳۲	تبوک میں قیصر کے ایلچی کی رسول اللہ ﷺ کے پاس آمد	8
۶۳	۹ھ میں رسول اللہ ﷺ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو امیر حج بنا کر بھیجنا اور سورہ برأت کا نزول	21		تبوک سے واپسی سے قبل آپ کا ایلد کے بادشاہ اور جرباء اور اذرح کے باشندوں سے مصالحت کرنا	9
۶۴	باب ۶		۳۴	آپ کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کو اکیدر	10
۶۸	باب ۷		۳۵	دومہ کی طرف بھیجنا	
۶۹	رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آنے والے	22	۳۷	باب ۴	
				پانی کا معجزہ	11

	باب ۱۱		۱۳۲	بنی محارب کا وفد	58
۱۳۳	ہجرت کا دسواں سال	82	۱۳۲	بنی کلاب کا وفد	59
	آنحضرت ﷺ کا حضرت خالد بن ولید	83	۱۳۲	بنی رواحہ کا وفد	60
۱۳۳	ضی منہ کو بھیجنا		۱۳۳	بنی قریظہ کا وفد	61
	رسول اللہ ﷺ کا اہل یمن کی طرف امراء کو	84	۱۳۳	بنی قریظہ کا وفد	62
۱۳۵	بھیجنا		۱۳۳	بنی البرکاء کا وفد	63
	باب ۱۲		۱۳۳	کنانہ کا وفد	64
	رسول اللہ ﷺ کا حجۃ الوداع سے قبل حضرت	85	۱۳۳	کنانہ کا وفد	65
	علی بن ابی طالب اور حضرت خالد بن ولید		۱۳۳	اشجع کا وفد	66
۱۵۲	ضی منہ کو یمن کی طرف بھیجنا		۱۳۳	باہلہ کا وفد	67
	باب ۱۳		۱۳۳	بنی سلیم کا وفد	68
۱۵۹	حجۃ الوداع ۱۰ھ	86	۱۳۵	بنی بلال بن عامر کا وفد	69
	باب ۱۴		۱۳۵	بنی بکر بن وائل کا وفد	70
	اس بات کے بیان میں کہ حضور ﷺ نے	87	۱۳۵	بنی تغلبہ کا وفد	71
	مدینے سے صرف ایک ہی حج کیا اور اس سے		۱۳۶	اہل یمن اور حیب کے وفد	72
۱۶۰	قبل آپ نے تین عمرے کیے		۱۳۶	فولان کا وفد	73
	باب ۱۵		۱۳۶	جعفی کا وفد	74
	ابودجانہ سماک بن حرشہ ساعدی یا سباع بن	88		باب ۹	
	عرفط غفاری کو مدینے پر عامل مقرر کرنے کے		۱۳۷	رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ازد کی آمد	75
	بعد حضور ﷺ کی مدینے سے حجۃ الوداع کے		۱۳۸	کندہ کا وفد	76
۱۶۲	لیے روانگی		۱۳۸	الصدف کا وفد	77
	باب ۱۶		۱۳۸	حشین کا وفد	78
	آپ کے مدینے سے مکے کی طرف روانہ	89	۱۳۸	بنی سعدہ کا وفد	79
۱۶۳	ہونے کا بیان		۱۳۸	درندوں کا وفد	80
	باب ۱۷			باب ۱۰	
	مدینہ منورہ میں ظہر کی چار رکعت اور ذوالحلیفہ	90	۱۴۰	جنات کا وفد	81

۱۸۹	حمید بن ہلال حدادی بصری کی روایت	103	۱۶۶	میں حصری دور کعت نماز پڑھے کا بیان	
۱۸۹	زید بن اسلم کی روایت	104		باب ۱۸	
۱۹۰	سالم بن ابی الجعد غطفانی کوفی کی روایت	105		اس جگہ کا بیان جہاں سے حضور ﷺ نے بلند	91
۱۹۰	سیمان بن طرخان التیمی کی روایت	106		آواز سے نکیر کہی اور نافلین کا اختلاف اور اس	
۱۹۰	سوید بن جحیر کی روایت	107	۱۷۱	بارے میں حق کو ترجیح دینے کا بیان	
۱۹۰	عبداللہ بن زید ابوقلابہ الحمری کی روایت	108		باب ۱۹	
۱۹۱	علی بن زید بن جدعان کی روایت	109		حضور ﷺ نے اپنے اس حج میں افراد جمع	92
۱۹۱	قتابہ بن دعامہ سدوسی کی روایت	110		اور قرآن میں سے کس کا احرام باندھا اس کے	
۱۹۱	مصعب بن سلیم زہری کی روایت	111	۱۷۶	متعلق تفصیلی بیان	
۱۹۱	یحییٰ بن اسحاق حضرمی کی روایت	112		افراد کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ	93
۱۹۲	ابوالصیقل کی روایت	113	۱۷۸	رضی اللہ عنہ کی روایت	
	ابوقدامہ حنفی جس کا نام محمد بن عبید بیان کیا جاتا	114		افراد کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما	94
۱۹۲	ہے اس کی حضرت انس سے روایت		۱۷۸	کی روایت	
	قرآن کے بارے میں البراء بن عازب کی	115		ان لوگوں کا بیان جو آپ کے حج تمتع کے قائل	95
۱۹۲	حدیث		۱۷۹	ہیں	
۱۹۳	حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت	116		حضور ﷺ کو قارن قرار دینے والوں کی	96
۱۹۳	حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک دوسرا طریق	117	۱۸۵	دلیل کا بیان	
	حضرت ابوطلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ عنہ کی	118		امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی	97
۱۹۳	روایت		۱۸۵	روایت	
	حضرت سراقہ بن مالک بن جشم رضی اللہ عنہ کی	119		امیر المومنین حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما	98
۱۹۳	روایت		۱۸۶	کی روایت	
	آنحضرت ﷺ سے حضرت ابن ابی وقاص	120	۱۸۸	حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت	99
۱۹۳	رضی اللہ عنہ کی روایت		۱۸۸	بکر بن عبداللہ المزنی	100
۱۹۵	حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی روایت	121		ثابت البنانی کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے	101
۱۹۵	حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت	122	۱۸۸	روایت	
۱۹۵	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت	123	۱۸۸	حمید بن تیرویہ الطویل کی روایت	102

			۱۹۷	حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کی روایت	124
۲۳۳	حلال ہونے والوں کا بیان	139		حضرت انہر ماس بن زید باہلی رضی اللہ عنہما کی روایت	125
				ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کی	126
			۱۹۷	روایت	
۲۳۳	حج کو فتح کر کے عمرہ بنانے کا جواز صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے یا ہمیشہ کے لیے	140	۱۹۸	ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت	127
				باب ۲۰	
۲۳۵	ہدی نسلانے والوں کے لیے فتح کا حکم	141	۲۰۱	دونوں روایات میں تطبیق کا بیان	128
				باب ۲۱	129
۲۳۶	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حلال ہونا	142	۲۰۲	ابوداؤد طیالسی کی روایت کردہ حدیث کا جواب	
				آپ کے احرام کو مطلق قرار دینے والوں کا	130
۲۳۸	یوم منیٰ	143	۲۰۳	مستند ہونا	
				رسول اللہ ﷺ کے تلبیہ کا بیان	131
				باب ۲۲	
۲۳۵	عرفہ میں آپ کی دعائیں	144		رسول اللہ ﷺ کے حج کے بارے میں حضرت	132
				جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اکیلا ہی	
۲۳۹	اس موقف میں رسول اللہ ﷺ پر نازل ہونے والی وحی کا بیان	145	۲۰۹	ایک مستقل عبادت ہے	
				باب ۲۳	
				ان مقامات کا بیان جس میں آپ نے اپنے حج	133
				وغیرہ میں مدینے سے جاتے ہوئے نماز ادا کی	
۲۳۹	عرفات سے مشعر الحرام کی طرف آپ کی واپسی کا بیان	146	۲۱۳		
				باب ۲۴	
۲۵۵	شب مزدلفہ	147		رسول اللہ ﷺ کا مکہ میں داخلہ	134
				آپ کے طواف کا بیان	135
				اپنے طواف میں حضور ﷺ کے رمل واضطباع کا بیان	136
				۲۲۱	
۲۵۸	وادی محسر میں تیز چلنے کے بیان میں یوم النحر کو آپ کے صرف جمرہ عقبیٰ پر رمی کرنے کا بیان آپ نے کیسے رمی کی؟ کب کی؟ کس	149	۲۲۳	آپ اس طواف میں سوار تھے یا پیدل	137
				صفا اور مروہ کے درمیان آپ کے طواف کا بیان	138
			۲۲۵		

۲۹۰	کرتی ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر جنتہ کے قریب مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ پر خطبہ دیا	۲۶۱	جگہ سے کی اور کتنی کی؟ اور رمی کے وقت آپ کے تلبیہ چھوڑنے کا بیان	
	باب ۴۴		باب ۲۴	
۲۹۸	ہجرت کا گیارہواں سال	۱۶۳	۲۶۴	۱۵۰
۲۹۹	غزوات و سرایا کی تعداد	۱۶۴	۲۶۵	۱۵۱
	باب ۴۵		باب ۲۵	
	رسول اللہ ﷺ کی وفات کے متعلق مندر	۱۶۵	۲۶۸	۱۵۲
	آیات و احادیث کا بیان نیز یہ کہ رسول اللہ			۱۵۳
	ﷺ کے اس مرض کا آغاز کیسے ہوا جس میں		باب ۲۶	
۳۰۸	آپ کی وفات ہوئی	۱۶۶	۲۷۲	۱۵۴
۳۰۹	مرض کا آغاز	۱۶۷		
۳۱۵	اس بارے میں بیان ہونے والی احادیث	۱۶۸		
۳۱۹	آپ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دینا	۱۶۹		
۳۲۵	کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائیں	۱۷۰		
	فائدہ		باب ۲۷	
۳۲۵	آپ کا احتضار اور وفات	۱۷۱	۲۷۳	۱۵۵
	باب ۴۶		باب ۲۸	
	آپ کی وفات کے بعد اور دفن ہونے والے	۱۷۲	۲۷۴	۱۵۶
۳۳۵	امور ہمہ کا بیان	۱۷۳		
۳۳۵	سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ			
	سقیفہ کے روز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ			
۳۳۸	بیان کیا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا اس کی			
	صحت کا اعتراف کرنا		باب ۲۹	
	باب ۴۷		۲۸۰	۱۵۷
۳۳۳	کسی شخص کی خلافت کے متعلق کوئی نص موجود نہیں	۱۷۴		
			باب ۳۰	
			ان احادیث کے بیان میں جو اس امر پر	۱۵۸
			دلالت کرتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ایام تشریق	
			کے دوسرے دن منیٰ میں خطبہ دیا	
			شہنائے منیٰ میں سے ہر شب آپ کے بیت	۱۵۹
			اللہ کے زیارت کرنے کی حدیث	
			باب ۴۱	
			۲۸۲	۱۶۰
			۲۸۳	۱۶۱
			۲۸۵	۱۶۲
			۲۸۹	
			۲۹۰	
			باب ۴۲	
			باب ۴۳	
			اس حدیث کے بیان میں جو اس امر پر دلالت	۱۶۲

باب ۵۲		باب ۴۸			
۳۸۵	آپ کے فرماں کا بیان "کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔"	191	رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت آپ کی	175	
	حضرت صدیق عقیل رضی اللہ عنہ کی روایت سے موافقت	192	عمر اور آپ کے غسل کی کیفیت اور جنازہ اور قبر		
۳۸۸	رکھنے والی جماعت	۳۴۸	کی جگہ کے بیان میں		
	باب ۵۳	۳۵۰	فائدہ	176	
۳۹۲	روافض کے استدلال کی تردید	193	۳۵۵	آپ کے غسل کا بیان	177
	باب ۵۴	۳۵۸	۳۵۸	آپ کے کفن کا بیان	178
۳۹۴	آپ کی ازواج و اولاد	194	۳۶۰	آپ کے جنازہ کی کیفیت	179
	باب ۵۵	۳۶۲	۳۶۲	آپ کے دفن کا بیان اور آپ کہاں دفن ہوئے	180
	جن عورتوں کو آپ نے نکاح کا پیغام دیا اور ان	195	۳۶۷	آپ سے آخری ملاقات کرنے والا آدمی	181
۴۰۵	سے عقد نہیں کیا	۳۶۸	۳۶۸	آپ کب دفن ہوئے؟	182
	باب ۵۶	۳۷۰	۳۷۰	آپ کی قبر کا بیان	183
۴۰۸	آپ کی لونڈیوں کے بیان میں	196	۳۷۱	آپ کی وفات سے مسلمانوں کو جو مصیبت پہنچی	184
	باب ۵۷	۳۷۵	۳۷۵	آپ کے تسلی دینے کے بارے میں وارد ہونے	185
۴۱۳	آپ کی اولاد کے بیان میں	197	۳۷۵	والی احادیث	
	باب ۵۸	۳۷۷	۳۷۷	آپ کی وفات کے روز عارفین اہل کتاب کے	186
	آپ کے غلاموں، لونڈیوں، خادموں، کاتبوں	198	۳۷۷	بیانات	
۴۱۹	اور سیکریٹریوں کا بیان	۴۱۹		باب ۴۹	
۴۳۴	آپ کی لونڈیاں	199	۳۷۹	حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے متعلق آنحضرت ﷺ	187
	باب ۵۹	۳۷۹	۳۷۹	کی پیشگوئی کا پورا ہونا	
۴۴۳	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے آپ کے وہ خدام جو	200		باب ۵۰	
	آپ کے غلام نہیں تھے	۴۴۳		آنحضرت ﷺ کی وفات پر حضرت حسان	188
	باب ۶۰	۳۷۹	۳۷۹	رضی اللہ عنہ بن ثابت کا قصیدہ	
۴۵۳	آپ کے کاتبین وحی	201		باب ۵۱	
	باب ۶۱	۳۸۲	۳۸۲	اس بات کے بیان میں کہ....	189
۴۷۱	آپ کے امناء	202	۳۸۴	منجیہ	190

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب ۱

ہجرت کا نواں سال

ز جب میں ہونے والے غزوہ تبوک کا بیان:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اے مومنو! مشرکین نجس ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اور اگر تمہیں فقر کا خوف ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تم کو اپنے فضل سے تو نگر بنا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صاحب علم و حکمت ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام قرار نہیں دیتے اور اہل کتاب میں سے جو لوگ دین حق کی اطاعت نہیں کرتے ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔“

حضرت ابن عباسؓ، مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیرؓ، قتادہ اور ضحاک وغیرہم سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرکین کو حج وغیرہ میں مسجد حرام کے قریب آنے سے روک دیا جائے تو قریش کہنے لگے کہ ایام حج کی منڈیاں ہم سے جاتی رہیں گی اور ان سے جو کچھ ہم حاصل کیا کرتے تھے وہ بھی جاتا رہے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض انہیں اہل کتاب سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔

پس رسول کریم ﷺ نے رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کر لیا کیونکہ وہ اسلام اور اہل اسلام سے قریب ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ کے قریب اور دعوت الی الحق کے لائق تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اے مومنو! ان کفار سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تم میں سختی کو محسوس کریں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ شعار لوگوں کے ساتھ ہے۔“

اور جب تبوک کے سال رسول کریم ﷺ نے رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کیا تو سخت گرمی اور بد حالی کا دور تھا آپ نے لوگوں کے سامنے اس جنگ کی حقیقت کو واضح کیا اور اپنے ارد گرد کے بدوی قبائل کو اپنے ساتھ خروج کرنے کی دعوت دی۔ پس آپ کے ساتھ تقریباً تیس ہزار آدمی چل پڑے جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے تخلف کیا اور منافقین اور مقصرین میں سے جن لوگوں نے کسی عذر کے بغیر تخلف کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا اور ان کی مذمت کی اور انہیں شدید زجر و توبخ کی اور انہیں بری طرح رسوا کیا اور ان کے بارے میں قرآن نازل کیا جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور سورہ براءۃ میں ان کی حقیقت حال واضح کیا۔ جیسا کہ ہم نے اس بات کو اور مومنین کی روانگی کے حالات کو مفصل و مبسوط طور پر تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے:

”بلکہ اور بوجھل ہو کر نکلو اور راہ خدا میں اپنی جان اور اموال کے ساتھ جہاد کرو اگر تمہیں علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر فائدہ جلد ملے اور سفر میان ہوتا تو ضرورتاً تیرے پیچھے ہولیتے لیکن مشقت کا سفر انہیں بہت ہی معلوم ہوا۔“
عقرب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔“

پھر اس کے بعد فرماتا ہے:

”اور مومنوں کو یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب نکل پڑیں پس کیوں نہ ان کی ہر ایک جماعت سے ایک گروہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بھی یقیناً کہتے ہیں یہ آیت ناسخ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناسخ نہیں ہے۔ واللہ اعلم

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں۔ پھر رسول کریم ﷺ ہجرت کے نویں سال ذوالحجہ سے رجب تک مدینہ میں ٹھہرے پھر آپ نے لوگوں کو رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا اور ہمارے علماء میں سے زہری، یزید بن رومان، عبد اللہ بن ابوبکر اور عاصم ابن عمر بن قنادہ وغیرہم نے غزوہ تبوک کے متعلق وہ کچھ بیان کیا ہے جو انہیں معلوم ہوا ہے اور بعض لوگوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو بعض نے بیان نہیں کیں۔ اور وہ کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے اصحاب کو رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اور یہ شدید گرمی، خشک سالی اور لوگوں کی تنگی کا زمانہ تھا۔ اور پھل بھی کچے ہوئے تھے اور لوگ اپنے پھلوں اور سایوں میں ٹھہرنا پسند کرتے تھے اور اس وقت نکلنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور رسول کریم ﷺ کا عام دستور یہ تھا کہ آپ جب کسی غزوہ کے لیے نکلتے تو اس کے بارہ میں کنایہ سے کام لیتے مگر غزوہ تبوک کے متعلق آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے سفر مشقت کی دوری، زمانے کی سختی اور اس دشمن کی کثرت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جو آپ کا قصد کیے ہوئے تھا تاکہ لوگ اس کے لیے اپنی تیاری کر لیں۔ پس آپ نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور انہیں بتایا کہ آپ رومیوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔

ایک روز رسول کریم ﷺ نے جبکہ آپ اس کے لیے تیاری کر رہے تھے بنی سلمہ کے ایک شخص جد بن قیس سے فرمایا:

اے جد! کیا اس سال آپ رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیں۔ قسم بخدا! میری قوم کو علم ہے کہ مجھ سے بڑھ کر عورتوں سے خوش ہونے والا اور کوئی شخص نہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے رومیوں کی عورتوں کو دیکھ لیا تو میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے اس سے اعراض کیا اور فرمایا میں نے تجھے اجازت دی اور اللہ تعالیٰ نے جد کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی:

”اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے۔ آگاہ رہو وہ فتنہ میں گر پڑے ہیں اور جہنم یقیناً کفار کو گھیرنے والی ہے۔“

”اور منافقین نے جہاد سے بے رغبتی کرتے ہوئے اور حق میں شک کرتے ہوئے اور رسول کریم ﷺ سے متعلق جھوٹی

نہریں اڑاتے ہوئے ایک دوسرے سے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو۔“

تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی:

”وہ کہتے ہیں کہ گرمی میں نہ نکلو، کہہ دیجیے جہنم کی آگ بہت گرم ہے کاش وہ سمجھتے۔ پس وہ تھوڑا منسین اور زیادہ روئیں۔ یہ اس کی سزا ہے جو وہ کماتے ہیں۔“

ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے اس ثقہ آدمی نے جس نے محمد بن طلحہ بن عبدالرحمن سے اور اس نے اسحاق بن ابراہیم بن عبداللہ بن حارثہ سے اور اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے دادا سے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ رسول کریم ﷺ کو اطلاع ملی کہ کچھ منافقین سویلم یہودی کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں اور اس کا گھر جاسوم کے پاس تھا۔ وہ غزوة تبوک میں لوگوں کو رسول کریم ﷺ کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے۔ پس آپ نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اصحاب کی ایک پارٹی کے ساتھ ان کے پاس بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان سمیت سویلم کے گھر کو جلا دے تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور ضحاک بن خلیفہ گھر کے پچھواڑے سے گھسا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس کے اصحاب بھی گھسے اور بھاگ گئے تو اس بارے میں ضحاک نے کہا:

”بیت اللہ کی قسم! قریب تھا کہ محمد ﷺ کی آگ ضحاک اور ابن ابیرق کو جلا دیتی اور اس نے سویلم کے گھر کو ڈھانپ لیا تھا اور میں اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اور کہنی پر بچھکا ہوا تھا۔ تم پر سلامتی ہو میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا اور میں خوفزدہ ہو گیا ہوں اور جو شخص آگ کو چادر کی طرح اوڑھ لے وہ جل جاتا ہے۔“

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ پھر رسول کریم ﷺ اپنے سفر کے اہتمام میں لگ گئے اور آپ نے لوگوں کو جلدی سے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اور مال دار لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور سواریاں دینے کی ترغیب دی پس مال دار لوگوں نے سواریاں دیں اور خوب مال دیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس قدر خرچ کیا کہ کسی آدمی نے ان کی مانند خرچ نہ کیا، ابن ہشام بیان کرتا ہے کہ مجھے میرے ایک قابل اعتماد آدمی نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوة تبوک میں جیش العسرة پر ایک ہزار دینار خرچ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے اللہ! عثمانؓ سے راضی ہو جا اور میں بھی اس سے راضی ہوں۔“

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ہارون بن معروف، ضمیرہ اور عبداللہ بن شوذب نے عبداللہ بن قاسم سے بیان کیا اور اس سے عبدالرحمن بن سمرہ کے غلام کث سے بیان کیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت نبی کریم ﷺ نے جیش العسرة کو تیار کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے میں ایک ہزار دینار لپیٹ کر لائے اور انہیں حضرت نبی کریم ﷺ کی گود میں ڈال دیا تو آپ انہیں اٹنے پلٹنے لگے اور فرمانے لگے:

”آج کے بعد عثمانؓ جو کام کرے گا وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔“

ترمذی نے اس حدیث کو محمد بن اسماعیل، حسن بن واقع اور ضمیرہ سے بیان کیا ہے اور اسے حسن غریب کہا ہے۔ اور عبداللہ بن احمد نے اپنے باپ کے مسند میں بیان کیا ہے کہ مجھے ابو موسیٰ الغزی نے بتایا اور عبدالصمد بن وارث نے ہم سے بیان کیا اور سکون

بِسِ الْمَغِيرَةِ نے مجھ سے بیان کیا اور ولید بن ہشام نے فرقد ابی طلحہ سے اور اس نے عبدالرحمن بن حباب سلمی سے میرے پاس بیان کیا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے تقریر کی اور جمیش العسرۃ کے تعلق ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: ”میں ایک سواونوں کا پالانوں اور عرق گیروں سمیت ذمہ لیتا ہوں۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ پھر آپ منبر کی سیڑھی سے اترے اور پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”میں مزید ایک سواونوں کا پالانوں اور عرق گیروں سمیت ذمہ لیتا ہوں۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دے کر فرماتے دیکھا۔ اور عبدالصمد نے بیان کیا ہے کہ آپ نے متعجب آدمی کی طرح اپنے ہاتھ کو نکالا اور فرمایا کہ: ”عثمان آج کے بعد جو کام کرے گا اسے اس کا گزند نہ پہنچے گا۔“

اور اسی طرح ترمذی نے بھی اسے محمد بن یسار عن ابوداؤد طیالسی عن سکین بن المغیرہ ابی محمد آل عثمان کے غلام سے بیان کیا ہے اور اس وجہ سے اسے غریب قرار دیا ہے۔ اور بیہقی نے اسے عمرو بن مرزوق کے طریق سے سکین بن المغیرہ سے بیان کیا ہے اور تین بار کہا ہے کہ آپ نے تین سواونوں کو پالانوں اور عرق ریزوں سمیت اپنے ذمہ لیا تھا۔ عبدالرحمن کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو منبر پر فرماتے دیکھا کہ: ”اس کے بعد عثمان کو کوئی کام نقصان نہ دے گا۔ یا آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی کام نقصان نہ دے گا۔“

ابوداؤد طیالسی کہتے ہیں کہ ابو عوانہ نے ہم سے حصین بن عبدالرحمن عمرو بن جادان اور احف بن قیس سے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان کو حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم سے کہتے سنا کہ: ”میں آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ جس نے جمیش العسرۃ کو تیار کیا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔“

پس میں نے انہیں تیار کیا یہاں تک کہ انہیں کیل اور اونٹ کے زانوؤں کو باندھنے والی رسی بھی فراہم کر کے دی تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا ہے اور نسائی نے اسے حصین کی حدیث سے بیان کیا ہے۔



باب ۲

رونے والوں وغیرہ میں سے جو لوگ معذوری کی بنا پر پیچھے رہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

”اور جب کوئی سورت اترتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے مالدار لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھ رہے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ وہ اس بات سے راضی ہو گئے کہ عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی پس وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور انہی کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے کرنے والے آئے کہ انہیں اجازت دی جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ بیٹھے رہے جو ان میں سے کفر پر مرے انہیں دردناک عذاب ملے گا کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی مریضوں پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول سے اخلاص رکھیں۔ نکلی کرنے والوں پر الزام کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ان پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ تیرے پاس آئے کہ تو انہیں سواری دے تو تو نے کہا مجھے کچھ نہیں ملتا جس پر تمہیں سوار کروں وہ واپس چلے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو، واں تھے اس غم سے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے مال نہیں پاتے الزام صرف ان پر ہے جو دولت مند ہو کر تجھ سے اجازت مانگتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ دینے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی پس وہ نہیں جانتے۔“

اور ہم نے تفسیر میں ان تمام امور پر کافی گفتگو کی ہے اور یہاں ان رونے والوں کا ذکر مقصود ہے جو رسول کریم ﷺ کے پاس سواری کے لیے آئے تاکہ وہ اس غزوہ میں آپ کی مصاحبت کریں مگر انہوں نے آپ کے پاس کوئی سواری نہ پائی جس پر آپ انہیں سوار کرتے پس وہ جہاد فی سبیل اللہ اور اس میں خرچ کرنے سے محروم رہ جانے پر افسوس سے روتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ وہ انصار وغیرہم کے سات آدمی تھے بنی عمرو بن عوف میں سے سالم بن عمیر بنی حارثہ میں سے علیہ بن زید بنی مازن بن النجار میں سے ابولیلیٰ عبدالرحمن بن کعب بنی سلمہ میں سے عمرو بن الہمام بن الجوع اور عبداللہ ابن المغفل مزنی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمرو المزنی تھے اور بنی واقف میں سے حری بن عبداللہ اور عرابض بن ساریہ فزاری بنی انہیں تھے۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ابن یامین بن عمیر بن کعب نضری، ابولسلیٰ اور عبداللہ بن مغفل سے ملا اور وہ دونوں رورہے تھے۔ اس نے پوچھا تم دونوں کو کس چیز نے رلایا ہے وہ کہنے لگے ہم دونوں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تاکہ آپ ہمیں سواری دیں پس ہم نے آپ کے پاس کوئی سواری نہیں پائی جس پر آپ سوار کرائیں اور ہمیں آپ کے ساتھ نکلنے کی سکت نہیں ہے تو اس نے انہیں اپنا اونٹ دیا اور وہ اس پر کوچ کر گئے۔ اور اس نے انہیں توشہ کے طور پر کچھ کھجوریں بھی دیں پس وہ حضرت نبی اکرم ﷺ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔

اور یونس بن کبیر نے ابن اسحاق سے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ علیہ بن زید رات کو نکلا اور اس نے اس شب مشیت الہی کے مطابق جس قدر نماز پڑھنی تھی پڑھی پھر اس نے رو کر کہا۔

اے اللہ تو نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اس میں رغبت دلائی ہے پھر تو نے مجھے اتنا نہیں دیا جس سے میں جہاد کی سکت پاسوں اور تو نے اپنے رسول کے ہاتھ میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دی جس پر وہ مجھے سوار کرائیں اور میرے جسم مال اور عزت کو جو بھی نقصان پہنچا ہے میں اس میں ہر مسلمان پر خیرات کرتا رہا ہوں۔ پھر وہ لوگوں کے ساتھ ہو گیا رسول کریم ﷺ نے فرمایا اس شب کا خیرات کرنے والا کہاں ہے پس کوئی آدمی کھڑا نہ ہوا پھر آپ نے فرمایا خیرات کرنے والا کہاں ہے وہ کھڑا ہو جائے پس اس نے آپ کے پاس جا کر آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا:

”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میرا جان ہے تجھے بشارت ہو کہ وہ خیرات مقبول زکوٰۃ میں لکھی گئی ہے۔“

اور اس موقع پر حافظ بیہقی نے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کی حدیث کو بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابو عبداللہ حافظ ابو العباس محمد بن یعقوب احمد بن عبد الحمید مازنی اور ابواسامہ نے بربر سے اور اس نے ابوموسیٰ سے بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ:

میرے ساتھیوں نے مجھے رسول کریم ﷺ کے پاس بھیجا کہ میں آپ سے ان کے لیے سواریوں کے متعلق پوچھوں یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے غزوہ تبوک میں جیش العسرہ میں آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ انہیں سواری دیں آپ نے فرمایا قسم بخدا میں آپ کو کسی چیز پر سوار نہیں کر سکتا اور میں آپ سے اس حال میں ملا کہ آپ ناراض تھے اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اور میں رسول اللہ ﷺ کے منع کرنے اور اس خوف سے کہ آپ مجھ پر ناراض ہیں غمگین ہو کر واپس آ گیا اور میں نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو رسول اللہ ﷺ نے جو بات فرمائی تھی اس کی اطلاع دی اور ابھی میں ایک لمحہ ہی ٹھہرا تھا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کہاں ہے پس میں نے انہیں جواب دیا انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ آپ کو بلا رہے ہیں انہیں جواب دیجیے اور جب میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا:

ان دونوں مشکیزوں اور ان دونوں مشکیزوں کو چھ اونٹوں کے عوض سے لوج نہیں آپ نے اسی وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے خرید لیا تھا آپ نے فرمایا: انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو اللہ اور اس کا رسول تمہیں ان پر سوار کراتا ہے میں نے کہا بے شک اللہ کا رسول آپ لوگوں کو ان پر سوار کراتا ہے۔ لیکن قسم بخدا میں آپ کو اس وقت تک نہیں

چھوڑوں گا جب تک تمہارا ایک آدمی میرے ساتھ اس آدمی کے پاس نہ چلے جس نے رسول اللہ ﷺ سے اس گفتگو کو سنا ہو۔ جب میں نے آپ سے تمہارے متعلق سوال کیا تھا اور آپ نے پہلی دفعہ مجھے منع کر دیا تھا پھر اس کے بعد آپ نے مجھے سواری عطا فرمائی یہ خیال نہ کریں کہ میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے جو آپ نے نہیں فرمائی تو انہوں نے مجھے کہا خدا کی قسم آپ ہمارے ہاں راستہ باز ہیں اور ہم وہی کریں گے جو آپ پسند کریں گے وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ ان کی ایک جماعت کے ساتھ چلے اور ان لوگوں کے پاس آئے جنہوں نے رسول کریم ﷺ کی اس گفتگو کو سنا تھا۔ جس میں اسے انہیں سواری دینے سے منع کرنے اور سواری دینے کا ذکر تھا پس انہوں نے بھی انہیں وہی بات بتائی جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتائی تھی۔ اور بخاری اور مسلم نے ابو کریم اور ابو اسامہ سے یہ حدیث بیان کی ہے اور ان دونوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا کہ آپ ہمیں سواری دیں آپ نے فرمایا قسم بخدا میں آپ کو سوار نہیں کرا سکتا اور نہ میرے پاس کوئی سواری ہے جس پر تمہیں سوار کراؤں راوی بیان کرتا ہے کہ پھر رسول کریم ﷺ کے پاس غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے ہمارے لیے ننگی کوبانوں والے چھ اونٹوں کا حکم دیا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر ہم نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں اپنی قسم کا تاوان دیا ہے۔ خدا کی قسم اس میں ہمارے لیے برکت نہ ہوگی تو ہم آپ کے پاس واپس گئے تو آپ نے فرمایا: میں نے تمہیں سواری نہیں دی بلکہ اللہ نے تمہیں سواری دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: قسم بخدا میں ان شاء اللہ قسم نہیں اٹھاؤں گا اور اگر کوئی ایسی بات مجھے اس سے بہتر نظر آئی تو میں اسے اختیار کر لوں گا اور قسم کا کفارہ دے کر اس سے آزاد ہو جاؤں گا۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو بوعبیدہ حاضری نے دیر کرادی حتیٰ کہ وہ بغیر کسی شک و شبہ کے رسول اللہ ﷺ سے پیچھے رہ گئے جن میں بنی سلمہ کے کعب بن مالک بن ابی کعب، بنی عمرو بن عوف کے مرارہ بن ربیع، بنی واقف کے ہلال بن امیہ اور بنی سالم بن عوف کے ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یہ لوگ سچے مسلمان تھے اور اپنے اسلام میں ہر قیمت سے بالاتھے میں کہتا ہوں کہ پہلے تین آدمیوں کا قصہ عنقریب مفصل طور پر بیان ہوگا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ:

”اور ان تین کو جو پیچھے رکھے گئے تھے اللہ نے لطف کیا یہاں تک کہ زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہوگئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے خیال کر لیا کہ خدا کے سوا کوئی پناہ نہیں۔“

ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور انہوں نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ ملنے کا عزم کر لیا۔ جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا۔



تبوک کی طرف روانگی

یونس بن کبیر ابن اسحاق سے بیان کرتا ہے:

پھر رسول کریم ﷺ نے اپنے سفر کی تیاری کی اور چلنے کا ارادہ کر لیا پس جب آپ جمعرات کو نکلے تو آپ نے شیعۃ الوداع پر پڑاؤ کیا اور آپ کے ساتھ تیس ہزار سے زیادہ آدمی تھے اور دشمن خدا عبد اللہ بن ابی نے آپ سے نیچے پڑاؤ کیا۔ اور وہ ان کے خیال میں دولشکروں سے کم نہ تھا۔ پس جب رسول کریم ﷺ چلے تو عبد اللہ بن ابی منافقین اور شکی لوگوں کے ایک گروہ کے ساتھ آپ سے پیچھے رہ گیا اور رسول کریم ﷺ نے محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا، راوی بیان کرتا ہے کہ الدر اور ددی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے تبوک کے سال مدینہ میں سباع بن عرفطہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل پر قائم مقام مقرر کیا اور انہیں ان کے ساتھ قیام کرنے کا حکم دیا۔ پس منافقین نے آپ کے متعلق جھوٹی خبر اڑادی اور کہا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بوجھ سمجھتے ہوئے اور ان سے ہلکا ہونے کے لیے انہیں پیچھے چھوڑا ہے۔ پس جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ نے اپنے ہتھیار لیے اور چلتے چلتے جرف مقام پر رسول کریم ﷺ سے جا ملے جہاں آپ پڑاؤ کیے ہوئے تھے اور منافقین نے جو بات کہی تھی اس کے متعلق آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا:

”انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن میں نے تو آپ کو اس پر قائم مقام مقرر کیا ہے جو میں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، واپس چلے جائیے اور اپنے اور میرے اہل کے بارے میں قائم مقامی کیجیے۔ اے علی! کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔“

پس حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور رسول اللہ ﷺ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ پھر ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھ سے محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ نے ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص سے اور اس نے اپنے باپ سعد سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہتے سنا اور بخاری اور مسلم نے شعبہ کے طریق سے سعد بن ابراہیم سے اور انس نے ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص سے اور اس نے اپنے باپ سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

اور ابوداؤد طیالسی نے اپنے مسند میں بیان کیا ہے کہ ہم سے شعبہ نے الحکم سے اور اس نے مصعب بن سعد سے اور اس نے اپنے باپ سے بیان کیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ:

”رسول اللہ ﷺ نے غزوہ تبوک میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قائم مقام بنایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر قائم مقام بناتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ

آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اور ان دونوں نے اسے شعبہ کے طرق سے اسی طرح روایت کی ہے اور اسی طرح بخاری نے ابو داؤد کے طرق سے بحوالہ شعبہ سے معلق قرار دیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعید اور حاتم بن اسماعیل نے بکیر بن مسار سے اور اس نے عامر بن سعد سے اور اس نے اپنے باپ سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں فرماتے سنا۔ اور آپ نے انہیں ایک غزوہ میں پیچھے چھوڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں آپ نے فرمایا اے علی کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اور اسے مسلم اور ترمذی نے قتیبہ سے روایت کیا ہے اور مسلم اور محمد بن عباد دونوں نے حاتم بن اسماعیل کا اضافہ کیا ہے اور ترمذی نے اس طریق سے اسے حسن صحیح غریب بیان کیا ہے۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے کئی روز بعد ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ ایک گرم دن کو اپنے اہل کی طرف واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی دونوں بیویوں نے ان کے باغ میں دو شامیانے لگائے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے شامیانے پر چھڑکاؤ کیا ہوا ہے اور اس میں پانی ٹھنڈا کیا ہوا ہے اور ان کے لیے اس میں کھانا تیار کیا ہوا ہے پس جب وہ آئے تو شامیانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیویوں کو اور جو کچھ انہوں نے ان کے لیے تیار کیا ہوا تھا اسے دیکھا اور کہنے لگے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ ہو اور گرمی میں ہوں اور ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ خنک سائے تیار کھانے اور خوب صورت بیوی کے ساتھ اپنے مال میں مقیم ہو یہ انصاف کی بات نہیں خدا کی قسم میں تم دونوں کے کسی شامیانے میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں پس ان دونوں نے زاد راہ تیار کیا پھر ان کا اونٹ لایا گیا تو انہوں نے اس پر کجاوہ کسا پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے یہاں تک کہ جب آپ تبوک میں اترے تو وہ آپ سے جا ملے اور عمیر بن وہب الجمعی رضی اللہ عنہ نے راستے میں ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے پایا تو وہ دونوں ساتھی بن گئے اور جب وہ تبوک کے قریب آئے تو ابوخیثمہ نے عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ سے کہا میرا ایک گناہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے تک اگر تو مجھ سے پیچھے رہ جائے تو تم پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ تو اس نے ایسے ہی کیا۔ اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو لوگ کہنے لگے یہ سواریاں آ رہی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ابوخیثمہ ہوگا“ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم بخدا وہ ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ ہی ہے۔ پس جب وہ پہنچے تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا تو آپ نے انہیں فرمایا ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ تیرے لیے بہتری ہو۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات بتائے تو آپ نے ان کے لیے بھلائی کی دعا کی۔

اور عروہ بن زبیر اور موسیٰ بن عقبہ نے ابوخیثمہ کے واقعہ کو محمد بن اسحاق کے اسلوب پر مبسوط طور پر بیان کیا ہے اور یہ بھی ذکر

کیا ہے کہ آپ خریف کے موسم میں تبوک کی طرف گئے تھے۔ واللہ اعلم

اور ابوخیثمہ رضی اللہ عنہما کا نام مالک بن قیس تھا۔ انہوں نے اس بارے میں یہ اشعار کہے ہیں۔

”جب میں نے لوگوں کو دین میں منافقت کرتے دیکھا تو میں نے وہ کام کیا جو بہت پاکیزہ اور بزرگی والا تھا۔ اور میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے محمد ﷺ کی بیعت کی پس میں نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ کسی حرام کار تکاب کیا اور میں نے شامیانیہ میں خضاب والی عورت اور بہت اچھے پھل لانے والے خرما کے درخت چھوڑے جن کی گدڑی ہوئی کھجوریں سیاہ ہو گئی تھیں اور جب منافق شک کرتا ہے تو میرا دل تیزی سے دین کا قصد کرتا ہے۔“

یونس بن کبیر محمد بن اسحاق سے اور وہ بریدہ سے اور وہ سفیان سے اور وہ محمد بن مالک قرظی سے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ تبوک کی جانب روانہ ہوئے تو ایک آدمی ہمیشہ پیچھے رہتا اور لوگ کہتے یا رسول اللہ فلاں آدمی پیچھے رہ گیا ہے تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو اگر اس میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تم کو راحت دی ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے اونٹ نے انہیں مؤخر کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو اگر اس میں بھلائی ہے تو عنقریب اللہ سے تمہارے ساتھ ملا دے گا اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے راحت دی ہے۔ پس حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کا انتظار کیا اور جب اس نے دیر کی تو آپ نے اپنا سامان لے کر اپنی پشت پر رکھ لیا اور پھر رسول اللہ ﷺ کے پیچھے بیدل چل پڑے اور رسول کریم ﷺ اپنی ایک منزل پر اترے تو ایک مسلمان نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ ﷺ ایک آدمی راستے پر پیہلی چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”ابوذر ہوگا“ پس جب لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو کہنے لگے۔ یا رسول اللہ قسم بخدا یہ ابوذر رضی اللہ عنہ ہی ہے۔

تو آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ ابوذر پر رحم فرمائے جو اکیلا ہی چلتا ہے اور اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ حالات نے گردش کھائی اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو رنڈہ کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ اور جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیوی اور غلام کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے غسل دینا اور رات کو مجھے کفن دینا پھر مجھے راستے کے درمیان رکھ دینا پس جو قافلہ سب سے پہلے تمہارے پاس سے گزرے اسے کہنا یہ ابوذر رضی اللہ عنہ ہے۔ پس جب آپ وفات پا گئے تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پس ایک قافلہ آیا اور ابھی انہیں اس کا علم بھی نہ ہوا تھا کہ ان کی سواریاں آپ کی چار پائی کو روندنے لگیں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو فیوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ کو جواب دیا گیا کہ یہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے روتے ہوئے فرمایا:

”رسول کریم ﷺ نے سچ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ابوذر پر رحم فرمائے جو اکیلا ہی چلتا ہے اور اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی

دوبارہ زندہ ہوگا۔“

پس وہ اترے اور انہیں اپنے قریب کیا یہاں تک کہ انہیں دفنا دیا۔ اس کی اسناد حسن ہیں اور انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔
امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا اور معمر نے ہمیں خبر دی اور عبداللہ بن محمد بن ثعلب نے اللہ تعالیٰ کے
قول کی:

”جن لوگوں نے تنگی کے وقت اس کی پیروی کی۔“

کے متعلق ہمیں بتایا کہ غزوہ تبوک میں دو یا تین آدمی ایک اونٹ پر سخت گرمی میں نکلے تو انہیں پیاس نے آستایا تو وہ اپنے
اونٹوں کو ذبح کرنے لگے تاکہ ان کے اوجھ نکال لیں اور ان کا پانی پییں۔ اور یہ بات پانی کی تنگی، اخراجات کی تنگی اور سواروں کی
تنگی کی وجہ سے تھی۔

عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ مجھے عمرو بن الحارث نے سعید بن ابی ہلال سے اور اس نے عتبہ بن ابی عتبہ سے اور اس نے
نافع بن جبیر سے اور اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ہمیں تنگی کے
وقت کے حالات کے بارے میں بتائیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سخت گرمی میں تبوک کی طرف گئے اور ایک منزل پر
اترے تو ہمیں پیاس نے ستایا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہماری گردنیں الگ ہو جائیں گی حتیٰ کہ ہمارا ایک آدمی کجاوے کی
تلاش میں جاتا تو واپس نہ آتا یہاں تک کہ وہ خیال کرتا کہ اس کی گردن الگ ہو جائے گی اور نوبت بایں جا رسید کہ ایک آدمی اپنے
اونٹ کو ذبح کرتا تو وہ اس کے گوہر کو بھی نچوڑتا اور اسے لے لیتا اور بقیہ پانی کو اپنے کلیجے پر رکھ لیتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائیں بھلائی کا خوگر بنایا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے آپ نے فرمایا
کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں! راوی کا بیان ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ
اٹھائے اور ان کو اس وقت تک واپس نہ لائے یہاں تک کہ آسمان تیار ہو گیا اور شبنم برسانے لگا پھر لگا تار بارش ہونے لگی تو ان کے
پاس جو برتن تھے انہوں نے بھر لیے پھر ہم دیکھنے کے لیے گئے تو ہم نے اسے فوج سے آگے پایا، اس کی اسناد جید ہے اور انہوں نے
بدین وجہ سے اسے بیان نہیں فرمایا۔

اور ابن اسحاق نے عاصم بن عمرو بن قتادہ سے اور انہوں نے اپنی قوم کے آدمیوں سے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا
جب وہ حجر مقام پر تھے اور انہوں نے اپنے ایک منافق ساتھی سے کہا تیرا برا ہو کیا اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے اس نے کہا
یہ ایک گزرنے والا بادل تھا۔

بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی ناقہ بھٹک گئی اور لوگ آپ کی تلاش میں گئے تو رسول کریم ﷺ نے عمارہ بن
حزم انصاری سے جو آپ کے پاس ہی تھا فرمایا، کہ ایک آدمی نے کہا ہے کہ یہ محمد (ﷺ) تمہیں بتاتا ہے کہ وہ نبی ہے اور تمہیں
آسمان کی خبریں دیتا ہے مگر اسے اپنی ناقہ کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور قسم بخدا میں وہی بات جانتا ہوں جو اللہ مجھے
سکھاتا ہے اور اس نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے اور وہ وادی میں ہے۔ اور اس کی مہار ایک درخت میں الجھی ہوئی ہے، پس وہ جا
کر اسے لے آئے اور عمارہ بھی اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آیا۔ اور اس نے انہیں وہ بات بتائی جو رسول کریم ﷺ نے اس آدمی

کے متعلق بیان کی تھی۔ اور عمارہ کی قیام گاہ میں مقیم ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ بات زید بن الصیثؓ کے بارے میں فرمائی تھی اور وہ عمارہ کے آنے سے قبل اس کی قیام گاہ میں تھا۔ پس عمارہ زید کی گردن کو ٹپکتے ہوئے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے معلوم ہی نہیں اور میری قیام گاہ میں ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اے دشمن خدا میرے پاس سے چلا جا اور میرے ساتھ نہ رہ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زید نے توبہ کر لی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مرنے تک شتر سے متمم تھا۔

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سواری کے مشابہ ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر اسے اعمش کی حدیث سے بیان کیا ہے۔ اعمش کو شک پڑ گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ:

جب غزوہ تبوک کے روز لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں اور کھائیں اور تیل لگائیں تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایسا کر لو“ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر ایسا ہوا تو سواریاں کم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ ان کے توشوں کے بڑھنے اور ان میں برکت کے لیے دعا کریں شاید اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈال دے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا بہت اچھا، پس آپ نے چمڑے کا فرش منگایا اور اسے پھیلایا پھر ان کے توشوں کے بڑھنے کے لیے دعا کی۔ پس ایک آدمی کف بھر کئی لاتا اور دوسرا کف بھر کھجوریں لاتا اور تیسرا روٹی کا ایک ٹکڑا لاتا۔ یہاں تک کہ چمڑے کے فرش پر ہڈی سی چیزیں جمع ہو گئیں۔ پس رسول کریم ﷺ نے برکت کی دعا کی پھر انہیں فرمایا ”اپنے برتنوں میں ڈال لو“ پس وہ اپنے برتنوں میں ڈالنے لگے یہاں تک کہ انہوں نے فوج کے تمام برتنوں کو بھر دیا اور کھا کر سیر ہو گئے اور کچھ کھانا بچ بھی گیا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور جو شخص بغیر شک کیے اس کلمہ کے ساتھ اللہ سے ملاقات نہیں کرے گا وہ جنت سے روک دیا جائے گا۔“

اور مسلم نے اسے ابو کریب سے اور اس نے ابو معاویہ سے اور اس نے اسے اعمش سے بیان کیا ہے اور امام احمد نے اسے سہیل کی حدیث سے جو اس نے اپنے باپ سے اور اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے روایت کیا ہے۔ اور اس کے غزوہ تبوک کا ذکر نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ یہ واقعہ ایک غزوہ میں ہوا تھا۔



① اصلین میں ایسے ہی بیان ہوا ہے اور التیموریہ میں الصلت بیان ہوا ہے اور اصباہ میں لصیت اور بعض کا قول ہے کہ یہ لصیب ہے اور ابن ہشام میں اللصیت ہے اور بعض کا قول ہے کہ لصیب ہے اور ابن جریر میں بھی اسی طرح ”باء“ کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

تبوک کی طرف جاتے ہوئے آپ کا حجر میں شمود کے مساکن سے گزرنا

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جب رسول کریم ﷺ حجر سے گزرے تو آپ وہاں اترے اور لوگوں نے اس کے کنویں سے پانی لیا اور جب وہ چلے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”اس کے پانیوں سے کچھ نہ پیو اور نہ نماز کے لیے اس سے وضو کرو اور جو آتا تم نے گوندھا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو اور اس سے کچھ نہ کھاؤ۔“

ابن اسحاق نے اسے اسی طرح بغیر اسناد کے بیان کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن بشر اور عبد اللہ بن مبارک نے بیان کیا اور ہمیں معمر نے زہری سے بتایا کہ مجھے سالم بن عبد اللہ نے اپنے باپ سے بتایا کہ جب رسول کریم ﷺ حجر سے گزرے تو آپ نے فرمایا:

”ان لوگوں کے مساکن میں داخل نہ ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ ہاں تم روتے ہوئے جاؤ کہ تمہیں وہ عذاب نہ آئے جس نے انہیں آلیا تھا۔“

اور آپ نے کجاوے میں اپنی چادر اوڑھ لی۔ اور بخاری نے اسے عبد اللہ بن مبارک اور عبد الرزاق کی حدیث سے بیان کیا ہے اور دونوں نے معمر سے اس کے اسناد سے اسی طرح بیان کیا ہے۔

اور مالک نے عبد اللہ بن دینار اور اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

”ان عذاب یافتہ لوگوں کے پاس روتے ہوئے جاؤ اور اگر تم رونے والے نہیں تو ان کے پاس مت جاؤ کہ کہیں تمہیں بھی ان کی طرح عذاب نہ آئے۔“

اور بخاری نے اسے مالک کی حدیث اور سلیمان بن ہلال کی حدیث سے بیان کیا ہے اور ان دونوں نے عبد اللہ بن دینار سے روایت کی ہے۔ اور مسلم نے ایک اور طریق سے اسے اسی طرح عبد اللہ بن دینار سے روایت کیا ہے اور امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم سے عبد الصمد نے بیان کیا اور صحیح یعنی ابن جوزیہ نے ہم سے نافع سے اور اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ”رسول کریم ﷺ تبوک کے سال لوگوں کے ساتھ حجر میں شمود کے گھروں کے پاس اترے اور لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی لیا جن سے شمود پانی پیتے تھے اور آتا گوندھا اور گوشت کی دیکیں چڑھائیں تو رسول کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے دیکیں انڈیل دیں اور اونٹوں کو آنا کھلایا۔ پھر آپ ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس کنویں پر اتارا جس سے ناقہ پانی پیا کرتی تھی اور آپ نے انہیں عذاب یافتہ لوگوں کے پاس جانے سے منع کر دیا اور فرمایا:

”مجھے خدشہ ہے کہ تمہیں بھی ان کی طرح عذاب نہ آئے پس ان کے پاس مت جاؤ۔“

اس طریق سے اس حدیث کی اسناد صحیحین کی شرط کے مطابق ہے لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی۔ اور بخاری اور مسلم نے صرف انس بن عیاض کی حدیث سے جو ابو ضمیرہ سے عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر مروی ہے اس کی تخریج کی ہے بخاری کا بیان ہے اور اسامہ نے عبید اللہ سے اس کی متابعت کی ہے۔ اور مسلم نے اسے شعیب بن اسحاق کی حدیث سے عن عبید اللہ عن نافع بیان کیا ہے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم سے عبد الرزاق اور معمر نے عن عبد اللہ بن عثمان بن خثیم عن ابن زبیر عن جابر بیان کیا ہے کہ:

”جب رسول کریم ﷺ حجر سے گذرے تو آپ نے فرمایا کہ نشانات کے بارے میں دریافت نہ کرو اور حضرت صالح کی قوم نے بھی ان کے بارے میں دریافت کیا تھا اور وہ اس راستے سے آتے جاتے تھے پس انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور ناقہ کی کوچیں کاٹ دیں اور وہ ایک روز ان کا پانی پیا کرتی تھی اور وہ ایک روز اس کا دودھ پیا کرتے تھے پس انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں تو انہیں عذاب نے آلیا۔ اور آسمان کے نیچے صرف ان میں سے ایک آدمی کے سوا جو حرم الہی میں موجود تھا اللہ نے سب کو خستہ حال کر دیا۔“

آپ سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کون تھا تو آپ نے فرمایا وہ ابو برغال تھا اور جب وہ حرم سے نکلا تو اسے بھی اس عذاب نے آلیا جس نے اس کی قوم کو آلیا تھا ان کا اسناد صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی۔ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم سے یزید بن ہارون سے بیان کیا اور ہمیں مسعودی نے عن اسماعیل بن واسط عن محمد بن کبشہ الانماری عن ابیہ بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ:

”جب غزوہ تبوک ہو تو لوگ اہل حجر کی طرف جانے میں جلدی کرنے لگے پس جب رسول کریم ﷺ کو اس کی اطلاع ملی تو لوگوں میں اکٹھا ہونے کے لیے اعلان کیا گیا راوی بیان کرتا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ کو پکڑے ہوئے تھے۔ اور فرما رہے تھے تم ان لوگوں کے پاس جا کر کیا کرو گے جن پر اللہ کا غضب ہوا تھا پس ایک آدمی نے آپ کو آواز دی کہ ہم ان سے متعجب ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں کہ تمہارا ایک آدمی تم کو تم سے پہلے کے واقعات اور تم سے بعد ہونے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے پس سیدھے ہو جاؤ اور راست روی اختیار کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دینے کے بارے میں کسی چیز کی پروا نہیں کرتا اور عنقریب ایک قوم ہوگی جو اپنے آپ سے کسی چیز کو ہٹا نہیں سکے گی۔“

اس کا اسناد حسن ہے لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی۔

اور یونس بن کبیر ابن اسحاق سے بیان کرتا ہے کہ مجھے عبد اللہ بن ابوبکر بن حزم نے عباس بن اسلم بن سعد الساعدی سے یا عباس بن سعد سے بتایا۔ اس میں مجھے شک ہے۔ کہ جب رسول کریم ﷺ حجر سے گزرے اور وہاں اترے تو لوگوں نے اس کے کنویں سے پانی لیا اور جب وہ وہاں سے چل پڑے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”اس کے پانی سے کچھ نہ پیو اور نہ نماز کے لیے اس سے وضو کرو اور جو آٹا تم کو بندھ چکے ہو وہ اونٹوں کو کھلا دو اور اس سے کچھ نہ کھاؤ۔ اور تم میں سے کوئی شخص آج شب اپنے ساتھی کے بغیر باہر نہ نکلے۔“

پس نبی -ساعده کے دو آدمیوں کے سوا دیگر لوگوں نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا، ان میں سے ایک اپنے کسی کام کے لیے نکلا اور دوسرا اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا، پس جو اپنے کسی کام کے لیے نکلا تھا اس کا راستے ہی میں گلا گھٹ گیا اور جو اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا تھا اسے ہوانے اٹھا لیا اور طی کے پہاڑ پر پھینک دیا، جب رسول کریم ﷺ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا:

”کیا میں نے آپ کو اطلاع نہیں دی تھی کہ کوئی آدمی اپنے ساتھی کے بغیر باہر نہ نکلے۔“

پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی جسے راستے میں تکلیف پہنچی تھی تو وہ صحت یاب ہو گیا اور دوسرا تبوک میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گیا۔ اور زیاد نے ابن اسحاق سے جو روایت کی ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ واپس آئے تو طی نے اسے آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھے عبداللہ بن ابوبکر نے بتایا کہ عباس بن سہیل نے اسے ان دو آدمیوں کے نام بھی بتائے تھے لیکن اس نے انہیں چھپایا اور مجھے ان کے نام نہیں بتائے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عفان بن زبیب بن خالد اور عمرو بن یحییٰ نے عباس بن سہیل بن سعد الساعدی سے اور اس نے ابو حمید الساعدی سے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تبوک کے سال رسول کریم ﷺ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم وادی القریٰ میں آگئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے باغ میں بیٹھی ہے، رسول کریم ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: ”اس باغ کا اندازہ لگاؤ۔“ لوگوں نے بھی اور رسول کریم ﷺ نے بھی اس کا اندازہ دس دس لگایا۔^۱ رسول کریم ﷺ نے اس عورت سے فرمایا جو اس باغ سے نکلے اسے شمار کر لینا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا ان شاء اللہ، راوی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ وہاں سے چل کر تبوک آگئے اور آپ نے فرمایا:

”آج شب تم پر شدید ہوا چلے گی، پس اس میں کوئی آدمی کھڑا نہ ہو اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ دے۔“

ابو حمید بیان کرتا ہے کہ ہم نے اونٹوں کو باندھ دیا پس جب رات ہوئی تو ہم پر سخت ہوا چلی جس میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اسے ہوانے طی کے پہاڑ پر پھینک دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایلہ کا بادشاہ آیا اور اس نے آپ کو ایک سفید خنجر ہدیہ دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر زیب تن کروائی اور اسے لکھ دیا کہ آپ انہیں پناہ دیتے ہیں۔ پھر ہم آپ کے ساتھ وادی القریٰ میں آئے تو آپ نے عورت سے فرمایا تیرے باغ نے کتنا پھل دیا ہے؟

۱ ایک سبق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک ایک اونٹ کے بوجھ کو سبق کہتے ہیں۔ (مترجم)

اس نے جواب دیا دس وقت یہی رسول اللہ ﷺ کا اندازہ تھا آپ نے فرمایا: میں جلد جانے والوں ہوں اور جو تم میں سے جلد جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرنے کی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ چل پڑے تو ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے اور جب آپ مدینہ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا: ”یہ طابہ ہے“ اور جب آپ نے احد کو دیکھا تو فرمایا یہ احد ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کیا میں تمہیں انصار کے بہترین گھرانوں کے بارے میں بتاؤں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ بتائیے آپ نے فرمایا:

”انصار کا بہترین گھرانہ بنو النجار ہیں پھر بنی عبدالاشہل کا گھرانہ ہے پھر بنی ساعدہ کا گھرانہ پھر انصار کے ہر گھرانے میں بہتری ہے۔“


اور بخاری اور مسلم نے عمر بن یحییٰ کے طریق کے علاوہ کسی اور طریق سے اس کی تخریج کی ہے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ عن ابی زبیر عن ابی طفیل عامر بن داثلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ تبوک کے سال رسول کریم ﷺ کے ساتھ گئے۔ تو آپ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کرتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک روز آپ نے نماز کو مؤخر کیا پھر آپ تشریف لائے تو آپ نے ظہر و عصر دونوں کو اکٹھے پڑھایا، پھر آپ چلے گئے اور پھر آ کر مغرب و عشاء کو اکٹھے پڑھایا پھر فرمایا:

”کل تم ان شاء اللہ تبوک کے چشمہ پر آؤ گے اور تم دھوپ چڑھے دن کے واضح ہونے پر وہاں آؤ گے۔ پس جو وہاں آئے وہ اس کے پانی کو اس وقت تک نہ چھوئے جب تک میں نہ آؤں۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ ہم وہاں آئے اور دو آدمی وہاں چلے گئے تھے اور چشمے سے تسے کی طرح تھوڑا تھوڑا پانی بہ رہا تھا، رسول کریم ﷺ نے ان دونوں آدمیوں سے دریافت کیا، کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! تو آپ نے ان دونوں کو برا بھلا کہا اور جو اللہ نے چاہا انہیں کہا، پھر آپ نے چشمے سے تھوڑے تھوڑے چلو بھرے یہاں تک کہ وہ ایک چیز میں اکٹھے ہو گئے، پھر رسول کریم ﷺ نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور پھر اسے دوبارہ چشمے میں ڈال دیا تو چشمہ بہت سے پانی کے ساتھ بہہ پڑا، تو لوگوں نے پانی پیا، پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”اے معاذ! ہو سکتا ہے کہ تیری زندگی لمبی ہو اور تو اس جگہ کو باغات سے بھری ہوئی دیکھے۔“

مسلم نے مالک کی حدیث سے اس کی تخریج کی ہے۔



تبوک میں کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ کے خطبہ دینے کا بیان

امام احمد نے ابو النضر ہاشم بن القاسم اور یونس بن محمد المؤمن اور حجاج بن محمد سے بحوالہ لیث بن سعد عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن ابی الخطاب عن ابی سعید الخدری روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے تبوک کے سال کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھوڑے یا اونٹ کی پشت پر یا زیادہ پارہ خدا میں کام کرتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آجاتی ہے۔ اور لوگوں میں بدترین آدمی وہ فاجر اور جری ہے جو کتاب الہی کو پڑھتا ہے اور اس کی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔“

اسے نسائی نے قتیبہ سے بحوالہ لیث روایت کیا ہے اور ابو الخطاب نے کہا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اور بیہقی نے یعقوب بن محمد الزہری کے طریق سے بحوالہ عبدالعزیز بن عمران روایت کی ہے کہ مصعب بن عبداللہ نے بحوالہ منظور بن جمیل بن سنان ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میں نے عقبہ بن عامر الجعفی سے سنا کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے تو رسول اللہ ﷺ سو گئے اور اس وقت بیدار ہوئے جب سورج نیزہ بھر بلند ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا اے بلال! کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے فجر کا انتظار کرنا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کی طرح نیند مجھے بھی لے گئی، راوی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ اس جگہ سے کچھ دور منتقل ہو گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور بقیہ دن رات چلتے رہے اور تبوک میں صبح کی اور اس پر اللہ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا:

”اے لوگو! سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور مضبوط ترین کڑا تقویٰ کی بات ہے اور بہترین مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے اور بہترین سنت محمد ﷺ کی سنت ہے اور سب سے بلند مرتبہ بات ذکر الہی ہے اور بہترین قصہ یہ قرآن ہے اور بہترین امور وہ فرائض ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہے اور بدترین امور بدعات ہیں اور بہترین ہدایت انبیاء کی ہدایت ہے اور سب سے بلند مرتبہ موت شہداء کا قتل ہے اور ہدایت کے بعد سب سے بڑا اندھا پن ضلالت ہے اور بہترین اعمال وہ ہیں جو نفع مند ہوں اور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے اور سب سے بڑا اندھا پن دل کا اندھا ہونا ہے اور اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور جو تھوڑا اور کفایت کرنے والا ہو وہ زیادہ اور غافل کر دینے والے سے بہتر ہے اور سب سے بری معذرت وہ ہے جو موت کے وقت کی جائے اور سب سے بری شرمندگی قیامت کے روز ہوگی۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو جمعہ کے بعد آتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چھوڑ چھوڑ کر ذکر الہی کرتے ہیں۔ اور سب سے عظیم خطا جھوٹی زبان ہے اور بہترین تو نگری دل کا تو نگر ہونا ہے اور

بہترین زاد، تتوی ہے اور دانائی کا کمال، اللہ کا خوف ہے اور بہترین بات وہ ہے جو دونوں میں یقین کو جائزین کرے اور شرک کرنا کفر کا حصہ ہے اور نوحہ کرنا جاہلیت کا عمل ہے اور خیانت جہنم کا گمراہ ہے۔ اور شعرا طلیس کی جانب سے ہے اور شراب گناہ کی جامع ہے۔ اور عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ اور جوانی جنون کا ایک حصہ ہے۔ اور سب سے بری کمائی سود کی کمائی ہے۔ اور سب سے برا کھانا، یتیم کا مال کھانا ہے۔ اور نیک بخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔ اور بد بخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بد بخت ہو۔ اور تم میں سے ایک آدمی چار ہاتھ جگہ کی طرف جانے والا ہے اور معاملہ آخرت پر موقوف ہے اور کام کا دار و مدار انجام پر ہے۔ اور سب سے بری راوی جھوٹے راوی ہیں۔ اور جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہے اور مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ اور مومن سے جنگ کرنا کفر ہے۔ اور اس کی غیبت کرنا اللہ کی محصیت ہے اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔ اور جو اللہ کی قسم کھائے گا وہ اس کی تکذیب کرے گا اور جو اس سے مغفرت طلب کرے گا وہ اسے بخش دے گا۔ اور جو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اور جو غصہ کو پنے گا۔ اللہ اسے اجر دے گا۔ اور جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا اور جو شہرت پسند ہوگا اللہ اسے شہرت دے گا۔ اور جو صبر کرے گا اللہ اسے دگن دے گا۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دے گا۔ اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے، اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے، اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے۔ آپ نے یہ بات تین دفعہ دہرائی۔

پھر فرمایا: ”میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔“

یہ حدیث غریب ہے اور اس میں نکارت پائی جاتی ہے اور ان کے اسناد میں ضعف پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے احمد بن سعید الہمدانی اور سلیمان بن اود نے بیان کیا وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابن وہب نے بتایا اور مجھے معاویہ نے سعید بن غزوان اور اس کے باپ کے حوالہ سے بتایا کہ وہ حاجی ہونے کی حالت میں تبوک آیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اپانچ آدمی ہے میں نے اس سے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا میں تجھے ایک بات بتاؤں گا اور جب تک تو سنے کہ میں زندہ ہوں اسے بیان نہ کرنا۔ رسول اللہ ﷺ تبوک میں اترے اور آپ نے کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی اور فرمایا یہ ہمارا قبلہ ہے پھر آپ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ بیان کرتا ہے کہ میں آیا اور میں اس وقت بہت تیز جوان تھا یہاں تک کہ میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان سے گزر گیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس نے ہماری نماز قطع کر دی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نشان کو مٹا دے وہ بیان کرتا ہے کہ میں آج تک اس پوزیشن پر قائم نہیں رہ سکا۔ پھر ابو داؤد نے اسے سعید کی حدیث سے بحوالہ عبد العزیز تنوخی عن مولیٰ یزید بن عمران عن یزید بن عمران بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ:

”میں نے تبوک میں ایک اپانچ کو دیکھا اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اور میں گدھے پر سوار

ہو کر آپ کے آگے سے گزرا تو آپ نے فرمایا: اے اللہ! اس کے نشان کو مٹا دے پس میں اس کے بعد چل نہیں سکا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے ہماری نماز کو قطع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نشان کو مٹا دے۔“

حضرت معاویہ بن ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ^۱

یہی نے یزید بن ہارون کی حدیث سے بیان کیا ہے کہ ہمیں العلاء ابو محمد ثقفی نے بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم تبوک میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ سورج ایسی روشنی شعاع اور نور کے ساتھ طلوع ہوا کہ میں نے گزشتہ وقت میں اسے اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا تھا، پس جبریل رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: جبریل! کیا وجہ ہے کہ میں سورج کو ایسی روشنی شعاع اور نور کے ساتھ طلوع ہوتے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے گزشتہ وقت میں اسے اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آج حضرت معاویہ بن ابی معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتوں کو ان کے پاس جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ نے دریافت کیا یہ کس وجہ سے ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دن اور رات کو کثرت کے ساتھ قل ہو اللہ پڑھتے تھے اور کھڑے ہوتے بیٹھتے اور چلتے ہوئے بھی پڑھتے تھے۔ یا رسول اللہ ﷺ کیا میں آپ کے لیے زمین سکیر دوں کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! راوی بیان کرتا ہے آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر واپس آ گئے۔

اور اس حدیث میں شدید نکارت اور غرابت پائی جاتی ہے اور لوگ اس کے معاملے کو العلاء بن زید کی طرف منسوب کرتے ہیں اور انہوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے ہیں۔ اور یہی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں علی بن احمد بن عبدان اور احمد بن عبدالصفا نے بتایا کہ ہاشم بن علی نے ہم سے بیان کیا کہ عثمان بن الہیثم نے ہمیں بتایا کہ محبوب بن ہلال نے بحوالہ عطاء بن ابی میمونہ ہم سے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبریل نے آ کر کہا اے محمد ﷺ حضرت معاویہ بن ابی معاویہ مرنے لگے ہیں کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پس انہوں نے اپنا بیڑا اور تمام درخت اور ٹیلے ان کے سامنے پست ہو گئے، راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے فرشتوں کی دو صفیں تھیں اور ہر صف میں ستر ہزار فرشتے تھے، حضرت نبی کریم ﷺ نے جبریل سے پوچھا اللہ کے ہاں انہیں یہ مرتبہ کس وجہ سے حاصل ہوا، اس نے جواب دیا قل ہو اللہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے، وہ اسے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اور ہر حال میں پڑھا کرتے تھے، عثمان کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ رسول کریم ﷺ کہاں تھے اس نے کہا شام میں غزوہ تبوک میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں فوت ہوئے اور ان کی چار پائی آپ کے سامنے کی گئی حتیٰ کہ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس طریق سے بھی یہ حدیث منکر ہے۔

۱ اصول تلاش میں معاویہ بن ابی معاویہ ہی بیان ہوا ہے اور اسباب میں معاویہ بن معاویہ بیان ہوا ہے۔ شاید ان کے باپ کی کنیت ابو معاویہ ہو۔

تبوک میں قیصر کے ایلچی کی رسول اللہ ﷺ کے پاس آمد

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اسحاق بن عیسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن سلیم نے عن عبد اللہ بن عثمان بن خثیم عن سعید بن ابی راشد نے ہم سے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف ہرقل کے ایلچی توفی کو حصہ میں ملا اور ایک شیخ کبیر میرا پڑوسی تھا جو نوے سال یا اس کے قریب قریب پہنچ چکا تھا میں نے اسے کہا کہ تو مجھے بتائے گا کہ ہرقل نے رسول اللہ ﷺ کی طرف اور آپ نے ہرقل کی طرف کیا پیغام بھیجا تھا اس نے جواب دیا ہاں رسول اللہ ﷺ تبوک تشریف لائے تو آپ نے دحبہ کلبی کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ اور جب رسول اللہ ﷺ کا خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے رومی پادریوں اور جرنیلوں کو بلایا اور پھر اپنے اور ان پر دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ اس شخص نے جو پوزیشن حاصل کر لی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اور اس نے مجھے تین باتوں کی دعوت دی ہے ایک یہ کہ میں اس کے دین کی پیروی کروں یا یہ کہ ہم اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اسے مال دیں حالانکہ یہ علاقہ ہمارا علاقہ ہے اور یا ہم اس سے جنگ کریں اور قسم بخدا جو تم کتابوں میں پڑھتے ہو اسے تم جانتے ہو تم ضرور پکڑے جاؤ گے پس آؤ ہم اس کے دین کی پیروی کر لیں اور یا اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اسے اپنا مال دیں تو انہوں نے شخص واحد کی طرح خرابا لیا یہاں تک کہ اپنے کپڑوں سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمیں نصرانیت چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے یا یہ کہ ہم جاز سے آنے والے ایک بدو کے غلام بن جائیں اور جب اسے خیال آیا کہ یہ اس کے پاس سے باہر جا کر رومیوں کو اس کے خلاف بگاڑ دیں گے تو اس نے انہیں پرسکون کیا اور جو نبی وہ خاموش ہوئے تو اس نے کہا میں نے یہ بات تمہاری دینی صلابت معلوم کرنے کے لیے کی تھی پھر اس نے ایک عربی آدمی کو بلایا جو عرب عیسائیوں کے پاس آیا کرتا تھا اور اسے کہا کہ میرے پاس ایسے آدمی کو لاؤ جو عربی زبان کی باتوں کا حافظ ہوتا کہ میں اس آدمی کو اس کے خط کا جواب بھیجوں تو وہ مجھے لے گیا اور ہرقل نے مجھے خط دیا اور کہا کہ میرے خط کو اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور تو اس کی جو باتیں سنے ان میں سے تین باتیں میرے لیے یاد رکھنا اس بات پر غور کرنا کہ اس نے جو خط مجھے لکھا تھا کیا وہ اس میں سے کسی چیز کا ذکر کرتا ہے اور یہ بھی دیکھنا کہ کیا اس کی پشت پر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو تجھے شک میں ڈالتی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس کا خط لے کر چل پڑا یہاں تک کہ تبوک پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے اصحاب کے سامنے پانی پر کمر میں چادر باندھے بیٹھے ہیں میں نے پوچھا: آپ لوگوں کا صاحب کہاں ہے انہوں نے جواب دیا یہ ہے پس میں چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا خط آپ کو دے دیا تو آپ نے اسے اپنی گود میں رکھ لیا پھر فرمایا آپ کس قبیلے

① المصریہ اور التیموریہ میں اسی طرح بیان ہوا ہے اور حلیہ میں روایت آیا ہے یعنی میں نے اسے حصہ میں دیکھا۔

② المصریہ اور التیموریہ میں ایسے ہی بیان ہوا ہے اور حلیہ میں مھر کا لفظ آیا ہے۔

سے تعلق رکھتے ہیں میں نے جواب دیا میں تو خنی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ لو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین اسلام سے کچھ دلچسپی ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک قوم کا ایلچی ہوں اور قوم کے دین پر ہوں جب تک ان کے پاس واپس نہ جاؤں اس دین سے رجوع نہیں کر سکتا تو سوال کیا یہ مسلمانوں نے مسکرا کر فرمایا:

آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پالنے والوں کو بہتر طور پر جانتا ہے۔

اے تو خنی! میں نے کسریٰ کی طرف ایک خط لکھا تھا کہ اللہ سے اور اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہے اور میں نے نجاشی کو ایک خط لکھا تو اس نے اسے پھاڑ دیا اور اللہ سے اور اس کی حکومت کو پھاڑنے والا ہے اور میں نے تیرے صاحب کی طرف بھی ایک خط لکھا تو اس نے اسے پکڑا اور جب تک زندگی میں بھلائی ہے لوگ ہمیشہ ہی اس کی قوت کو محسوس کرتے رہیں گے، میں نے کہا یہی وہ تین باتیں ہیں جن کی میرے صاحب نے مجھے وصیت کی تھی۔ پس میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر لیا اور اسے اپنی تلوار کے پہلو پر لکھ لیا۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو جو آپ کے بائیں پہلو بیٹھا تھا۔ وہ خط دیا، میں نے کہا کہ تمہارے لیے خط کون پڑھے گا؟ انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھیں گے، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے صاحب کے خط میں لکھا ہے کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کی وسعت زمین و آسمان جتنی ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، تو بتائیے دوزخ کہاں ہے؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے جب ان آجاتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر لیا اور اسے اپنی تلوار کے چمڑے پر لکھ لیا اور جب آپ میرے خط کے پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا: بے شک تیرا حق ہے اور تو ایلچی ہے اگر تو ہمارے پاس کوئی دہلیز پاتا تو ہم وہ تجھے دے دیتے ہم غریب مسافر ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے انبوه میں سے ایک آدمی نے آپ کو آواز دی کہ میں اسے عطیہ دوں گا۔ پس اس نے اپنا کجاوہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک صفوری حملہ لیے آتا ہے اور اس نے اسے میری گود میں رکھ دیا، میں نے کہا عطیہ دینے والا کون ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں سے کون شخص اس آدمی کے ساتھ جائے گا، ایک انصاری جوان نے کہا، میں جاؤں گا۔ پس انصاری کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور جو نبی میں لوگوں کے انبوه سے باہر نکلا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلایا اور فرمایا اے تو خنی آئیے، تو میں آ کر اسی جگہ پر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آپ نے اپنی پشت سے کپڑا کھولا اور فرمایا، جو تجھے حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرے تو میں نے آپ کی پشت میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ کندھے کی سلوٹ کے مقام پر نمونے کو نکلنے کی طرح ایک مہر ہے۔

یہ حدیث کمزور ہے۔ اور اسکے اسناد میں کوئی اعتراض نہیں اور امام احمد اس کے بیان کرنے میں متفرد ہیں۔



تبوک سے واپسی سے قبل آپ کا ایلہ کے بادشاہ اور جرباء اور اذرح کے باشندوں سے مصالحت کرنا

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ: جب رسول کریم ﷺ تبوک پہنچے تو ایلہ کا بادشاہ یحسہ بن رؤبہ آپ کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مصالحت کی اور آپ کو جزیہ دیا اور جرباء اور اذرح کے باشندے بھی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی آپ کو جزیہ دیا اور رسول کریم ﷺ نے انہیں ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس ہے اور آپ نے یحسہ بن رؤبہ ایلہ کے باشندوں کے لیے لکھا کہ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ امان یحسہ بن رؤبہ اور ایلہ کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد نبی کی طرف سے دی گئی ہے۔ مجرد بر میں ان کے سفینوں اور قافلوں کو اللہ تعالیٰ اور محمد نبی کی طرف سے امان حاصل ہے نیز ان کے ساتھ اہل شام اہل یمن اور سمندری لوگوں کو بھی امان حاصل ہے۔ پس جو کوئی ان میں سے نئی بات کرے گا اس کا مال اس کی جان کی حفاظت نہیں کرے گا اور لوگوں میں سے جو اسے لے لے گا وہ اس کے لیے طیب ہوگا اور کسی کے لیے اس پانی کا روکنا جائز نہیں جس پر وہ آتے جاتے ہیں اور نہ ان کے بحری اور بری راستے کو جس پر وہ آتے جاتے ہیں روکنا جائز ہے۔

اور یونس بن بکیر نے اس کے بعد ابن اسحاق سے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ یہ تحریر جہیم بن الصلت اور شرحبیل بن حسنہ نے رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے لکھی۔

یونس ابن اسحاق سے بیان کرتا ہے کہ آپ نے جرباء اور اذرح کے باشندوں کے لیے لکھا کہ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ تحریر محمد نبی رسول اللہ ﷺ کی جانب سے جرباء اور اذرح کے باشندوں کے لیے ہے وہ اللہ اور محمد ﷺ کی امان سے امن میں ہوں گے اور ہر رجب میں ان پر ایک سو دینار اور ایک سو اچھا اوقیہ دینا واجب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور مسلمانوں میں سے جو ان کے پاس پناہ لے کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کرنے کے بارے میں ان کا ضامن ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے خط کے ساتھ ایلہ کے باشندوں کو اپنی چادر بھی امان کے لیے عطا فرمائی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد ابو العباس عبد اللہ بن محمد نے اس چادر کو تین سو دینار میں خرید لیا۔

آپ کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اکیدر دُومہ کی طرف بھیجنا

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ پھر رسول کریم ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ کو اکیدر دُومہ کی طرف بھیجا اور وہ اکیدر بن عبد الملک تھا جو بنی کنانہ کا ایک آدمی تھا اور وہ دُومہ کا بادشاہ تھا اور عیسائی تھا رسول کریم ﷺ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”آپ اسے گایوں کا شکار کرتا پائیں گے۔“

پس حضرت خالد رضی اللہ عنہ گئے اور جب آپ اس کے قلعے سے اتنے فاصلے پر چلے گئے جہاں سے انسان آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور یہ موسم گرما کی ایک چاندنی رات تھی اور وہ اس کی چھت پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور گایوں نے محل کے دروازے اپنے سینگوں سے مارتے رات گزاری، اس کی بیوی نے اسے کہا کیا آپ نے اس کی مثل کبھی دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، قسم بخدا کبھی نہیں، وہ کہنے لگی اسے کون چھوڑے گا؟ اس نے جواب دیا کوئی نہیں، پس وہ اتر اور اپنا گھوڑا لانے کا حکم دیا۔ اور اس کے لیے اس پر زین ڈالی گئی اور اس کے اہل بیت کی ایک جماعت اس کے ساتھ سوار ہوئی جس میں اس کا بھائی حسان بھی تھا، پس وہ سوار ہوا اور وہ اپنے نیزے لیے اس کے ساتھ نکلے، پس جب وہ نکلے تو حضرت نبی کریم ﷺ کے سواروں نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا اور اس پر بیاج کی ایک قباحتی جو سونے سے آراستہ تھی، پس حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے قبل اسے آپ کی خدمت میں بھیج دیا، راوی بیان کرتا ہے کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بحوالہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اکیدر کی قبائل رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آئی تو میں نے اسے دیکھا اور مسلمان اسے اپنے ہاتھوں سے چھونے لگے اور اس سے متعجب ہونے لگے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”کیا تم اس سے متعجب ہوتے ہو، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جنت میں حضرت

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔“

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اکیدر کو رسول کریم ﷺ کی خدمت میں لانے تو آپ نے اس کے خون کو بچایا اور جزیہ پر اس سے مصالحت کی، پھر آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ اپنی ہستی میں واپس آ گیا اور بنی طی کے ایک آدمی نے جسے بحیر بن بجرہ کہا جاتا تھا اس بارے میں کہا:

”گایوں کو ہانکنے والے نے برکت حاصل کی اور میں نے اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہر ہادی کی راہنمائی کرتا ہے، پس جو شخص

تبوک والے سے کنارہ کش ہونے والا ہے، ہمیں اس کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔“

اور یہی نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے اس شاعر سے کہا:

”اللہ تمہارے دانت نہ کرائے۔“

پس وہ ستر سال کا ہوا اور نہ اس کی ڈاڑھ بلی نہ دانت اور ابن لہعیہ نے ابوالاسود سے بحوالہ عروہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے تبوک سے واپسی پر چار سو بیس سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو اکیدر دومہ کی طرف بھیجا پھر اس کے بعد اس نے وہی ذکر کیا ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے ہاں اس نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے اس سے زبردستی نہیں کی یہاں تک کہ اس کو قلع سے اتار لیا اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے اکیدر کے ساتھ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آٹھ سو قیدی ایک ہزار اونٹ چار سو زرہیں اور چار سو نیزے بھی پیش کیے اور یہ بھی بیان کیا کہ جب ایلہ کے عظیم بادشاہ محنہ بن روبہ نے اکیدر دومہ کے بارے میں سنا تو وہ خادم ہو کر رسول اللہ ﷺ کے پاس مصالحت کے لیے آیا، پس یہ دونوں تبوک میں رسول کریم ﷺ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ واللہ اعلم

اور یونس بن کبیر نے سعد بن اوس سے بحوالہ بلال بن یحییٰ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ دومۃ الجندل میں مہاجرین کے سالار تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اعراب کے سالار تھے۔ واللہ اعلم۔



پانی کا معجزہ

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے دس بارہ راتوں سے زیادہ قیام نہ کیا۔ پھر مدینہ واپس لوٹ آئے، راوی بیان کرتا ہے کہ راستے میں وادی المشفق کے پہاڑ سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا تھا جو دو تین سواروں کو سیراب کرتا تھا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون سبقت کرے گا اور جب تک ہم وہاں نہ آئیں وہ اس سے پانی نہ پئے۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ منافقین کا ایک گروہ اس کی طرف سبقت کر گیا اور جو کچھ اس میں تھا پی گیا پس جب رسول کریم ﷺ اس کے پاس آئے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس میں کوئی چیز نہ پائی آپ نے فرمایا:

”ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون آیا ہے؟“

آپ سے عرض کیا گیا کہ فلاں فلاں آدمی آئے ہیں آپ نے فرمایا:

”کیا میں نے انہیں آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہ میرے وہاں آنے تک اس سے پانی نہ پئیں۔“

پھر آپ نے ان پر لعنت کی اور انہیں بد عادی پھر آپ اترے اور آپ نے چٹان کے نیچے ہاتھ رکھا تو پانی مشیت الہی کے مطابق آپ کے ہاتھ میں گرنے لگا پھر آپ نے اسے جھڑکا اور اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور آپ نے مشیت الہی کے مطابق دعا کی تو پانی پھوٹ پڑا۔ جیسا کہ سننے والے بیان کرتے ہیں۔ اور بجلیوں کی طرح اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پس لوگوں نے پانی پیا اور اس سے اپنی حاجت پوری کی۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”اگر تم زندہ رہے یا تم میں سے کوئی زندہ رہا تو وہ اس وادی کے متعلق ضرور سنے گا کہ وہ اپنے سے پہلی اور پچھلی وادیوں سے زیادہ سرسبز ہوگی۔“

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھے محمد بن ابراہیم بن حارث التیمی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں آدھی رات کو اٹھا اور میں غزوہ تبوک میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھا، پس میں نے فوج کی جانب ایک آگ کا شعلہ دیکھا اور میں اسے دیکھنے کے لیے اس کی جانب لپکا۔ وہ بیان کرتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور عبداللہ ذوالجنادین رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کی قبر کھودی ہے اور رسول کریم ﷺ اس کی قبر میں اترے ہیں اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اسے آپ کو پکڑا رہے ہیں۔ اچانک آپ فرماتے ہیں اپنے بھائی کے قریب آؤ پس وہ اس کے قریب ہوئے پس جب آپ نے اسے پہلو کے بل اچھی طرح لٹکا دیا تو فرمایا:

”اے اللہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں پس تو بھی اس سے راضی ہو جا۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے کہ ایش میں صاحب قبر ہوتا ابن ہشام بیان کرتا ہے کہ اس کا نام ذوالجنادین تھا اور اس وجہ سے تھا کہ وہ اعلام لانا پاتا تھا تو اس کی قوم سے اسے روک دیا اور اسے تنگ لیا یہاں تک کہ وہ ان کے درمیان سے چلا گیا اور اپنے اوپر موٹی چادر اوڑھ لی اور اسے بھاڑ کر دو چادریں بنا لیں۔ ایک کا تہ بند بنا لیا اور دوسری اوڑھ لی پھر وہ رسول کریم ﷺ کے پاس آیا تو اس کا نام ذوالجنادین ہی رکھ دیا گیا۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ ابن شہاب الزہری نے بحوالہ اکبر الیش ابورہم غفاری کے نتیجے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ابورہم کلثوم بن الحسین جو اصحاب الشجرہ میں سے تھے کو فرماتے سنا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ جنگ تبوک لڑی پس میں ایک شب آپ کے ساتھ چلا اور ہم انحضرت مقام میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اونگھ نازل کر دی اور میں جاگنے لگا اور میری اونٹنی رسول کریم ﷺ کی اونٹنی کے قریب ہو گئی اور اس کے قریب ہونے سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ کہیں رکاب میں میں آپ کے پاؤں کو تکلیف نہ پہنچاؤں اور میں اپنی اونٹنی کو آپ سے علیحدہ کرنے لگا یہاں تک کہ راستے میں نیند میری آنکھوں پر غالب آ گئی اور میری اونٹنی آپ کی اونٹنی اور رکاب میں آپ کے پاؤں سے ٹکرا گئی اور میں اس وقت بیدار ہوا۔ جب آپ نے مجھے ”حسن“ کہا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے لیے بخشش مانگئے۔ آپ نے فرمایا ”چلو“ اور آپ مجھ سے ان لوگوں کے متعلق پوچھنے لگے جو بنی غفار میں سے پیچھے رہ گئے تھے اور بن آپ کو ان کے متعلق بتانے لگا۔ اور آپ نے مجھ سے دریافت کرتے ہوئے فرمایا:

”اس طویل بے ریش اور سرخ رنگ جماعت نے کیا کیا جن کے چہروں پر کوئی بال نہ تھے۔“

میں نے آپ کو ان کے پیچھے رہنے کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا: ”ان لوگوں کا حال بتاؤ جن کے اونٹ شدخ^۱ کے کنوؤں پر تھے پس میں نے انہیں بنی غفار میں یاد کیا مگر انہیں یاد نہ رکھ سکا یہاں تک کہ میں نے بتایا کہ وہ اسلم قبیلے کی ایک پارٹی تھی جو فینا کی حلیف تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ اسلم قبیلے کی ایک پارٹی تھی جو فینا کے حلیف تھے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”ان لوگوں میں سے کسی کو جب وہ راہِ خدا میں چست آدمی کو اپنے اونٹ پر سوار کرنے کے لیے پیچھے رہ گیا ہو روکاؤٹ نہیں کی گئی بلاشبہ مجھے سب سے زیادہ گراں یہ بات ہے کہ میرے اہل میں سے مہاجرین انصار غفار اور اسلم پیچھے رہ جائیں۔“

ابن ابی عمیر بحوالہ ابوالاسود عروہ بن زبیر سے بیان کرتا ہے کہ جب رسول کریم ﷺ تبوک سے مدینہ لوٹے تو منافقین کی ایک پارٹی نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور یہ کہ وہ آپ کو راستے میں کسی گھاٹی کی چوٹی سے گرا دیں۔ پس آپ نے ان کی حقیقت حال کے متعلق بتایا اور آپ نے لوگوں کو وادی میں چلنے کا حکم دیا اور خود آپ گھاٹی پر چڑھ گئے اور وہ گروہ ٹھاٹھے باندھ کر گھاٹی میں آپ کے ساتھ چلنے لگا اور رسول کریم ﷺ نے حضرت عمار بن یاسر اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ آپ کے

۱ شدخ: ایک بانی کا نام ہے۔

ساتھ چلیں، حضرت عمار رضی اللہ عنہما کی مہار پکڑتے ہوئے تھے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما پیچھے۔ بانک رہتے تھے۔ اسی دوران میں وہ چل رہے تھے کہ انہوں نے لوگوں کے متعلق سنا کہ وہ ان کے پاس گئے ہیں۔ پس رسول کریم ﷺ نے انہیں گھونٹ میں آگے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما نے آپ کے غصے کو دیکھا تو وہ ان کے پاس واپس آگئے اور ان کے پاس ایک کھوئی تھی جس میں آپ نے اپنی کھوئی کے ساتھ ان کی سواریوں کے منہ سیدھے کیے اور جب انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ وہ جس عظیم بات کو چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے آگاہ ہو چکے ہیں تو وہ تیزی سے چل کر لوگوں میں مل جل گئے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما رسول کریم ﷺ کے پاس پہنچ گئے پس آپ نے دونوں کو حکم دیا تو انہوں نے تیزی سے گھائی کو طے کیا اور کھڑے ہو کر لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ پھر رسول کریم ﷺ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا: ”کیا آپ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں؟“ انہوں نے جواب دیا جب میں ان کے پاس گیا تو میں تاریکی شب میں ان کی سواریوں کے سوا کسی کو پہچان نہیں سکا۔ پھر آپ نے فرمایا: ”تم دونوں اس قافلے کا حال جانتے ہو؟“ انہوں نے جواب دیا: نہیں! تو آپ نے ان دونوں کو وہ بات بتائی جس پر انہوں نے ایسا کیا تھا اور انہیں ان کے نام بھی بتائے اور انہیں کہا کہ ان ناموں کو ظاہر نہ کرنا۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ ان کے قتل کا حکم نہیں دیں گے۔ فرمایا: میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں کہیں کہ محمد ﷺ اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔

ابن اسحاق نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، مگر اس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے صرف حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما کو ان کے نام بتائے اور یہ بات زیادہ مناسب ہے۔ واللہ اعلم

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے ساتھی علقمہ کو ابوالدرداء نے جو بات کہی تھی وہ اس بات کی شاہد ہے کہ کیا اہل کوفہ میں صاحب السواد والوساد یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہما نہیں ہے۔ کیا تم میں ایسے رازکار ازدار نہیں ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جانتا، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما، کیا تم میں وہ آدمی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم ﷺ کی زبان سے شیطان سے پناہ دی ہے۔ یعنی حضرت عمار رضی اللہ عنہما۔

اور ہم نے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اور میں آپ کے بعد حضرت نبی کریم ﷺ کے راز کو کسی کے سامنے افشاء نہیں کروں گا۔

میں کہتا ہوں کہ وہ چودہ آدمی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بارہ آدمی تھے اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما کو ان کی طرف بھیجا تو آپ نے انہیں اکٹھا کیا تو رسول کریم ﷺ نے انہیں ان کے معاملے اور ان کے ایسا سے آگاہ کیا پھر ابن اسحاق نے ان کے نام بیان کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ:

”انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جسے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔“

اور بیہقی نے محمد بن مسلمہ کے طریق سے بحوالہ ابو اسحاق عن اعمش عن عمر بن مرہ عن ابی النخری عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما نے بیان

کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ۔

میں رسول اللہ ﷺ کی ناقہ کی مہار پکڑے اسے آگے سے چارہ ہاتھ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما کو پیچھے سے ہاتھ رہے تھے یا میں پیچھے سے ہاتھ رہا تھا اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما سے آگے سے چارہ ہے تھے۔

حتمیٰ کہ جب ہم لکھائی میں پہنچے تو بارہ آدمیوں نے اس گھائی میں آپ کو رد کیا۔ پس میں نے رسول کریم ﷺ کو آگاہ کیا تو آپ نے انہیں لکارا تو وہ پشت دے کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا: ”کیا تم نے لوگوں کو پہچان لیا ہے؟“ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے انہیں نہیں پہچانا کیونکہ وہ ٹھانٹھے باندھے ہوئے تھے۔ لیکن ہم نے سوار یوں کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ قیامت تک منافق رہیں گے، اور کیا تم ان کے ارادے کو جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا: انہوں نے گھائی میں اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکرانے اور وہاں سے اسے گرانے کا ارادہ کیا تھا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ ان کے قبیلوں کی طرف پیغام نہیں بھیجیں گے۔ تاکہ ہر قوم اپنے ساتھی کے سر کو آپ کے پاس بھیج دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ عرب آپس میں یہ بات کریں کہ محمد ﷺ اپنی قوم کے قاتل ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر غلبہ دے گا۔ آپ ان کے قتل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا: اے اللہ ان پر دیلہ دے مار ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! دیلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ آگ کا شعلہ ہے جو ان میں سے کسی کے دل کی رگ پر پڑے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔

اور صحیح مسلم میں شعبہ کے طریق سے عن قتادہ بن ابی نصرہ عن قیس بن عبادہ بیان ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ:

”میں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہما سے کہا کیا تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے اس فعل کو دیکھا ہے کیا یہ تمہاری رائے ہے یا رسول اللہ ﷺ نے تمہیں کوئی وصیت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں کوئی وصیت نہیں کی، اور نہ ہی آپ نے دوسرے تمام لوگوں کو کوئی وصیت کی ہے لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھے رسول اللہ ﷺ کی جانب سے یہ بات بتائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بارہ منافق ہیں۔ ان میں سے آٹھ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔“

اور قتادہ کی ایک دوسرے طریق کی روایت میں ہے کہ:

”میری امت میں بارہ منافق ہیں وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ ان میں سے آٹھ کو دیلہ کافی ہو جائے گا، وہ آگ کا چراغ ہے جو ان کے کندھوں کے درمیان ظاہر ہوگا اور ان کے سینوں سے پھوٹ نکلے گا۔“

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ بارہ یا پندرہ آدمی تھے اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے بارہ آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دنیاوی زندگی میں اور جس روز گواہ کھڑے ہوں گے تک لڑتے رہیں گے اور تمین نے عذر کیا اور کہا نہ ہم نے اعلان کرنے والے کو سنا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کے ارادے کا علم ہے اور اس حدیث کو امام احمد نے اپنے مسند میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یزید یعنی ابن بارون نے بیان کیا ہے کہ ولید بن عبد اللہ

بن جمیع نے ہمیں ابراہیم اللطیف سے خبر دی، درمیان کرتے ہیں کہ:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ غزوہ تبوک - تشریف لائے تو آپ نے منادی کو حکم دیا، تو اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ ﷺ گھائی کو پڑے ہوئے ہیں پس اسے کوئی نہ پڑے اسی اثنا میں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ کے آگے چل رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ پیچھے چل رہے تھے کہ ٹھاٹھے باندھے ہوئے اونٹوں پر سوار ایک گروہ آ گیا، اس وقت وہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر چل پڑے اور وہ حضرت رسول کریم ﷺ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ اونٹوں کے چبڑوں پر مارنے لگے۔ رسول کریم ﷺ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”قد قد“ حتی کہ رسول اللہ ﷺ وادی میں اتر گئے۔ پس جب آپ اترے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ واپس آئے تو آپ نے فرمایا: ”اے عمار! کیا آپ نے لوگوں کو پہچان لیا ہے؟“ انہوں نے جواب دیا میں نے عام اونٹوں کو پہچان لیا ہے جبکہ لوگ ٹھاٹھیں باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا، انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”ان کا ارادہ تھا کہ اللہ کے رسول کو لے جا کر پھینک دیں“ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک آدمی سے سرگوشی کی، تو اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہارے علم میں گھائی والے کتنے آدمی تھے، انہوں نے جواب دیا چودہ آدمی تھے۔ اس نے کہا اگر میں بھی ان میں شامل ہوں تو وہ پندرہ تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں سے تین آدمیوں نے رسول اللہ ﷺ سے عذر کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے منادی کو نہیں سنا تھا اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے ارادے کا علم تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے بارہ آدمی اللہ اور نبی کے رسول سے دنیاوی زندگی میں اور جس روز گواہ کھڑے ہوں گے تک لڑتے رہیں گے۔

مسجد ضرار کا واقعہ:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

”اور جن لوگوں نے ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے اور مومنین کے درمیان جدائی ڈالنے اور پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے کے لیے گھات لگانے کے لیے مسجد بنائی اور وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ بھلائی کا تھا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آدمی ہیں جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پس کیا وہ شخص جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کی رضامندی اور تقویٰ پر رکھے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والے لڑھے کے کنارے پر رکھے اور وہ اسے دوزخ کی آگ میں لے کرے اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، انہوں نے جو عمارت بنائی ہے وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث رہے گی سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ صاحب علم و

حکمت ہے۔“

اور ہم نے ان آیات کریمہ سے متعلقہ تفسیر کو اپنی تفسیر کی کتاب میں کافی مددگار بیان کر دیا ہے۔

اور ابن اسحاق نے اس مسجد کی تعمیر کی کیفیت کو جس کے باشندے ظالم تھے۔ اور رسول کریم ﷺ کے حکم کی کیفیت کو جو آپ نے تبوک سے واپسی پر مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اس مسجد کے برباد کرنے کے متعلق دیا تھا بیان کیا ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ منافقین کی ایک پارٹی نے مسجد قباء کے قریب مسجد کی صورت بنا دی اور چاہا کہ رسول کریم ﷺ اس میں انہیں نماز پڑھا دیں۔ تاکہ وہ جس فساد و عناد اور کفر کا ارادہ کیے ہوئے ہیں وہ اس کی حقیقت کو چھپا سکیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچا لیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ اس وقت کے سفر پر جا رہے تھے۔ پس جب آپ وہاں سے واپس آئے اور اوان مقام پر اترے تو آپ پر اس مسجد کے بارے میں وحی نازل ہوئی۔ ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا وَضُرًّا... الْآيَةَ﴾ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو جو ضرار قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجد قبا کی مشابہت اختیار کرنا چاہی اور اللہ پر ایمان کی بجائے اس کا کفر کرنے کا ارادہ کیا اور مسجد قبا سے مومنین کی جماعت کو پراگندہ کرنا چاہا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی برسر پیکار تھا اس کے گھات لگانے کے لیے مسجد بنائی۔ اور وہ ابو عامر راہب فاسق تھا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اسے دعوت اسلام دی تو اس نے انکار کیا اور مکہ جا کر لوگوں سے مدد چاہی۔ پس وہ احد کے سال آئے۔ اور ان کے حالات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پس جب اس کا کام نہ بنا تو وہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف قیصر روم سے مدد مانگنے گیا۔ اور ابو عامر ہرقل کے دین پر تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو عربوں میں سے ان کے ساتھ عیسائی ہو گئے تھے اور وہ اپنے منافق بھائیوں کی طرف خطوط لکھا کرتا تھا اور انہیں وعدے دیتا اور آرزوئیں دلاتا تھا اور شیطان ان سے جھوٹے وعدے ہی کرتا ہے اور اس کے خطوط اور اچٹی ہر وقت ان کے پاس آتے تھے۔ پس انہوں نے ظاہری صورت میں اسے مسجد بنایا اور باطن میں یہ دار الحرب اور ابو عامرہ کے پاس آنے والوں کا ٹھکانا اور ان کے طریق پر چلنے والے منافقین کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

”جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار ہے اس کے گھات لگانے کے لیے ہے۔“

پھر فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اسے بنایا ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اس کی تعمیر سے ہمارا مقصد بھلائی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں کھڑا ہونے سے روک دیا ہے تاکہ اس کا ارادہ پورا نہ ہو۔ پھر اس نے آپ کو مسجد قباء میں کھڑا ہونے کی ترغیب دی ہے جس کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ کیونکہ اسلوب کلام اور اس کی تعریف میں وارد ہونے والی احادیث اس کے باشندوں کی پاکیزگی پر دلالت کرتی ہیں۔

اور صحیح مسلم میں جو آیا ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد ہے یہ پہلی بات کے منافی نہیں؛ کیونکہ جب پہلے روز سے ہی مسجد قبا کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے تو رسول اللہ ﷺ کی مسجد اس بات کے زیادہ لائق ہے اور فضیلت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ اور ہم

نے تیسرے میں اس بارے میں یہ حاصل بحث کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول کریم ﷺ زوارانِ مقام پر اترے تو آپ نے مالک بن الدخلم، بن عدی، یا اس کے بھائی عاصم بن عدی بن زہرا کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ دونوں اس مسجد کی طرف جس کے باشندے ظالم ہیں جائیں اور اسے نذر آتش کر دیں۔ پس ان دونوں نے جا کر اسے نذر آتش کر دیا اور اس کے باشندے بھاگ گئے۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا وہ بارہ آدمی تھے جو یہ تھے: خدام بن خالد اس کے گھر کے پہلو میں یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی، ثعلبہ بن حالب، معتب بن قشیر، ابو حبیہ بن الازعر، عباد بن حنیف جو سہیل بن حنیف کا بھائی تھا، جاریہ بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے مجیح اور زید، نبتل بن الحارث، بنجرج جو بنی ضبیعہ کی طرف تھا، بجاہ بن عثمان جو بنی ضبیعہ میں سے تھا اور وادیہ بن ثابت جو بنی امیہ کی طرف تھا۔

میں کہتا ہوں کہ اسی غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ نے فجر کی نماز حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی اور دوسری رکعت پائی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ وضو کرنے چلے گئے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پس آپ نے دیر کر دی اور نماز کھڑی ہو گئی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہو گئے پس جب لوگوں نے سلام بیسراؤا جو کچھ ہوا تھا لوگوں نے اسے بڑی بات خیال کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا:

”تم نے بہت اچھا کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔“ اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک نے بتایا کہ ہمیں حمید الطویل نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول کریم ﷺ غزوہ تبوک سے واپس آئے اور مدینہ کے قریب آ کر فرمایا کہ ”مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ تم نے جو سفر بھی کیا ہے اور جس وادی کو بھی طے کیا وہ تمہارے ساتھ تھے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مدینہ ہی میں تھے، آپ نے فرمایا وہ مدینہ ہی میں تھے۔ انہیں معذوری نے روک دیا تھا۔ اس طریق سے یہ متفرد ہے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ خالد بن مخلد نے ہم سے بیان کیا اور سلیمان نے ہم سے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن یحییٰ نے بحوالہ عباس بن سہل بن سعد ابو حمید سے بتایا کہ:

ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ تبوک سے آئے اور جب ہم مدینہ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا ”یہ نہایت ہے اور یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے بہت محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اور مسلم نے اسے اسی طرح سلیمان بن ہاشم کی حدیث سے بیان کیا ہے۔“

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن محمد نے بتایا اور سفیان نے بحوالہ الزہری، اسامہ بن یزید سے ہمارے بیان بیان کیا، وہ کہتے ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ میں بچوں کے ساتھ شیبہ الوداع کی طرف جبکہ آپ غزوہ تبوک سے تشریف لارہے تھے رسول اللہ ﷺ کو

ملنے کے لیے گیا۔ اور اسے ابوداؤد اور ترمذی نے سفیان بن عیینہ کی حدیث سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور تہذیبی بیان کرتے ہیں کہ ابونصر بن قنادہ نے ہمیں بتایا اور ابو عمرو بن مطر نے ہمیں خبر دی کہ میں نے ابوغلیفہ کو کہتے سنا کہ میں نے ابن عاکشہ کو کہتے سنا کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو عورتیں بچے اور بچیاں یہ اشعار پڑھنے لگے:

”ثنیۃ الوداع سے ہم پر چودھویں کا چاند طلوع ہوا ہے اور جب تک اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا دعوت دے ہم پر شکر واجب ہے۔“

یہی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اشعار آپ کے مکہ سے مدینہ آنے پر پڑھے گئے نہ کہ جب آپ تبوک سے ثنیۃ الوداع کے راستے مدینہ آئے۔ واللہ اعلم، ہم نے بھی اس جگہ اسی طرح اس کا ذکر کر دیا ہے۔

حضرت امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا اور ہم سے لیث نے عقیل سے اور اس نے ابن شہاب سے اور اس نے عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو اپنے بیٹوں کی جانب سے نایبنا ہونے پر کب کا لیڈر بن گیا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ بیان کرتے سنا جب وہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔



کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہانی ان کی اپنی زبانی

میں غزوہ تبوک کے سوا کسی غزوہ میں رسول اللہ ﷺ سے پیچھے نہیں رہا۔ ہاں میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ مگر اس میں پیچھے رہنے سے آپ کسی سے ناراض نہیں ہوئے۔ کیونکہ رسول کریم ﷺ صرف قریش کے قافلے کی جستجو میں نکلے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمن کو بغیر کسی مقررہ وقت کے اکٹھا کر دیا۔ اور میں شب عقبہ کو بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ موجود تھا یہاں تک کہ ہم اسلام پر مضبوط ہو گئے اور مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونا بہت محبوب تھا۔ اگرچہ بدر کے لوگوں میں چرچا ہوتا رہا اور میرے حالات یہ نہیں کہ جب میں اس غزوہ میں آپ سے پیچھے رہ گیا تو میں کبھی اتنا آسودہ اور طاقتور نہ ہوا تھا جتنا اس وقت تھا اور خدا کی قسم کبھی میرے پاس دو اونٹنیاں اکٹھی نہ ہوئی تھیں یہاں تک کہ اس غزوہ میں میں نے انہیں بھی اکٹھا کر لیا۔ اور رسول کریم ﷺ جب جنگ کا ارادہ کرتے تو تو یہ کہ طور پر کسی اور کا نام دیتے۔ حتیٰ کہ یہ جنگ رسول اللہ ﷺ نے شدید گرمی میں لڑی اور آپ نے دو روز سفر کیا اور کثیر لہجہ اور کسا سنا کیا پس آپ نے مسلمانوں پر واضح کیا کہ وہ اپنی جنگ کی تیاری کریں اور آپ جس جانب جانا چاہتے تھے اس کے متعلق انہیں بتایا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی جسے کوئی رجسٹر محفوظ نہیں کرتا تھا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی غیر حاضر نہیں ہونا چاہتا تھا مگر وہ خیال کرتا تھا کہ جب تک اس کے بارے میں وحی نازل نہ ہوگی اس سے بات پوشیدہ رہے گی اور رسول اللہ ﷺ نے یہ جنگ اس وقت لڑی جب پھل اور سائے خوب تیار ہو چکے تھے اور آپ نے تیاری کی اور مسلمان آپ کے ساتھ تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تیاری کرنے کے لیے آنے جانے لگا اور میں نے کوئی فیصلہ نہ کیا اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ مجھے غزوہ میں شمولیت پر قدرت حاصل ہے اور میں مسلسل سستی کرنے لگا یہاں تک کہ لوگ سختی سے اہتمام کرنے لگے۔

اور رسول کریم ﷺ صبح کو مسلمانوں کے ساتھ چل پڑے اور میں کہنے لگا کہ میں ایک یا دو دنوں میں تیار ہو جاؤں گا اور پھر ان کے ساتھ جاؤں گا اور ان کے جانے کے بعد میں تیاری کے لیے گیا اور واپس آ گیا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا، پھر گیا اور واپس آ گیا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا، پس مسلسل میری یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ وہ تیزی سے چلے گئے اور جنگ کا وقت جاتا رہا اور میں نے سفر کر کے ان کو پالینے کا ارادہ کیا۔ کاش میں ایسا کرتا۔ مگر یہ بات میرے لیے مقدر نہ تھی۔ اور جب رسول اللہ ﷺ کے چلے جانے کے بعد میں لوگوں میں گھوما پھرا تو مجھے اس بات نے غمگین کر دیا کہ میں نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جن پر نفاق کی تہمت تھی یا معذور و ضعیف تھے اور رسول اللہ ﷺ نے مجھے یاد نہ کیا حتیٰ کہ آپ تبوک پہنچ گئے اور آپ نے تبوک میں لوگوں میں بیٹھ کر فرمایا، کعب نے کیا کیا ہے، تو بنی سلمہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اس کے پیڑوں اور اس کے تکبر نے اسے روک دیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے بہت بری بات کی ہے یا رسول اللہ ﷺ قسم بخدا ہم نے تو اسے اچھا پایا ہے۔ پس رسول

کریم ﷺ خاموش ہو گئے۔

حضرت کعب بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ آپ واپس آ رہے ہیں تو میں نمکین ہو گیا اور جھوٹ کو یاد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کل میں آپ کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا۔ اور میں نے اپنے گھ کے - صاحب الراس آدمی سے دعا لی اور جب کہا گیا کہ رسول اللہ ﷺ آیا ہی چاہتے ہیں تو بائیں مجھ سے دور ہو گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ میں کبھی بھی کسی ایسی بات کے ذریعے جس میں جھوٹ شامل ہو آپ سے بچ نہیں سکوں گا! پس میں نے آپ سے سچ بولنے کا ارادہ کر لیا اور رسول اللہ ﷺ صبح آ رہے تھے اور آپ کا دستور یہ تھا کہ جب آپ سفر سے آتے تو پہلے مسجد جاتے اور اس میں دو رکعت نماز پڑھتے پھر لوگوں کے لیے جلوس فرما ہوتے۔ پس جب آپ نے ایسا کیا تو پیچھے رہنے والے آپ کے پاس آ کر عذر کرنے لگے اور آپ کے سامنے قسمیں کھانے لگے اور وہ لوگ اسی سے کچھ اوپر تھے رسول کریم ﷺ نے ان کی ظاہری باتوں کو قبول کر لیا اور ان کی بیعت لی اور ان کے لیے بخشش طلب کی اور ان کے باطن کے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا! پس میں بھی آپ کے پاس آیا اور جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ ناراض آدمی کی طرح مسکرائے پھر فرمایا آؤ اور میں چل کر آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے مجھے فرمایا: آپ کو کس چیز نے پیچھے رکھا ہے کیا آپ نے سواری نہیں خرید لی تھی میں نے عرض کیا ہاں خریدی تھی اور قسم بخدا اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ میں بذریعہ عذر اس کی ناراضگی سے بچ نکلتا اور مجھے مجادلہ کی قوت عطا کی گئی ہے۔ لیکن قسم بخدا مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے آج کوئی جھوٹی بات بیان کی جس سے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے اور اگر میں نے آپ سے سچ بیان کیا جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اس میں عفو الہی ہوگا خدا کی قسم میرا کوئی عذر نہیں اور خدا کی قسم جس وقت میں آپ سے پیچھے رہا اس سے زیادہ آسودہ اور طاقتور میں کبھی نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس آدمی نے سچ کہا ہے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے۔ پس میں کھڑا ہو گیا تو بنی سلمہ کے کچھ لوگ بھڑک اٹھے اور مجھے کہنے لگے خدا کی قسم ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا ہو لیکن آپ نے پیچھے رہنے والے لوگوں کی طرح رسول کریم ﷺ کے پاس عذر نہیں کیا اور تیرے گناہ کے لیے رسول اللہ ﷺ کا استغفار ہی کافی ہے اور وہ مسلسل مجھے ملامت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ واپس جا کر اپنی کمزیر کروں پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے ساتھ کسی اور کو بھی یہ سزا ملی ہے انہوں نے کہا ہاں دو آدمیوں نے تیری طرح بات کی ہے اور انہیں بھی وہی بات کہی گئی ہے جو تمہیں کہی گئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں انہوں نے کہا مرارہ بن الربیع العمری اور ہلال بن امیہ الواقفی رضی اللہ عنہما اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں نیک آدمی ہیں۔ اور بدر میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں نمونہ دکھایا تھا جب انہوں نے مجھ سے ان دونوں کا ذکر کیا تو میں چلا گیا اور رسول کریم ﷺ نے پیچھے رہنے والوں میں سے ہم تینوں کے ساتھ مسلمانوں کو بات چیت کرنے سے منع کر دیا! پس ہم لوگوں سے اجتناب کرنے لگے۔ اور وہ ہم سے بدل گئے۔ یہاں تک کہ مجھے زمین بھی بیگانی نظر آنے لگی۔ پس میں اور کس چیز کو پہچانتا ہم اس کیفیت میں پانچ راتیں رہے اور میرے دونوں ساتھی عاجز ہو کر روتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور میں طاقت ور اور نوجوان

آدمی تھا، میں باہر نکل کر مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں کھومتا مگر مجھ سے کوئی آدمی بات نہ کرتا اور میرے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر آپ کو سلام کہتا جبکہ آپ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے اور میں اپنے دل میں کہتا کہ کیا آپ نے سامع کے جواب کے لیے اپنے لبوں کو حرکت دی ہے یا نہیں پھر میں آپ کے قریب نماز ادا کرتا اور نہ یہ وہ نگاہوں سے آپ کو دیکھتا اور جب میں نماز کے لیے آتا تو آپ میری طرف آتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ مجھ سے اعراض فرماتے۔ اور جب لوگوں کی یہ سختی مجھ پر گراں ہو گئی تو میں چل کر حضرت ابوقحافہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے عمر ادا اور مجھے بہت محبوب تھے۔ میں نے انہیں سلام کہا، تو خدا کی قسم انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا، میں نے کہا اے ابوقحافہ رضی اللہ عنہم میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کیا آپ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ وہ خاموش رہے میں نے دوبارہ اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات دہرائی تو وہ خاموش رہے۔ میں نے سہ بار اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات دہرائی تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، پس میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور میں نے پیٹھ پھیر لی اور دیوار پھلانگ آیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ اہل شام کے نبطیوں میں سے ایک نبطی جو مدینہ میں طعام بیچنے کے لیے لایا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق کون بتائے گا؟ تو لوگ اسے بتانے لگے۔ یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی تھیلی میں تھا کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں لکھا ہے:

شاہ غسان کا خط حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نام:

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ بدملہ کی کی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذلیل اور ضائع ہونے

کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے۔“

میں نے جب اسے پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، میں اسے لے کر تنور پر گیا اور اسے اس میں جھونک دیا۔ پس ہم اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ پچاس میں سے چالیس راتیں گزر گئیں تو رسول اللہ ﷺ کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا، رسول اللہ ﷺ نے آپ کو اپنی بیوی سے علیحدگی کا حکم دیا ہے، میں نے کہا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا بلکہ اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ اور آپ نے میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی اسی قسم کا حکم بھیجا، میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے اہل کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ فرمادے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ہلاک ہونے والا بوڑھا ہے اور اس کا خادم بھی کوئی نہیں، کیا آپ کو پسند نہیں کہ میں اس کی خدمت کروں، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ تیرے قریب نہ آئے، اس نے کہا خدا کی قسم اسے میری طرف کوئی جنبش نہیں ہوتی اور خدا کی قسم جب سے اس کا معاملہ ہوا ہے وہ اس دن سے آج کے دن تک مسلسل رورہا ہے۔

میرے گھر کے بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کی خدمت کے متعلق اجازت لے لی

ہے تو بھی اسی طرح اپنی بیوی کے متعلق اجازت لے لے تو میں نے کہا خدا کی قسم میں رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق اجازت نہیں لوں گا اور مجھے کیا معلوم کہ جب میں اس کے بارے میں آپ سے اجازت لوں تو آپ مجھے کیا کہیں؟ حالانکہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں بس راتیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ پچاس راتیں مکمل ہو گیا اس وقت سے جب رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا، پس جب میں نے پچاسویں رات کی صبح کو فجر کی نماز پڑھی اور میں اپنے گھر کی چھت پر تھا، اسی دوران میں کہ میں اسی حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو میری جان مجھ پر دو بھر ہو گئی اور زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھ پر تنگ ہو گئی اور میں نے سلع پہاڑ پر چڑھے ایک آدمی کی آواز کو سنا جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا:

”اے کعبؓ تجھے بشارت ہو۔“

تو میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ کشادگی کا وقت آ گیا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر پڑھنے کے وقت لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول فرمائی ہے۔ پس لوگ ہمیں بشارت دینے گئے اور میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی بشارت دینے والے آگئے اور ایک آدمی نے میری طرف گھوڑا دوڑایا اور اسلم قبیلے کا ایک آدمی دوڑ کر پہاڑی پر چڑھ گیا اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز ہوتی ہے پس جب وہ شخص جس کی آواز میں نے سنی تھی میرے پاس بشارت دینے آیا تو میں نے اس کی خوشخبری کی وجہ سے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیئے۔ اور خدا کی قسم ان دنوں ان کے سوا میرے پاس کوئی کپڑا نہ تھا اور میں نے دو کپڑے عاریتہ لے کر اپنے اور رسول کریم ﷺ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اور لوگ مجھے فوج در فوج توبہ پر مبارک باد دیتے ہوئے ملے وہ کہتے تھے مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، حضرت کعب بن عبد مناف بیان کرتے ہیں تا آنکہ میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رسول کریم ﷺ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بنی عبد مناف میری طرف دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اور خدا کی قسم مہاجرین میں سے ان کے سوا کوئی آدمی میرے پاس نہ آیا اور میں حضرت طلحہ بن عبد مناف کی یہ بات نہیں بھول سکتا، حضرت کعب بن عبد مناف بیان کرتے ہیں جب میں نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کہا تو رسول اللہ ﷺ نے جبکہ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا فرمایا:

”تجھے بشارت ہو کہ جب سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے اس وقت سے لے کر یہ دن تم پر بہترین گزرا ہے۔“

حضرت کعب بن عبد مناف بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ معافی آپ کی طرف سے ہوئی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔

اور رسول کریم ﷺ جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ یوں روشن ہو جاتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہے اور ہم آپ کی اس کیفیت کو جانتے تھے پس جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں چاہتا ہوں کہ اپنی توبہ کی وجہ سے میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے مال کا صدقہ دے کر اس سے الگ ہو جاؤں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے پاس کچھ مال رکھ لو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔“ میں نے عرض کیا میں اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف سچ بولنے کی وجہ سے بچایا ہے اور میری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں سچ بولوں گا اور خدا کی قسم جب سے میں نے رسول

کریم ﷺ کے پاس اس کا ذکر کیا ہے اس وقت سے لے کر مسلمانوں میں سے میں کسی آدمی کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بڑھ کر صدق میں آزما یا ہو اور جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس یہ بات بیان کی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے جھوٹی گواہی نہیں دی اور مجھے امید ہے کہ میری بقیہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت اتاری۔

”اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم ﷺ، مہاجرین اور انصار کو اپنے فضل سے نوازا ہے۔“

اور خدا کی قسم اسلام کی طرف راہنمائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی ایسا انعام نہیں کیا جس کی عظمت میرے دل میں رسول اللہ ﷺ کی سچائی سے بڑی ہو، میں آپ کا کذب نہیں کہہ آپ کی تکذیب کرنے والوں کی طرح ہلاک ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مکذبین کو وحی نازل کرتے وقت جو بات کہی ہے وہ بہت بری بات ہے جو کسی کو کہی جاسکتی ہے کہ:

”جب تم پلٹ کر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ عنقریب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو..... بے شک اللہ تعالیٰ فاسقین سے راضی نہیں ہوتا۔“

حضرت کعب بن علقمہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کے سامنے حلف اٹھائے آپ نے ان کی بات قبول کر لی اور ان کی بیعت لی اور ان کے لیے استغفار کیا۔ اور ہم تین ان لوگوں سے پیچھے رہ گئے اور رسول کریم ﷺ نے ہمارا معاملہ مؤخر کر دیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فیصلہ کیا اس لیے اس نے فرمایا ہے:

”اور جو تین آدمی پیچھے چھوڑے گئے تھے ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس نے ہمیں ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے سامنے حلف اٹھائے اور عذر کیے تھے اور آپ نے ان کے ذرات قبول کر لیے تھے، پیچھے رکھا اور ہمارے معاملے کو ان سے مؤخر کیا ہے اسے مسلم نے زہری کے طریق سے ایسے ہی روایت کیا ہے اور محمد بن اسحاق نے بھی اسے زہری سے بخاری کے اسلوب کے مانند بیان کیا ہے اور ہم نے اسے تفسیر میں مسند احمد سے بیان کیا ہے اور اس میں کچھ اضافے بھی ہیں۔

ان کے علاوہ نافرمانوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا ذکر:

علی بن طلحہ الوالمی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس قول:

”اور دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور انہوں نے کچھ اچھے اور برے کام باہم ملا لیے قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ دس آدمی تھے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ سے پیچھے رہ گئے تھے، پس جب وہ آپ کی واپسی پر حاضر ہوئے تو ان میں سے سات آدمیوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ پس جب رسول کریم ﷺ ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ابولبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے وہ ساتھی ہیں جو آپ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب تک آپ انہیں آزاد نہ کریں یا ان کو معذور قرار نہ دیں یہ یہیں بندھے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا:

”میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نہ انہیں آزاد کروں گا اور نہ انہیں معذور قرار دوں گا اور اللہ ہی انہیں آزاد کرے گا۔ انہوں نے مجھ سے بے رغبتی کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے سے پیچھے رہ گئے ہیں۔“

پس جب انہیں اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا ہم بھی اپنے آپ کو اس وقت تک آزاد نہیں کریں گے جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ آزاد نہ کرے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری:

”اور دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔“

اور جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کو آزاد کیا اور معذور قرار دیا اور وہ اپنے اموال لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ یہ ہمارے اموال ہیں ہماری طرف سے انہیں صدقہ کر دیجیے اور ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ آپ نے فرمایا:

”مجھے آپ کے اموال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔“ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

”ان کے اموال سے صدقہ لے اور انہیں اس کے ذریعے پاک کر اور ان کے لیے دعا کرتی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے..... اور کچھ لوگ امر الہی سے پیچھے رکھے گئے ہیں خواہ وہ انہیں عذاب دے یا ان پر رحم کرے۔“

اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سزاؤں سے نہیں باندھا تھا۔ پس یہ مؤخر رکھے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

”اللہ نے حضرت نبی کریم ﷺ اور مہاجرین و انصار کو جو پیچھے رہ گئے تھے اپنے فضل سے نوازا ہے۔“

اور عطیہ بن سعید العری نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح روایت کیا ہے۔

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ:

حضرت سعید بن مسیب، مجاہد اور محمد بن اسحاق نے حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو بیان کیا ہے اور بنی قریظہ کے روز آپ نے جو کچھ کہا اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو باندھ لیا یہاں تک کہ آپ کی توبہ قبول ہوگئی، پھر آپ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو آپ نے اسی طرح اپنے آپ کو باندھ لیا یہاں تک کہ آپ کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور آپ نے اپنے تمام مال کو صدقہ دے کر اس سے الگ ہو جانا چاہا تو رسول اللہ ﷺ نے آپ سے فرمایا:

”آپ کے مال کا تیسرا حصہ صدقہ کر دینا کافی ہے۔“

مجاہد اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ آیت کہ:

”دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔“

آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اسلام میں ان سے بھلائی ہی دیکھی گئی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ شاید ان تینوں نے اس کے ساتھ اس کے بقیہ ساتھیوں کا ذکر نہیں اور انہی کے نام پر کفایت کر لی ہے کیونکہ وہ ان کے لیڈر کے طور پر تھے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اسلوب بیان اس پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ اعلم اور حافظہ تاجی نے ابوجہر زبیری کے طریق سے عن سفیان ثوری عن سلمہ بن کہیل عن عیاض بن عیاض عن ابیہ عن ابن مسعود بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم میں تقریر کی اور فرمایا:

”بلاشبہ تم میں منافقین موجود ہیں پس میں جس کا نام لوں وہ اٹھ کھڑا ہو۔ فلاں اٹھو فلاں اٹھو فلاں اٹھو یہاں تک کہ آپ نے چھتیس آدمی گئے۔ پھر فرمایا: تم میں منافقین موجود ہیں پس اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہو، راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک نقاب پوش آدمی گزرا، آپ کی اس سے جان پہچان تھی، آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ پس اس نے آپ کو وہ بات بتائی جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی تھی، آپ نے فرمایا دور ہو جا۔

میں کہتا ہوں کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں کی چار اقسام تھیں:

- ① مامور اور ماجور جیسے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت محمد بن مسلمہ، اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہم۔
- ② معذور، جو کمزور اور مریض تھے۔
- ③ تنگ دست جو گریہ کرنے والے تھے۔
- ④ نافرمان، گناہ گار، اور وہ تین تھے، حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مذکورہ ساتھی اور دوسرے قابل مذمت اور قابل ملامت لوگ جو منافق تھے۔



تبوک سے آپ کی واپسی کے بعد ہونے والے واقعات

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حافظ ابو عبید اللہ نے بتایا کہ ہمیں ابو العباس محمد بن یعقوب نے خبر دی ہم سے ابو البختری عبد اللہ بن شاکر نے بیان کیا کہ ہم سے زکریا یحییٰ نے بیان کیا کہ ہم سے ابو جبر بن حصین کے چچا نے اپنے دادا حمید بن منہب سے بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے دادا خریم بن اوس بن حارثہ بن لام کو کہتے سنا کہ:

میں نے رسول اللہ ﷺ کی جانب آپ کی تبوک سے واپسی پر ہجرت کی اور میں نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہہ ”اللہ تعالیٰ تیرے دانتوں کو نہ گرائے تو انہوں نے کہا:

”اس سے قبل میں سایوں اور حفاظت کی جگہ میں خوش حال تھا جہاں اوراق سینے جاتے ہیں پھر میں شہروں میں آیا اور آپ نہ بشر تھے نہ نطفہ نہ علقہ بلکہ نطفہ جہازوں پر سوار ہوتا تھا اور اس نے گھوڑے کے سم کے اندرونی غدود کو گام لگادی اور اس کے باشندے غرق ہونے والے تھے۔ آپ پشت سے رحم میں منتقل ہوئے اور جب کوئی عالم گزر جاتا تو ایک پردہ ظاہر ہو جاتا یہاں تک کہ آپ کا گھر خندق کی بلندیوں سے جس کے نیچے نطق تھے محافظ خدا نے گھیر لیا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو زمین جگمگا اٹھی اور افاق آپ کے نور سے روشن ہو گیا پس ہم اس نور روشنی اور ہدایت کے راستوں پر چل رہے ہیں۔“

اور بیہقی نے اسے ایک اور طریق سے ابوالسکن زکریا بن یحییٰ طائی سے روایت کیا ہے۔ اور وہ اس کا ایک جزو اس سے مروی ہے۔ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ اس نے اضافہ کیا ہے کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سفید حیرہ مجھے دکھایا گیا اور یہ ایٹما بنت بقلیلہ ہے جو سفید نچر پر سیاہ اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہے میں نے عرض کیا رسول اللہ اگر ہم حیرہ میں داخل ہو گئے اور میں نے اسے ایسے ہی پایا جیسے آپ نے میرے سامنے بیان کیا ہے تو وہ میرا ہوگا آپ نے فرمایا وہ تیرا ہوگا راوی بیان کرتا ہے کہ پھر ارتداد ہوا اور طیٰ سے کوئی آدمی مرتد نہ ہوا اور ہم اپنے نزدیک عربوں سے اسلام پر جنگ کر رہے تھے اور ہم قیس سے بھی جنگ کر رہے تھے جس میں عینید بن حصن بھی شامل تھا اور ہم بنی اسد سے بھی برسریکا رہے۔ جن میں طلحہ بن خویلد بھی تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمارے تعریف کر رہے تھے اور انہوں نے ہمارے بارے میں جو اشعار کہے ان میں یہ اشعار بھی تھے۔

”اللہ تعالیٰ طیٰ کو ان کے دیار میں بہادروں کے میدان کارزار میں ہماری جانب سے بہترین جزا دے جب پروائی ہوا سب خیموں کو تباہ کر دیتی ہے تو وہ سخاوت کے علمبردار ہوتے ہیں اور جب قیس نے تاریکی کے منادی کی بات مان لی تو انہوں نے ہی اسے دین کے بارے میں ضرب لگائی۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کی طرف گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے اور جب ہم مسیلمہ سے فارغ ہو گئے تو ہم بصرہ کی جانب آئے اور کاظمہ مقام پر ہرمز سے ہماری ٹڈ بھیر ہوئی جس کے پاس ہم سے بھی بڑی فوج تھی اور عجمیوں میں ہرمز سے بڑھ کر عربوں اور اسلام کا بڑا دشمن کوئی نہ تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلے نکل کر اسے دعوت مبارزت دی پس وہ آپ کے مقابلے میں نکلا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کا حال حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا اور آپ نے غنیمت میں اس کا سامان آپ کو عطا فرمایا اور ہرمز کی ٹوپی کی قیمت ایک لاکھ درہم تک پہنچی۔ اور جب ایرانیوں میں کوئی آدمی بلند رتبہ ہو جاتا تو اس کی ٹوپی ایک لاکھ درہم کی ہوتی، راوی بیان کرتا ہے پھر ہم طف کے راستے حیرہ کی طرف لوٹے اور جب ہم اس میں داخل ہوئے تو رسول کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے ہمیں ایٹھما بنت بقیلہ سفید خنجر پر سیاہ اوڑھنی اوڑھے ملی، پس میں اس سے چٹ گیا اور میں نے کہا کہ اسے رسول اللہ ﷺ نے مجھے بخشا ہے، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اس پر گواہی طلب کی، تو میں نے گواہی پیش کی اور حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت محمد بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہما میرے گواہ تھے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے میرے سپرد کر دیا۔ پس اس کا بھائی عبدالمسح صلح کے ارادے سے میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اسے میرے پاس فروخت کر دو تو میں نے کہا خدا کی قسم میں اسے ایک ہزار درہم سے کم میں فروخت نہ کروں گا تو اس نے مجھے ایک ہزار درہم دے دیئے اور میں نے اسے اس کے سپرد کر دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ ایک لاکھ درہم کہتے تو بھی وہ ضرور آپ کو ادا کرتا، میں نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ہزار سے زیادہ عدد بھی ہوتے ہیں۔

۹ھ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس وفد ثقیف کی آمد

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ثقیف کو چھوڑ کر چلے گئے تو آپ سے ان کے متعلق بددعا کرنے کو کہا گیا تو آپ نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی اور قبل ازیں یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ جب مالک بن عوف نضری نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اس پر نوازش فرمائی اور اسے اپنی قوم کے مسلمانوں کا امیر بنایا، پس وہ بلاد ثقیف سے جنگ کرنے لگا اور انہیں تنگ کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے انہیں اسلام میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور قبل ازیں ابوداؤد کی روایت کے مطابق جو اس نے صحز بن عیلہ احمسی سے بیان کی ہے بیان ہو چکا ہے کہ وہ مسلسل ثقیف سے برس پیکار رہا۔ یہاں تک کہ اس نے انہیں ان کے قلعے سے رسول اللہ ﷺ کے حکم پر اتار لیا اور انہیں رسول اللہ ﷺ کی اجازت کے مطابق مدینہ نبویہ میں لے آیا۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ رمضان میں تبوک سے مدینہ تشریف لائے اور اس ماہ میں ثقیف کا وفد آپ کی خدمت میں آیا اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ان کے پاس سے واپس آئے تو عروہ بن مسعود آپ کے پیچھے پیچھے آیا، یہاں تک کہ اس نے مدینہ پہنچنے سے قبل آپ کو پالیا اور اسلام لے آیا اور اس نے آپ سے عرض کی کہ وہ اسلام کے ساتھ اپنی قوم کی طرف واپس جانا چاہتا ہے، رسول کریم ﷺ نے اسے فرمایا۔ جیسا کہ اس کی قوم بیان کرتی ہے۔ ”وہ تجھے قتل کر دیں گے۔“

اور رسول کریم ﷺ کو معلوم تھا کہ ان میں نغوت پائی جاتی ہے عروہ نے کہا یا رسول اللہ میں انہیں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں اور وہ واقعی ان میں محبوب و مطاع تھا پس وہ اپنی قوم کو اس امید پر دعوت اسلام دینے گیا کہ اسے ان میں جو مقام حاصل ہے اس کی وجہ سے وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ پس جب وہ اپنے اشراف کے پاس گیا تو اس نے انہیں دعوت اسلام دی اور اپنے دین کا ان کے سامنے اظہار کیا تو انہوں نے ہر جانب سے اس پر تیر برسائے۔ پس ایک تیرا سے لگا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور بنو مالک نے خیال کیا کہ ان کے ایک آدمی نے جو بنی سالم بن مالک سے تھا اور جسے اوس بن عوف کہا جاتا ہے اس نے اسے قتل کیا ہے عروہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی اپنی دیت کے متعلق کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک کرامت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے اور شہادت ہے جسے اللہ میرے پاس لے آیا ہے پس قبل اس کے کہ رسول کریم ﷺ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں میرے بارے میں بھی وہی کرنا جو ان شہداء کے ساتھ کیا گیا ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مارے گئے ہیں مجھے ان کے ساتھ دفن کر دینا تو انہوں نے اسے ان کے ساتھ دفن کر دیا ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

”اس کی مثال اپنی قوم میں ایسی ہے جیسے صاحب الیمین کی اپنی قوم میں تھی۔“

اور موسیٰ بن عقبہ نے بھی اسی طرح عروہ کے واقعہ کو بیان کیا ہے لیکن اس کا خیال ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حج کے بعد کا واقعہ ہے اور اس بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہے اس کی متابعت کی ہے مگر یہ بعید ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حج سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ عروہ کے قتل کے بعد ثقیف کی ماہ تک ٹھہرے رہے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سمجھ لیا کہ وہ اپنے ارد گرد کے مسلمان اور منافع عربوں سے جنگ کرنے کی نکت نہیں رکھتے، پس انہوں نے بنی غلام کے بھائی عمرو بن امیہ کے مشورے کے مطابق اپنے باہمی معاملات کے بارے میں مشورہ کیا اور پھر اپنے میں سے ایک آدمی کے بھیجنے کے بارے میں متفق ہو گئے پس انہوں نے عبد یلیل بن عمیر کو احواف کے دو آدمیوں اور بنی مالک کے تین آدمیوں کے ساتھ بھیجا جن کے نام یہ ہیں الحکم بن عمرو بن وہب بن معتب، شرحبیل بن غیلان بن سلمہ بن معتب، عثمان بن ابوالعاص بنی سالم کا اوس بن عوف اور نمیر بن خرشہ بن ربیعہ۔

موسیٰ بن عقبہ بیان کرتا ہے کہ وہ دس بارہ آدمی تھے جن میں کنناہ عبد یلیل ان کا لیڈر تھا اور ان میں عثمان بن ابوالعاص بھی

شامل تھا جو وفد میں سب سے چھوٹا تھا۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جب وہ مدینہ کے نزدیک آئے تو قناتہ میں اترے اور انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اپنی باری پر رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی اونٹنیاں چراتے پایا، پس جب اس نے انہیں دیکھا تو وہ رسول کریم ﷺ کو ان کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے دوڑ کر گیا، پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے ملے تو اس نے آپ کو ثقیف کے قافلے کی آمد کی اطلاع دی اور کہا کہ اگر رسول کریم ﷺ ان کے لیے کچھ شرائط لازم کر دیں اور ان کی قوم کے متعلق کوئی تحریر لکھ دیں تو وہ بیعت کرنے اور اسلام

لانے کے لیے تیار ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منیرہ سے کہا، مجھ سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے پاس نہ جانا تا آنکہ میں آپ سے بیعت کروں، پس منیرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کر رسول کریم ﷺ کو ان کی آمد کی اطلاع دی، پھر منیرہ رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب کے پاس چلے گئے اور شام کو ان کے ساتھ اونٹوں کو بازے میں لائے اور انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو کیسے سلام کہتے ہیں، مگر انہوں نے جاہلیت کے سلام پر عمل کیا اور جب وہ رسول کریم ﷺ کے پاس آئے تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا اور حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ ان کے اور رسول کریم ﷺ کے درمیان آتے جاتے تھے۔ اور جب وہ ان کے پاس کھانا لے کر آئے تو جب تک حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے وہ کھانا نہ کھاتے وہ کھانا نہ کھاتے۔ اور انہی نے ان کے لیے تحریر لکھی، راوی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ پر جو شروط عائد کیں ان میں یہ شرط بھی تھی کہ آپ تین سال تک طاعیہ کو ان کے واسطے چھوڑ دیں اور وہ مسلسل آپ سے سال سال کے بارے میں سوال کرتے رہے اور آپ انکار کرتے رہے یہاں تک انہوں نے اپنے کم عقل لوگوں کو متالف کرنے کے لیے آپ سے اپنی آمد کے ایک ماہ بعد تک کا سوال کیا، لیکن آپ نے کسی نامزد چیز کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ہاں آپ ان کے ساتھ ابوسفیان بن حرب اور منیرہ کو بھیجیں گے تاکہ وہ دونوں اسے سمار کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے آپ سے یہ بھی دریافت کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے اور اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے سمار نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، رہی یہ بات آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو توڑیں تو اس سے ہم آپ کو معافی دیتے ہیں، اب رہا نماز کا معاملہ تو جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ انہوں نے کہا: اگرچہ یہ ایک کینٹکی ہے لیکن ہم اسے آپ کے لیے ادا کریں گے۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عفان نے بیان کیا، ہم جسے محمد بن مسلمہ نے عن حمید عن الحسن بن عثمان بن العاص بیان کیا کہ ثقیف کا وفد رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا تو آپ نے انہیں مسجد میں اتارا تاکہ وہ ان کے دلوں کو نرم کرنے کا باعث ہو۔ پس انہوں نے رسول کریم ﷺ پر شرائط عاید کیں کہ انہیں جنگ میں نہ لے جایا جائے اور نہ ان سے عشر اور ٹیکس لیا جائے اور نہ ان کے سوا کسی دوسرے آدمی کو ان پر عامل مقرر کیا جائے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، تم نہ جنگوں میں جاؤ نہ ٹیکس دو اور نہ ہی تمہارے سوا کوئی دوسرا تم پر عامل مقرر ہوگا، لیکن اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع نہیں۔

عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ مجھے قرآن سکھائیے اور مجھے میری قوم کا امام مقرر کر دیجیے۔ اسے ابوداؤد نے ابوداؤد طیالسی کی حدیث سے حماد بن مسلمہ سے بحوالہ حمید بیان کیا ہے اور ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حسن بن الصباح نے بیان کیا کہ ہم سے اسماعیل بن عبدالکریم نے بیان کیا کہ مجھ سے ابراہیم بن عقیل بن معقل بن منبہ نے بحوالہ وہب بیان کیا کہ جب میں نے بیعت کی تو میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ثقیف کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ پر شرائط عاید کی کہ ان پر صدقہ اور جہاد لازم نہ ہوگا، اور یہ کہ انہوں نے اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ:

”جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔“

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے اور آپ نے ان کے لیے حکم رکھی تو عثمان بن ابوالعاص کو ان کا امیر مقرر کیا۔ اور وہ ان سب سے نو عمر تھا۔ اس لیے کہ حضرت صدیق جنہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے اس نوجوان کو اسلام کے سمجھنے اور قرآن کے سیکھنے میں ان سب سے زیادہ حریص پایا ہے۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ہے کہ ان کا وفد جب رسول کریم ﷺ کے پاس آتا تو وہ عثمان بن ابوالعاص کو اپنی قیامگاہوں میں چھوڑ آتے اور جب وہ دو پہر کو واپس جاتے تو وہ رسول کریم ﷺ کے پاس آ جاتا اور آپ سے علم کے متعلق دریافت کرتا اور قرآن پڑھتا اور اگر وہ آپ کو سوائے ہوئے پاتا تو حضرت ابو بکر جنہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جاتا اور مسلسل اس کی یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ وہ اسلام کے بارے میں سمجھ دار ہو گیا اور رسول کریم ﷺ اس سے بہت محبت رکھتے تھے۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھ سے سعید بن ابی ہند نے بحوالہ مطرف بن عبد اللہ بن شحیر، عثمان بن ابی العاص جنہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ نے مجھے ثقیف کی طرف بھیجا تو آخری وصیت یہ فرمائی:

”اے عثمان! نماز میں اختصار کرنا اور لوگوں کا اندازہ ان کے کمزور سے لگانا، کیونکہ ان میں بڑے چھوٹے، کمزور اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔“

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عفان نے بیان کیا، ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا کہ ہمیں سعید الجریری نے عن ابی العاص مطرف بن عثمان بن ابوالعاص جنہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اپنی قوم کا امام مقرر فرما دیجیے آپ نے فرمایا:

”تو ان کا امام ہے پس ان کے کمزور کی اقتداء کر اور ایسے شخص کو مقرر کر جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے۔“

اسے ابو داؤد اور ترمذی نے حماد بن سلمہ کی حدیث سے بیان کیا ہے اور ابن ماجہ نے اسے عن ابی بکر بن ابی شیبہ عن اسماعیل بن علیہ عن محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور احمد نے عن عفان عن وہب عن معاویہ بن عمرو عن زائدہ روایت کی ہے ان دونوں نے عن عبد اللہ بن عثمان بن شہم عن داؤد ابن ابی عاصم عن عثمان بن العاص سے بیان کیا ہے کہ جب رسول کریم ﷺ نے اسے طائف پر عامل مقرر کیا تو علیحدگی کے وقت آخر میں یہ وصیت فرمائی کہ:

”جب تو لوگوں کو نماز پڑھائے تو ان کو ملکی نماز پڑھا یہاں تک کہ آپ نے ﴿اقرا باسم ربک الذی خلق﴾ اور قرآن کی اس جیسی سورتوں کو میرے لیے مقرر فرما دیا۔“

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے عن عمرو بن مرہ بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب کو سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن ابی العاص جنہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ:

”جب تو لوگوں کی امامت کرے تو ان کو ملکی نماز پڑھا۔“

اور مسلم نے اسے محمد بن شہی اور بندار سے روایت کیا ہے اور یہ دونوں محمد بن جعفر سے اور وہ عبد اللہ سے روایت کرتا ہے اور امام احمد

بیان کرتے ہیں کہ ابو احمد زبیری نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن عبدالرحمن بن یحییٰ الطائفی نے بحوالہ عبداللہ بن الحکم بیان کیا کہ اس نے عثمان بن ابوالعاص کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے طائف پر عامل مقرر کیا اور آپ نے مجھے آخری وصیت یہ فرمائی کہ:

”لوگوں کو ہلکی نماز پڑھانا۔“

اس طریق سے یہ منفرد ہے اور احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ ہمیں عمرو بن عثمان نے بتایا کہ مجھ سے موسیٰ یعنی ابن طلحہ نے بیان کیا کہ عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کی امامت کرے۔ پھر فرمایا:

”جو لوگوں کی امامت کرے وہ انہیں ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں کمزور بڑے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں اور جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو جس طرح چاہے نماز پڑھے۔“

اسے مسلم نے عمرو بن عثمان کی حدیث سے بیان کیا ہے اور احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے ہم سے بیان کیا کہ شعبہ نے ہم سے بحوالہ نعمان بن سالم بیان کیا کہ میں نے ثقیف کے شیوخ کو کہتے سنا کہ ہم سے عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

”اپنی قوم کی امامت کر اور جب تو لوگوں کی امامت کرے تو ان کو ہلکی نماز پڑھا، کیونکہ نماز میں چھوٹے بڑے کمزور مریض اور ضرورت مند سبھی موجود ہوتے ہیں۔“

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن اسماعیل نے بحوالہ الجریری ابو العلاء بن شحیر سے بیان کیا کہ عثمان نے کہا کہ: ”یا رسول اللہ شیطان میری نماز اور قرأت کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔“ آپ نے فرمایا اس شیطان کو خنزب کہتے ہیں پس جب تو اسے محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ اور اپنی بائیں طرف تین بار تھوک دے عثمان بیان کرتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ مسلم نے اسے سعید الجریری کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور مالک احمد مسلم اور اہل سنن نے تافع بن جبیر بن مطعم سے بحوالہ عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ کئی طرق سے بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے جسم کے درد کے متعلق رسول اللہ ﷺ کے پاس شکایت کی۔

درد کے ازالہ کی دعا:

آپ نے فرمایا تمہارے جسم کے جس حصے میں درد ہوتا ہے اس پر اپنا ہاتھ رکھو اور تین بار بسم اللہ پڑھو اور سات بار کہو:

اعوذ بعزة الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر.

”میں جو تکلیف محسوس کرتا ہوں اور جس سے خائف ہوں اس کے شر سے میں اللہ تعالیٰ کی عزت و قدرت کی پناہ چاہتا

ہوں۔“

اور بعض روایات میں ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور فرمادی اور میں ہمیشہ ہی اپنے اہل اور دوسرے

لوگوں کو اس کے پڑھنے کا حکم دیتا رہا۔

ابو عبد اللہ بن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن یسار نے ہم سے بیان کیا، محمد بن عبد اللہ انصاری نے ہم سے بیان کیا کہ مجھے عیینہ بن عبد الرحمن نے جسے ابن جوشن کہتے ہیں۔ بتایا کہ میرے باپ نے مجھ سے بحوالہ عثمان بن ابوالعاص بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ

جب مجھے رسول اللہ ﷺ نے طائف کا عامل مقرر کیا تو میری نماز میں مجھے کچھ خیالات آنے لگے، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی معلوم نہ رہتا کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے، پس جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس چلا گیا، تو آپ نے فرمایا، ابن ابوالعاص میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا کس تکلیف کی وجہ سے آئے ہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نماز میں مجھے ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، قریب ہو جاؤ، میں آپ کے قریب ہو گیا اور اپنے پاؤں کے بل بیٹھ گیا تو آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور میرے منہ پر تھوکا اور فرمایا، اللہ کے دشمن نکل جا، آپ نے یہ کام تین بار کیا، پھر فرمایا اپنے کام پر چلے جاؤ، راوی بیان کرتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میری زندگی کی قسم، میرے خیال میں وہ مجھ بعد میں نہیں ملا، ابن ماجہ اس بیان میں متفرد ہیں، ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھ سے عیسیٰ بن عبد اللہ نے عطیہ بن سفیان بن ربیعہ ثقفی سے بحوالہ وفد کے ایک ممبر کے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہو گئے اور رمضان کے بقیہ ایام میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روزے رکھنے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمارے ہماری سحری اور افطاری لے کر ہمارے پاس آتے، پس جب وہ سحری لاتے، تو ہم کہتے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو تاخیر سے سحری کھاتے چھوڑا ہے اور جب وہ ہماری افطاری لاتے تو ہم کہتے ابھی سارا سورج غروب نہیں ہوا تو وہ فرماتے میں اس وقت تمہارے پاس آیا ہوں جب رسول اللہ ﷺ نے کھانا شروع کر دیا تھا پھر آپ پیالے میں اپنا ہاتھ رکھتے اور اس سے لقمے لیتے۔

اور امام احمد، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے عبد اللہ بن عبد الرحمن بن یعلیٰ الطائفی کی حدیث سے بحوالہ عثمان بن عبد اللہ بن اوس اس کے دادا اوس بن حذیفہ سے بیان کیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ہم وفد ثقیف میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے اور احلاف، مغیرہ بن شعبہ کے ہاں اترے اور بنی مالک کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے خیمہ میں اتارا اور ہر شب عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ہم سے باتیں کرتے یہاں تک کہ طول قیام سے باری باری اپنے پاؤں پر آرام کرتے اور آپ اکثر ان تکالیف کو بیان فرماتے جو آپ کو اپنی قوم قریش سے پہنچی تھیں پھر فرماتے:

”مجھے افسوس نہیں، ہم مکہ میں کمزور و ناتواں تھے اور جب ہم مدینہ چلے گئے تو ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا پانسا پلٹتا رہتا تھا، ہم ان پر غالب آجاتے اور وہ ہم پر غالب آجاتے۔“

ایک شب جس وقت آپ ہمارے پاس آیا کرتے تھے اس وقت سے دیر کے ساتھ آئے، ہم نے عرض کیا آج شب آپ نے دیر کر دی ہے۔ فرمایا قرآن کریم کا ایک حصہ اچانک میرے سامنے آ گیا اور میں نے اسے مکمل کیے بغیر آنا پسند نہ کیا۔

اوس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے دریافت کیا کہ وہ قرآن کے حصے کیسے کرتے تھے، وہ کہنے لگے تین پانچ سات نو، کیارہ تیرہ، اکیلا حزب المنصل یہ الفاظ ابوداؤد نے ہیں۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور اپنے علاقے کو واپس آنے لگے تو رسول اللہ ﷺ نے ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ طاغیہ کے سمار کرنے کے لیے بھیجا، پس وہ دونوں ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے اور جب طائف پہنچ گئے تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان کو آگے کرنا چاہا، مگر ابوسفیان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ابوسفیان اپنے مال کے ساتھ ذوالہرم میں ٹھہر گیا، پس جب مغیرہ رضی اللہ عنہ آ کر اس کے اوپر سے اسے کدال سے توڑنے لگے تو ان کی قوم بنی معتب اس خدشے کے پیش نظر ان کی حفاظت میں کھڑی ہو گئی کہ کہیں انہیں عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح تیر نہ مارا جائے یا انہیں گزند نہ پہنچایا جائے، راوی بیان کرتا ہے کہ ثقیف کی عورتیں برہنہ سر اس پر روتی ہوئی باہر نکلیں اور کہنے لگیں۔

”ہم دفاع میں روئیں گی اسے کینوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور اچھی ضرب نہیں لگائی۔“

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ ابونہیمان کہتے ہیں کہ مغیرہؓ اسے کلہاڑے سے مارتے اور کہتے تھے پر افسوس ہے اور جب مغیرہؓ نے اسے سمار کر دیا اور اس کا مال اور زیورات لے لیے تو ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم طاغیہ کے مال سے عروہ بن مسعود اور اس کے بھائی اسود بن مسعود اور قارب بن اسود کا قرض ادا کریں گے، یہ ان دونوں کی ادائیگی کر دے گا۔

میں کہتا ہوں کہ اسود مشرک ہونے کی حالت میں مر گیا تھا لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کے بیٹے قارب بن اسود رضی اللہ عنہ کے اکرام و تالیف کے لیے یہ حکم دیا تھا۔

اور موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ہے کہ ثقیف کا وفد س بارہ آدمیوں پر مشتمل تھا، پس جب وہ آئے تو رسول کریم ﷺ نے انہیں مسجد میں اتارا، تاکہ وہ قرآن سنیں، انہوں نے آپ سے سوڈنا اور شراب کے متعلق پوچھا تو آپ نے ان سب چیزوں کو ان پر حرام قرار دیا پھر انہوں نے آپ سے لات کے متعلق پوچھا کہ آپ اس سے کیا سلوک کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا اسے سمار کر دو، وہ کہنے لگے اگر لات کو علم ہو جائے کہ آپ اسے سمار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ طائف کے باشندوں کو تباہ کر دے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عبد یلیل تیرا برابر ہو تو کس قدر جاہل آدمی ہے، لات ایک پتھر ہے، وہ کہنے لگے اے ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہم آپ کے پاس نہیں آئے، پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ آپ اسے سمار کرنے کی ذمہ داری لیں، ہم تو اسے کبھی سمار نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس آدنی بھیجوں گا جو اس کے سمار کرنے سے ان کی کفایت کریں گے، پس انہوں نے اس بارے میں آپ سے خط و کتابت کی اور آپ سے اجازت طلب کی کہ آپ اپنے ایلچیوں کو ان کے پاس بھیجیں اور جب وہ اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پیچھے کیا ہے تو انہوں نے اظہار غم کیا، اور یہ کہ وہ ایک سخت کلام آدمی کے پاس سے آئے ہیں جو تمہارے ساتھ غالب آ گیا ہے اور وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور اس نے عربوں کو عاجز کر دیا

ہے اور اس نے سوڈرنا اور شراب کو حرام کر دیا ہے اور لات کے سمار کرنے کا حکم دے دیا ہے پس ثقیف بدگئے اور نہنے لگے ہم کبھی اس بات کو نہیں مانیں گے اس نے کہا جنگ کی تیاری کرو اور ہتھیار فراہم کرو پس وہ اس کیفیت میں دو یا تین دن رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تو انہوں نے رجوع و انابت اختیار کرنی۔ اور کہنے لگے اس کے پاس واپس جا کر اس پر اس سے مشارطت و مصالحت کر لو۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسا کر لیا ہے۔ اور تم نے اسے سب لوگوں سے زیادہ متقی و فادازرجم اور صادق پایا ہے۔ اور ہم نے جو اس کی طرف سفر کیا ہے اور اس سے جو فیصلے کیے ہیں اس میں ہمارے اور تمہارے لیے برکت دی گئی ہے پس تم معاملے کو سمجھو اور اللہ کی عافیت کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا تم نے یہ بات ہم سے پہلے کیوں پوشیدہ رکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا تم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے شیطانی نخوت نکال دے پس وہ اپنی جگہوں پر مسلمان ہو گئے اور کئی روز تک ٹھہرے رہے پھر رسول اللہ ﷺ کے ایلچی ان کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کو ان کا امیر بنایا اور ان میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے پس وہ لات کے پاس گئے اور ثقیف اپنے کافی مردوں، عورتوں اور بچوں کو لے آئے یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں پردوں سے باہر آگئیں اور ثقیف کے عوام یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ اسے سمار کر دیا جائے گا ان کا خیال تھا کہ یہ محفوظ رہے گا حضرت معمر بن شعبہ رضی اللہ عنہما نے کدال لی اور اپنے اصحاب سے کہا خدا کی قسم میں تمہیں ثقیف کے بارے میں ہنساؤں گا۔ پس آپ نے کدال ماری اور پھر گر کر اپنے پاؤں مارنے لگے تو اہل طائف نے ایک نعرہ مارا اور خوش ہو کر کہنے لگے اللہ مغیرہ رضی اللہ عنہما کو ہلاک کرے لات نے اسے قتل کر دیا ہے اور ان لوگوں سے کہنے لگے جو تم میں سے نزدیک جانا چاہتا ہے وہ نزدیک چلا جائے پس حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہما کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے قوم ثقیف یہ پتھر اور مٹی کا ایک پتھر ہے پس اللہ کی عافیت کو قبول کرو اور اس کی عبادت کرو پھر انہوں نے کدال مار کر دروازہ توڑ دیا پھر اس کی دیواروں پر چڑھ گئے اور ان کے ساتھ لوگ بھی چڑھ گئے اور وہ مسلسل اس کے ایک ایک پتھر کو سمار کر کے لے آئے یہاں تک کہ انہوں نے اسے زمین کے برابر کر دیا اور اس کا خادم کہنے لگا بنیاد غضبناک ہو کر ان کو دھنسا دے گی جب مغیرہ رضی اللہ عنہما نے یہ بات سنی تو حضرت خالد رضی اللہ عنہما سے کہنے لگے:

چھوڑیے میں اس کی بنیاد کھودتا ہوں پس انہوں نے بنیاد کو کھودا اور اس کی مٹی نکال دی اور اس کی بناء اور پانی کو اکٹھا کر دیا اس موقع پر ثقیف حیران رہ گئے پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آ گئے تو آپ نے اسی روز اس کے اموال کو تقسیم کر دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے اعتراف اور اس کے رسول کی نصرت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں جو تخریر لکھ کر دی تھی وہ یہ تھی:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد نبی رسول اللہ ﷺ کی جانب سے مومنین کی جانب:

”طائف کے شکار اور کانٹے دار درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا جو ایسا کرتا ہوا پایا گیا اسے کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے اور اگر کوئی اس سے تجاویز کرے گا تو اسے پکڑ کر محمد ﷺ کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور یہ محمد نبی ﷺ کا حکم ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کے حکم سے خالد بن سعید نے محمد بن عبداللہ لکھا، پس کوئی اس سے تجاوز نہ کرے اور حضرت محمد نبی ﷺ نے جو حکم دیا ہے اس سے تجاوز کرنے والا اپنے آپ ظلم کرے گا۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن الحارث مخزومی مکی نے ہم سے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن عبداللہ بن انسان نے اپنے باپ سے بحوالہ عروہ بن مسعود بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ:

ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ لیہ^۱ سے آئے اور جب ہم سدرہ کے قریب آئے تو رسول کریم ﷺ قرن کی طرف اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے جس وادی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا:

”طائف کا شکار اور اس کے کانٹے دار درخت اللہ کا حرام کیا ہوا حرام ہے۔“

اور یہ طائف میں آپ کے نزول اور ثقیف کے محاصرے سے قبل کی بات ہے، ابوداؤد نے اسے محمد بن عبداللہ بن انسان الطائفی کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے اپنے ثقات میں بیان کیا ہے اور ابن معین نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور بعض نے اس کے متعلق اعتراضات کیے ہیں اور احمد اور بخاری وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور شافعی نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور اس کے مقتضی کے مطابق بات کی ہے۔ واللہ اعلم

عبداللہ بن ابی کی وفات:

محمد بن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھ سے زہری نے عروہ سے بحوالہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اس مرض میں عبداللہ بن ابی کی عیادت کے لیے گئے، جس میں اس کی وفات ہوئی، جب آپ نے اس میں موت کے آثار کو دیکھا تو فرمایا:

”خدا کی قسم میں تمہیں یہود کی محبت سے روکا کرتا تھا۔“ تو وہ کہنے لگا: سعد بن زرارہ نے ان سے نفرت کی ہے پس بس کیجیے۔

اور واقدی بیان کرتا ہے کہ شوال کی چند راتیں باقی تھیں کہ عبداللہ بن ابی بیمار ہو گیا اور ذویقعدہ میں مر گیا۔ وہ بیس دن بیمار رہا اور اس دوران میں رسول اللہ ﷺ اس کی عیادت کرتے رہے جس روز اس کی وفات ہوئی اس روز آپ اس کے پاس گئے اور وہ جاگنی کی حالت میں تھا، آپ نے فرمایا: ”میں نے تمہیں یہود کی محبت سے روکا تھا۔“ تو وہ کہنے لگا: سعد بن زرارہ نے ان سے نفرت کی تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ یہ عتاب کا وقت نہیں، یہ موت ہے۔ میرے غسل کا پانی لائیے اور مجھے اپنی وہ قمیص عطا فرمائیے جو آپ کی جلد کے ساتھ ہے اور اس میں مجھے کفن دیجیے اور میری نماز جنازہ پڑھیے اور میرے لیے بخشش طلب کیجیے، تو رسول اللہ ﷺ نے ایسے ہی کیا۔

اور بیہقی نے سالم بن عجلان کی حدیث سے عن سعید بن جبیر عن ابن عباس و واقدی کی طرح ہی بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

اور اسحاق بن راہویہ کا بیان ہے کہ میں نے ابواسامہ سے کہا میں تمہارے پاس عبید اللہ بن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتا ہوں

① طائف کے نواح میں ایک بستی ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن ابی ابن سلول فوت ہوا تو اس کا بیٹا عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی قمیص دیں تاکہ میں اسے اس میں لٹھن دوں تو آپ نے اسے قمیص عطا کی پھر اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے پس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا 'میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے:

”چاہے تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ اگر تو ان کے لیے ستر بار بخشش مانگے تو اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا“ اور میں ستر سے زیادہ بار مانگ لوں گا“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا 'وہ منافق ہے کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے' تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

”جو ان میں سے مر جائے اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھ اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہوا نہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے۔“

اور ابواسامہ نے اس کا اقرار کیا اور کہا: ہاں!

اور بخاری اور مسلم نے صحیحین میں اسے ابواسامہ کی حدیث سے بیان کیا ہے اور بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حالانکہ اس نے فلاں فلاں دن یہ باتیں کی تھیں۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑیے مجھے دو اختیار دیئے گئے ہیں اور اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ میرے ستر بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی بخشش ہوتی ہے تو میں زیادہ استغفار کر لیتا پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

”ان میں سے جو مر جائے اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھ اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اپنی جرأت پر حیرت ہوئی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

اور سفیان بن عیینہ، عمرو بن دینار سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبد اللہ کو کہتے سنا کہ:

عبد اللہ بن ابی کو قبر میں داخل کر دینے کے بعد رسول اللہ ﷺ اس کی قبر پر آئے پس آپ کے حکم سے اسے نکالا گیا تو آپ نے اسے اپنے دونوں گھٹنوں یا رانوں پر رکھا اور اس پر اپنا لعاب دہن پھینکا اور اپنی قمیص اسے پہنائی۔ واللہ اعلم اور صحیح بخاری میں اسی اسناد سے اس قسم کی بات بیان ہو چکی ہے اور امام بخاری کے نزدیک آپ نے اسے اپنی قمیص اس بات کے بدلے میں پہنائی تھی کہ اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس وقت قمیص پہنائی تھی جب وہ مدینہ آئے تھے اور انہیں عبد اللہ بن ابی کی قمیص کے سوا اور کوئی قمیص نہ آئی تھی۔ اور بیہقی نے اس موقع پر ثعلبہ بن حاطب کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ کثرت مال سے فتنہ میں پڑ گیا اور اس نے صدقہ روک لیا اور ہم نے اس واقعہ کو آیت: ﴿مَنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَنْ اَتٰنَا مِنْ فِضْلِهِ﴾ کی تفسیر میں تحریر کیا ہے۔

انصار کی مدح میں حضرت حسانؓ کے اشعار

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جنگ تبوک آخری جنگ تھی جو رسول اللہ ﷺ نے لڑی اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ انصار کے ایام کو شمار کرتے ہوئے اور غزوہ کے ایام میں آپ کے ساتھ ان کے مواطن کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن بن احسان کے لیے روایت کی ہے کہ۔

”کیا آپ قوم کے لحاظ سے معد کے بہترین آدمی نہیں خواہ وہ عمامہ باندھیں یا اکٹھے ہوں، وہ ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بدر میں حاضر ہوئے۔ پس نہ انہوں نے کوئی کوتاہی کی اور نہ آپ کو چھوڑا اور انہوں نے آپ کی بیعت کی اور ان میں سے کسی نے بیعت کو نہیں توڑا اور نہ ان کے ایمان میں کوئی نفاق تھا اور احد کے روز جب انہیں صبح گھاٹی میں سخت شمشیر زنی لے آئی جو آگ کی طرح روشن تھی اور ذی قرد کے روز جب آپ نے انہیں گھوڑوں پر دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دی تو نہ انہوں نے خیانت کی اور نہ بز دلی دکھائی اور ذوالعشیرہ کو وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ان میں گھس گئے، جن پر نیزے اور تلواریں تھیں۔ اور ودان کے روز انہوں نے گھوڑوں کے رقص کے ساتھ وہاں کے باشندوں کو جلاوطن کر دیا یہاں تک کہ سخت زمین اور پہاڑ نے ہمیں روکا اور کتنی ہی راتوں کو انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے دشمنوں کو تلاش کیا اور اللہ ان سے عمل کی انہیں جزا دے گا۔ اور حنین کی شب انہوں نے آپ کے ساتھ شمشیر زنی کی۔ اور جنگ میں جب وہ ایک بار سیراب ہوتے تھے تو آپ انہیں دوبارہ سیراب کرتے تھے۔ اور نجد کی جنگ کے روز انہیں رسول کریم ﷺ کے ساتھ سامان اور غنیمت ملی۔ اور غزوہ القاع میں ہم نے دشمن کو ایسے منتشر کر دیا جیسے گھاٹ سے گھوڑے منتشر کیے جاتے ہیں۔ اور جس روز آپ کی بیعت ہوئی تو وہ اونٹنیوں پر آپ کی بیعت میں شامل تھے اور فتح کے روز وہ آپ کی فوج میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ پس نہ انہوں نے ہلکے پن کا اظہار کیا اور نہ جلد بازی سے کام لیا اور خیبر کے روز وہ آپ کی فوج میں رواں دواں تھے اور وہ سب جانناز اور بہادر تھے، ہم بے ہتھیار ہونے کی وجہ سے ان تلواروں سے لرزہ بر اندام تھے جو کبھی چوٹ لگا کر ٹیڑھا کر دیتی ہیں اور کبھی سیدھا کر دیتی ہیں۔ اور جب رسول کریم ﷺ احتساب کے لیے تبوک کی طرف گئے تو وہ آپ کے اولین علمبردار تھے اور اگر جنگ ان کو منتشر کر دے تو وہ جنگ کا انتظام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے قرب نمایاں ہو جاتا ہے اور وہ لوٹ آتے ہیں، وہ لوگ حضرت نبی کریم ﷺ کے انصار ہیں اور وہ میری قوم ہیں جب میں ان سے ربط کروں گا تو ان کے پاس جاؤں گا، وہ کریم ہونے کی حالت میں فوت ہوئے اور انہوں نے اپنے عہد کو نہ توڑا اور وہ جب قتل ہوئے تو اللہ کی راہ میں ہی قتل ہوئے۔“

۹ھ میں رسول اللہ ﷺ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجنا

اور سورۃ برآة کا نزول

ابن اسحاق رمضان میں رسول اللہ ﷺ کے پاس اہل طائف کے وفد کے ذکر کے بعد بیان کرتا ہے جیسا کہ پہلے مفصل بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے بقیہ مہینے شوال اور ذوالقعدہ میں ٹھہرے رہے پھر آپؐ نے ۹ھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تا کہ مسلمانوں کو ان کا حج ادا کرائیں اور مشرکین بھی اپنے حج کی منازل پر تھے اور ابھی انہیں بیت اللہ سے روکا نہیں گیا تھا اور ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا موقت عہد تھا۔ پس جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی یہ آیتیں نازل فرمائیں:

”اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں اظہار برأت ہے جن کے ساتھ مشرکین میں سے تم نے معاہدہ کیا ہے پس تم چار ماہ تک زمین میں پھرو اور حج اکبر کے روز اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے بیزار ہیں۔“

پھر ابن اسحاق نے ان آیات کے بارے میں گفتگو کی ہے اور ہم نے تفسیر میں اسے بفضل خدا مفصل طور پر بیان کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تا کہ آپ ان کے ساتھ ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کی نیابت میں مشرکین تک اعلان برأت کے پہنچانے کی ذمہ داری لے لی۔ کیونکہ آپ حضور ﷺ کے عصبہ میں سے آپ کے عزا اہل تھے۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھ سے حکیم بن حکیم بن عباد بن حنیف نے ابو جعفر بن محمد بن علی سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ جب سورۃ برآة رسول کریم ﷺ پر نازل ہوئی اس وقت آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو حج کروانے کے لیے بھیج چکے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ کاش آپ اس کام کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیتے آپ نے فرمایا یہ کام میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کرے گا پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا:

”سورۃ برآة کے پہلے واقعہ کو لے جائیے اور جب لوگ قربانی کے روز منیٰ میں جمع ہوں تو ان میں اعلان کر دیجیے کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہ ہوگا اور اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کر سکے گا اور نہ کوئی برہنہ آدمی بیت اللہ کا طواف کرے گا اور جس کا اللہ کے رسول کے پاس کوئی عہد ہو تو وہ عہد اس کی مدت تک اس سے قائم رہے گا۔“

پس حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ کی ناقہ عضاء پر سوار ہو کر نکلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا ملے اور جب حضرت ابو بکر

عین میں نے آپ کو دیکھا تو پوچھا آپ امیر ہیں یا امیر انہوں نے جواب دیا امیر ہوں، پھر دونوں روانہ ہوئے اور حضرت ابو بکرؓ نے لوگوں کو حج کروایا اور سب اس سال اپنی حج کی امن-منزل پر تھے جس پر وہ جاہلیت میں ہوا کرتے تھے۔ تا آنکہ قربانی کا دن آگیا تو حضرت علیؓ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیا جس کا رسول کریم ﷺ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ اور آپ نے جس روزان میں اعلان کیا اس سے چار ماہ کی مدت مقرر کی تاکہ ہر قوم اپنے مامن اور علاقے میں واپس پس جائے پھر کسی مشرک کے ساتھ کوئی عہد و پیمانہ نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس کا رسول کریم ﷺ کے ساتھ کوئی عہد ہوگا تو وہ اس کی مدت تک اس کے ساتھ رہے گا، پس اس سال کے بعد کسی مشرک نے حج نہ کیا اور نہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔

پھر دونوں حضرت رسول کریم ﷺ کے پاس آگئے۔ اور یہ حدیث اس طریق سے مرسل ہے اور امام بخاری نے ۹ھ میں حضرت ابو بکرؓ کے لوگوں کو حج کروانے کے باب میں بیان کیا ہے کہ سلیمان بن داؤد ابو الریح نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے فلح نے زہری سے بحوالہ حمید بن عبدالرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ:

”جس حج میں نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو امیر حج مقرر کیا تھا اس میں آپ کو ایک جماعت کے ساتھ آپ نے لوگوں میں اعلان کرنے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔“

اور ایک دوسرے مقام پر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ ہمیں لیث نے بتایا کہ مجھ سے عقیل نے بحوالہ ابن شہاب بیان کیا کہ مجھے حمید بن عبدالرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ:

”اس حج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اعلان کرنے والوں میں بھیجا، آپ نے انہیں قربانی کے روز بھیجا، اور وہ منیٰ میں اعلان کرتے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔“

حمید بیان کرتے ہیں پھر حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت علیؓ کو پیچھے بھیجا اور انہیں سورۃ براءۃ کے اعلان کرنے کا حکم دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ہمارے ساتھ منیٰ میں قربانی کے روز لوگوں میں سورۃ براءۃ کا اعلان کیا اور یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔

اور امام بخاری کتاب الجہاد میں بیان کرتے ہیں کہ ابو الیمان نے ہم سے بیان کیا، ہمیں شعیب نے زہری سے اطلاع دی کہ حمید بن عبدالرحمن نے مجھے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ:

حضرت ابو بکرؓ نے قربانی کے روز مجھے اعلان کرنے والوں میں بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ اور حج اکبر کا دن، قربانی کا دن ہوتا ہے اور اسے اکبر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ لوگ عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں، پس حضرت ابو بکرؓ اس سال لوگوں کے پاس گئے اور جس سال رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کیا اس سال کسی مشرک نے حج نہیں کیا، اور مسلم نے زہری کے طریق سے ایسے ہی روایت کی ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے عن مغیرہ عن الشعبي عن حمز بن ابی ہریرہ

عن ابیہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت علیؓ کو بھیجا تو میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھا راوی نے پوچھا آپ کیا اعلان کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اعلان کرتے تھے کہ مومن کے سوا کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا اور نہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا اور جس شخص کا رسول اللہ ﷺ سے کوئی عہد ہے تو اس کی مدت چار ماہ ہے۔ اور جب چار ماہ گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، مشرکین سے بری ہوں گے اور اس سال کے بعد کوئی مشرک اس گھر کا حج نہ کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ اعلان کرتے کرتے میری آواز بیٹھ گئی۔ اور یہ جید اسناد ہے، لیکن اس میں راوی کے قول کی جہت سے نکارت پائی جاتی ہے کہ جس کا کوئی عہد ہے اس کی مدت چار ماہ ہے، کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جس کا کوئی عہد ہے اس کی مدت اس کی میعاد تک ہے، خواہ وہ چار ماہ سے زائد ہو اور جس کی کھیت کوئی معیاد نہ ہو اسے چار ماہ کی مہلت ہے، باقی رہ گئی تیسری قسم اور وہ یہ کہ جس کی مدت، مہلت کے روز سے چار ماہ سے کم عرصے میں ختم ہو جاتی ہو تو اس کے متعلق احتمال ہے کہ اسے پہلی قسم میں شامل کیا جائے گا اور اس کی مہلت اس کی مدت تک ہوئی، خواہ وہ کم ہی ہو۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ اسے چار ماہ کی مہلت دے دی جائے کیونکہ یہ ان لوگوں سے اولیٰ ہے جن کا کھیت کوئی عہد ہی نہیں ہے۔ واللہ اعلم

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عفان نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بحوالہ سماک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سورۃ براءۃ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا پس جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے فرمایا:

”اسے میرے یا میرے اہل بیت کے ایک آدمی کے سوا اور کوئی نہیں پہنچا سکے گا۔“

پس آپ نے اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا اور اسے ترمذی نے حماد بن سلمہ کی حدیث سے بیان کیا ہے اور اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مقابلہ میں حسن غریب کہا ہے۔ اور عبد اللہ بن احمد نے عن لوین عن محمد بن جابر عن سماک عن جلس عن علی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھیجا تو انہوں نے حنفہ میں آپ سے تحریر لے لی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یا آپ کا کوئی تعلق دار پہنچاے گا، یہ حدیث ضعیف الاسناد ہے اور اس کے متن میں نکارت پائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے سفیان نے بحوالہ ابواسحاق زید بن شیبہ سے جو ہمدان کا ایک آدمی ہے۔ بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جس روز رسول کریم ﷺ نے آپ کو حج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا تھا کیا بات دے کر بھیجا تھا؟ آپ نے جواب دیا چار باتوں کے ساتھ بھیجا تھا، جنت میں مومن کے سوا کوئی شخص داخل نہ ہوگا، اور نہ کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف کرے گا، اور جس کا اور رسول کریم ﷺ کا کوئی عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک برقرار رہے گا، اور اس سال کے بعد مشرکین حج نہیں کریں گے۔ اور ترمذی نے اس حدیث کو سفیان کی حدیث سے بروایت ابواسحاق السبعمی عن زید بن شیبہ عن علی ایسے ہی بیان کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ پھر بیان کیا ہے کہ اسے شعبہ نے ابواسحاق سے بیان کیا ہے اور زید کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ابن اشیل ہے اور ثوری نے اسے ابواسحاق سے اس کے بعض اصحاب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا

ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن جریر نے اسے عمر کی حدیث سے من ابو اسحاق من الحارث عن ثنی روایت کیا ہے ابن جریر بیان کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن اخطم نے ہم سے بیان کیا کہ میں ابو زرعہ وہب اللہ بن راشد نے خبر دی کہ میں حیوۃ بن شریح نے بتایا کہ میں ابن صحب نے بتایا کہ اس نے ابو معاویہ السجلی کو بیان کرتے تھے کہ میں نے ابوالصہباء البہری کو بیان کرتے سنا کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب سے حج اکبر کے دن کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر بن قحافہ سے پوچھا کہ لوگوں کو حج کروانے کے لیے بھیجا تھا اور مجھے آپ نے ان کے ساتھ سورہ برآة کی چالیس آیات دے کر بھیجا یہاں تک کہ آپ عرفہ آگئے اور آپ نے عرفہ کے لوگوں کو خطاب کیا جب آپ خطاب کر چکے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

اے علی کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ کا پیغام پہنچاؤ پس میں کھڑا ہو گیا اور میں نے انہیں سورۃ برأت کی چالیس آیات سنائیں پھر ہم لوٹ آئے اور منیٰ میں آگئے اور میں نے رمی جمار کیا اور اونٹ کو ذبح کیا پھر میں نے اپنا سر منڈایا اور مجھے معلوم ہوا کہ عرفہ کے روز تمام لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خطبہ میں حاضر نہ تھے پس میں ان کے خیموں میں انہیں تلاش کر کے انہیں آیات سنانے لگا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم نے اسے قربانی کا دن خیال کیا ہے۔ آگاہ رہو وہ یوم عرفہ تھا۔ اور ہم نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر طویل کلام کیا ہے اور اس بارے میں مفصل طور پر آثار و احادیث کی اسانید کو بیان کیا ہے۔ جو خدا کے فضل سے کفایت کرنے والا ہے۔

واقدی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ سے تین سو صحابہ رضی اللہ عنہم نکلے تھے جن میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم بھی تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ پانچ اونٹ لے گئے اور رسول کریم رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ بیس اونٹ بھیجے پھر ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور وہ العرج مقام پر آپ کے ساتھ جا ملے اور انہوں نے مکہ میں حاجیوں کے جمع ہونے کے وقت سورۃ برأت کا اعلان کیا۔



باب ۶

اور اسی سال یعنی ۹ھ میں ہونے والے واقعات میں سے ایک غزوہ تبوک ہے جو رجب میں ہوا جیسا کہ قبل ازیں اس کا حال بیان ہو چکا ہے۔ واقعہ کا بیان ہے کہ رجب میں ہی شاہ حبشہ نجاشی کی وفات ہوئی اور رسول کریم ﷺ نے لوگوں کو اس کی موت کی خبر دی اور اسی سال کے شعبان میں رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے وفات پائی جنہیں حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا نے غسل دیا اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں انصاری عورتوں نے غسل دیا، جن میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ صحیحین میں لکھا ہے اور اسی طرح حدیث میں لکھا ہے کہ جب حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے دفن کرنے کا ارادہ کیا تو فرمایا:

”کوئی شخص جس نے آج شب اپنے اہل سے قربت کی ہے وہ اسے قبر میں داخل نہیں کرے گا۔“

تو ان کے خاوند حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رک گئے اور حضرت ابوطالبہ انصاری رضی اللہ عنہ نے انہیں دفن کیا، اور آپ کے کلام سے یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ابوطالبہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما وغیرہ کی طرح کون شخص رضا کارانہ طور پر قبر کھودنے اور دفن کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

”ان لوگوں میں سے وہ شخص اس کی قبر میں داخل ہو جس نے اپنے اہل بیت سے قربت نہیں کی۔“

یہ بات بعید ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا دختر رسول ﷺ کے سوا کوئی دوسری بیوی بھی ہو۔ یہ بعید ہے۔ واللہ اعلم

اور اسی سال میں آپ نے ایلہ کے بادشاہ اور جرباء اور اذرح اور دومتہ الجندل کے حکمران سے مصالحت کی جیسا کہ قبل ازیں اپنے مقام پر اس کی وضاحت ہو چکی ہے اور اسی میں آپ نے مسجد ضرار کو مسمار کیا جسے منافقین کی جماعت نے مسجد کی طرز پر بنایا تھا جو درپردہ دارالحرب تھی، پس آپ کے حکم سے اسے نذر آتش کر دیا گیا اور اسی سال کے رمضان میں ثقیف کے وفد نے آ کر اپنی قوم کی جانب سے مصالحت کی اور امان لے کر ان کے پاس واپس گئے اور لات کو توڑا گیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور اسی میں منافقین کا لیڈر عبداللہ بن ابی بن سلول فوت ہوا، اور اس سے چند ماہ قبل حضرت معاویہ بن معاویہ لیشی، یا مزنہ، کی وفات ہوئی۔ اور اگر یہ روایت درست ہے تو یہ وہی شخص ہے جس کی نماز جنازہ رسول کریم ﷺ نے تبوک میں پڑھی اور اسی سال میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم ﷺ کی اجازت سے لوگوں کو حج کروایا۔ اور اسی میں عرب قبائل کے عام وفد آئے اسی لیے اس کو عام الوفود یعنی وفود کا سال کہتے ہیں۔ اور اب ہم امام بخاری کی اقتداء میں اس کے لیے ایک باب باندھتے ہیں۔

باب ۷

رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آنے والے وفود

محمد بن اسحاق بیان کرتا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ کو فتح کیا اور تبوک سے فارغ ہوئے اور ثقیف اسلام لے آئے اور بیعت کر لی تو ہر جانب سے عربوں کے وفود آپ کے پاس آنے لگے، ابن ہشام بیان کرتا ہے کہ مجھے ابو عبیدہ نے بتایا کہ نویں سال کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ عرب اپنے اسلام کے بارے میں قریش قبیلے کے معاملے کا انتظار کر رہے تھے۔ کیونکہ قریش لوگوں کے راہنما، پیشوا اور بیت اللہ اور حرم کے باشندے تھے اور حضرت اسماعیل بن ابراہیم کی خالص اولاد اور بلا انکار عربوں کے لیڈر تھے اور قریش ہی نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ اور مخالفت کی نیورکھی تھی اور جب مکہ فتح ہو گیا اور قریش آپ کے مطیع ہو گئے اور اسلام نے انہیں عاجز کر دیا تو عربوں کو معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ اور عداوت کرنے کی سکت نہیں رکھتے، تو وہ قول الہی کے مطابق فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے اور ہر جانب سے آپ کے پاس آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو فرماتا ہے:

”جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتا دیکھیں گے، پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس کی حفاظت طلب کیجیے، بے شک وہ توبہ قبول کر کے اپنے فضل سے نوازنے والا ہے۔“

یعنی آپ اپنے دین کے غالب آنے پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس سے استغفار کیجیے بے شک وہ توبہ قبول کر کے نوازنے والا ہے۔ اور قبل ازیں ہم عمرو بن مسلمہ کی حدیث بیان کر آئے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عربوں نے اپنے اسلام کے معاملے کو فتح تک مؤخر کر دیا، وہ کہتے اسے اور اس کی قوم کو چھوڑ دو، اگر وہ ان پر غالب آ گیا تو وہ سچا نبی ہے۔ پس جب اہل فتح کا معرکہ ہوا تو ہر قوم نے اپنے اسلام میں جلدی کی اور میری قوم نے بھی اپنے اسلام میں جلد بازی سے کام لیا، اور جب وہ آئے تو کہنے لگے خدا کی قسم میں تمہارے پاس فی الواقعہ حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس سے آیا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے اور جو قرآن کو زیادہ جانتا ہے وہ تمہاری امامت کرے اور اس نے تمام حدیث بیان کی جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔

میں کہتا ہوں کہ محمد بن اسحاق، واقدی، بخاری اور ان کے بعد بیہقی نے وفود کا ذکر کیا ہے جو ان کی قوم کی تاریخ میں نویں سال اور فتح مکہ سے بھی متقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”جن لوگوں نے تم میں سے فتح سے قبل خرچ کیا ہے اور جنگ کی ہے ان لوگوں کے درجات ان لوگوں کے مقابلہ میں

بہت بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی اور اللہ نے سب سے نیکی کا وعدہ لیا ہے۔

اور یوم فتح سے قبل آپ نے فرمایا:

”ہجرت کوئی نہیں بلکہ جہاد اور نیت ہے۔ ایسے زمانہ فتح میں آنے والوں کے درمیان جنہیں وفود ہجرت شمار کیا جاتا ہے

اور فتح کے بعد ان سے ملنے والوں کے درمیان جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور نیکی کا وعدہ لیا ہے سابق کا امتیاز کرنا

ضروری ہے لیکن اس میں زمانے اور فضیلت کے سابق کی طرح کی بات نہیں ہے۔“ واللہ اعلم

ہاں جن ائمہ نے وفود کے بیان کا اہتمام کیا ہے انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر نہیں کیا، ہم بفضل خدا اس کا بھی ذکر کریں گے

اور جن باتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے انہیں بیان کریں گے ان شاء اللہ اور اسی پر بھروسہ اور اعتماد ہے۔

محمد بن عمر واقدی بیان کرتا ہے کہ ہم سے کثیر بن عبد اللہ مزنی نے بحوالہ اپنے باپ اور دادا کے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ سب

سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے پاس مضر سے مزینہ کے چار سو آدمی آئے۔ یہ رجب ۵ھ کا واقعہ ہے پس رسول کریم ﷺ نے ان

کے لیے ان کے گھر میں ہجرت بنا دی اور فرمایا: ”تم جہاں بھی ہو مہاجر ہو پس اپنے اموال کے پاس واپس چلے جاؤ۔“

پس وہ اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے۔ پھر واقدی نے ہشام بن کلبی سے اپنے اسناد سے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے

مزینہ میں سے خزاعی بن عبد نہم آیا اور اس کے ساتھ اس کی قوم کے دس آدمی بھی تھے۔ پس اس نے اپنی قوم کے اسلام پر آپ کی

بیعت کی، مگر جب واپس آ گیا تو اس نے ان کو اپنے خیال کے مطابق نہ پایا اور وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، حضرت نبی کریم ﷺ

نے حضرت حسان بن علیؓ کو حکم دیا کہ وہ خزاعی کی جھوکیے بغیر ان پر تعریض کریں تو آپ نے اشعار کہے اور جب وہ اشعار خزاعی کو

پہنچے تو اس نے اپنی قوم کے پاس اس امر کی شکایت کی پس وہ اس کے ساتھ آ گئے اور اس کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اور وہ انہیں

رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آیا اور جب فتح کا دن آیا تو رسول کریم ﷺ نے مزینہ کا جھنڈا اسی خزاعی کو عطا فرمایا اس وقت

خزاعیوں کی تعداد ایک ہزار تھی، راوی بیان کرتا ہے کہ وہ عبد اللہ ذوالجنادین کا بھائی تھا۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ باب وفد بنی تمیم میں بیان کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے عن ابی صخر

عن صفوان بن محیر المازنی عن عمران بن الحصین بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بنی تمیم کا وفد آیا تو

آپ نے فرمایا: ”اے بنی تمیم بشارت کو قبول کرو“ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے ہمیں بشارت دی ہے پس ہمیں عطا

کیجیے، پس ناراضگی کے آثار آپ کے چہرے پر دیکھے گئے، پھر یمن کا ایک گروہ آیا تو آپ نے فرمایا: بشارت کو قبول کرو جبکہ بنو تمیم

نے اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم نے قبول کیا، پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں ہم سے ابراہیم بن

موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کہ ابن جریج نے اسے ابن ابی ملیکہ سے خبر دی کہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ

نے انہیں بتایا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس بنو تمیم کے کچھ سوار آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قحطاق بن معبد بن

زرارہ کو امیر بناتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اقرع بن حابس کو امیر بناتا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ میری

مخالفت کرنا چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، پس دونوں جھگڑ پڑے یہاں تک کہ ان کی

آوازیں بلند ہو گئیں تو یہ آیت نازل ہوئی:

”اے مومنو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔“

یہاں تک کہ ان کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اور امام بخاری نے اسی طرح ایک طریق سے ابن ابی ملیکہ سے دوسرے الفاظ سے روایت کی ہے جسے ہم نے تفسیر میں قول الہی:

”اپنی آوازوں کی نیکی کی آواز سے بلند نہ کرو۔“

کے ضمن میں بیان کیا ہے۔

محمد بن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جب عرب کے وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے لگے تو بنو تمیم کے اشراف میں عطار دبن حاجب بن زرارہ بن عدس تمیمی بھی آپ کے پاس آیا اور اقرع بن عابس زبرقان بن بدر تمیمی۔ جو بنی سعد کا ایک آدمی تھا۔ ححات^۱ بن یزید، نعیم بن یزید، قیس بن حارث اور بنی سعد کا قیس بن عاصم بھی بنی تمیم کے کے بڑے وفد میں شامل تھے۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ عیینہ بن حصن بن حدیفہ بن بدر الفزازی بھی ان کے ساتھ شامل تھا اور اقرع بن حابس اور عیینہ فتح مکہ، حنین اور طائف میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ شامل تھے اور جب بنو تمیم کا وفد آیا تو یہ دونوں بھی ان کے ساتھ تھے اور جب یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے حجروں کے پیچھے سے رسول اللہ ﷺ کو آوازیں دیں اے محمد! ہمارے پاس باہر آئیے۔ پس انہوں نے اپنی آوازوں سے رسول کریم ﷺ کو اذیت دی، پس آپ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اے محمد ﷺ ہم آپ کے پاس اظہارِ تفاخر کے لیے آئے ہیں، پس آپ ہمارے شاعر اور خطیب کو اجازت عطا فرمائیں آپ نے فرمایا میں آپ لوگوں کے خطیب کو اجازت دیتا ہے۔ وہ جو کہنا چاہتا ہے کہے تو عطار دبن حاجب نے کھڑے ہو کر کہا:

اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم پر فضل و احسان کیا ہے اور وہی اس کا اہل ہے جس نے ہمیں بادشاہ بنایا اور ہمیں بہت اموال عطا فرمائے ہیں جن سے ہم اچھے کام کرتے ہیں اور اس نے ہمیں اہل مشرق پر غلبہ دیا ہے اور زیادہ تعداد اور زیادہ ساز و سامان والا بنایا ہے، پس لوگوں میں ہم جیسا کون ہے۔ کیا ہم لوگوں کے سردار اور صاحب فضل نہیں، پس جو فخر میں ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ ہماری طرح تیاری کرے۔ اور اگر ہم چاہتے تو زیادہ گفتگو کرتے۔ لیکن اس نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں اور ہم اس بات کو جانتے ہیں میں کہتا ہوں تم ہمارے قول کی مثل اور ہمارے امر سے افضل امر لاؤ۔

پھر وہ بیٹھ گیا تو رسول کریم ﷺ نے بنی حارث بن خزرج سے ثابت بن قیس بن شماس سے فرمایا۔ اپنی تقریر میں اس آدمی کو جواب دو، ثابت نے کھڑے ہو کر کہا:

① حلیہ میں اسے حجاب، الیتوریہ میں حجاب اور ابن اسحاق بن ححات بیان کیا گیا ہے اور ابن ہشام ححات بیان کرتا ہے اور سبیلی نے اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔

اس نئی اکی تعریف ہے زمین آسمان جس کی مخلوق میں اور اس نے ان میں اپنا امر نافذ کیا ہے اور اس کے علم نے اس کی حکومت کو وسیع کیا ہے اور ہر چیز اس کے فضل سے ہی ہوتی ہے اور اس کی قدرت میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے ہمیں بادشاہ بنایا ہے اور اپنے افضل لوگوں میں سے اپنا رسول پنا ہے اور اسے سب کے لحاظ سے عزت اور بات کے لحاظ سے سنا بنایا ہے اور حسب کے لحاظ سے فضیلت دی ہے اور اس پر کتاب نازل فرمائی ہے اور اسے اپنی مخلوق میں امین بنایا ہے اور وہ عالمین میں اللہ تعالیٰ کا افضل آدمی ہے پھر اس نے لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو آپ کی قوم اور رشتہ داروں میں سے مہاجرین رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے جو حسب کے لحاظ سے سب لوگوں سے بڑھ کر قدیم ہیں اور چہروں کے لحاظ سے سب لوگوں سے حسین ہیں اور افعال کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہترین ہیں۔ اور جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کو قبول کیا۔ پس ہم اللہ کے انصار اور اس کے رسول کے وزراء ہیں اور جب تک لوگ ایمان نہ لائیں ہم ان سے جنگ کریں گے اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کا مال اور خون محفوظ ہو جاتا ہے اور جو انکار کرتا ہے ہم اللہ کی راہ میں ہمیشہ اس سے جہاد کریں گے اور اس کا قتل کرنا ہم پر آسان ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور تمہارے لیے اور مومنین اور مومنات کے لیے اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم

اور زبرقان بن بدر نے کھڑے ہو کر کہا:

ہم معزز آدمی ہیں اور کوئی قبیلہ ہماری ہمسری نہیں کر سکتا ہم میں بادشاہ ہیں اور ہم میں گرجے قائم کیے جاتے ہیں اور ہم نے کتنے ہی قبیلوں کو لوٹ اور قابل اتباع عزت کے وقت مجبور کر دیا ہے اور قحط کے وقت ہمارے باورچی خانے سے بھنے ہوئے گوشت کھائے جاتے ہیں جبکہ گھبرانے والے آدمی سے انس نہیں کیا جاتا۔ ہر علاقے سے لوگوں کے سردار ہمارے پاس گرتے پڑتے آتے ہیں اور ہم ان سے حسن سلوک کرتے ہیں اور ہم اپنی اصل سے محبت کی وجہ سے مہمانوں کے لیے اچھے اونٹ ذبح کرتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو سیر ہو جاتے ہیں پس ہم کس قبیلہ سے مقابلہ کریں وہ اس حال میں بھی ہم سے استفادہ کرتے ہیں جب سرکٹ رہے ہوں۔ پس جو بھی اس بارے میں ہم سے مقابلہ کرے ہم اسے جانتے ہیں جب لوگ واپس آتے ہیں تو ان کی خبریں سنی جاتی ہیں۔ ہم نے سب کی نافرمانی کی ہے۔ مگر ہماری کسی نے نافرمانی نہیں کی۔ ہم فخر کے وقت اس طرح سر بلند ہوتے ہیں۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے رسول کریم ﷺ نے ان کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا تو لوگوں کے شاعر نے جو کہنا تھا کہا اور خوب بیان کیا اور میں نے بھی اسی کے مطابق کہا۔ جب زبرقان فارغ ہو گیا تو رسول کریم ﷺ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا اے حسان کھڑے ہو کر اس آدمی کو جواب دیجیے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا:

فہر کے پیشواؤں اور ان کے بھائیوں نے لوگوں کے سامنے ایک اتباع طریق واضح کیا ہے۔ جسے ہر پاک باطن متقی اور کار خیر کرنے والا پسند کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب جنگ کرتے ہیں تو اپنے دشمن کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اپنے پیروکاروں کو فائدہ

پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی یہ عادت نئی کہیں ہے جان لو! عادات میں سے بری عادات بدعات ہیں۔ اگرچہ ان کے بعد بھی سبقت کرنے والے ہوئے ہیں لیکن برسبقت کرنے والا ان کا تابع ہے۔ دفاع کے وقت لوگوں کے ساتھ جس چیز کو کرا دیں وہ اسے نہیں اٹھاتے اور نہ باند کی سوئی چیز کو کراتے ہیں اگر کسی روز لوگوں کے ساتھ جس چیز کو کرا دیں وہ اسے نہیں اٹھاتے اور نہ بلندی کی ہوئی چیز کو کراتے ہیں اگر وہ کسی روز لوگوں سے سبقت کر جائیں تو ان کی دوز کا میاب ہو جاتی ہے یا بز رنگوں سے سخاوت میں مقابلہ کریں تو وہ رینگ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ عقیف ہیں اور وحی میں ان کی عفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ طامع نہیں نہ ہی طمع انہیں ہلاک کرتا ہے۔ اور وہ پڑوسی کو اپنے احسان سے محروم نہیں کرتے اور نہ ان کی طبیعت طمع کومس کرتی ہے اور جب ہم کسی قبیلے سے برسریکار ہوتے ہیں تو ہم رینگ کر ان کی طرف نہیں جاتے جیسے جنگلی گائے کی طرف پھڑا جاتا ہے۔ جب مخلوط گروہ جنگ کے بچوں سے ڈرتے ہیں تو ہم ان کی تکلیف کے وقت اس کی طرف بڑھتے ہیں اور جب وہ دشمن پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو فخر نہیں کرتے اور اگر انہیں تکلیف پہنچے تو وہ بزدل نہیں ہوتے اور نہ گھبراتے ہیں جب موت قریب ہو تو وہ میدان کارزار میں شیر ہوتے ہیں اور ان کی تلواروں کے پرتلوں کے نیچے تسمے میں کجی پیدا ہو جاتی ہے جب وہ ناراض ہوں تو وہ جو معاف کریں اسے لے لو لیکن جس چیز سے منع کریں اس کے لینے کا ارادہ نہ کرنا ان کی عداوت چھوڑ دو۔ ان کی جنگ میں ایسا شر ہے جس میں زہر اور ایلاو ہے۔ جب خواہشات اور پارنیاں متفرق ہو جائیں تو رسول اللہ ﷺ کی قوم اور ان کے پیروکاروں کی عزت کر میری مدح نے انہیں کارگر تلوار کی طرح زبان تحفہ میں دی ہے جس کی پسندیدگی میں دل اس کی مدد کرتا ہے۔ پس وہ سب قبائل سے افضل ہیں خواہ لوگ سنجیدہ ہوں یا مذاق کریں۔

ابن ہشام بیان کرتا ہے کہ مجھے بنی تمیم کے بعض شاعروں نے بتایا کہ جب زبرقان بنی تمیم کے وفد میں رسول کریم ﷺ کے

پاس آیا تو اس نے کھڑے ہو کر کہا:

ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ جب حج کے مواقع پر لوگوں میں اختلاف ہو تو لوگ ہماری فضیلت کو جان لیں۔ اور ہم ہر جنگ میں لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اور سرزمین حجاز میں دارم کی طرح کوئی نہیں اور جب نشانہوں والے نخت کرتے ہیں تو ہم ان کو ہنسا دیتے ہیں اور متکبر اور اکڑ باز کے سر پر تلوار مارتے ہیں اور ہر لوٹ میں ہمارا چوتھا حصہ ہوتا ہے جو نجد یا ارض عجم میں کی جاتی ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت حسان بنی ہذیل نے کھڑے ہو کر اسے جواب دیا:

کیا بزرگی سخاوت بادشاہوں کی جاہ و چشم اور بڑے امور کی برداشت ہی کا نام ہے۔ ہم نے معد کے رضا مند اور ناراض لوگوں کے مقابلہ میں حضرت محمد نبی ﷺ کو پناہ دی ہے اور ان کی مدد کی ہے ایک ایسے قبیلے کے ذریعے جس کی اصل اور ثروت جولان کے حوض میں جمیوں کے درمیان پڑی ہے۔ جب آپ ہمارے گھر میں اترے تو ہم نے ہر ظلم و زیادتی کرنے والے کے مقابلہ میں آپ کی مدد کی۔ ہم نے شمشیر ہائے براں سے لوگوں کو مارا یہاں تک کہ وہ آپ کے دین کے پیروکار ہو گئے ہم عظیم قریش کی اولاد ہیں اور آل ہاشم سے ہمارا بیٹا ہی نیکی کا نبی ہے۔ اے بنی دارم فخر نہ کرو تمہارا فخر کارناموں کے تذکرہ کے وقت وبال بن کر لوٹ آئے گا۔ تم بے اولاد ہو اور ہم پر فخر کرتے ہو حالانکہ تم ہمارے خادم ہو اور اگر تم اپنے جان و مال کو بچانے آئے ہو تو اسے

حصوں میں تقسیم کر دو۔ اور اللہ کا شریک نہ بناؤ اور اسلام قبول کر لو اور جنہوں کا سالہاس نہ پہنو۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنی بات سے فارغ ہوئے تو اقرع بن حابس کہنے لگا۔ میرے باپ کی قسم آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑا خطیب اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑا شاعر اور ان کی آوازیں بھی ہم سے بلند ہیں۔

راوی بیان کرتا ہے جب یہ لوگ فارغ ہو گئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ ﷺ نے انہیں خوب عطیات دیئے۔ اور عمرو بن الہتم کو یہ لوگ اپنی قیامگاہوں میں پیچھے چھوڑ آئے تھے اور وہ ان سب سے کم عمر تھا، قیس بن عاصم نے کہا اور وہ عمرو بن الہتم سے بغض رکھتا تھا، یا رسول اللہ ﷺ ہمارا ایک آدمی ہماری قیامگاہوں میں ہے اور وہ ایک نو عمر آدمی ہے آپ اسے کم دیں لیکن رسول کریم ﷺ نے اسے دوسرے لوگوں کے برابر دیا، جب عمرو بن الہتم کو پتہ چلا کہ قیس نے یہ بات کہی تھی تو اس نے اس کی ہجو کرتے ہوئے کہا:

تو رسول کریم ﷺ کے پاس دم کے جال بچھائے مجھے گالیاں دیتا رہا لیکن تو نے سچ نہ بولا۔ ہم نے تم پر لگا تا سرداری کی اور تمہاری سرداری اپنی ڈاڑھیں نمایاں کیے دم پر گری ہوئی ہے۔

حافظ تبہتی نے یعقوب بن سفیان کے طریق سے روایت کی ہے کہ سلیمان بن حرب نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن یزید نے بحوالہ محمد بن زبیر حنظلی بیان کیا وہ کہتا ہے کہ

زبرقان بن بدر، قیس بن عاصم اور عمرو بن الہتم رسول کریم ﷺ کے پاس آئے۔ تو آپ نے عمرو بن الہتم سے فرمایا مجھے زبرقان کے متعلق بتاؤ اور میں اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھتا، میرا خیال ہے کہ آپ قیس کو جانتے تھے اس نے کہا وہ اپنے قریبوں میں مطاع ہے، بہت فصیح ہے اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔

زبرقان نے کہا، اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ جو اس نے کہا ہے میں اس سے بہتر ہوں، راوی بیان کرتا ہے کہ عمرو نے کہا۔ خدا کی قسم میں تجھے جانتا ہوں تو مردت کو ایذا دینے والا، تنگ باڑے والا، بیوقوف باپ والا اور کمینے ماموں والا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ ﷺ! میں نے دونوں باتوں میں سچ بولا ہے، اس نے مجھے راضی کیا تو میں جو اس کی اچھائی جانتا تھا وہ میں نے بیان کر دیں، اس نے مجھے ناراض کیا تو میں جو اس کی بری باتیں جانتا تھا وہ بیان کر دیں، راوی بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بلاشبہ بیان بھی ایک جادو ہے۔ اس طریق سے یہ حدیث مرسل ہے۔

تبہتی بیان کرتا ہے کہ یہ ایک اور طریق سے موصول بیان ہوئی ہے، ہمیں ابو جعفر کامل بن احمد المستملی نے خبر دی کہ ہم سے علی بن حرب طائی نے بیان کیا کہ ہمیں ابوسعید بن البیہتم بن محفوظ نے عن ابوالمقوم یحییٰ بن یزید انصاری عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس بتایا کہ قیس بن عاصم، زبرقان بن بدر اور عمرو بن الہتم تیسری حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے تھے تو زبرقان نے فخریہ طور پر کہا یا رسول اللہ ﷺ میں تمہیں کا سردار ہوں اور ان میں مطاع ہوں اور میری بات ان میں مانی جاتی ہے۔ میں انہیں ظلم سے روکتا ہوں اور ان کو ان کے حقوق دیتا ہوں اور اس بات کو عمرو بن الہتم جانتا ہے، عمرو بن الہتم نے کہا یہ بڑا فصیح البیان ہے، محفوظ اور

اپنے قریبوں میں اطلاع ہے، زبرقان نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اس نے جو بات بیان کی ہے اس کے علاوہ بھی یہ میرے متعلق بانٹا ہے مگر خدا سے بولنے نہیں دینا، عمرو بن الاہتم کہنے لگا میں تجھ سے خدا کو روں گا، خدا کی قسم تو کہیں باموں والا نہ دہلتا یہ یوقوف باپ والا اور قبیلہ میں بیکار آدمی ہے یا رسول اللہ ﷺ قسم بخدا میں نے جو بات پہلے بیان کی ہے وہ بھی سچی ہے اور جو بات میں نے آخر میں کی ہے اس میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن میں ایسا آدمی ہوں جب راضی ہوتا ہوں تو جو اچھی بات مجھے معلوم ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہوں اور جب ناراض ہوتا ہوں تو جو بری بات مجھے معلوم ہوتی ہے اسے بیان کرتا ہوں اور میں نے پہلی اور دوسری دونوں باتوں میں سچ بیان کیا ہے، رسول کریم ﷺ نے فرمایا بلاشبہ بیان بھی ایک جادو ہے۔ اور اس کا اسناد بہت غریب ہے۔

اور واقدی نے ان کی آمد کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے خزاعہ کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو رسول کریم ﷺ نے عینہ بن بدر کو پچاس آدمیوں کے ساتھ جن میں کوئی مہاجر اور انصاری نہ تھا ان کے مقابلہ میں بھیجا تو اس نے ان میں سے گیارہ مردوں گیارہ عورتوں اور تیس بچوں کو قیدی بنا لیا اور ان کے قیدی ہو جانے کے باعث ان کے سردار آئے اور بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے نوے یا اسی آدمی آئے، جن میں عطارد، زبرقان، قیس بن عاصم، قیس بن حارث، نعیم بن سعد، اقرع بن حابس، رباح بن حارث اور عمرو بن الاہتم شامل تھے۔ وہ مسجد میں آئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دی اور لوگ رسول اللہ ﷺ کے آنے کا انتظار کرنے لگے اور ان لوگوں نے حجروں کے پیچھے سے آپ کو بلانا شروع کر دیا تو ان کے بارے میں جو نازل ہونا تھا وہ نازل ہوا۔ پھر واقدی نے ان کے خطیب اور شاعر کا ذکر کیا ہے اور رسول کریم ﷺ نے ان کے ہر آدمی کو بارہ اوقیہ اور اونٹ کے چھوٹے بچے عطیہ دیئے اور عمرو بن الاہتم کو آپ نے ان کی نوعمری کی وجہ سے پانچ اوقیہ دیئے۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ انہی کے بارہ میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں:

”بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان کی اکثریت لایعقل ہے اور اگر وہ آپ کے نکلنے

تک صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

ابن جریر بیان کرتا ہے ہم سے ابوعمار الحسین بن حریث المرزبی نے بیان کیا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ نے عن الحسین بن

واقد عن ابی اسحاق عن البراء بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قول:

”بے شک جو لوگ حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں۔“

کا شان نزول یہ ہے کہ ایک آدمی رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ اے محمد ﷺ میرا تعریف کرنا اچھا اور مذمت کرنا برا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شان تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کا اسناد جید اور متصل ہے اور اسے حضرت حسن بصری اور قتادہ سے مرسل روایت کیا گیا ہے اور اس آدمی کا نام بھی بیان کیا گیا ہے، امام احمد بیان کرتے ہیں، ہم سے عفان نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا اور ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے ابوسلمہ سے عن عبد الرحمن عن اقرع بن حابس بیان کیا کہ اس نے حضرت نبی کریم ﷺ کو اے محمد کہہ کر آواز دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ ﷺ کہہ کر آواز دی مگر آپ نے اسے جواب نہ دیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میرا تعریف کرنا اچھا اور مذمت کرنا برا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔

بنی تمیم کی فضیلت کے بارے میں حدیث:

امام بخاریؒ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے زبیر بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے عن ابن عمر بن القعقاع بن عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت نبی کریم ﷺ سے بنی تمیم کے بارے میں تین باتیں سنی ہیں میں ان سے ہمیشہ محبت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا ان میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں:

”میری امت میں سے وہ دجال پر سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔“ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی ایک قیدی عورت تھی آپ نے فرمایا: ”اسے آزاد کر دو یہ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔“ اور ان کے صدقات آئے تو آپ نے فرمایا: ”یہ میری قوم کے صدقات ہیں۔“

اور مسلم نے بھی اسی طرح زبیر بن حرب سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث قنادہ کے ان اشعار کی تردید کرتی ہے جنہیں صاحب حماسہ نے ان کی مذمت میں بیان کیا ہے کہ:

”بنو تمیم کینگی کے راستوں میں بھٹیر تیر سے بھی بڑھ کر راہ پانے والے ہیں اور اگر وہ ہدایت کے راستے پر چلیں تو بھٹک جائیں اور اگر بنو تمیم دور سے ایک چٹو کو ایک جوں کی پشت پر سوار دیکھیں تو بھاگ جائیں۔“

بنو عبد القیس کا وفد:

پھر امام بخاریؒ وفد بنی تمیم کے بعد وفد عبد القیس کا باب باندھتے ہیں ابواسحاق نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابو عامر العقدی نے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ ہم سے قرۃ نے ابو حمزہ سے بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا میرے پاس ایک مٹکا ہے جس میں میرے لیے نبیذ بنایا جاتا ہے۔ پس میں اسے سیاہی مائل بیٹھا ہونے پر پیتا ہوں میں لوگوں کے پاس بیٹھا اور دیر تک بیٹھا رہا پھر مجھے خدشہ ہوا کہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ عبد القیس کا وفد رسول کریم ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا شرمندگی کے بغیر قوم کو خوش آمدید کہو۔ وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے اور مشرکین مضر کے درمیان چپقلش پائی جاتی ہے اور ہم ماہ حرام کے سوا اور کسی مہینے میں آپ کے پاس نہیں آسکتے۔ آپ ہمیں کوئی ایسا اچھا کام بتائیں کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں اور جو لوگ ہمارے پیچھے ہیں انہیں بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں اللہ پر ایمان لانا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور غنیمت سے خمس ادا کرنا۔ اور چار باتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں یعنی دبا، نقیر، حنتم اور مرفت میں جو نبیذ تیار کی جائے اس سے منع کرتا ہوں۔

مسلم نے اسے قرۃ بن خالد کی حدیث سے ابو حمزہ سے روایت کیا ہے اور صحیحین میں ابو حمزہ سے اس کے کئی طرق ہیں اور ابو داؤد طیالسی نے اپنے مسند میں بیان کیا ہے کہ شعبہ نے ابو حمزہ سے ہمیں بتایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کہ

① یعنی کدو سوراخ شدہ بکڑی کی جڑ، مشکیزے اور رال لگے برتن میں تیار شدہ نبیذ سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ (مترجم)

جب عبد القیس کا وفد رسول کریم ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم کس قوم سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ربیعہ سے تو آپ نے فرمایا: شرمندگی کے بغیر وفد کو خوش آمدید کہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم ربیعہ کے قبیلے کے لوگ ہیں اور ہم آپ کے پاس جید مسافت سے آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان منہ کے کفار حاکم ہیں اور ماہ حرام کے سوا ہم آپ کے پاس نہیں آسکتے، ہمیں کوئی ایسا فیصد کن حکم دیجیے جس کی طرف ہم ان لوگوں کو بھی دعوت دیں جو ہمارے پیچھے ہیں اور اس کے ذریعہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں تم کو چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں، میں تم کو مذہب واحد پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، کیا تمہیں علم ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور غنائم سے شمس دینا اور چار باتوں سے تم کو منع کرتا ہوں، دبا، حنتم، نقیر اور مزفت سے۔ بعض اوقات آپ نے مقیر بھی فرمایا ہے۔ پس ان باتوں کو یاد رکھو اور جو لوگ تمہارے پیچھے ہیں انہیں بھی ان کی دعوت دو اور صحیحین کے مؤلفین نے اس حدیث کو اسی طرح شعبہ سے روایت کیا ہے۔ اور مسلم نے اسے سعید بن عمرو کی حدیث سے عن قتادہ عن ابی نصرہ عن ابی سعید بیان کیا ہے جس میں اسی طرح ان کا واقعہ بیان ہوا ہے اور اس کے نزدیک یہ بات بھی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے عبد القیس کے شیخ سے فرمایا، تجھ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، حلم اور بردباری، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول انہیں پسند کرتے ہیں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے انہیں بناوٹ سے اختیار کیا ہے یا اللہ نے میری فطرت میں رکھا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری فطرت میں ان دونوں باتوں کو رکھا ہے تو اس نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے دو خصلتیں میری فطرت میں رکھی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ بنی ہاشم کے غلام ابوسعید نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے مطرب بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے ہند بنت الوازع سے سنا کہ اس نے الوازع کو کہتے سنا کہ میں اور اشج منذر بن عامر یا عامر بن منذر رسول کریم ﷺ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایک نیم پاگل آدمی بھی تھا اور وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گئے اور جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو اپنی سواریوں سے کود پڑے اور اور آ کر رسول کریم ﷺ کے ہاتھ چومنے لگے۔ پھر اشج اتر اور اس نے اپنی سواری کو باندھا اور اپنا صندوق نکالا اور کھول کر اپنے کپڑوں سے دو سفید کپڑے نکال کر پہنے اور پھر ان کی سواریوں کے پاس آیا اور انہیں باندھا پھر رسول کریم ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا:

”اے اشج تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول دونوں پسند کرتے ہیں، بردباری اور حلم، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے ان خصلتوں کو بناوٹ سے حاصل کیا ہے یا اللہ نے انہیں میری فطرت میں رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ اللہ نے انہیں تیری فطرت میں رکھ دیا ہے تو اس نے کہا اس خدا کا شکر ہے جس نے میری فطرت میں دو ایسی خصلتیں رکھی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔ الوازع نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے ساتھ میرا مومن ہے جو پاگل ہے آپ اس کے لیے دعا فرمائیں آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے اسے میرے پاس لاؤ، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے بھی اشج کی طرح کہا۔ میں نے

اسے اس کے کپڑے پہنائے اور لے آیا تو آپ اس کے پیچھے سے اسے پکڑ کر اٹھانے لگے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھا پھر آپ نے اس کی پشت پر ضرب لگائی اور فرمایا دشمن خدا نکل جا تو اس نے اپنا چہرہ پھیرا تو وہ ایک تندرست آدمی کی طرح دیکھ رہا تھا۔

اور حافظ تیمتی نے ہود بن عبد اللہ بن سعد کے طریق سے روایت کی ہے کہ اس نے اپنے دادا مزیدۃ العبدی سے سنا وہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نے انہیں فرمایا 'ابھی یہاں سے ایک قافلہ نمودار ہو گا وہ اہل مشرق کے بہترین لوگ ہوں گے' تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف چل پڑے تو آپ تیرہ سواروں سے ملے آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم بنی عبد القیس سے ہیں آپ نے کہا تمہیں اس علاقے میں تجارت تو نہیں لائی، انہوں نے جواب دیا نہیں، آپ نے کہا ابھی ابھی رسول اللہ ﷺ نے تمہارا ذکر خیر کیا ہے۔ پھر وہ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے حضرت نبی کریم ﷺ کے کی خدمت میں آگئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا: یہ ہیں تمہارے آقا جن سے تم ملنا چاہتے ہو، تو وہ اپنی ساریوں سے اتر پڑے ان میں سے کچھ چلتے ہوئے اور کچھ دوڑتے ہوئے رسول کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے چومنے لگے اور اشع سواروں میں پیچھے رہ گیا یہاں تک کہ اس نے انہیں بٹھایا اور لوگوں کے سامان کو اکٹھا کیا پھر چلتا ہوا آیا اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے چومنے لگا تو حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

تجھ میں دو خصلتیں ایسی پائی جاتی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، اس نے عرض کیا کیا وہ میری فطرت میں ہیں یا میں نے بناوٹ سے انہیں اختیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ وہ تیری فطرت میں ہیں۔ اس نے کہا اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ عبد القیس کا بھائی جارود بن عمرو بن عیش رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا، اور ابن ہشام کہتا ہے کہ وہ جارود بن بشر المعلی تھا جو عبد القیس کے وفد میں آیا تھا اور وہ عیسائی تھا، ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھ سے حسن نے ایسے آدمی سے بیان کیا جس پر میں تہمت نہیں لگاتا، وہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ رسول کریم ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس پر اسلام پیش کیا اور اسے دعوت اسلام دی اور اس میں اسے رغبت دلائی، اس نے کہا اے محمد ﷺ میں ایک دین پر ہوں اور میں اپنا دین آپ کے دین کی خاطر چھوڑنے لگا ہوں، کیا آپ میرے دین کے ضامن ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اس امر کا ضامن ہوں کہ اللہ نے اس سے بہتر دین کی طرف تیری راہنمائی کی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے پھر اس نے رسول کریم ﷺ سے سواری کا سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا قسم بخدا میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر میں آپ کو سوار کراؤں، اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے اور ہمارے علاقے کے درمیان کچھ گم شدہ جانور ہیں کیا ہم ان پر سوار ہو کر اپنے علاقوں میں پہنچ جائیں؟ آپ نے فرمایا ان سے بچو وہ آگ کی جلیں ہیں، راوی بیان کرتا ہے کہ جارود واپس اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور وہ وفات تک اپنے دین پر بڑی چٹنگی سے قائم رہا اور اس نے ارتداد کا زمانہ بھی پایا۔ پس جب اس کی قوم سے مسلمان ہونے والے کچھ لوگ الغرور بن المنذر بن العثمان بن المنذر کے ساتھ اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ گئے تو جارود نے کھڑے ہو کر حق کی

شہادت دینی اور انہیں دعوتِ اسلام دی اور کہا:

”اے لوگو! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اور جو شخص یہ شہادت نہ دے میں اس کا انکار کرتا ہوں۔“

اور رسول کریم ﷺ نے فتح مکہ سے قبل العلاء بن الحضرمی کو الہند میں سادی العبدی کی طرف بھیجا تو وہ مسلمان ہو گیا اور وہ بہت اچھا مسلمان تھا پھر وہ رسول کریم ﷺ کے بعد اہل بحرین کے ارتداد سے پہلے فوت ہو گیا اور العلاء اس کے پاس رسول کریم ﷺ کے بعد اہل بحرین کے ارتداد سے پہلے فوت ہو گیا اور العلاء اس کے پاس رسول کریم ﷺ کی جانب سے بحرین کا امیر تھا۔ اسے بخاری نے ابراہیم بن طہمان کی حدیث سے عن ابوترہ عن ابن عباس روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ:

سب سے پہلا جمعہ جو میں نے رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں پڑھا وہ بحرین میں حوانا مقام پر عبدالقیس کی مسجد میں پڑھا۔ اور بخاری نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے عبدالقیس کے وفد کی وجہ سے ظہر کے بعد دو رکعتوں کو مؤخر کیا اور انہیں عصر کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پڑھا۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سیاق کلام سے پتہ چلتا ہے کہ عبدالقیس کا وفد فتح مکہ سے قبل آیا تھا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان یہ مضر کا قبیلہ موجود ہے، ہم ماہ حرام کے سوا آپ کے پاس نہیں آسکتے۔ واللہ اعلم
شمامہ رضی اللہ عنہہ کا واقعہ اور بنی حنیفہ کے وفد کے ساتھ مسلمہ کذاب کی آمد:

امام بخاری وفد بنی حنیفہ اور قصہ شمامہ بن آثال رضی اللہ عنہ کے باب میں بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا کہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے نجد کی جانب کچھ مار بھیجے جو بنی حنیفہ کے ایک آدمی کو لائے جسے شمامہ بن آثال رضی اللہ عنہہ کہا جاتا تھا اور انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور رسول کریم ﷺ نے اس کے پاس آ کر فرمایا:

”اے شمامہ! تیرے پاس کیا ہے؟“ اس نے کہا اے محمد ﷺ میرے پاس بھلائی ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک ایسے آدمی کو قتل کریں گے جو خون والا ہے اور اگر آپ نوازش کریں گے تو آپ ایک قدر دان پر نوازش کریں گے۔ اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ جتنا مال چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آپ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے پھر اسے کہا اے شمامہ! تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے آپ نے فرمایا شمامہ کو آزاد کر دو تو وہ مسجد کے قریب کھجور کے درختوں کی طرف چلا گیا اور غسل کر کے مسجد میں آیا اور کہنے لگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اے محمد ﷺ قسم بخدا روئے زمین کا کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مغبوض نہ تھا اور اب آپ کا چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور قسم بخدا کوئی دین آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے مغبوض نہ تھا لیکن اب آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور قسم بخدا کوئی شہر آپ کے شہر سے بڑھ کر مجھے مغبوض نہ تھا

لیکن اب آپ کا شہر مجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ میں عمرہ کو جا رہا تھا کہ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑ لیا۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے اسے خوشخبری دی اور اسے عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سبب وہ نمد آیا تو ایک آدمی نے اسے کہا تو صابی ہو گیا ہے اس نے جواب دیا نہیں بلکہ میں محمد ﷺ کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں اور خدا کی قسم جب تک رسول کریم ﷺ اجازت نہ دیں تمہارے پاس یمامہ کی گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ اور بخاری نے اسے ایک اور مقام پر روایت کیا ہے اور مسلم، ابوداؤد اور نسائی سب نے اسے عن قتیبہ عن لیث بیان کیا ہے اور بخاری نے وفود کے متعلق جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ثمامہ خود نہیں آیا اور اسے قید کر کے بندھنوں کے ساتھ لایا گیا اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا پھر بخاری نے نویں سال کے وفود کا جو ذکر کیا ہے اس میں ایک اور قابل غور بات پائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ بظاہر یہ واقعہ فتح سے تھوڑا عرصہ پہلے کا ہے۔ کیونکہ اہل مکہ نے اسلام کا طعنہ دیا اور کہا کہ کیا تو صابی ہو گیا ہے؟ تو اس نے انہیں دھمکی دی کہ وہ ان کے پاس یمامہ کی گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آنے دے گا جب تک اس کے متعلق رسول کریم ﷺ اجازت نہ دیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اس وقت دارالحرب تھا اور اس کے باشندے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ واللہ اعلم

اسی لیے حافظ بیہقی نے ثمامہ بن آخال رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو فتح مکہ سے پہلے بیان کیا ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ لیکن ہم نے اس جگہ پر بخاری کے اتباع میں اس کا ذکر کیا ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابوالیمان نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے شعیب نے بحوالہ عبداللہ بن حسین بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نافع بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب رسول کریم ﷺ کے زمانے میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر محمد ﷺ اپنے بعد مجھے حکومت دے دیں تو میں ان کی پیروی کروں گا اور وہ اپنی قوم کے بہت سے آدمیوں کے ساتھ آیا اور رسول کریم ﷺ اس کے پاس گئے اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس آپ کے ساتھ تھے۔ اور رسول کریم ﷺ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے مسیلمہ کو اپنے اصحاب میں بیٹھے دیکھا تو آپ نے فرمایا:

”اگر تو مجھ سے کھجور کی ٹہنی کا یہ ٹکڑا بھی مانگے تو بھی میں تجھے نہیں دوں گا اور تو اللہ تعالیٰ کے امر سے تجاوز نہیں کرے گا اور اگر تو نے پیٹھ پھیری تو اللہ تجھے بے دست و پا کر دے گا۔ اور میں نے تیرے بارے جو روایا دیکھی ہے اسے دیکھ رہا ہوں اور یہ ثابت تجھے میری طرف سے جواب دے گا۔“

پھر آپ واپس آ گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کے قول کہ میں نے تیرے بارے میں جو روایا دیکھا ہے اسے دیکھ رہا ہوں دریافت کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ: ”میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دو ٹکڑے دیکھے تو ان کے معاملے نے مجھ کو پریشان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نیند میں مجھے وحی کی کہ انہیں پھونک مار تو میں نے انہیں پھونک ماری تو وہ اڑ گئے تو میں نے اس کی یہ تاویل کی کہ میرے بعد دو کذاب ظاہر ہوں گے ایک اسود غسانی اور دوسرا مسیلمہ۔“

پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ مجھے معمر نے

ہشام بن امیہ سے بتایا کہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر کے سنا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”میں سویا ہوا تھا کہ مجھے زمین کے خزانے عطا کیے گئے اور میری آتشیلی میں سونے کے دو ٹنگن رکھے گئے تو مجھے یہ امر نراں گزرا تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ میں انہیں پھونک ماروں پس میں نے انہیں پھونک ماری اور اس کی تاویل ان دو کذابوں سے کی جن کے درمیان میں موجود تھا یعنی صاحب صنعا اور صاحب یمامہ۔“

پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے سعید بن محمد الجرمی نے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو صالح نے بحوالہ ابن عبیدہ شیط سے بیان کیا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اس کا نام عبد اللہ بیان ہوا ہے کہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ:

”ہمیں مسیلہ کذاب کے مدینہ آنے کی اطلاع ملی اور وہ حارث کی بیٹی کے گھر میں اترا اور حارث بن کریم کی بیٹی جسے ام عبد اللہ بن حارث^۱ بن کریم کہتے ہیں اس کی بیوی تھی پس رسول کریم ﷺ اس کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس تھے جنہیں رسول اللہ ﷺ کا خطیب کہا جاتا ہے اور رسول کریم ﷺ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ نے اسے دیکھ کر اس سے گفتگو کی، مسیلہ نے آپ سے کہا اگر آپ چاہیں تو حکومت کو اپنے لیے مخصوص کر لیں اور اپنے بعد ہمیں دے دیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”اگر تو مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے نہ دوں اور میں وہ باتیں تجھ میں دیکھ رہا ہوں جو میں نے رویا میں دیکھی ہیں اور یہ ثابت بن قیس تجھے میری طرف سے جواب دے گا۔“

اور رسول کریم ﷺ واپس آگئے عبد اللہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکورہ رویا کے متعلق پوچھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے بتایا کہ میں نے نیند میں رویا دیکھی کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دو ٹنگن رکھے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور انہیں ناپسند کیا پس اللہ نے مجھے حکم دیا تو میں نے انہیں پھونک ماری تو وہ اڑ گئے تو میں نے ان کی تاویل کی کہ دو کذاب ظاہر ہوں گے۔

عبید اللہ بیان کرتے ہیں ان دونوں میں سے ایک عسی تھا جسے فیروز نے یمن میں قتل کیا اور دوسرا مسیلہ کذاب تھا۔

محمد بن اسحاق بیان کرتا ہے کہ بنی حنیفہ کا وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا جن میں مسیلہ بن ثمامہ بن کثیر بن حبیب بن الحارث بن عبد الحارث بن ہماز بن زہل بن الزول بن حنیفہ بھی تھا جس کی کنیت ابو ثمامہ تھی اور بعض کا قول ہے کہ ابو ہارون تھی اور اس نے رحمان نام رکھا ہوا تھا اور اسے رحمان الیمامہ کہا جاتا تھا اور جس روز وہ قتل ہوا اس کی عمر ایک سو پچاس سال تھی اور وہ کپڑے پر نیل بوٹے کے کئی طریقوں سے واقف تھا اور انڈے کو بوتل میں داخل کر دیتا تھا اور وہ پہلا شخص ہے جس نے یہ کام کیا اور وہ پرندے کے پر کاٹ کر انہیں جوڑ دیتا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ پہاڑ سے ایک ہرنی اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس کا دودھ دہتا ہے۔

۱ بخاری میں ام عبید اللہ بن عامر بن کریم بیان ہوا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ہم اس کے قتل کے بیان کے موقع پر اس کے کچھ حالات کا تذکرہ کریں گے۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ حارث بن ابی سفیان کے گھر تھا جو انصاری ایک عورت تھی پھر بنی نجار میں سے تھی اور ہمارے بعض علمائے اہل مدینہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ بنی حنیفہ اسے کپڑوں میں چھپا کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے اور رسول کریم ﷺ اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی جس کے سر پر پتے تھے پس جب وہ رسول کریم ﷺ کے پاس پہنچا اور وہ اسے کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھے تو آپ نے اس سے گفتگو کی اور سوالات کیے رسول کریم ﷺ نے اسے فرمایا:

”اگر تو مجھ سے کھجور کی یہ ٹہنی بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دوں گا۔“

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھ سے اہل یمامہ سے بنی حنیفہ کے ایک شیخ نے بیان کیا کہ اس نے اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کی تھیں اور اس کا خیال ہے کہ بنی حنیفہ کا وفد رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور وہ مسیلہ کو اپنی قیامگاہ میں پیچھے چھوڑ آئے اور جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے اس کے مقام کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم اپنے ایک ساتھی کو اپنی قیامگاہ اور سواریوں میں پیچھے چھوڑ آئے ہیں جو ہماری خاطر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے اسے بھی وہی حکم دیا جو لوگوں کو دیا تھا اور فرمایا:

”وہ تم سے مقام و منزلت کے لحاظ سے بڑا نہیں۔“

یعنی اپنے ساتھیوں کی جانیداد کی حفاظت کی وجہ سے رسول کریم ﷺ کی اس سے یہی مراد تھی راوی بیان کرتا ہے کہ پھر وہ رسول کریم ﷺ کے پاس سے واپس چلے گئے اور جو کچھ رسول کریم ﷺ نے اسے کہا تھا انہوں نے اسے بتایا پس جب وہ یمامہ پہنچے تو وہ دشمن خدا مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ان کی تکذیب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ شریک امر ہوں اور اس نے اپنے وفد کے ان آدمیوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا جب تم نے میرا ذکر ان کے سامنے کیا تو کیا آپ نے نہیں کہا کہ وہ تم سے مقام و منزلت کے لحاظ سے برا نہیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی تھی کہ انہیں علم تھا کہ میں آپ کے ساتھ شریک امر ہوں پھر وہ انہیں مسجع کلام اور قرآن کریم کے مشابہ باتیں سنانے لگا کہ:

”حاملہ عورت پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے اور اس سے ایک دوڑتی روح پیدا کی ہے جو چڑے کے نیچے کی جھلی اور

اندرون کے درمیان ہے اور ان کے لیے شراب اور زنا کو حلال کیا ہے اور نماز کو ان سے ساقط کر دیا ہے۔“

اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم ﷺ کے نبی ہونے کی شہادت بھی دیتا تھا پس بنو حنیفہ نے اس بات پر اس سے اتفاق

کر لیا ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون سی بات تھی۔

سہیلی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ رحال بن عنقوہ جس کا نام نہار بن عنقوہ تھا مسلمان ہو گیا اور اس نے کچھ قرآن بھی سیکھا اور کچھ عرصہ رسول کریم ﷺ کی صحبت میں بھی رہا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور فرات بن حیان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ رسول کریم ﷺ اس کے پاس سے گزرے اور انہیں فرمایا ”تم میں سے ایک کی ڈاڑھ ایک کی مانند آگ میں ہوگی۔“ پس وہ دونوں

بیتہ بنی خائف رہے یہاں تک کہ رحال، سیلمہ کے ساتھ مرتد ہو گیا اور اس نے اس کے لیے جھوٹی گواہی دی کہ رسول کریم ﷺ نے اسے امر میں شریک کیا ہے۔ اور جو قرآن اسے یاد تھا اس میں سے کچھ حصہ اسے پہنچا دیا۔ پس سیلمہ نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا جس سے بنی حنفیہ میں بڑا فتنہ پیدا ہوا۔ اور زید بن خطاب نے جنگ ینامہ میں اسے قتل کر دیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

سہلی بیان کرتے ہیں کہ سیلمہ کے مؤذن کوجیر کہتے تھے اور وہ جنگ کا منتظم تھا اور محکم بن طفیل اس کے سامنے تھا اور سجاح بھی ان کے ساتھ آ ملی جس کی کنیت ابو صادر تھی اور سیلمہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اور سیلمہ کے ان کے ساتھ نہایت برے حالات تھے اور سجاح کے مؤذن کا نام زہیر بن عمرو تھا اور بعض کا قول ہے کہ جنبہ بن طارق تھا۔ اور کہتے ہیں کہ شہت بن ربیع نے بھی اس کے لیے اذان دی تھی پھر وہ مسلمان ہو گیا اور وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہو گئی اور وہ اچھی مسلمان تھی۔

اور یونس بن کبیر، ابن اسحاق سے بیان کرتا ہے کہ سیلمہ بن حبیب نے رسول کریم ﷺ کو خط لکھا کہ:

”سیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، اما بعد! مجھے آپ کے ساتھ شریک امر کیا گیا ہے پس ہمارے اور قریش کے لیے نصف نصف حکومت ہے۔ لیکن قریش ایسی قوم ہے جو زیادتی نہیں کرتی۔“

پس آپ کے پاس دو ایلچی یہ خط لے کر آئے تو رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف لکھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سیلمہ کذاب کی طرف ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی ہو! اما بعد! زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام متقین کے لیے ہے۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ ۱۰ھ کے آخر کا ہے یعنی اس خط کے آنے کا۔

یونس بن کبیر، ابن اسحاق سے بیان کرتا ہے کہ مجھ سے سعید بن طارق نے عن سلمہ بن نعیم بن مسعود عن ابیہ بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ جب سیلمہ کذاب کے دو ایلچی خط لے کر آئے تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا:

”تم دونوں بھی وہی بات کہتے ہو جو وہ کہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں! آپ نے فرمایا تم بخدا اگر ایلچیوں کے قتل نہ کرنے کا اصول نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔“

ابوداؤد طیالسی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مسعودی نے عاصم سے عن ابی وائل عن عبد اللہ ابن مسعود بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ

ابن النواحة اور ابن اثال سیلمہ کذاب کے ایلچی بن کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے ان دونوں سے فرمایا:

”کیا تم دونوں گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ سیلمہ اللہ کا رسول ہے، رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور اگر میں ایلچی کو قتل کرنے والا ہوتا تو تم دونوں کو ضرور قتل کر دیتا۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پس اس وقت سے یہ طریق رائج ہو گیا کہ انبیوں کو قتل نہ لیا جائے۔
عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن زناں لو تو خدا تعالیٰ کافی ہو گیا اور ابن النواحہ نے سلعق ہمیشہ میرے دل میں خلجان رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی قدرت دے دی۔

حافظ تہمتی بیان کرتے ہیں کہ ثمامہ بن آخال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام لانے کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ باقی رہا ابن النواحہ تو ہمیں ابو زکریا بن ابواسحاق مزنی نے بتایا کہ ہمیں ابو عبداللہ محمد بن یعقوب نے خبر دی کہ ہم سے محمد بن عبدالوہاب نے بیان کیا کہ ہم سے جعفر بن عون نے بیان کیا کہ ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے قیس بن ابی حازم سے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بنی حنیفہ کی ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو وہ ایسی قرأت پڑھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ پر نہیں اتاری:

”اور قسم ہے اچھی طرح مینے والیوں کی اور آٹا گوندھنے والیوں کی اور روٹی پکانے والیوں کی اور شریہ^۱ بنانے والیوں کی اور لقمے لینے والیوں کی“۔

راوی بیان کرتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف آدمی بھیجا تو وہ انہیں لے آیا وہ ستر آدمی تھے جن کا لیڈر عبداللہ بن النواحہ تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا پھر آپ نے فرمایا ہم شیطان کو ان لوگوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے بلکہ ہم انہیں شام کی طرف بھیج دیتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ان کے مقابلہ میں ہمیں کافی ہو جائے۔

واقدی بیان کرتا ہے کہ بنی حنیفہ کا وفد س بارہ آدمیوں پر مشتمل تھا جن کا لیڈر سلمیٰ بن خطلہ تھا اور ان میں رحال بن عنقوہ، طلق بن علی، علی بن سنان، اور مسیلمہ بن حبیب کذاب بھی تھے اور یہ لوگ عارث کے بیٹی مسلمہ کے ہاں اترے اور اس نے ان کی ضیافت کی انہیں صبح و شام کا کھانا دیا جاتا تھا ایک دفعہ روٹی اور گوشت اور ایک دفعہ روٹی اور دودھ اور ایک دفعہ روٹی اور ایک روٹی اور گھی اور ایک دفعہ کھجوروں سے ان کی ضیافت ہوتی تھی پس جب وہ مسجد میں آئے تو مسلمان ہو گئے۔ اور مسیلمہ کو اپنی قیامگاہ میں پیچھے چھوڑ آئے اور جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے انہیں چاندی کے پانچ پانچ اوقیے عطیہ دیا اور مسیلمہ کو بھی ان کے مطابق عطیہ دیا۔ کیونکہ انہوں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ وہ ان کی قیامگاہ میں موجود ہے آپ نے فرمایا: ”وہ تم سے مقام و منزلت کے لحاظ سے برائیں“ پس جب وہ لوٹ کر اس کے پاس آئے تو رسول کریم ﷺ نے اس کے متعلق جو فرمایا تھا اسے بتایا تو وہ کہنے لگا: آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بعد حکومت میرے لیے ہے اور اس نے اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لیا یہاں تک کہ نبوت کا دعویٰ کیا واقدی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے اپنی چھاگل ان کے ساتھ بھیجی جس میں آپ کا بچا کھچا پاکیزہ پانی تھا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ان کے گرجے کو گرا دیں اور اس کی جگہ اس پانی کو چھڑکیں اور اسے مسجد بنا

۱ شریہ شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں۔ مترجم

لیں تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اور اسود عاصی کے قتل کا واقعہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے آخر میں آنے کا۔ اور سیمہ کذاب کے قتل اور بنی حنیفہ کے حالات حضرت صدیق ثنی عشرہ کے زمانے میں بیان ہوں گے۔

اہل نجران کا وفد:

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عباس بن الحسین نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن آدم نے عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن صلۃ بن زفر عن حدیفہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ:

نجران کے دو آدمی عاقب اور سید رسول کریم ﷺ کے پاس آئے وہ آپ پر لعنت کرنا چاہتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ایسا نہ کر قسم بخدا اگر وہ نبی ہے اور ہم نے اس پر لعنت کی تو نہ ہم کامیاب ہوں گے نہ ہمارے بعد ہماری اولاد کامیاب ہوگی۔ وہ دونوں کہنے لگے آپ ہم سے جو مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ایک امین آدمی کو بھیجیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور ایک صحیح امین آدمی کو بھیجوں گا پس آپ نے اس کے لیے اپنے اصحاب کو دیکھا اور فرمایا اے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جائیے پس جب وہ کھڑے ہو گئے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ اس امت کا امین ہے۔“

اور بخاری اور مسلم نے اسے اسی طرح شعبہ کی حدیث سے بحوالہ ابی اسحاق بیان کیا ہے اور حافظ ابو بکر بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابو عبیدہ اللہ حافظ اور ابو سعید محمد بن موسیٰ بن الفضل نے بتایا وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابو العباس محمد بن یعقوب نے بیان کیا کہ ہم سے احمد بن عبد الجبار نے بیان کیا کہ ہم سے یونس بن بکیر نے عن سلمہ بن یسوع عن ابیہ عن جدہ بیان کیا ہے کہ یونس بیان کرتا ہے کہ وہ نصرانی تھا اور مسلمان ہو گیا، اور رسول کریم ﷺ کے طس ۱ سلیمان کے نزول سے قبل نجران کی طرف حضرت ابراہیم اسحاق اور یعقوب رضی اللہ عنہم کے نام سے خط لکھا کہ محمد نبی رسول اللہ ﷺ کی طرف سے نجران کے اسقف کی طرف اسلام لاؤ تو تم محفوظ ہو جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ حضرت ابراہیم اسحاق اور یعقوب رضی اللہ عنہم کے معبود کی تعریف کرتا ہوں، اما بعد! میں تمہیں بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور بندوں کی دوستی سے اللہ کی دوستی کی طرف بلاتا ہوں، پس اگر تم نے انکار کیا تو تم پر جزیہ دینا لازم ہوگا اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں جنگ کا چیلنج دوں گا۔ والسلام

جب اسقف کے پاس خط آیا تو اس نے اسے پڑھا تو خاموش ہو گیا اور شدید خوفزدہ ہو گیا اور اس نے ایک نجرانی آدمی شرحبیل بن وداعہ کے پاس پیغام بھیجا جو ہمدان قبیلے سے تھا، اور جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ابراہیم عاقب اور سید کو اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا۔ پس اسقف نے رسول اللہ ﷺ کا خط شرحبیل کو دیا اور اس نے اسے پڑھا تو اسقف نے کہا اے ابو مریم تمہاری کیا رائے ہے؟ شرحبیل نے کہا آپ اس وعدے کو جانتے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم رضی اللہ عنہ سے حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ کی ذریت کی نبوت کے متعلق کیا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ وہی آدمی ہو۔ اور نبوت کے بارے میں میری کوئی رائے نہیں۔ اور

۱ اس سے مراد وہ سورت ہے جس میں آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔

اگر کوئی دنیاوی بات ہوتی تو میں اس کے بارے میں آپ کو اپنی رائے بتاتا اور آپ کے لیے ممکن حد تک کوشش کرتا۔ اسقف نے اسے کہا ہٹ کر بیٹھ جاؤ، پس شرحبیل ہٹ کر اس کے ایک جانب بیٹھ گیا تو اسقف نے ایک نجرائی آدمی عبداللہ بن شرحبیل کی طرف پیغام بھیجا اور وہ حمیر کے ذوالصبح قبیلے سے تھا اس نے اسے خط پڑھایا اور اس سے رائے طلب کی اس نے بھی اسے شرحبیل کی طرح جواب دیا تو اسقف نے اسے کہا ہٹ کر بیٹھ جاؤ تو وہ ہٹ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اور اسقف نے ایک نجرائی آدمی جبار بن فیض کی طرف پیغام بھیجا جو بنی حارث بن کعب سے بنی الحماص کا ایک آدمی تھا، پس اس نے بھی اسے خط پڑھایا اور اس سے رائے طلب کی اس نے بھی اسے شرحبیل کی طرح اور عبداللہ کی طرح ہی جواب دیا۔ تو اسقف نے اسے حکم دیا اور وہ ہٹ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، پس جب اس امر پر سب کی رائے متفق ہو گئی تو اسقف کے حکم سے ناقوس بجایا گیا اور گرجوں میں آگیاں اور ناٹ بلند کیے گئے اور جب وہ دن کو خوفزدہ ہوتے تھے تو وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جب وہ رات کو خائف ہوتے تو ناقوس بجاتے اور گرجوں میں آگ بلند ہوتی۔ پس جب ناقوس بجایا گیا اور ناٹ بلند ہوئے تو وادی کے بالائی اور نشیبی حصوں کے باشندے اکٹھے ہو گئے اور وادی کی لمبائی تیز رفتار سوار کے ایک دن کے سفر کے برابر تھی اور اس میں ۷۳ بستیاں اور بیس ہزار جانناز تھے، پس اس نے انہیں رسول کریم ﷺ کا خط پڑھ کر سنایا اور اس کے متعلق ان کی رائے پوچھی تو ان میں سے اہل الرائے نے متفقہ طور پر یہ رائے دی کہ شرحبیل بن وداعہ ہمدانی، عبداللہ بن شرحبیل صحیح اور جبار بن فیض حارثی کو بھیجا جائے۔ اور وہ ان کے پاس رسول اللہ ﷺ کی خبر لائیں۔

نجرائی وفد مدینہ میں:

راوی بیان کرتا ہے کہ وفد چلا گیا اور جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے سفر کے کپڑے اتار دیئے اور اپنے حلقے اور سونے کی انگوٹھیاں پہن لیں اور اپنی چادروں کو گھسیٹتے جاتے تھے، پھر وہ چلتے چلتے رسول کریم ﷺ کے پاس آگئے اور آپ کو سلام کہا تو آپ نے انہیں سلام کا جواب نہ دیا اور وہ دن بھر آپ سے بات کرنے کے درپے رہے مگر آپ نے ان سے بات نہ کی اور وہ حلقے اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ پھر وہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی تلاش میں گئے اور وہ ان دونوں کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے ان کو انصار و مہاجرین کی مجلس میں پایا تو کہنے لگے اے عثمان اور اے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما! آپ کے نبی نے ہماری طرف خط لکھا اور ہم ایسے جواب دینے آئے ہیں ہم نے آپ کو سلام کہا تو اس نے ہمیں سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور ہم دن بھر اس سے بات کرنے کے درپے رہے تو اس نے ہمیں بات کرنے سے درماندہ کر دیا۔ آپ دونوں کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ ہمیں واپس جانے کا مشورہ دیتے ہیں؟ تو ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا جو اس وقت مجلس میں موجود تھے، ابو الحسن! آپ کی ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے تو حضرت علی نے حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہما سے کہا کہ یہ ان حلوں اور انگوٹھیوں کو اتار دیں اور اپنے سفر کا لباس پہن لیں اور پھر آپ کے پاس جائیں تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور سلام کہا تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ میرے پاس پہنچی بارائے سچے اور اہلس نے ان کو روک دیا ہوا تھا پھر آپ نے ان سے سوالات کیے اور ان کے درمیان مسلسل سوال و جواب ہوتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی قوم کے پاس واپس جائیں گے اور ہم عیسائی ہیں اور اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں نوشی ہوگی کہ ہم آپ سے وہ بات سنیں جو آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا آج میرے پاس ان کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ آپ ٹھہریں یہاں تک کہ آپ کو وہ بات بتاؤں جو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے۔ اگلی صبح کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری:

”اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مانند ہے اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو! پس جو شخص تیرے پاس علم آجانے کے بعد تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بلائیں پھر گڑ گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔“

تو انہوں نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب رسول کریم ﷺ نے ان کو اطلاع دی تو آپ دوسرے دن صبح کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی چادر میں لپیٹے ہوئے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے ملاعنات کے لیے چل رہی تھیں اور ان دنوں آپ کی متعدد بیویاں تھیں۔ شہر چلی گئی۔ اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا آپ دونوں کو معلوم ہی ہے کہ جب وادی کے بالائی اور نشیبی علاقے کے لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے میری رائے سے اتفاق کیا تھا اور خدا کی قسم میں اس کام کو بڑا گراں سمجھتا ہوں اور خدا کی قسم اگر یہ شخص طاقتور بادشاہ ہے تو ہم اپنے عرب ہوں گے جو اس کے بھید میں طعن کریں گے اور اس کی بات کو رد کریں گے اور ہمارے اور اصحاب کے سینوں سے یہ بات زائل نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ ہمیں ہلاک نہ کر دیں اور ہم پڑوس کے لحاظ سے سب سے نزدیکی عرب ہیں۔ اور اگر یہ شخص مرسل نبی ہے اور ہم نے اس پر لعنت کی تو ہم روئے زمین سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے اسے کہا اے ابو مریم کیا رائے ہے اس نے کہا میں اپنی رائے کو پختہ کرنا چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ شخص کبھی ظالمانہ حکم نہیں دیتا تو ان دونوں نے کہا اب آپ اور وہ نپٹ لیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ شرحبیل رسول اللہ ﷺ سے ملا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ملاعنہ سے بہتر رائے قائم کی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا اس وقت سے رات تک اور رات سے صبح تک آپ کا حکم ہوگا اور آپ ہمارے بارے میں جو حکم دیں گے وہ جائز ہوگا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا شاید کوئی شخص تیرے پیچھے سے تمہیں برا کہے شرحبیل نے کہا میرے دونوں ساتھیوں سے پوچھ لیجئے۔ انہوں نے کہا تمام وادی شرحبیل کی رائے سے اتفاق کرتی ہے۔ تو رسول اکرم ﷺ واپس آگئے اور آپ نے ان سے ملاعنہ نہ کیا اور جب دوسرا دن ہوا تو وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو یہ تحریر لکھ کر دی:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ تحریر محمد نبی امی رسول اللہ نے نجران کے لیے لکھی: ہر پھل چاندی سونے اور غلام پر آپ کا حکم چلے گا پس آپ نے ان پر مہربانی کی

اور دو ہزار حلوں پر ان سب چیزوں کو پھوڑ دیا ہر رجب میں ایک ہزار حلہ اور ہر صفر میں ایک ہزار حلہ اور آپ نے تمام شروط کا ذکر کیا یہاں تک کہ ابوسفیان بن حرب غیلان بن عمرو بنی نصر کے مالک بن عوف اخرج بن حابس شخصی اور غیرہ رضی اللہ عنہم نے شہادت دی اور جب انہوں نے اپنی تحریر لے لی تو وہ نجران کو واپس ہوئے اور اسقف کے ساتھ اس کا ماں جایا بھائی بھی تھا اور نسبی لحاظ سے وہ اس کا عزا د بھی تھا جسے بشر بن معاویہ کہا جاتا ہے اور اس کی کنیت ابو علقمہ تھی پس وفد نے رسول اللہ ﷺ کا خط اسقف کو دیا جب وہ اسے پڑھ رہا تھا اور ابو علقمہ اس کے ساتھ تھا اور وہ دونوں چل رہے تھے کہ بشر کی ناقہ نے اسے گرا دیا اور بشر منہ کے بل گر گیا اور وہ رسول کریم ﷺ سے کنایہ نہیں کرتا تھا۔ اسقف نے اسے اس موقع پر کہا تو نبی مرسل ہو کر گر گیا ہے تو بشر نے اسے کہا بے شک خدا کی قسم میں جب تک رسول اللہ ﷺ کے پاس نہ جاؤں میں اس کا بندھن نہیں کھولوں گا۔ پس اس نے اپنی ناقہ کا منہ مدینہ کی طرف کر دیا اور اسقف نے بھی اپنی ناقہ اس کے پیچھے موڑ دی اور اسے کہا مجھ سے بات سمجھ لے میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی ہے کہ عربوں کو ہماری طرف سے یہ خدشہ لاحق ہو جائے گا کہ ہم نے ان کا حق لے لیا ہے یا ہم اس کی آواز سے راضی ہو گئے ہیں یا ہم نے اس آدمی سے وہ فائدہ اٹھایا ہے جسے عربوں نے نہیں اٹھایا حالانکہ ہم ان سے زیادہ معزز گھرانے والے ہیں پس بشر نے اسے کہا خدا کی قسم جو بات تیرے دماغ سے نکلے گی میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا اور بشر نے اسقف سے اپنی پشت پھیر کر اپنی ناقہ کو مارا اور یہ اشعار کہے:

”وہ تیری طرف چلتی ہے اور اس کا تنگ مضمحل ہے اور اس کے پیٹ میں اس کا جنین چوڑائی میں پڑا ہے اور اس کا دین نصاریٰ کے دین کے مخالف ہے۔“

یہاں تک کہ وہ رسول کریم ﷺ کے پاس آ گیا اور ہمیشہ آپ کے پاس رہا یہاں تک کہ اس کے بعد قتل ہو گیا راوی بیان کرتا ہے کہ نجران کا وفد آیا تو راہب بن ابی شمر زبیدی آیا جو اپنے گرجے کا سرخیل تھا تو اس نے اسے کہا۔ ایک نبی تمہامہ میں مبعوث ہوا ہے تو نجرانی وفد نے جو باتیں رسول کریم ﷺ سے کہیں وہ اسے بتائیں اور یہ کہ آپ نے ان پر ملاعنہ کو پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہ بشر بن معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس جا کر مسلمان ہو گیا ہے تو راہب نے کہا مجھے نیچے اتار دو ورنہ میں اس گرجے سے اپنے آپ کو گرا دوں گا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اسے نیچے اتارا اور وہ ہدیہ لے کر رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور اس میں وہ چادر بھی تھی جسے خلفاء زبیر بن جراح اور پیالہ اور عصا بھی تھا وہ کچھ عرصہ رسول کریم ﷺ کے پاس ٹھہر کر وحی کو سنتا رہا پھر اپنی قوم کے پاس واپس چلا گیا اور اس کے لیے اسلام لانا مقدر نہ تھا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ عنقریب واپس آئے گا۔ مگر رسول کریم ﷺ کی وفات تک اس کے لیے آنا مقدر نہ ہوا۔

اور اسقف ابو الحارث رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس کے ساتھ سید عاقب اور اس کی قوم کے سرکردہ لوگ بھی تھے پس وہ آپ کے پاس قیام کر کے آپ پر نازل ہونے والی وحی کو سنتے رہے اور آپ نے اسقف کو اور اس کے بعد نجران کے اسقف کو یہ خط لکھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نخبر نبی کی جانب سے اسقف ابو حارث اور نجران کی اساتذہ کہاں اور بیان اور ان تھوڑے سے بہت پیروکاروں کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی پناہ کو کوئی اسقف اور رابع اور کاہن تبدیل نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے حقوق اور اقتدار کا کوئی حق تبدیل کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی موجودہ پوزیشن کو تبدیل کیا جائے گا جب تک وہ اچھے کام نہیں لے اور مخلص رہیں گے اور ظلم میں مبتلا نہیں ہوں گے اور نہ ظالم بنیں گے۔ انہیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل رہے گی۔

اس تحریر کو منیرہ بن شعبہ نے لکھا۔

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ نجرانی عیسائیوں کا وفد ساٹھ سواروں پر مشتمل تھا اور چودہ آدمی ان کے ذمہ دار تھے جن میں عاقب جس کا نام عبدالمسح تھا سید جسے ابہم کہتے تھے۔ ابو حارث بن علقمہ اوس بن حارث زید قیس یزید بنیہ، خویلد عمرو خالد عبد اللہ اور محسن شامل تھے اور ان چودہ کا معاملہ ان میں تین اشخاص کی طرف لوٹا تھا اور وہ عاقب سید اور ابو حارث بن علقمہ تھے عاقب امیر قوم تھا اور ان میں صاحب الرائے اور صاحب مشورہ تھا اور وہ اس کی رائے سے حکم صادر کرتے تھے اور وہ ان کا بچاؤ و ماوی تھا اور ابو حارث بن علقمہ ان کا اسقف اور بہترین آدمی تھا اور وہ بکر بن وائل کے عرب قبیلے سے تھا لیکن نصرانی ہو گیا تھا، پس رومیوں نے اس کو بڑی عزت و عظمت دی اور اس کے لیے گرجے بنائے اور اس کو حاکم بنایا اور اس کی خدمت کی کیونکہ وہ اس کی دینی صلاحیت کو جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول کریم ﷺ کے حالات سے بھی باخبر تھا، لیکن شرف و جاہ نے اسے حق کی اتباع سے روک دیا۔

اور یونس بن کبیر ابن اسحاق سے بیان کرتا ہے کہ مجھے بریدہ بن سفیان نے عن ابن البیہمانی عن کرز بن علقمہ بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ:

نجرانی نصاریٰ کا وفد ساٹھ سواروں پر مشتمل آیا جن میں سے چوبیس آدمی ان کے اشراف تھے اور ان میں سے تین آدمی ان کے ذمہ دار تھے۔ عاقب سید اور ابو حارث جو بنی بکر کا ایک آدمی تھا اور ان کا اسقف اور استاد تھا اور انہوں نے اسے اپنے میں عظمت دی اور اسے حاکم بنایا اور اس کی عزت کی اور اسے بزرگی دی اور اس کے لیے گرجے بنائے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ ان کے دین کا عالم اور مجتہد ہے، پس جب وہ نجران سے چلے تو ابو حارث اپنے نچر پر بیٹھا اور اس کے پہلو میں اس کا بھائی کرز بن علقمہ چل رہا تھا اچانک ابو حارث کا نچر پھسل گیا تو کرز نے کہا بہت دور والا آدمی منحوس ہے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ تو ابو حارث نے اسے کہا کہ تو منحوس ہے، کرز نے اسے کہا اے بھائی کیوں؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہ نبی ہے جس کے ہم منتظر تھے، کرز نے اسے کہا، تجھے اس کے قبول کرنے سے کس بات نے روکا، حالانکہ تو اسے جانتا ہے، اس نے کہا جن لوگوں نے ہمیں عظمت دی ہے اور حاکم بنایا ہے اور ہماری خدمت کی ہے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ انہوں نے اس کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اگر میں ایسا کر لوں تو جو کچھ تو دیکھتا ہے یہ سب مجھ سے چھین لیں تو اس کے بھائی کرز نے یہ بات دل میں پوشیدہ رکھی۔ اور اس

کے بعد مسلمان ہو گیا۔

اور ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جب وہ نجد نبوی میں داخل ہوئے تو نو بسورت کپڑوں کے ساتھ داخل ہوئے اور نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا تو وہ کھڑے ہو کر مشرق کی طرف نماز پڑھنے لگے رسول کریم ﷺ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو اور ان کے Spoks Man ابو حارثہ بن علقمہ سید اور ماقب تھے یہاں تک کہ ان کے بارے میں سورہ آل عمران کی ابتدائی اور مبالغہ کی آیات نازل ہوئی تو انہوں نے مبالغہ سے انکار کر دیا۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے ساتھ ایک امین بھیجنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا جیسا کہ قبل ازیں بخاری کی روایت سے بیان ہو چکا ہے اور ہم نے بفضل خدا سورہ آل عمران کی تفسیر میں اسے مفصل لکھا ہے۔



بنی عامر کا وفد

اور عامر بن طفیل اور اربد بن مقیس کا واقعہ:

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بنی عامر کا وفد آیا جس میں عامر بن طفیل اربد بن مقیس بن جزء بن جعفر بن خالد اور جبار^۱ بن سلمی بن مالک بن جعفر بھی شامل تھے اور یہ تینوں قوم کے سردار اور شیاطین تھے اور دشمن خدا عامر بن طفیل رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور وہ آپ سے خیانت کرنا چاہتا تھا اور اس کی قوم نے اسے کہا اے ابو عامر لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو بھی مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس وقت تک باز نہیں آؤں گا جب تک عرب میری اتباع نہ کریں میں قریش کے اس جوان کی اتباع کروں؟ پھر اس نے اربد سے کہا اگر ہم اس آدمی کے پاس گئے تو میں اسے تجھ سے غافل کر دوں گا اور جب میں ایسا کروں تو تو اسے تلووار مارنا۔ پس جب وہ رسول کریم ﷺ کے پاس آئے تو عامر بن طفیل نے کہا اے محمد! مجھ سے دوستی کیجئے آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک دوستی نہ ہوگی جب تک تو خدائے واحد پر ایمان نہ لائے اس نے کہا اے محمد! مجھ سے دوستی کیجئے اور وہ آپ سے باتیں لگانے لگا اور اس نے اربد کو جو حکم دیا تھا اس کا انتظار کرنے لگا اور اربد کو کچھ نہ سوچتا تھا جب عامر نے اربد کی حالت دیکھی تو کہنے لگا اے محمد! مجھ سے دوستی کیجئے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک دوستی نہ ہوگی جب تک تو خدائے واحد پر ایمان نہ لائے جب رسول کریم ﷺ نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے کہا خدا کی قسم میں آپ کے خلاف پیادوں اور سواروں سے زمین کو بھر دوں گا اور جب وہ چلا گیا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”اے اللہ مجھے طفیل بن عامر کے مقابلہ میں کفایت کر۔“

پس جب وہ رسول کریم ﷺ کے پاس سے چلے گئے تو عامر بن طفیل نے اربد سے کہا میں نے تجھے کیا حکم دیا تھا خدا کی قسم روئے زمین میں تجھ سے بڑھ کر اپنی جان کے بارے میں خوف کھانے والا اور کوئی نہیں اور قسم بخدا میں آج کے بعد کبھی تجھ سے خوف زدہ نہ ہوں گا اس نے کہا تیرا باپ نہ رہے میرے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لے خدا کی قسم جو تو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے اس کے کرنے کا ارادہ کیا مگر تو میرے اور اس آدمی کے درمیان آ گیا یہاں تک کہ میں تیرے سوا کسی کو نہ دیکھتا تھا کیا میں تجھے تلووار مار دیتا؟

اور وہ اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے اور ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں طاعون پیدا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے بنی سلول کی ایک عورت کے ہاں اسے مار دیا اور وہ کہنے لگا:

۱ اصل میں حیان ہے۔

کیا بنی سول کی ایک عورت کے گھر میں اونٹ کے طاعون جیسی گلٹی؟ اور ابن ہشام بیان کرتا ہے کہ یہ سولہ کہا جاتا ہے کہ کیا اونٹ کے طاعون جیسی گلٹی اور سلولہ عورت کے گھر میں موت؟

اور حافظ بیہقی نے زبیر بن بکار کے طریق سے بیان کیا ہے کہ فاطمہ بنت عبد العزیز بن مولا نے مجھے اپنے باپ اور دادا مولا بن حمیل سے بتایا کہ عامر بن طفیل، رسول کریم ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے اسے فرمایا اے عامر! مسلمان ہو جا، اس نے کہا میں اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ میرے لیے دیہات ہوں گے اور آپ کے لیے شہر ہوں گے، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے پھر فرمایا مسلمان ہو جا، اس نے کہا میں اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ دیہات میرے لیے ہوں گے اور شہر آپ کے لیے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں اور وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اے محمد! میں زمین کو تیرے خلاف کم موگھڑوں اور بے ریش آدمیوں سے بھر دوں گا اور میں ضرور ہر کھجور کے درخت کے ساتھ گھوڑا باندھوں گا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”اے اللہ! مجھے عامر سے کفایت کر اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔“

پس وہ چلا گیا اور مدینہ کے علاقہ ہی میں تھا کہ اسے اپنی قوم کی ایک عورت ملی جسے سلولہ کہتے تھے، پس وہ اپنے گھوڑے سے اتر اور اس کے گھر میں سو گیا تو اس کے حلق میں ایک گلٹی نکلی تو وہ کود کر اپنے گھوڑے پر چڑھ گیا اور اپنا نیزہ پکڑ کر جولانی کرنے لگا اور وہ کہتا جاتا تھا۔ اونٹ کے طاعون کی طرح گلٹی اور سلولہ عورت کے گھر میں موت، پس مسلسل اس کی یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ مردہ ہو کر اپنے گھوڑے سے گر پڑا۔

اور حافظ ابو عمر بن عبد البر نے استیعاب میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اثناء میں اس مولا کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مولا بن کثیف الضبابی انکلابی العامری تھا جو بنی عامر بن صعصعہ میں سے تھا اور وہ بیس سال کی عمر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا اور اسلام کی حالت میں سوسال زندہ رہا اور اس کی فصاحت کی وجہ سے اسے ذواللسانین کہا جاتا تھا، اس سے اس کے بیٹے عبد العزیز نے روایت کیا ہے۔ اور اسی نے عامر بن طفیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اونٹ کی طرح طاعون کی گلٹی اور سلولہ عورت کے گھر میں موت۔

زبیر بن بکار بیان کرتے ہیں کہ ظمیا بنت عبد العزیز بن مولا بن کثیف بن حمیل بن خالد بن عمرو بن معاویہ نے جسے الضباب بن المدب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ کہتے ہیں، مجھ سے بیان کیا وہ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے اپنے باپ مولا کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بیس سال کی عمر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر مسلمان ہوا اور آپ کی بیعت کی تو آپ نے اس کے دائیں ہاتھ پر ہاتھ پھیرا اور وہ اپنے اونٹوں کو حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس لایا اور اس نے بنت لبون کا صدقہ دیا، پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور اسلام کی حالت میں ایک سوسال زندہ رہا اور اسے اس کی فصاحت کی وجہ سے ”ذواللسانین“ کہا جاتا تھا۔

میں کہتا ہوں بظاہر عامر بن طفیل کا واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ اگرچہ ابن اسحاق اور بیہقی نے اسے فتح مکہ کے بعد بیان کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ بیہقی نے حاکم سے بحوالہ ام بیان کیا ہے کہ ہمیں معاویہ بن عمرو نے خبر دی کہ ہم سے ابو اسحاق

فزاری نے عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بیڑ معونہ کے واقعہ میں بیان کیا ہے کہ عامر بن طفیل نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ماموں حرام بن ملحان کو قتل کر دیا۔ اور اصحاب بیڑ معونہ کے ساتھ خیانت کی یہاں تک کہ عمرو بن امیہ کے سوا وہ سب کے سب قتل ہو گئے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

عامر بن طفیل کے متعلق آنحضرت ﷺ کی بددعا:

اوزاعی یحییٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ تیس دن عامر بن طفیل کے لیے بددعا کرتے رہے کہ اللہ تو جس طرح چاہتا ہے مجھے عامر بن طفیل سے کفایت کر اور اس پر وہ چیز مسلط کر دے جو اسے قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ نے طاعون کو اس پر مسلط کر دیا اور ہمام سے ابن ملحان کے واقعہ میں عن اسحاق بن عبداللہ عن انس بیان کیا گیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عامر بن طفیل رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کو تین باتوں کے درمیان اختیار دیتا ہوں شہری لوگ آپ کے لیے ہوں گے اور دیہاتی میرے لیے ہوں گے اور میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ ہوں گا یا میں غطفان میں آپ کے ساتھ ایک ہزار سرخ گھوڑوں اور ایک ہزار سرخ گھوڑیوں کے ساتھ جنگ کروں گا راوی بیان کرتا ہے کہ اسے ایک عورت کے گھر میں طاعون ہو گئی تو اس نے کہا اونٹ کے طاعون کی طرح گلٹی اور فلاں خاندان کی عورت کے گھر میں موت میرا گھوڑا میرے پاس لاؤ پس وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جب اس کے ساتھیوں نے اسے دیکھا تو وہ موسم گرما میں بنی عامر کے علاقے میں آئے پس جب وہ آئے تو ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اربد تیرے پیچھے کیا ہے اس نے کہا کوئی چیز نہیں خدا کی قسم اس نے ہمیں ایک چیز کی عبادت کی طرف دعوت دی اور میں چاہتا ہوں کاش وہ اب میرے ساتھ ہوتا تو میں اسے اسی وقت تیر مار کر قتل کر دیتا اور اس بات کے ایک یا دو دن بعد وہ اپنا اونٹ فروخت کرنے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرائی جس نے ان دونوں کو جلا دیا۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ اربد بن قیس لبید بن ربیعہ کا ماں جایا بھائی تھا پس لبید نے اربد پر روتے ہوئے یہ اشعار کہے۔

”موت کسی سے نہیں چوکتی نہ مہربان والد سے اور نہ بیٹے سے میں اربد کے بارے میں موت سے ڈرتا تھا اور میں سماک اور اسد کے غروب ہونے سے خوفزدہ نہ تھا پس جب ہم کھڑے ہوئے اور عورتیں درمیان میں کھڑی ہوئیں تو تو کیوں اربد پر نہ روئی اگر وہ شور و غل کریں تو وہ ان کے شور و غل کی پرواہ نہیں کرتا یا وہ فیصلے میں میانہ روی اختیار کریں تو وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ شیریں اور دانا ہے اور اس کی شیرینی میں ایک کڑواہٹ ہے جو اندرون اور جگر سے چھٹ جاتی ہے۔ اے آنکھ تو اس وقت اربد پر کیوں نہ روئی جب موسم سرما کی ہواؤں نے مدد کی قسم کھائی تھی اور وہ درختوں کو باردار کرنے والی ہوائیں بن گئیں۔ یہاں تک کہ فوج کے کم مرتبہ لوگ نایاب ہو گئے وہ جنگل کے شیر سے زیادہ شجاع گوشت کا دلدادہ اور بلند یوں کا مشتاق اور جوان تھا۔ آنکھ اس کی پوری دلداگی کو اس شب معلوم نہیں کر سکتی جب

گھوڑے روندتے ہوئے شام کرتے ہیں، وہ نوحہ گردوں کو اپنے ماتم کو مجلس میں، نوجوان ہریوں کی طرف بے لیاہ زمین میں تھینے والا ہے۔ مجھے جنگ کے روز بجلیوں نے ایک بہادر شہ سوار کا دھدھ دیا ہے، جب وہ سیزھا چل کر آتا تھا تو وہ زبردست جنگجو ہوتا تھا اور اگر دشمن پلٹ پڑتا تو وہ بھی پلٹ پڑتا تھا۔ وہ غربت اور سوال سے یوں بڑھ جاتا تھا جیسے موسم بہار کی متوقع بارش فصل پیدا کرتی ہے۔ وہ تمام شریف زادوں کا ٹھکانہ تھا خواہ وہ کم تعداد میں ہوتے یا زیادہ، اگر وہ رشک کرتے تو خاکساری کرتے اور اگر کسی روز انہیں جنگ کا حکم دیا جاتا تو وہ ہلاکت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے۔“

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ لبید نے اپنے ماں جائے بھائی کے مرثیہ میں بہت سے اشعار کہے ہیں جنہیں ہم نے اختصار کے لیے چھوڑ دیا ہے اور جو اشعار ہم نے بیان کیے ہیں انہیں پراکتفا کر لیا ہے۔ واللہ الموفق للصواب۔

ابن ہشام بیان کرتا ہے اور زید بن اسلم نے عطاء بن یسار سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت:

”اللہ جانتا ہے جو ہر عورت اٹھاتی ہے اور ارحام جو کچھ کمی یا زیادتی کرتے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس اندازے کے مطابق ہے، وہ غیب و شہادت کا جاننے والا بڑا اور بلند ہے، جو تم میں سے بات کو چھپائے اور ظاہر کرے اور رات کو چھپے اور دن کو چلے برابر ہے اور اس کے آگے پیچھے باری باری پہرہ دینے والے ہیں جو امر الہی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی محمد ﷺ کی۔“

عامر اور اربد کے متعلق نازل فرمائی ہے۔

پھر آپ نے اربد اور اس کے قتل کے متعلق بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں اور نہ ہی اس کے سوا ان کو کوئی بچانے والا ہے۔ وہی ہے جو تم کو طمع و خوف کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بوجھل بادل پیدا کرتا ہے اور رعد اس کی حمد کے ساتھ اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بجلیوں کو بھیجتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بہت قوت والا ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ ہم نے ان آیات کے بارے میں بفضل خدا سورہ رعد میں گفتگو کی ہے۔ اور ہمیں وہ اسناد ملا ہے جس پر ابن ہشام نے حاشیہ آرائی کی ہے، پس ہم نے حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی سے اس کے معنی کبیر میں روایت کی ہے، جہاں وہ بیان کرتا ہے کہ ہم سے مسعد بن سعد عمار نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن المنذر الحزازی نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد العزیز بن عمران نے بیان کیا کہ مجھے زید کے بیٹوں عبد الرحمن اور عبد اللہ نے اپنے باپ سے عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ اربد بن قیس بن جزء بن خالد بن جعفر بن کلاب اور عامر بن طفیل بن مالک دونوں رسول کریم ﷺ کے پاس مدینہ آئے جب یہ دونوں آپ کے پاس پہنچے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دونوں آپ کے سامنے بیٹھ گئے، عامر بن طفیل کہنے لگا: اے محمد ﷺ، اگر

میں مسلمان ہو جاؤ تو آپ مجھے کیا دیں گے آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کو ملے گا وہ تمہیں بھی ملے گا اور جوان کے ذمہ ہو گا وہ تیرے ذمے بھی ہو گا عامر نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا اپنے بعد مجھے حکومت دیں گے رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ یہ تیرے اور تیری قوم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ تیرے لیے گھوڑوں کی لگا میں ہیں۔ اس نے کہا میں اس وقت نجد کے گھوڑوں کی لگاموں میں ہوں مجھے دیہات دے دیجیے اور آپ شہر لے لیجیے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا نہیں پس جب یہ دونوں آپ کے پاس سے واپس آئے تو عامر کہنے لگا، قسم بخدا میں آپ کے خلاف آپ کو گھوڑوں اور پیادوں سے بھر دوں گا رسول کریم ﷺ نے فرمایا تجھے اللہ تعالیٰ روک دے گا پس جب عامر اور اربد چلے گئے تو عامر نے کہا اے اربد میں محمد ﷺ کو باتوں میں لگا کر تجھ سے غافل کر دوں گا تو تو انہیں تلوار مار دینا، کیونکہ جب لوگوں نے محمد ﷺ کو قتل کر دیا تو وہ زیادہ سے زیادہ دیت پر راضی ہو جائیں گے اور جنگ کو ناپسند کریں گے تو ہم انہیں دیت دے دیں گے اربد نے کہا میں یہ کام کر دوں گا، پس وہ دونوں آپ کے پاس واپس آئے تو عامر نے کہا اے محمد ﷺ میرے پاس کھڑے ہو جائیے میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ رسول کریم ﷺ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پس دونوں ایک دیوار کے پاس چلے گئے اور رسول کریم ﷺ اس کے پاس کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرنے لگے اور اربد نے تلوار سونت لی اور جب اس نے تلوار پر اپنا ہاتھ رکھا تو تلوار کے قبضے پر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور وہ تلوار سونتنے کی سکت نہ پاسکا اور اربد نے ضرب لگانے میں تاخیر کر دی، پس رسول کریم ﷺ نے ملنقت ہو کر اربد اور اس کی حرکات کو دیکھا تو آپ ان دونوں کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اور جب اربد اور عامر رسول کریم ﷺ کے پاس سے چلے گئے اور واقم کی سیاہ سنگ زمین میں پہنچے تو دونوں اتر پڑے پس حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ عنہما ان دونوں کے پاس گئے اور کہا، خدا کے دشمنوں اللہ تم دونوں پر لعنت کرے چلے جاؤ عامر نے پوچھا اے سعد یہ کون ہے انہوں نے جواب دیا اسید بن الحضیر رضی اللہ عنہ، پس وہ دونوں چلے گئے اور جب واقم جگہ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اربد پر بجلی گرائی جس نے اس کا کام تمام کر دیا اور عامر جب سیاہ سنگ زمین میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیپ والا پھوڑا اسے نکالا جس نے اسے قابو کر لیا اور بنی سلول کی ایک عورت کے ہاں اسے رات آگئی اور وہ اپنے حلق کے پھوڑے کو چھونے اور کہنے لگا: ”ایک سلولہ عورت کے گھر میں اونٹ کے طاعون کی سی گلٹی“ وہ اس کے گھر میں مرنا نہیں چاہتا تھا پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور واپسی پر اس کی پشت پر مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں یہ آیت اتاری:

”اللہ جانتا ہے جو ہر عورت اٹھاتی ہے اور ارحام جو کچھ کی پیشی کرتے ہیں۔“ - الآیہ

پھر وہ اربد کا ذکر کرتا ہے اور جس چیز سے اس نے اسے قتل کیا تھا فرماتا ہے:

”اور وہ بجلیوں کو بھجتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے تکلیف دیتا ہے۔“ - الآیہ

اور اس سیاق میں اس واقعہ پر دلالت پائی جاتی ہے جو عامر اور اربد کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے اس لیے کہ اس میں

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

اور قبل ازیں طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ عنہ کے رسول کریم ﷺ کے پاس مکہ آنے اور اسلام قبول کرنے کا ذکر ہو چکا ہے اور

یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کس طرح نور بنا دیا پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس نے اسے ان کے کوڑے کے سرے پر تبدیل کر دیا۔ اور ہم نے اس بات کو اپنے موقع پر متصل بیان کر دیا ہے اس لیے اس کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی وغیرہ نے آیا ہے۔

ضمام بن ثعلبہ کا اپنی قوم کا قاصد بن کر آنا:

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ مجھ سے محمد بن ولید بن نوفیع نے بحوالہ کریم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو سعد بن بکر نے ضمام بن ثعلبہ کو رسول کریم ﷺ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا پس وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو مسجد کے دروازے پر بٹھایا پھر اس کا گھٹنا باندھا پھر مسجد میں آیا تو رسول کریم ﷺ اپنے اصحاب میں فروکش تھے اور ضمام ایک دلیر اور بالوں کی دو چوٹیوں والا آدمی تھا وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور رسول کریم ﷺ اپنے اصحاب میں بیٹھے تھے اس نے پوچھا تم میں پسر عبدالمطلب کون ہے؟ رسول کریم ﷺ نے جواب دیا میں پسر عبدالمطلب ہوں اس نے کہا اے محمد ﷺ آپ نے فرمایا جی اس نے کہا اے پسر عبدالمطلب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اور سوال میں کچھ دشمنی بھی کروں گا۔ آپ اسے محسوس نہ کریں آپ نے فرمایا میں اسے محسوس نہیں کروں گا تو جو کہنا چاہتا ہے کہہ اس نے کہا میں آپ کو آپ کے معبود اور آپ سے پہلے لوگوں کے معبود اور جو لوگ آپ کے بعد ہوں گے ان کے معبود کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا: ہاں بخدا! اس نے کہا میں آپ کو آپ کے معبود اور آپ سے پہلے لوگوں کے معبود اور جو لوگ آپ کے بعد ہوں گے ان کے معبود کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اس اکیلے کی پرستش کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم ان ہمسر شریکوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ہاں بخدا! اس نے کہا میں آپ کو آپ کے معبود اور آپ سے پہلے لوگوں کے معبود اور جو لوگ آپ کے بعد ہوں گے ان کے معبود کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم یہ پانچ نمازیں پڑھا کریں آپ نے فرمایا: ہاں! راوی بیان کرتا ہے کہ پھر وہ ایک ایک کر کے فرائض و سلام و زکوٰۃ و روزوں حج اور تمام احکام اسلام کے متعلق پوچھنے لگا۔ اور پہلے کی طرح ہر فریضہ پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دینے لگا اور جب وہ سوالات سے فارغ ہو گیا تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں ان فرائض کو ادا کروں گا اور جن باتوں سے آپ نے مجھے روکا ہے ان سے اجتناب کروں گا۔ نیز میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا پھر وہ اپنے اونٹ کے پاس واپس چلا گیا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر دو چوٹیوں والے نے سچ کہا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ راوی بیان کرتا ہے کہ وہ واپس اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس نے اس کے بندھن کو کھولا پھر چلا گیا حتیٰ کہ اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا تو وہ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ:

لات اور عزیٰ کا برابر ہو لوگوں نے کہا اے ضمام رک جا پھلہبہری جذام اور جنوں سے بچ اس نے کہا تم ہلاک ہو یہ دونوں

بت نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے اور اس پر ایک کتاب نازل کی ہے تم جس گراہی میں پھنسے ہو میں اس کے ذریعے تمہیں بچاؤں گا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے وعدہ لاشریک کے سوا کوئی مبودنہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور میں آپ کے ہاں سے وہ باتیں تمہارے پاس لانا ہوں جن کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے اور بن سے آپ نے تم کو منع کیا ہے راوی بیان کرتا ہے کہ قسم بخدا ابھی اس دن کی شام نہیں ہوئی تھی کہ وہاں جو مرد اور عورتیں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے ہم نے کسی قوم کے قاصد کو ضمام بن ثعلبہ سے افضل نہیں سنا۔ اور امام احمد نے بھی اس روایت کو ایسے ہی یعقوب بن ابراہیم زہری سے عن ابیہ عن ابن اسحاق بیان کیا ہے۔ اور ابوداؤد نے اس حدیث کو سلمہ بن الفضل کے طریق سے عن محمد بن اسحاق عن سلمہ بن کبیل و محمد بن ولید بن نوفیع عن کریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی طرح بیان کیا ہے۔ اس سیاق کلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فتح مکہ سے قبل اپنی قوم کے پاس واپس گیا تھا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عزمی کو فتح مکہ کے زمانے میں مسمار کیا تھا۔

واقندی بیان کرتا ہے کہ مجھ سے ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سبرہ نے شریک بن عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے عن کریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ: بنو سعد بن بکر نے رجب ۵ھ میں ضمام بن ثعلبہ کو بھیجا اور وہ دلیر اور بالوں کی دو چوٹیوں والا تھا، وہ قاصد بن کر رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور آ کر رسول کریم ﷺ کے پاس کھڑا ہو گیا اور آپ سے درشتی سے سوال کرنے لگا۔ اس نے آپ سے پوچھا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ اور کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اور اس نے آپ سے احکام اسلام کے متعلق پوچھا تو رسول کریم ﷺ نے اسے ان سب باتوں کا جواب دیا تو وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس گیا اور اس نے ہمسر شریکوں کو خیر باد کہہ دیا اور اس نے ان کو وہ باتیں بتائیں جن کا آپ نے ان کو حکم دیا تھا اور جن سے روکا تھا اور ابھی اس دن کی شام نہیں ہوئی تھی کہ وہاں جو مرد اور عورتیں موجود تھے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مساجد تعمیر کیں اور اذانیں دیں۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سے ہاشم بن القاسم نے بیان کیا کہ ہم سے سلیمان یعنی ابن المغیرہ نے عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم ﷺ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ پس ہمیں یہ بات اچھی لگتی کہ اہل بادیہ میں سے ایک سمجھ دار آدمی آپ سے سوال کرتا اور ہم سنتے پس اہل بادیہ میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: اے محمد ﷺ آپ کا ایلچی ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں یہ تصور دیا کہ آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے آپ نے فرمایا اس نے درست کہا ہے۔ اس نے کہا آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے، اس نے کہا زمین کو کس نے پیدا کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے، اس نے کہا ان پہاڑوں کو کس نے نصب کیا ہے اور ان میں جو کچھ بنایا ہے کس نے بنایا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے، اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور پہاڑوں کو نصب کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں! اس نے کہا آپ کے ایلچی کا خیال ہے کہ ایک دن رات میں ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں آپ نے فرمایا اس نے درست کہا ہے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں! اس نے کہا آپ کے ایلچی کا خیال ہے کہ ہمارے اموال میں زکوٰۃ بھی ہے آپ نے فرمایا اس نے

درست کہا ہے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں! اس نے کہا آپ کے ایلچی کا خیال ہے کہ سال میں ایک ماہ کے روزے ہم پر فرض ہیں آپ نے فرمایا اس نے درست کہا! اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں! اس نے کہا آپ کے ایلچی کا خیال ہے کہ استطاعت کی صورت میں ہم پر حج کرنا فرض ہے آپ نے فرمایا اس نے درست کہا ہے راوی بیان کرتا ہے پھر وہ چلا گیا اور کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں ان میں کچھ کمی بیشی نہیں کروں گا۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اگر اس نے حج کہا ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا“۔

اس حدیث کی صحیحین وغیرہما میں کثیر الفاظ و اسانید کے ساتھ بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما تخریج ہوئی ہے۔ اور مسلم نے اسے ابوالنضر ہاشم بن القاسم کی حدیث سے بروایت سلیمان بن مغیرہ بیان کیا ہے۔ اور بخاری نے اسے اپنے طریق سے معلق کہا ہے اور اسی طرح ایک دوسرے طریق سے اس کی تخریج کی ہے۔

امام احمد بیان کرتے ہیں ہم سے حجاج نے بیان کیا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے سعید ابی سعید نے بروایت شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر بیان کیا کہ اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ:

ہم رسول کریم ﷺ کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹ پر ایک آدمی آیا اور اس نے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھا پھر کہنے لگا تم میں محمد ﷺ کون ہیں اور رسول اللہ ﷺ ان کے درمیان تکیہ لگائے ہوئے تھے راوی بیان کرتا ہے ہم نے کہا یہ سفید رو آدمی جو تکیہ لگائے ہوئے ہے اس نے کہا اے پسر عزیزا! آپ نے فرمایا میں نے تجھے جواب دیا ہے اس نے کہا اے محمد ﷺ میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں اور سوالات میں آپ سے کچھ سختی کروں گا! اسے محسوس نہ کرنا! آپ نے فرمایا تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب اور جو لوگ آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کے رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ رسول کریم ﷺ نے جواب دیا ہاں بخدا! اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم سال میں ایک ماہ کے روزے رکھا کریں آپ نے فرمایا ہاں بخدا! اس آدمی نے کہا آپ جو تعلیم لائے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں اپنی قوم کا جو میرے پیچھے ہے ایلچی ہوں اور میں سعد بن بنی بکر سے ہوں اور میرا نام ضمام بن ثعلبہ ہے۔ اور بخاری نے اسے عبد اللہ بن یوسف سے عن لیث بن سعد عن سعید المقبری بیان کیا ہے اور اسی طرح ابوداؤد نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسے لیث سے روایت کیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ نسائی نے اسے ایک دوسرے طریق سے بھی لیث سے بیان کیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے اصحاب میں سے ابن عجلان وغیرہ نے مجھ سے عن سعید المقبری عن شریک بن انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے اور نسائی نے بھی اسی طرح اسے عبید اللہ العمری کی حدیث سے عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے اور شاید یہ حدیث دونوں طریق سے سعید المقبری سے مروی ہے۔

باب ۸

قبل ازیں ہم وہ روایت بیان کر آئے ہیں جسے امام احمد نے یحییٰ بن آدم سے عن حفص بن غمیث، عن واؤد بن ابی ہند عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ہجرت سے قبل مکہ میں ضداد الازدی کے رسول کریم ﷺ کے پاس آنے اور اس کے اور اس کی قوم کے اسلام لانے کے بارے میں بیان کیا ہے، جیسا کہ ہم نے مفصل طور پر بیان کر دیا ہے جس کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں۔

حضرت زید الخلیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ طی کا وفد:

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ طی کا وفد رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور ان میں زید الخلیل رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ان کے سردار تھے، پس جب یہ لوگ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور حضور ﷺ نے ان پر اسلام پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے اور جیسا کہ مجھ سے بنی طی کے بعض ان آدمیوں نے بیان کیا جن پر میں کوئی تہمت نہیں لگاتا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

عرب کے جس آدمی کی خوبی کا بھی مجھ سے ذکر کیا گیا، پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس خوبی سے کم تر ہی پایا سوائے زید الخلیل رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ وہ آدمی اس خوبی میں کوتاہ ہوتا تھا، پھر رسول کریم ﷺ نے ان کا نام زید الخیر رضی اللہ عنہ رکھا اور آپ نے انہیں زعفران اور دو زمینیں جاگیر دیں اور انہیں لکھ دیں، پس وہ رسول کریم ﷺ کے پاس سے اپنی قوم کی طرف جانے کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا: ”اگر زید مدینہ کے بخار سے بچ گیا تو وہ بہت بولنے والا ہوگا۔“ اور رسول کریم ﷺ نے حمی اور ام مدم کے سوا کوئی اور نام لیا تھا جو اسے معلوم نہیں، راوی بیان کرتا ہے کہ جب وہ نجد کے علاقے سے اپنے ایک پانی پر پہنچے جسے خردہ کہا جاتا تھا تو انہیں بخار نے آلیا اور انہوں نے بخار سے ہی وفات پائی اور جب انہوں نے موت کو محسوس کیا تو کہا۔

”کیا میں صبح کو اپنی قوم کے ساتھ مشارق کی طرف کوچ کرنے والا ہوں اور مجھے فردہ مقام کے ایک بلند گھر میں چھوڑ دیا جائے گا؟ آگاہ رہو کتنے ہی دن ہیں کہ اگر میں بیمار ہو جاتا تو بیمار دار میری تیمارداری کرتے جن سے میں نے کوشش کے ساتھ بھی شفاء نہیں پائی۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو آپ کی بیوی نے اپنی جہالت اور عقل و دین کی کمی کی وجہ سے ان کتابوں کو آگ سے جلادیا جو آپ کے پاس تھیں، میں کہتا ہوں کہ صحیحین میں ابو سعید سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یمن سے رسول کریم ﷺ کی طرف ایک سنہری چادر بھیجی تو رسول کریم ﷺ نے اسے چار آدمیوں حضرت زید الخلیل، حضرت علقمہ بن علائہ، حضرت اقرع بن حابس اور حضرت عقبہ بن بدر رضی اللہ عنہم کے درمیان تقسیم کر دیا اس حدیث کا ذکر عنقریب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یمن بھیجنے کے باب میں بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ

عدی بن حاتم طائی کا واقعہ

امام بخاریؒ نے صحیح میں طئی کے وفد اور عدی بن حاتم کی حدیث کو بیان کیا ہے، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ابو اعوانہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الملک بن عمیر نے عن عمرو بن حریث عن عدی بن حاتم بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دور میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ ایک ایک آدمی کا نام لے کر انہیں بلانے لگے، میں نے کہا یا امیر المؤمنین کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا: ہاں! آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب انہوں نے انکار کیا اور جب وہ پشت پھیر کر چلے گئے تو آپ آئے اور جب انہوں نے خیانت کی تو آپ نے وعدہ وفا کی اور جب یہ انجان بن گئے تو آپ نے پہچان لیا، حضرت عدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس وقت میں بے پرواہ تھا۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے مجھے جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق عدی بن حاتم کہا کرتے تھے، کہ جب میں نے رسول کریم ﷺ کے متعلق سنا تو عربوں میں مجھ سے بڑھ کر رسول کریم ﷺ سے نفرت کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں ایک عزت دار آدمی تھا اور نصرانی تھا اور میں اپنی قوم سے جو تھا حصہ لیا کرتا تھا اور میں اپنے خیال میں اپنے ایک دین پر قائم تھا اور میں اپنی قوم کا بادشاہ تھا، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے پس جب میں نے رسول کریم ﷺ کے متعلق سنا تو میں نے آپ سے نفرت کی اور میں نے اپنے ایک عربی غلام سے جو میرے اونٹوں کا چرواہا تھا۔ کہا تیرا باپ نہ رہے میرے لیے جلد رام ہونے والے مونٹے تازے اونٹ تیار کرو اور انہیں میرے قریب روک رکھو اور جب تو محمد ﷺ کی فوج کے متعلق سنے کہ آپ نے اس علاقے کو پامال کر دیا ہے تو مجھے اطلاع دینا تو اس نے ایسے ہی کیا۔ پھر وہ ایک دن صبح کو میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے عدی! جب محمد ﷺ کے سوار تیرے پاس آ جائیں گے تو تو کیا کرے گا اور جو کچھ تو نے کرنا ہے ابھی کر لے۔ اور میں نے جھنڈوں کو دیکھ لیا ہے، پس میں نے ان کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ محمد ﷺ کی فوجیں ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میرے اونٹوں کو میرے قریب کر تو اس نے انہیں قریب کیا اور میں نے اپنے بیوی بچوں کو سوار کر دیا، پھر میں نے کہا شام میں میرے دینی بھائیوں نصاریٰ کے پاس چلو، پس رشتہ دار چل پڑے اور میں نے حاتم کی ایک بیٹی کو شہر میں پیچھے چھوڑ دیا اور جب میں شام آ گیا تو میں نے وہاں اقامت اختیار کر لی اور رسول اللہ ﷺ کے سوار آئے تو حاتم کی بیٹی کو بھی گزند پہنچنے والوں کے ساتھ گزند پہنچا اور اسے طے کے قیدیوں کے ساتھ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور رسول کریم ﷺ کو میرے شام بھاگ جانے کی اطلاع مل چکی تھی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حاتم کی بیٹی کو مسجد کے دروازے کے کمرے میں رکھا گیا اور قیدیوں کو وہاں بند کیا جاتا تھا، رسول کریم ﷺ اس کے پاس سے گزرے تو وہ آپ کے پاس آئی اور وہ بڑی خوش گفتار عورت تھی۔

حاتم کی بیٹی بارگاہ رسالت میں:

کہنے لگی یا رسول اللہ ﷺ! باپ فوت ہو گیا ہے اور آنے والا غائب ہو چکا ہے مجھ پر احسان فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ پر

احسان فرمائے گا۔ آپ نے پوچھا تیرا آنے والا کون ہے؟ اس نے جواب دیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے بھائے والا وہ بیان کرتی ہے کہ آپ تشریف لے گئے اور مجھے چھوڑ گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو آپ میرے پاس سے گزرے میں نے آپ کو وہی بات کہی اور آپ نے بھی مجھے کل جیسا جواب دیا۔ وہ بیان کرتی ہے جب تیسرا دن آیا تو آپ میرے پاس سے گزرے اور میں مایوس ہو چکی تھی تو آپ کے پیچھے سے مجھے ایک آدمی نے اشارہ کیا کہ کھڑے ہو کر آپ سے بات کر، میں آپ کے پاس آگئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ باپ فوت ہو گیا ہے اور آنے والا غائب ہو چکا ہے مجھ پر احسان فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا۔ اس وقت تک جانے میں جلدی نہ کرنا جب تک تجھے اپنی قوم کے با اعتماد آدمی نہ مل جائیں تاکہ وہ تجھے تیرے ملک میں پہنچا دیں پھر تو مجھے اطلاع کرنا میں نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے مجھے آپ سے بات کرنے کا اشارہ کیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں پس میں تیار ہو گئی یہاں تک کہ بنی قضاء قبیلہ کے آدمی آگئے۔ وہ بیان کرتی ہے میں اپنے بھائی کے پاس شام جانا چاہتی تھی پس میں آئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری قوم کے کچھ لوگ آگئے ہیں مجھے ان پر اعتماد ہے اور وہ مجھے کفایت کریں گے وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے لباس پہنایا اور سواری دی، اخراجات دیئے اور میں ان کے ساتھ چل کر شام آگئی عدی بیان کرتے ہیں قسم بخدا میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے پانکی میں بیٹھی ہوئی ایک عورت کو دیکھا جو ہماری قوم کی طرف آرہی تھی وہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا حاتم کی بیٹی ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ وہی تھی پس جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ جائز طور پر کہنے لگی ارے ظالم اور رشتہ کو قطع کرنے والے تو اپنے بیوی بچوں کو لے آیا اور تو اپنے باپ کی اولاد اور شرم کو چھوڑ آیا۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا اے میری چھوٹی بہن اچھی باتیں کرو خدا کی قسم میرا کوئی عذر نہیں اور جو تو نے بیان کیا ہے میں نے وہ کام کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے پھر وہ اتری اور میرے ہاں قیام پذیر ہو گئی میں نے اسے کہا اور وہ ایک دانا عورت تھی۔ آپ کی اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے اس نے کہا خدا کی قسم میں دیکھ رہی ہوں کہ تو سرعت کے ساتھ اس کے پاس جائے گا۔ پس اگر یہ شخص نبی ہے تو اس کی طرف سبقت کرنے والے کے لیے فضیلت ہے اور اگر یہ بادشاہ ہے تو تو ہرگز یمن کی قوت میں نہیں رہے گا اب تم جانو اور تمہارا کام راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا خدا کی قسم میری بھی یہی رائے ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں رسول کریم ﷺ کے پاس مدینہ جانے کے لیے نکلا تو آپ کے پاس پہنچ گیا آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا کون شخص ہے۔ میں نے عرض کیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، تو رسول کریم ﷺ کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ اور قسم بخدا آپ مجھے گھر کی طرف لے جا رہے تھے کہ آپ کو ایک بڑی عمر کی ضعیف عورت ملی اور اس نے آپ کو ٹھہرایا اور آپ اس کی خاطر دیر تک کھڑے رہے اور وہ اپنی ضروریات کے متعلق آپ سے گفتگو کرتی رہی۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم یہ شخص بادشاہ نہیں ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر مجھے رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھ لے کر چل پڑے حتیٰ کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ نے چڑے کا ایک تکیہ جس میں خشک گھاس بھری ہوئی تھی لے کر میری طرف پھینکا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ میں نے عرض کیا آپ اس پر تشریف رکھیں۔ آپ نے فرمایا بلکہ آپ بیٹھیں پس میں بیٹھ گیا اور رسول کریم ﷺ

زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم یہ تو بادشاہوں والا کام نہیں پھر آپ نے فرمایا اے عدی بن حاتم! کیا تو رکوسی^۱ نہیں میں نے جواب دیا بے شک آپ نے فرمایا کیا تو اپنی قوم سے چوتھا حصہ نہیں لیتا میں نے کہا بے شک آپ نے فرمایا یہ بات تمہارے دین کی رو سے تمہارے لیے جائز نہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم بے شک راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا آپ یقیناً نبی مرسل ہیں جو بھولی بسری باتوں کو بھی جانتے ہیں پھر آپ نے فرمایا:

”اے عدی! شاید تجھے اس دین میں داخل ہونے سے مسلمانوں کی محتاجی روک رہی ہے اور قسم بخدا عنقریب ان میں بہت مال ہوگا یہاں تک کہ اسے لینے والا کوئی نہ ہوگا اور شاید تجھے ان کے دشمنوں کی کثرت اور ان کی قلت تعداد بھی اس میں داخل ہونے سے روک رہی ہے اور قسم بخدا تو عنقریب ایک عورت کے متعلق ضرور سنے گا کہ وہ اپنے اونٹ پر قادیسہ سے چلے گی اور بے خوف ہو کر اس گھر کی زیارت کرے گی اور شاید تجھے یہ بات بھی اس دین میں داخل ہونے سے روک رہی ہے کہ تو اقتدار اور حکومت دوسروں میں دیکھ رہا ہے اور قسم بخدا تو عنقریب ضرور سنے گا کہ بائبل کے سفید مخطات ان کے لیے مفتوح ہو جائیں گے۔“

راوی بیان کرتا ہے پس میں مسلمان ہو گیا اور عدی کہا کرتے تھے کہ دو باتیں تو پوری ہو چکی ہیں اور تیسری باقی رہ گئی اور خدا کی قسم وہ بھی ضرور پوری ہوگی اور میں نے بائبل کے سفید مخطات کو دیکھا کہ وہ مفتوح ہو گئے اور میں نے قادیسہ سے عورت کو اپنے اونٹ پر چلتے اور بے خوف ہو کر اس گھر کا طواف کرتے دیکھا اور خدا کی قسم تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی اور مال کی اس قدر بہتات ہوگی کہ اس کا لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔

اس عبارت کو ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس طرح بلا اسناد بیان کیا ہے اور دیگر وجوہ سے اس کے شواہد موجود ہیں امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے سماک بن حرب سے سنا کہ میں نے عباد ابن جہش کو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے سنا وہ بیان کرتا ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ کے سوار آئے تو میں عنقریب^۲ مقام پر تھا انہوں نے میری پھوپھی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور جب وہ انہیں رسول کریم ﷺ کے پاس لائے تو انہوں نے آپ کے سامنے صف بنائی اور میری پھوپھی کہنے لگی یا رسول اللہ آنے والا جدا ہو گیا ہے اور بچوں کا وقت بھی گزر گیا ہے اور میں ایک بوڑھی عورت ہوں میرا کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں مجھ پر احسان فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے گا آپ نے فرمایا تیرا آنے والا کون ہے؟ اس نے جواب دیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے اس نے کہا مجھ پر احسان فرمائیے۔ پس جب آپ واپس لوٹے تو آپ کے پہلو میں ایک آدمی تھا جو اس کی رائے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے اسے کہا آپ سے سواری مانگ راوی بیان کرتا ہے کہ

۱ نزاری اور صابیوں کے بین ایک دین کا نام ہے۔

۲ اصول میں ایسے ہی بیان ہوا ہے شاید یہ عنقریب ہے جو دمشق کا ایک ضلع ہے اور یمامہ کا ایک مقام ہے۔

احسان فرمائے گا۔ آپ نے پوچھا تیرا آنے والا کون ہے؟ اس نے جواب دیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا وہ بیان کرتی ہے کہ آپ تشریف لے گئے اور مجھے چھوڑ گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو آپ میرے پاس سے گزرے میں نے آپ کو وہی بات کہی اور آپ نے بھی مجھے کل جیسا جواب دیا۔ وہ بیان کرتی ہے جب تیسرا دن آیا تو آپ میرے پاس سے گزرے اور میں مایوس ہو چکی تھی تو آپ کے پیچھے سے مجھے ایک آدمی نے اشارہ کیا کہ کھڑے ہو اور آپ سے بات کر میں آپ کے پاس آگئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ باپ فوت ہو گیا ہے اور آنے والا غائب ہو چکا ہے مجھ پر احسان فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا۔ اس وقت تک جانے میں جلدی نہ کرنا جب تک تجھے اپنی قوم کے با اعتماد آدمی نہ مل جائیں تاکہ وہ تجھے تیرے ملک میں پہنچا دیں، پھر تو مجھے اطلاع کرنا، میں نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے مجھے آپ سے بات کرنے کا اشارہ کیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما ہیں، پس میں تیار ہو گئی یہاں تک کہ بنی قضاع قبیلہ کے آدمی آگئے۔ وہ بیان کرتی ہے میں اپنے بھائی کے پاس شام جانا چاہتی تھی، پس میں آئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری قوم کے کچھ لوگ آگئے ہیں مجھ ان پر اعتماد ہے اور وہ مجھے کفایت کریں گے وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے لباس پہنا اور سواری دی، اخراجات دیئے اور میں ان کے ساتھ چل کر شام آگئی، عدی بیان کرتے ہیں قسم بخدا میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے پالگی میں بیٹھی ہوئی ایک عورت کو دیکھا جو ہماری قوم کی طرف آ رہی تھی، وہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا حاتم کی بیٹی ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ وہی تھی، پس جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ جائز طور پر کہنے لگی، ارے ظالم اور رشتہ کو قطع کرنے والے تو اپنے بیوی بچوں کو لے آیا اور تو اپنے باپ کی اولاد اور شرم کو چھوڑ آیا۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا اے میری چھوٹی بہن اچھی باتیں کرو خدا کی قسم، میرا کوئی عذر نہیں، اور جو تو نے بیان کیا ہے میں نے وہ کام کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے پھر وہ اتری اور میرے ہاں قیام پذیر ہو گئی میں نے اسے کہا اور وہ ایک دانا عورت تھی۔ آپ کی اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے اس نے کہا خدا کی قسم میں دیکھ رہی ہوں کہ تو سرعت کے ساتھ اس کے پاس جائے گا۔ پس اگر یہ شخص نبی ہے تو اس کی طرف سبقت کرنے والے کے لیے فضیلت ہے اور اگر یہ بادشاہ ہے تو تو ہرگز یمن کی قوت میں نہیں رہے گا اب تم جانو اور تمہارا کام راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا خدا کی قسم میری بھی یہی رائے ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں رسول کریم ﷺ کے پاس مدینہ جانے کے لیے نکلا تو آپ کے پاس پہنچ گیا آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے سلام عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کون شخص ہے۔ میں نے عرض کیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما، تو رسول کریم ﷺ کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ اور قسم بخدا آپ مجھے گھر کی طرف لے جا رہے تھے کہ آپ کو ایک بڑی عمر کی ضعیف عورت ملی اور اس نے آپ کو ٹھہرایا اور آپ اس کی خاطر دیر تک کھڑے رہے اور وہ اپنی ضروریات کے متعلق آپ سے گفتگو کرتی رہی۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم یہ شخص بادشاہ نہیں ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر مجھے رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھ لے کر چل پڑے، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ نے چڑے کا ایک تکیہ جس میں خشک گھاس بھری ہوئی تھی لے کر میری طرف پھینکا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ، میں نے عرض کیا آپ اس پر تشریف رکھیں۔ آپ نے فرمایا بلکہ آپ بیٹھیں، پس میں بیٹھ گیا، رسول کریم ﷺ

اس نے آپ سے سواری کا سوال کیا تو آپ نے اس کے لیے سواری کا حکم دیا، عدی بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے پاس آگئی اور کہنے لگی تو نے ایک ایسا فعل کیا ہے جو تیرا باپ نہیں کیا کرتا تھا اور کہنے لگی آپ کے پاس خوف و رغبت کرتے ہوئے جاؤ فلاں فلاں شخص آپ کے پاس آیا تو اس نے آپ سے کچھ حاصل کیا، راوی بیان کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک عورت اور دو بچے یا ایک بچہ موجود ہے پس آپ نے اس سے اپنی قرابت کا ذکر کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کسریٰ اور قیصر کی طرح کے بادشاہ نہیں ہیں آپ نے فرمایا: اے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما! تجھے کس چیز نے بھگوڑا بنایا؟ کیا اس بات نے کہ یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تجھے کس بات نے بھگوڑا بنایا؟ کیا اس بات نے کہ اللہ کو سب سے بڑا کہنا پڑے گا۔ کیا کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے؟ پس میں مسلمان ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشارت آگئی ہے آپ نے فرمایا کہ مغضوب علیہم یہود ہیں اور الضالین نصاریٰ ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے پھر لوگوں نے آپ سے سوالات کیے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا: اے لوگو! تم اپنے بہت سے احسان سے تھوڑا سا احسان کرو جیسے ایک آدمی ایک صاع کے ساتھ صاع کا کچھ حصہ یا مٹھی بھر چیز حاصل کرتا ہے، شعبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک کھجور کے ساتھ کھجور کا ٹکڑا حاصل کرتا ہے اور بے شک تم میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ وہی بات کہے گا جو میں کہتا ہوں کہ کیا میں نے تجھے سچا سمجھنا نہیں بنایا تھا اور کیا میں نے تجھے مال اور اولاد نہیں دی تھی پس تو کیا لایا ہے؟ پس وہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھے گا اور کسی چیز کو نہیں پائے گا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے بغیر آگ سے نہیں بچ سکے گا۔ پس خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کر آگ سے بچنا پڑے آگ سے بچو اور اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو نرم بات کے ذریعے آگ سے بچو، میں تمہارے متعلق فاقہ سے نہیں ڈرتا اللہ تمہاری ضرورت مدد کرے گا اور وہ ضرورت تمہیں عطا کرے گا یا وہ ضرورت تمہیں فتوحات دے گا یہاں تک کہ عورت حیرہ اور یثرب کے درمیان سفر کرے گی حالانکہ عورت کے بارے میں چوری کا زیادہ خوف ہوتا ہے۔

اسے ترمذی نے شعبہ اور عمرو بن ابی قیس کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے سماک سے روایت کی ہے پھر کہا ہے کہ یہ حسن غریب ہے اور اسے ہم سماک کی حدیث کے سوا نہیں جانتے۔

اور اسی طرح امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یزید نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے عن ابی عبیدہ جسے ابن حذیفہ کہتے ہیں۔ عن رجل بیان کیا وہ بیان کرتا ہے میں نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما سے کہا، مجھے آپ کے متعلق ایک بات معلوم ہوئی ہے میں اسے آپ سے سننا چاہتا ہوں، اس نے کہا بہت اچھا:

جب مجھے رسول خدا ﷺ کے خروج کا علم ہوا تو میں نے آپ کے خروج کو بہت ناپسند کیا، پس میں بھی نکل کر روم کی ایک طرف آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں قیصر کے پاس آ گیا۔ اور میں نے اپنے اس مقام کو آپ کے خروج سے بھی بڑھ کر سخت ناپسند کیا اور میں نے کہا قسم بخدا کاش میں اس آدمی کے پاس چلا جاتا اور اگر وہ جھوٹا ہے تو مجھے اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا اور اگر سچا ہے تو مجھے معلوم ہو جائے گا، پس میں آپ کے پاس آیا اور جب میں آیا تو لوگوں نے کہا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما آیا ہے پس میں رسول کریم ﷺ کے پاس گیا تو آپ نے مجھے تین بار فرمایا: اے عدی بن حاتم! مسلمان ہو جاؤ تو محفوظ ہو جائے گا، میں نے جواب

دیا میں ایک دین کا پابند ہوں آپ نے فرمایا: میں تمہارے دین کو تم سے بہر طور پر جانتا ہوں میں نے کہا آپ مجھ سے بڑھ کر میرے دین کو جانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا کیا تو رکوسی نہیں اور نو اپنی قوم کا پوچھ حصہ بھی کھا جاتا ہے میں نے جواب دیا بے شک آپ نے فرمایا تمہارے دین کی رو سے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں جوں ہی آپ نے یہ بات کی میں نے سر تسلیم خم کر دیا آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جو چیز تجھے اسلام سے مانع ہے تو کہتا ہے کہ میں کمزور لوگوں کی اتباع کروں جنہیں کوئی قوت حاصل نہیں اور عربوں نے انہیں نکال باہر کیا ہے کیا تو حیرہ کو جانتا ہے؟ میں نے جواب دیا میں نے اسے نہیں دیکھا۔ البتہ میں نے اس کے متعلق سنا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امر کو پورا کرے گا یہاں تک کہ بغیر کسی کی پناہ کے ایک عورت حیرہ سے نکل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے ضرور فتح ہوں گے میں نے کہا ابن ہرمز کے خزانے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانے اور بالضرور اس قدر مال خرچ کیا جائے گا کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورت بغیر کسی کی پناہ کے حیرہ سے آ کر بیت اللہ کا طواف کرتی تھی اور کسریٰ کے خزانے فتح کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا اور مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی کیونکہ اسے رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔

پھر احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یونس بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے عن ابوب عن محمد بن سیرین عن ابی عبیدہ بن حذیفہ عن رجل بیان کیا اور حماد اور ہشام بن محمد بن ابی عبیدہ سے روایت کرتے ہیں اور اس نے کسی آدمی کا ذکر نہیں کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ:

میں لوگوں سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی بات دریافت کرتا تھا اور وہ میرے پہلو میں تھے اور میں ان سے دریافت نہیں کرتا تھا راوی بیان کرتا ہے کہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ساری بات بیان کی۔ اور حافظ ابوبکر تیمتی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابو عمرو و ادیب نے خبر دی کہ ہمیں ابوبکر اسماعیلی نے خبر دی کہ مجھے حسن بن سفیان نے بتایا کہ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہمیں نصر بن شمیث نے خبر دی کہ ہمیں سعد طائی نے خبر دی کہ ہمیں محل بن خلیفہ نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ:

میں رسول کریم ﷺ کے پاس موجود تھا کہ ایک آدمی نے آ کر آپ سے فاقہ کی شکایت کی اور ایک دوسرے آدمی نے آپ کے پاس آ کر ہزنی کی شکایت کی آپ نے فرمایا اے عدی! کیا تم نے حیرہ کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اسے نہیں دیکھا لیکن مجھے اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو بالضرور تو عورت کو حیرہ سے سفر کر کے کعبہ کا طواف کرتے دیکھے گا اور وہ اللہ کے سوا کسی سے خائف نہ ہوگی راوی بیان کرتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ طئی کے خبیث لوگ جنہوں نے ملکوں میں ہدی کی اشاعت کی ہے اور اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو بالضرور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے میں نے عرض کیا کسریٰ بن ہرمز آپ نے فرمایا کسریٰ بن ہرمز اور اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو تو دیکھے گا کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا اور وہ اسے قبول کرنے والے کو تلاش کرے گا مگر وہ کسی آدمی کو اسے قبول کرتا نہیں پائے گا۔ اور بالضرور

تہارا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے باتوں کے رہنما بنا گیا کہ کہہ اور ان دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا جس وہ اپنے دامن طرف دیکھے گا تو اسے جہنم کے سوا کچھ نکلنے کا اور وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اسے جہنم کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ عدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے سنا، خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کر آگ سے بچنا پڑے آگ سے بچو اور اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو اچھی بات لے کر آگ سے بچو عدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عورت کو دیکھا کہ وہ کوفہ سے سفر کر کے بیت اللہ کا طواف کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا خوف نہ ہوتا تھا اور جن لوگوں نے کسریٰ کے خزانوں کو فتح کیا ان میں میں بھی شامل تھا اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم عنقریب ان باتوں کو دیکھو گے جو حضرت ابو القاسم ﷺ نے فرمائی ہیں۔

اور امام بخاری نے اسے محمد بن الحکم سے عن نصر بن شمیل پوری طوالت کے ساتھ بیان کیا ہے اور انہوں نے اسے ایک اور طریق سے بھی عن سعدان بن بشر عن سعد ابی مجاہد الطائی عن محل بن خلیفہ عن عدی بیان کیا ہے اور امام احمد اور نسائی نے اسے شعبہ کی حدیث سے عن سعد ابی مجاہد الطائی بیان کیا ہے اور جن لوگوں نے عدی رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا ہے ان میں سے عامر بن شریحیل الشعفی نے بھی اسے اسی طرح بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے خائف نہ ہوگی اور بھیڑ یا اس کی بکریوں میں ہوگا اور صحیح بخاری میں شعبہ کی حدیث سے ثابت ہے اور مسلم کے نزدیک زہیر بن معاویہ کی حدیث سے اور دونوں نے عن عبد اللہ بن معقل بن مقرن مرفی عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

”خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کر آگ سے بچنا پڑے آگ سے بچو۔“

اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں:

”جو شخص تم میں سے آگ سے آڑ لینے کی استطاعت رکھے اسے خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کر آڑ لینے پڑے وہ ایسا کر لے۔“

اور ایک دوسرے طریق میں شاید بھی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں خبر دی کہ مجھ سے ابو بکر بن محمد بن عبد اللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے ابو سعید عبید بن کثیر بن عبد الواحد کوئی نے بیان کیا کہ ہم سے ضرار بن صرد نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم بن حمید نے، عن ابو حمزہ ثمالی، عن عبد الرحمن بن جندب عن کمیل بن زیاد نخعی بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اے اللہ! تو پاک ہے، بہت سے لوگ بھلائی سے کس قدر بے رغبت ہیں۔ اس شخص پر تعجب ہے جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی کسی ضرورت کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو بھلائی کا اہل نہیں سمجھتا، پس اگر وہ ثواب کا امیدوار نہ بھی ہوتا اور نہ اسے عذاب کا خوف ہوتا تب بھی اسے چاہیے تھا کہ وہ مکارم اخلاق کی طرف جلدی کرتا بلاشبہ یہ کامیابی کی راہ بتاتے ہیں۔“

پس ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر کہا، یا امیر المؤمنین! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے اس بات کو رسول کریم ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا ہاں اور اس سے بہتر بات کو بھی سنا ہے۔ اور وہ یہ کہ جب طے کے قیدی آئے تو ایک

سیاہی مائل سرخ رنگ، بہادر، دراز گردن، بلند بینی، میانہ قد و قامت، پر گوشت ٹخنوں اور پنڈلیوں، والی، ملی ہوئی، رانوں، والی، باریک کمر اور نحیف پہلوؤں والی اور پشت کے دونوں پہلوؤں کو چکائے ہوئے، ایک لڑکی کھڑی ہو گئی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ سے مطالبہ کرنے جاؤں گا کہ آپ اسے میرے غنیمت کے حصے میں رکھ دیں اور جب اس نے گفتگو کی تو میں اس کی فصاحت کے مقابلہ میں اس کے حسن و جمال کو فراموش کر بیٹھا، اس نے کہا اے محمد ﷺ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آپ ہمیں آزاد کر دیں اور عرب کے قبائل ہمارا مذاق نہ اڑائیں تو میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ قابل حفاظت چیزوں کی حفاظت کیا کرتا تھا اور قیدیوں کو چھڑاتا تھا اور بھوکے کو سیر کرتا تھا اور برہنہ آدمی کو لباس دیتا تھا اور مہمان کی مہمان نوازی کرتا تھا اور کھانا کھلاتا تھا اور سلام کو رواج دیتا تھا، اور اس نے کبھی کسی حاجت مند کو واپس نہیں کیا، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، رسول کریم ﷺ نے فرمایا، اے لڑکی حقیقت میں یہ مومنین کی صفات ہیں، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر مہربانی کرتے، اسے آزاد کر دو، اس کا باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا اور اللہ بھی مکارم اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ پس ابو بردہ بن دینار نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ بھی مکارم اخلاق کو پسند کرتے ہیں، آپ نے فرمایا:

”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی شخص حسن اخلاق کے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگا۔“

یہ حدیث حسن المثنیٰ غریب الاسناد اور عزیز المخرج ہے۔ اور ہم نے حاتم طائی کے حالات کا تذکرہ جاہلیت کے زمانے میں اس مقام پر کیا ہے جہاں ہم نے مشہور سرداروں کی مدت کا ذکر کیا ہے اور حاتم لوگوں کے ساتھ جن مکارم اور احسانات سے پیش آتا تھا اس کا فائدہ اسے آخرت میں ایمان سے مختص ہو کر ملے گا اور وہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جس نے عمر بھر میں ایک دن بھی نہیں کہا کہ اے میرے رب جزا سزا کے دن میری خطاؤں کو بخش دے۔

اور اوقدی کا خیال ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ۹ھ کے ربیع الآخر میں طلی کے علاقے میں بھیجا تھا، اور آپ قیدیوں میں اپنے ساتھ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کو بھی لائے۔ نیز آپ دولتواریں بھی آپ کے پاس لائے جو بت خانے میں پڑی تھیں جن میں سے ایک کو سوب اور دوسری کو مخدّم کہا جاتا تھا، حارث بن ابی ثمر نے ان دونوں تلواروں کو اس بت کی خدمت میں بطور نذر پیش کیا تھا۔

دوس اور طفیل بن عمرو کا واقعہ:

اور ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے ابن ذکوان یعنی عبداللہ بن زیاد سے، عن عبدالرحمن اعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل بن عمرو رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ دوس ہلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے نافرمانی اور انکار کیا ہے، آپ اللہ سے ان کے لیے بددعا کریں، آپ نے فرمایا: اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔

امام بخاری اس طریق سے اس حدیث کے بیان میں منفرد ہیں، پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن العلاء نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہ ہم سے اسماعیل نے قیس سے بحوالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں

رسول کریم ﷺ کے پاس آیا تو میں نے راستے میں یہ شعر کہا۔

”اس رات کی درازی اور دشواری کا کیا کہنا، مگر اس نے دارالفر سے نجات دی ہے۔“

اور راستے میں میرا ایک غلام بھاگ گیا، پس جب میں حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور میں نے آپ کی بیعت کر لی تو ابھی میں آپ کے پاس ہی تھا کہ وہ غلام آ گیا تو رسول کریم ﷺ نے مجھے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ تمہارا غلام ہے میں نے عرض کیا وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر آزاد ہے۔ پس میں نے اسے آزاد کر دیا۔ امام بخاری اسماعیل بن ابی خالد کی حدیث سے اسے قیس بن ابی حازم سے روایت کرنے میں منفرد ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے جسے بخاری نے طفیل بن عمرو کی آمد کے متعلق بیان کیا ہے اور اس کی آمد ہجرت سے قبل ہوئی تھی، اور اگر وہ ہجرت سے پہلے آیا تھا تو وہ فتح سے پہلے آیا تھا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوس کے ساتھ آئے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آمد اس وقت ہوئی تھی جب رسول کریم ﷺ خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سفر کے فتح کے بعد رسول کریم ﷺ کے پاس خیبر پہنچے تو آپ نے انہیں کچھ مال غنیمت دیا اور قبل ازیں ہم اس واقعہ کو اپنے موقع پر مفصل بیان کر چکے ہیں۔

اشعریوں اور اہل یمن کی آمد:

پھر شعبہ کی حدیث سے عن سلیمان بن جبران الاعمش عن ذکوان ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی گئی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

”تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں جو بہت نرم دل ہیں، ایمان کا ہے اور حکمت یمانی ہے، اور فخر و تکبر اونٹوں والوں میں ہوتا ہے اور سکینت و وقار بکریوں والوں میں ہوتا ہے۔“

اسے مسلم نے شعبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے، پھر بخاری نے اسے ابوالیمان سے عن شعیب عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ سے بیان کیا ہے کہ:

”تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں جو بڑے نرم دل ہیں، فقہ یمن کا ہے اور حکمت یمانی ہے۔“

پھر انہوں نے اسماعیل سے عن سلیمان بن ثور عن ابی المغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

”ایمان یمن کا ہے اور فتنہ اس مقام پر ہے اور یہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔“

اور مسلم نے اسے شعیب سے عن زہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے، پھر بخاری نے شعبہ کی حدیث سے عن اسماعیل عن قیس بن ابن مسعود بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

”ایمان اس جگہ پر ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا، اور بد اخلاقی اور سنگدلی چرواہوں میں ہوتی ہے، جو اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس رہتے ہیں، جہاں سے شیطان کے دو سینگ (ربیعہ اور مضر) نمودار ہوں گے۔“

اسے بخاری نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور مسلم نے اسماعیل بن ابی خالد کی حدیث سے عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود عقبہ

بن عمرو روایت کیا ہے۔ پھر سفیان ثوری کی حدیث سے سن ابی صخرہ جاثع بن شداد روایت بیان کی گئی ہے کہ ہم نے مننون بن حمرز نے بحوالہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ:

”بنو تمیم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا: اے بنی تمیم تمہیں بشارت ہو انہوں نے کہا اگر آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو ہمیں عطا فرمائیے، پس رسول کریم ﷺ کا چہرہ متغیر ہو گیا، راوی بیان کرتا ہے، پھر اہل یمن سے کچھ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا بشارت کو قبول کرو جبکہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم نے قبول کیا۔“

ترمذی اور نسائی نے اسے ثوری کی حدیث سے روایت کیا ہے یہ سب احادیث اہل یمن کے وفد کی فضیلت پر دال ہیں اور ان میں ان کی آمد کے وقت سے تعرض نہیں کیا گیا، اور بنو تمیم بھی آئے اگرچہ ان کی آمد متاخر ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی آمد اشعریوں کی آمد کے ساتھ ہو بلکہ اشعریوں کا وفد اس سے پہلے آیا ہے اور وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور آپ کے ان مہاجر ساتھیوں کی صحبت میں آئے تھے جو حبشہ میں تھے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم ﷺ نے خیبر کو فتح کیا جیسا کہ قبل ازیں اس کے موقع پر ہم اسے مفصل بیان کر چکے ہیں، اور آپ کا یہ قول بھی بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”قسم بخدا! مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں باتوں یعنی فتح خیبر یا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی آمد میں سے مجھے کس کی زیادہ خوشی ہے۔“

عمان اور بحرین کا واقعہ:

قتیبہ بن سعید نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن المنکدر سے سنا کہ اس نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا کہ:

”اگر بحرین کا مال آیا تو میں ضرور تجھے اس طرح عطا کروں گا اور آپ نے یہ بات تین بار فرمائی، مگر بحرین کا مال نہ آیا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی، پس جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مال آیا تو آپ نے منادی کو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جس شخص کا حضرت نبی کریم ﷺ کے ذمے کوئی قرض یا وعدہ ہو تو وہ میرے پاس آ جائے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ:

اگر بحرین کا مال آیا تو میں ضرور تجھے اس طرح عطا کروں گا، آپ نے یہ بات تین بار فرمائی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے منہ موڑ لیا، اس کے بعد پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور میں نے ان سے مطالبہ کیا مگر آپ نے مجھے کچھ نہ کہا میں پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے کچھ نہ دیا پھر میں تیسری دفعہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے کچھ نہ دیا، میں نے آپ سے کہا میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے کچھ نہ دیا، میں پھر آیا تو آپ نے کچھ نہ دیا۔ پس یا تو آپ مجھے دیں اور یا مجھ سے بخل کریں راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا مجھ سے بخل کیجیے۔ آپ نے تین بار فرمایا، بخل سے بڑی

بیماری کون سی ہے میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو منع نہیں کیا مگر میں آپ کو اس طرح دینا چاہتا تھا۔

بخاری نے اس موقع پر اسے ایسے ہی روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے عن عمرو الناقد عن سفیان بن عیینہ بیان کیا ہے پھر اس کے بعد امام بخاری عمرو سے بحوالہ محمد بن علی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ میں ان کے پاس گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا انہیں گنو میں نے انہیں گنا تو پانچ سو پایا۔ آپ نے فرمایا دو دفعہ اتنے لے لو اور بخاری نے اسے اسی طرح عن علی بن المدینی عن سفیان یعنی ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن محمد بن علی ابی جعفر الباقری عن جابر قتیبہ کی روایت کی طرح بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اسے بخاری اور مسلم نے دیگر طریق سے عن سفیان بن عیینہ عن عمرو بن محمد بن علی عن جابر بیان کیا ہے اور اس کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اسے حکم دیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دراہم اکٹھے کر لیے اور انہیں گنا تو وہ پانچ ہزار تھے تو آپ نے اسے دو دفعہ دگنے دراہم دیئے اور آپ نے مجموعی طور پر انہیں پندرہ سو دراہم دیئے۔

فروہ بن مسیک مرادی کی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آمد:

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ فروہ بن مسیک مرادی ملوک کندہ کو چھوڑ کر اور ان سے دور ہو کر رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور اسلام کی آمد سے تھوڑا عرصہ قبل اس کی قوم مراد اور ہمدان کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی تھی جس میں ہمدان کو اس کی قوم سے گزند پہنچا حتیٰ کہ انہوں نے انہیں خوب قتل کیا اور یہ سب اس دن ہوا جسے ”الروم“ کہا جاتا ہے۔ اور اجذع بن مالک ہمدان کو ان کے مقابلہ میں لے آیا۔ ابن ہشام بیان کرتا ہے کہ اسے مالک بن خریم الہمدانی کہا جاتا ہے ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ فروہ بن مسیک نے اس روز یہ اشعار کہے۔

”ہم بے وقوفوں کے پاس سے گزرے تو ان کی آنکھیں اندر دھنسی بڑی تھیں اور وہ ہم سے ہٹ کر لگا میں کھینچ رہے تھے۔ پس اگر ہم غالب آجائیں تو ہم قدیم سے غالب آنے والے ہیں اور اگر مغلوب ہو جائیں تو ہم مغلوب رہنے والے نہیں اور ہماری فطرت میں بزدلی موجود نہیں، لیکن ہماری موتیں دوسروں کا کھا جائیں۔ زمانہ اسی طرح پانے پلٹتا رہتا ہے اور اس کی گردشیں وقتاً فوقتاً ہم پر حملے کرتی رہتی ہیں، کبھی ہم اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، خواہ اس کی آسائش برسوں خلط ملط رہے اور جب زمانے کے حملے منقلب ہو جائیں تو وہ ان میں ایسے لوگوں کو پائے گا جو پس جانے کو پسند کرتے ہیں، پس جوان میں سے گردش روزگار پر رشک کرتا ہے تو وہ گردش روزگار کو خیانت کرنے والا پائے گا، پس اگر بادشاہ ہمیشہ رہے ہیں تو ہم بھی ہمیشہ رہیں گے اور اگر شریف لوگ زندہ رہے ہیں تو ہم بھی زندہ رہیں گے اور انہوں نے میری قوم کے سرداروں کو ایسے ہی فنا کر دیا ہے جیسے انہوں نے پہلے لوگوں کو فنا کیا ہے۔“

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جب فروہ بن مسیک، ملوک کندہ کو چھوڑ کر رسول کریم ﷺ کے پاس آیا تو اس نے کہا۔

”میں نے جب ملوک کندہ کو دیکھا کہ انہوں نے اس ٹانگ کی طرح جو عرق النساء کے باعث دوسری ٹانگ سے خیانت کرتی ہے، منہ موڑ لیا ہے تو میں نے اپنی اونٹنی کو محمد ﷺ کے پاس جانے کے ارادے سے قریب کیا اور میں اس کے

منافع اور اس کے حسن ثروت کا امیدوار تھا۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ جب فروہ رسول کریم ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے فرمایا: اے فروہ میری اطلاع کے مطابق کیا جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس نے تمہیں دکھ دیا ہے تجھے ”الروم“ کی جنگ نے سیدھا کر دیا ہے۔ فروہ نے کہا یا رسول اللہ! کون ایسا شخص ہے جس کی قوم کو یوم الروم جیسی تکلیف پہنچے اور اسے دکھ نہ ہو رسول کریم ﷺ نے اسے فرمایا۔ اگر ایسی بات ہے تو تیری قوم کو اسلام میں زیادہ بھلائی ہوگی اور آپ نے اسے مراد زبید اور تمام مذبح پر عامل مقرر کر دیا اور خالد بن سعید کو اس کے ساتھ صدقہ کی وصولی کے لیے بھیجا اور وہ اس کے علاقے میں اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے۔

زبید کے آدمیوں کے ساتھ عمرو بن معدیکرب کی آمد:

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ عمرو بن معدیکرب نے اس وقت جب رسول اللہ ﷺ کا حکم ان کے پاس پہنچا، قیس بن مکشوح مرادی سے کہا، اے قیس تو اپنی قوم کا سردار ہے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قریش کا ایک آدمی جسے محمد ﷺ کہا جاتا ہے حجاز میں نمودار ہوا ہے کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ ہمارے ساتھ آؤ اس کے پاس چلیں تاکہ ہم اس کے علم کو معلوم کریں، پس اگر وہ نبی ہے جیسا کہ تو بیان کرتا ہے تو جب ہم اس سے ملاقات کریں گے تو یہ بات ہم سے مخفی نہیں رہے گی۔ اور اگر ہمیں اس کا علم اس کے سوا کچھ اور معلوم ہوا تو ہم اسے پیچھے لگا لیں گے، مگر قیس نے اس کی یہ بات نہ مانی اور اس کی رائے کو احمقانہ قرار دیا، پس معدیکرب سوار ہو کر رسول کریم ﷺ کے پاس آ گیا اور مسلمان ہو گیا اور اس نے آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آیا۔ اور جب یہ اطلاع قیس بن مکشوح کو ملی تو اس نے عمر کو دھسکی دی اور کہا تو نے میری مخالفت کی ہے اور میرے معاملہ کو میرے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو عمرو بن معدیکرب نے اس بارے میں کہا۔

”میں نے ذو صغاء کے روز تمہیں ایسا مشورہ دیا تھا جس کی بھلائی واضح تھی، میں نے تجھے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور نیکی کرنے کا مشورہ دیا تھا تو آزمائش سے گدھے کی طرح نکل گیا جس کی میخ نے اسے فریب دیا ہو، تو نے مجھ پر گھوڑے کا احسان جنایا جس پر اس کا شیر بیٹھا ہوا تھا مجھ پر ششے کی طرح ایک زرہ تھی جس کی آپ نے اسے نیا بنا دیا تھا جو نیزے کو لوٹا دیتی تھی اس نے مجھے نامعلوم نیزے مارنے والوں سے بچا کر مجھ پر احسان کیا، پس اگر تو مجھے ملتا تو تو ایسے نرم خو انسان سے ملتا جس کے اوپر اس کی ریال ہے۔ تو ایک کھلے پنجوں والے شیر سے ملتا جو کندہ کو منتشر کر دینے والا ہے۔ اگر مدنتا بل اس کا قصد کرے تو وہ اس سے بھاؤ تاؤ کرتا ہے اور اسے اٹھا کر نیچے بیچ دیتا ہے اور اس کا دماغ پھوڑ دیتا ہے اور اسے چبا جاتا ہے جو کچھ اس کی کچلیوں اور ناتھنوں نے جمع کیا ہے وہ شرک پر ظلم کرنے والا ہے۔“

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ عمرو بن معدیکرب اپنی قوم زبید میں اقامت پذیر ہو گیا اور فروہ بن مسیک ان کا سردار تھا، پس جب رسول کریم ﷺ وفات پا گئے تو عمرو بن معدیکرب بھی مرتدین کے ساتھ مرتد ہو گیا اور فروہ بن مسیک کی ہجو کی اور کہا۔

”ہم نے فروہ کو بدترین بادشاہ پایا ہے وہ ایک گدھا ہے جس کے نتھنے کو دچی سے سونگھا جا سکتا ہے اور جب تو ابو عمیر کو دیکھے تو تہ حیلہ باز کو خباث اور خیانت کے درمیان دیکھے گا۔“

میں کہتا ہوں پھر معذکرب اسلام کی طرف واپس آ گیا اور بہت اچھا مسلمان ہوا اور حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بہت سی فتوحات میں شامل ہوا۔ اور وہ مشہور بہادروں اور بہترین شاعروں میں سے تھا اور فتح نہادند کے بعد ۲۱ھ میں اس کی وفات ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جنگ قادسیہ میں شریک ہوا اور اسی دن شہید ہو گیا ابو عمر بن عبدالمہر کہتا ہے کہ وہ ۹ھ میں رسول کریم ﷺ کے پاس آیا تھا اور بعض کہتے ہیں ۱۰ھ میں آیا تھا جیسا کہ ابن اسحاق اور واقدی نے بیان کیا ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت امام شافعیؒ کے کلام میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ واللہ اعلم یونس ابن اسحاق سے بیان کرتا ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ معذکرب حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس نہیں آیا اور اس نے اس بارے میں کہا ہے۔

”میں اپنے دل سے حضرت نبی کریم ﷺ پر یقین رکھتا ہوں اگرچہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا آپ تمام جہانوں کے سردار ہیں اور جب آپ کا مقام واضح ہوا تو آپ سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے قریب تر تھے آپ اللہ کی جانب سے شریعت لائے ہیں اور آپ امین ہیں آپ کی شریعت میں حکمت کے بعد حکمت اور روشنی ہے جس کے نور کے باعث ہم نے تاریکی میں راہ پائی اور ہم نئے سرے سے رضامندی و نارضا مندی سے راستے پر چل رہے ہیں اور ہم نے حقیقت میں معبود کی عبادت کی ہے حالانکہ ہم جہالت سے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور ان کے ذریعے ہم مجتمع ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی بن گئے ہیں حالانکہ ہم آپس میں دشمن تھے پس آپ اور ہم جہاں جہاں بھی ہوں ہماری طرف سے ان پر سلام ہو اور اللہ کی سلامتی بھی انہیں شامل حال ہو۔ اگرچہ ہم نے حضرت نبی کریم ﷺ کو نہیں دیکھا مگر ہم نے ایمان کے ساتھ آپ کے راستے کی اتباع کی ہے۔“

کندہ کے وفد میں اشعث بن قیس کی آمد:

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ اشعث بن قیس کندہ کے وفد میں رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور مجھے زہری نے بتایا ہے کہ وہ کندہ کے اسی سواروں کے ساتھ آیا تھا پس یہ سب سوار آپ کی مسجد میں آپ کے پاس آئے اور وہ سب پیادہ ہو گئے اور انہوں نے سرمہ لگایا اور ان پر یمنی چادروں کی تھیلیاں تھیں جنہیں انہوں نے ریشم سے لپیٹا ہوا تھا پس جب وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ نے انہیں فرمایا کیا تم مسلمان نہیں انہوں نے کہا بے شک ہم مسلمان ہیں آپ نے فرمایا پھر یہ ریشم تمہاری گردنوں میں کیوں پڑا ہے؟ راوی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اسے پھاڑ کر پھینک دیا پھر اشعث بن قیس نے آپ سے کہا یا رسول اللہ! ہم بھی بنو آکل المرار ہیں اور آپ بھی ابن آکل المرار ہیں راوی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ مسکرائے اور فرمایا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اور ربیعہ بن الحارث اس نسب کو بیان کرتے تھے اور وہ دونوں تاجر تھے جب وہ عرب میں مشہور ہو گئے تو ان دونوں سے دریافت کیا گیا تم کس قبیلے سے ہو تو انہوں نے کہا ہم بنو آکل المرار ہیں یعنی وہ دونوں کندہ کی طرف منسوب ہوتے تھے تاکہ ان علاقوں میں عزت دار ہوں کیونکہ کندہ بادشاہ تھے پس کندہ نے عباس اور ربیعہ کے قول کو:

”ہم بنو آکل المرار ہیں۔“

آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اعشیٰ بن مازن کی آمد:

امام احمد کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عباس بن عبدالعزیم نے بیان کیا کہ ہم سے ابو سلمہ جبید بن عبدالرحمن حنفی نے بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ مجھ سے جنید بن امین بن ذرؤہ بن نھلمہ بن طریف بن نھصل الحر مازی نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے پاس امین نے اپنے باپ نھلمہ سے بیان کیا کہ ان میں سے ایک آدمی کو اعشیٰ کہا جاتا تھا اور اس کا نام عبداللہ اعمور تھا اور اس کے پاس ایک عورت تھی جسے معاذہ کہا جاتا تھا۔ وہ رجب میں حجر سے اپنے اہل کے لیے غلہ لانے گیا تو اس کے بعد اس کی بیوی اس سے نفرت کے باعث بھاگ گئی اور اس نے ان میں سے ایک آدمی کی پناہ لے لی جسے مطرف بن نھشل بن کعب بن قیسع بن ذلف بن ابضم بن عبداللہ بن الحر ماز کہا جاتا تھا، پس اس نے اس عورت کو پناہ دے دی اور جب وہ آدمی گھر آیا تو اس نے عورت کو اپنے گھر میں نہ پایا اور اسے بتایا گیا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے اور اس نے مطرف بن نھشل کی پناہ لے لی ہے تو وہ آدمی مطرف کے پاس آیا اور کہنے لگا اے میرے عمزاد کیا میری بیوی معاذہ تیرے پاس ہے اسے مجھے دے دو۔ اس نے کہا وہ میرے پاس نہیں ہے اور اگر وہ میرے پاس ہوتی تو بھی میں اسے تیرے سپرد نہ کرتا راوی بیان کرتا ہے کہ مطرف اس شخص سے زیادہ طاقت ور تھا۔ پس اعشیٰ چلتے چلتے حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آ گیا اور آپ کی پناہ لے لی اور کہنے لگا۔

”اے لوگوں کے سردار اور عربوں کے حاکم میں آپ کے پاس ایک تیز و بد زبان عورت کی شکایت کرتا ہوں جو فرانی کے زیر سایہ بڑی عمر کی مادہ بھینڑ یا کی طرح بھیر شادی کے رہ رہی ہے میں رجب میں اس کے لیے کھانے کی تلاش میں نکلا تو وہ مجھے گھبراہٹ اور اشتیاق میں پیچھے چھوڑ گئی اور اس نے وعدہ خلافی کی اور گھٹیا فعل کی مرتکب ہوئی اور اس نے مجھے اوباش زمانے کے درمیان پھینک دیا اور وہ غالب آنے والے کے لیے غالب شر ہیں۔“

اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اور وہ غالب آنے والے کے لیے غالب شر ہیں۔“ اور اس نے آپ کے پاس اپنی بیوی اور جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کر توت کیا تھا اس کی شکایت کی اور یہ کہ وہ ان کے ایک آدمی کے پاس موجود ہے جسے مطرف بن نھشل کہا جاتا ہے۔ پس رسول کریم ﷺ نے اس کے بارے مطرف کو خط لکھا کہ اس شخص کی بیوی معاذہ کو چھوڑ دے اور اسے اس کے سپرد کر دے پس جب حضرت نبی کریم ﷺ کا خط اس کے پاس آیا اور اسے پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے کہا اے معاذہ! تیرے بارے میں حضرت نبی کریم ﷺ کا یہ خط آیا ہے پس میں تجھے اس کے سپرد کرنے والا ہوں اس نے کہا کہ میرے بارے میں اس سے عہد و میثاق اور اس کے نبی کی امان لو کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اس کے بارے میں مجھے سزا نہیں دے گا تو اس کے بارے میں اس سے عہد لیا اور مطرف نے اسے اس کے سپرد کر دیا تو وہ کہنے لگا:

”تیری زندگی کی قسم معاذہ کے ساتھ میری محبت ایسی نہیں جسے چغل خور اور زمانے کی کھنگلی اور وہ برائی جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے تبدیل کر سکے جبکہ گمراہ مردوں نے اس سے باتیں کر کر کے میرے بعد اسے الگ کر دیا تھا۔“

صدر بن عبداللہ ازدی کی اپنی قوم کی جماعت کے ساتھ آمد پھر ان کے بعد اہل جرش کے وفد کی آمد:

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ ازد کے ایک وفد میں صدر بن عبداللہ ازدی رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو

گیا اور بہت اچھا سلیمان ہوا اور رسول کریم ﷺ نے اس کی قوم میں سے مسلمان ہونے والوں پر اس امیر بنا دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ قبائل یمن کے ان شرکوں کے ساتھ جہاد کرے جو اس کے قریب رہتے ہیں انہیں اس نے جا کر برش کا محاصرہ کر لیا جہاں یمن کے قبائل رہتے تھے اور جب نعم کے لوگوں نے اس کی روانگی کے متعلق سنا تو انہوں نے ان کو اطلاع دی۔ پس اس نے تقریباً ایک ماہ تک قیام کیا تو وہ اس میں قلعہ بند ہو کر اس سے محفوظ ہو گئے پھر وہ انہیں چھوڑ کر واپس آ گیا اور جب وہ جبل کے قریب پہنچا جسے شکر کہا جاتا تھا تو انہوں نے خیال کیا کہ وہ شکست کھا کر چلا گیا ہے تو وہ اس کی تلاش میں نکلے تو اس نے پلٹ کر اس پر حملہ کر دیا۔ اور انہیں بری طرح قتل کیا۔ اور اہل جرش نے رسول اللہ ﷺ کی طرف مدینہ میں دو آدمی بھیجے اور ابھی وہ دونوں عسر کے بعد آپ کے پاس ہی موجود تھے کہ آپ نے فرمایا کہ شکر اللہ کے کس علاقے میں ہے تو جرش کے دو آدمیوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے جبل کے علاقے میں ہے اور اسے کشر کہا جاتا ہے اور اہل جرش بھی اسے یہی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کشر نہیں بلکہ شکر ہے۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کا کیا حال ہے فرمایا اب اس کے پاس اللہ کے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں راوی بیان کرتا ہے کہ وہ دو شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تو انہوں نے ان دونوں سے فرمایا تمہارا براہو رسول کریم ﷺ نے ابھی تم دونوں کو تمہاری قوم کی موت کی خبر دی ہے پس تم دونوں آپ کے پاس جا کر عرض کرو کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور وہ موت تمہاری قوم سے دور ہو پس وہ دونوں آپ کے پاس گئے اور انہوں نے آپ سے یہ بات عرض کر دی تو آپ نے فرمایا ”اللہ سے ان سے دور کر دے“۔ پس وہ دونوں واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ جس روز رسول اللہ ﷺ نے انہیں ان کی قوم کے متعلق خبر دی تھی اس روز ان کی قوم ماری گئی تھی اور اہل جرش میں سے جو لوگ زندہ رہے ان کا وفد رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور وہ مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے اور آپ نے ان کی بستی کے اردگرد ان کے لیے رکھ بنا دی۔

آنحضرت ﷺ کی خدمت میں شاہان حمیر کے ایلچی کی آمد:

واقعی بیان کرتا ہے کہ یہ رمضان ۹ھ کا واقعہ ہے۔ اور ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ شاہان حمیر کا خط اور ان کے ایلچی اپنے اسلام کے ساتھ آپ کے تبوک سے آنے پر آپ کی خدمت میں آئے اور وہ حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور نعمان تھے اور بعض کا قول ہے کہ وہ ذی رعیان، معافر اور ہمدان تھے اور ذرعد ذوزین نے مالک بن مرہ الرھاوی کو آپ کی طرف ان کے اسلام لانے اور شرک اور مشرکین سے الگ ہو جانے کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف خط لکھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد رسول اللہ ﷺ نبی کی جانب سے حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور نعمان کی طرف اور بعض کہتے ہیں کہ ذی رعیان، معافر اور ہمدان کی طرف اما بعد میں تمہارے ساتھ اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جب ہم ارض روم سے واپس آ رہے تھے تو ہمیں تمہارے ایلچی کی خبر ملی اور اس نے مدینہ میں ہم سے ملاقات کی اور جو پیغام تم نے بھیجا ہے وہ پہنچا اور

اس نے ہمیں تمہارا پہلے حال یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارے اسلام لانے اور مشرکین کو قتل کرنے کی بھی اطلاع دی ہے اگر تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور مغانم سے اللہ کا شکر اور نبی ﷺ کا حصہ اور مالِ غنیمت سے آپ کا مخصوص حصہ دو اور اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جاگیروں میں جنہیں چشمے اور بارش سیراب کرتی ہے جو صدقہ یعنی عشر فرض کیا ہے اسے ادا کریں اور جو ذول سے سیراب ہوتی ہیں ان سے نصف عشر ادا کریں اور چالیس اونٹوں پر ایک بنت لبون اور تیس اونٹوں پر ایک نرابن لبون اور ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری اور ہر دس اونٹوں پر دو بکریاں اور ہر چالیس گایوں پر ایک گائے اور ہر تیس گایوں پر تیج خواہ جعد ہو یا جعدۃ اور ہر چالیس چرنے والی بکریوں پر ایک بکری ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے جو اس نے صدقہ کے بارے میں مومنین پر فرض کیا ہے پس جو نیکی میں بڑھے وہ اس کے لیے بہتر ہے اور جو اسے ادا کرے اور اپنے اسلام کی گواہی دے اور مشرکین کے مقابلہ میں مومنین کی مدد کرے تو وہ مومنین میں شامل ہے اسے وہی حق حاصل ہے جو انہیں حاصل ہے اور اس پر وہی ذمہ داری ہے جو ان پر ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہے اور جو یہودی اور نصرانی، مسلمان ہو جائے تو وہ بھی مومنین میں شامل ہے اسے بھی وہ حقوق حاصل ہیں جو انہیں حاصل ہیں اور اس پر بھی وہی ذمہ داری ہے جو ان پر ہے اور جو اپنی یہودیت یا نصرانیت پر قائم ہے اسے اس سے ہٹایا نہیں جائے گا اور ان کے ہر بالغ مرد عورت آزاد اور غلام ہر ایک پر ایک دینار جزئیہ دینا لازم ہوگا جو معافری کی قیمت کے برابر ہوگا یا اس کی قیمت کے کپڑے دینے لازم ہوں گے پس جو شخص یہ چیزیں رسول اللہ ﷺ کو ادا کر دے گا اسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہوگی اور جو اسے روکے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا ابا بعد! اللہ کے رسول محمد نبی ﷺ نے زرعدی یمن کو پیغام بھیجا کہ جب میرے اہلچی معاذ بن جبل، عبد اللہ بن زید، مالک بن عبیدہ، عقبہ بن نمر اور مالک بن مرہ رضی اللہ عنہم اور ان کے ساتھی تیرے پاس آئیں تو تمہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور یہ کہ تمہارے پاس جو صدقہ ہے اسے جمع کرو اور اپنے مخالفین سے جزیہ اکٹھا کرو اور اسے میرے اہلچیوں کو پہنچا دو اور ان کا امیر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے پس وہ خوش بخوش واپس آئیں ابا بعد! محمد ﷺ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اس کے بندے اور رسول ہیں اور مالک بن مرہ الرھادی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ حمیر میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور آپ نے مشرکین کو قتل کیا ہے پس آپ کو بھلائی کی بشارت ہو اور میں آپ کو حمیر کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہوں اور خیانت نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑو بلاشبہ رسول اللہ ﷺ تمہارے تو نگر اور فقیر کے آقا ہیں اور صدقہ محمد ﷺ اور آپ کے اہل بیت کے لیے جائز نہیں یہ صرف زکوٰۃ ہے جو مسلمان فقراء اور مسافروں کو دی جاتی ہے اور مالک نے حالات کو پہنچا دیا ہے اور تمہارے راز کی حفاظت کی ہے۔ پس میں تمہیں اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہوں اور میں نے تمہاری اپنے اہل کے صالح لوگ اور دین اور علم میں بہتر لوگ بھیجے ہیں پس میں تمہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ بلاشبہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بھلائی کی جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حسن نے بیان کیا کہ ہم سے عمارہ بن ثابت نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

بیان کیا کہ:

”ما تک ذی یرن نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک حملہ پر یہ بھیجا جسے اس نے تینتیس اونٹوں اور تینتیس اونٹیاں کے عوض میں خریدا تھا۔“

ابوداؤد نے اسے عن عمرو بن عون الواسطی عن عمارہ بن ذاذان صیدلانی عن ثابت البنانی عن انس روایت کیا ہے۔ اور اس موقع پر حافظ بیہقی نے عمرو بن حزم کے خط کی حدیث روایت کی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ حافظ ابو سعید اللہ نے ہمیں خبر دی کہ میں ابو العباس اصم نے خبر دی کہ ہم سے احمد بن عبد الجبار نے بیان کیا کہ ہم سے یونس بن بکیر نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا کہ مجھے عبد اللہ بن ابوبکر نے اپنے باپ ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ کا وہ خط موجود ہے جسے آپ نے عمرو بن حزم کو اس وقت لکھا تھا جب آپ نے اسے یمن کی طرف یمن کے باشندوں کو دین سمجھانے سنت کی تعلیم دینے اور صدقات کے وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا آپ نے اسے ایک خط اور عہد لکھ کر دیا اور جو حکم دینا تھا وہ بھی دیا آپ نے لکھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”یہ خط اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے ہے۔ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو عہد کو پورا کرو یہ وہ عہد ہے جو رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن حزم سے یمن بھیجتے وقت لیا، آپ نے انہیں تمام معاملات میں تقوی اللہ سے کام لینے کا حکم دیا، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ حکم الہی کے مطابق حق پر قائم رہیں اور لوگوں کو بھلائی کی بشارت دیں اور بھلائی کا حکم لیں اور لوگوں کو قرآن سکھائیں اور انہیں دین میں سمجھدار بنائیں اور لوگوں کو بتادیں کہ کوئی شخص قرآن پاک کو پاک ہونے کی حالت کے بغیر نہ چھوئے اور لوگوں کو ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کی اطلاع دے دیں اور حق میں ان کے ساتھ نرمی کریں اور ظلم میں ان پر سختی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے روکا ہے، اس نے فرمایا ہے لوگو! آگاہ رہو ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو راہ خدا سے روکتے ہیں اور یہ کہ وہ لوگوں کو جنت اور اس کے عمل کی بشارت دیں اور لوگوں کو دوزخ اور اس کے عمل سے ڈرائیں اور لوگوں سے محبت کریں تاکہ وہ دین میں سمجھدار ہو جائیں، اور لوگوں کو حج کی نشانیوں اور اس کے فرائض و سنن اور اس نے اس کے متعلق جو حکم دیئے ہیں ان کی تعلیم دیں۔ اور حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ اور یہ کہ لوگوں کو ایک چھوٹے کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع کریں۔ ہاں بڑا کپڑا ہو تو اس میں نماز پڑھی جاسکتی ہے جس کی اطراف کو وہ اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لے اور ایک کپڑے میں آدمی کو گوتھ مارنے سے منع کریں کہ اس کی شرمگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہو، اور جب اس کی گدی پر بال بڑھ جائیں تو وہ اپنے سر کے بالوں کو نہ کھولے۔ اور اگر لوگوں کے درمیان جنگ ہو تو لوگوں کو قبائل و عشائر کے بلانے سے روک دیں۔ بلکہ وہ خدائے واحد لا شریک کو پکاریں۔ پس جو شخص اللہ کو نہ پکارے اور قبائل کو پکارے تو ان پر تلوار سے حملہ کرو، حتیٰ کہ وہ خدائے واحد لا شریک کو پکارنے لگیں اور لوگوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے مومنوں کا اور ہاتھوں کا کہنیوں تک اور پاؤں کا ٹخنوں تک پورا وضو کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے سروں کا مسح کریں اور انہیں بروقت نماز ادا کرنے اور مکمل رکوع و سجود کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ کہ وہ صبح کو جھٹپے میں ادا کریں اور دوپہر

کے وقت کام چھوڑ دیں حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے اور نماز عصر اس وقت پڑھی جائے جب سورج زمین کی طرف جانے میں جلدی کر رہا ہو۔ اور مغرب اس وقت جب رات آ جائے مگر اسے اس وقت تک مؤخر نہ کیا جائے کہ آسمان پر ستارے نمودار ہو جائیں اور شام بکرات کے ابتدائی حصے میں پڑھا جائے۔ اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ ۱۰۰ خانم سے اللہ کا شمس لیں اور جاگیروں میں سے جو چشموں اور بارشوں سے سیراب ہوتی ہیں عشر لیں اور جنہیں ڈول سے سیراب کیا جاتا ہے ان سے نصف محتر لیں اور ہر دس اونٹوں پر دو بکریاں اور بیس پر دو بکریاں اور چالیس گایوں پر ایک گائے اور ہر تیس گایوں پر تین یا تیس خواتین جو یا جذعہ، اور ہر چالیس چرنے والی بکریوں پر ایک بکری لیں، یہ اللہ کا فریضہ ہے جسے اس نے مومنین پر فرض کیا ہے اور جو زیادہ دے وہ اس کے لیے بہتر ہے اور جو یہودی اور نصرانی، مسلمان ہو جائے اور دین اسلام کو اپنالے تو وہ مومنین میں شامل ہے اور اس کے وہی حقوق و واجبات ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ اور جو اپنی یہودیت اور نصرانیت پر قائم ہے اسے اس سے ہٹایا نہیں جائے گا اور ہر بالغ مرد اور عورت اور آزاد اور غلام پر ایک پورا دینار جزیہ دینا لازم ہو گا یا اس کی قیمت کے کپڑے دینے ہوں گے، پس جو اسے ادا کرے گا اسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہوگی اور جو اس سے روکے گا وہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام مومنین کا دشمن ہوگا، محمد ﷺ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور آپ پر اللہ کا سلام اور رحمت ہو۔

حافظ تہیتی بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد نے عن الزہری عن ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابی عن جدہ اس حدیث کو بہت سے اضافوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور ہم نے زکوٰۃ اور دیت کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں ان سے کچھ کمی کے ساتھ موصول روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں حافظ ابو عبد الرحمن نسائی نے اپنے سنن میں اس طریق سے اسے معلول روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے اسے کتاب المراسیل میں بیان کیا ہے اور میں نے بفضل خدا سے اسانید و الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ہم غنقریب و فود کے بعد ذکر کریں گے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے یمن کی طرف لوگوں کو تعلیم دینے، صدقات لینے اور خمس لینے کے لیے حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ، حضرت خالد بن ولید اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کو امیر بنا کر بھیجا تھا۔

جریر بن عبد اللہ السجلی کی آمد اور اس کا مسلمان ہونا:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابوقطن نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے مغیرہ بن شبل سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جریر نے بیان کیا کہ جب میں مدینہ کے نزدیک آیا تو میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا۔ پھر میں نے اپنا صندوق کھولا اور اپنا حلہ پہنا، پھر میں مدینہ میں داخل ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے ہیں، پس لوگوں نے مجھے تازا تو میں نے اپنے ہم نشین سے کہا اے عبد اللہ! کیا رسول اللہ ﷺ نے مجھے یاد فرمایا ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے خطبہ کے دوران تمہارا ذکر خیر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس دروازے یا اس راستے سے یمن والوں کا بہترین آدمی تمہارے پاس آئے گا۔ مگر اس کے چہرے پر شہانہ نشان ہے، جریر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے انعام پر اس کا شکر یہ ادا کیا ابوقطن بیان کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو نے اس بات کو اس سے سنا ہے یا مغیرہ بن شبل سے سنا ہے اس نے کہا ہاں مغیرہ سے سنا ہے۔ پھر امام احمد نے اسے ابونعیم اور اسحاق بن

یوسف سے روایت کیا ہے۔ اور نسائی نے اسے فضل بن موسیٰ کی حدیث سے بیان کیا ہے۔ اور ان تینوں نے عن یونس عن ابی اسحاق السبعی عن المغیرہ بن شبل، اور اسے ابن شبل بھی کہا جاتا ہے۔ عن عوف الجلی الکوفی عن جریر بن عبد اللہ روایت کیا ہے اور اس کے سوا اور کسی نے اس سے روایت نہیں کی۔ اور نسائی نے اسے پورے واقعہ میت عن قتیبہ عن سفیان بن عیینہ عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن جریر روایت کیا ہے۔ کہ:

”اس دروازے سے تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جس کے چہرے پر شاہانہ نشان ہوگا۔“

یہ حدیث صحیحین کی شرط کے مطابق ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عبید نے بیان کیا کہ ہم سے اسماعیل نے عن قیس بن جریر بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں رسول کریم ﷺ نے مجھے اندر آنے سے نہیں روکا، اور آپ نے جب مجھے دیکھا ہے میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور اسے ابو داؤد کے سوا ایک جماعت نے کئی طریق سے عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم روایت کیا ہے۔ اور صحیحین میں یہ اضافہ بھی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تو آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا:

”اے اللہ اسے ثابت رکھ اور اسے بادی مبدی بنا دے۔“

اور نسائی نے اسے عن قتیبہ عن سفیان بن عیینہ عن اسماعیل عن قیس بیان کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ:

”اس دروازے سے ایک آدمی تمہارے پاس آئے گا جس کے چہرے پر شاہانہ نشان ہوگا۔“

پس اس نے اسی طرح بیان کیا ہے جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے۔

حافظ تبہقی بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے ابو عمرو عثمان بن احمد سماک نے بیان کیا کہ ہم سے حسن بن سلام السواق نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن مقاتل خراسانی نے بیان کیا کہ ہم سے حصین بن عمر الاحمسی نے بیان کیا کہ ہم سے اسماعیل بن خالد یا قیس بن ابی حازم نے جریر بن عبد اللہ سے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ نے میری طرف پیغام بھیجا اور فرمایا اے جریر آپ کس لیے آئے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گا، تو آپ نے اپنی چادر مجھ پر ڈال دی پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

”جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی شریف آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔“

پھر آپ نے فرمایا اے جریر! میں آپ کو اس شہادت کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ آپ اللہ یوم آخر اور تقدیر خیر و شر پر ایمان لائیں اور فرض نمازیں پڑھیں اور مقررہ زکوٰۃ ادا کریں، تو میں نے یہ شہادت ادا کر دی۔ اور اس کے بعد آپ جب بھی مجھے دیکھتے میرے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔

یہ حدیث اس طریق سے غریب ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن سعید القطان نے بیان کیا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ:

”میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی۔“

اور اسے بخاری اور مسلم نے صحیحین میں اسماعیل بن ابی خالد کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور وہ صحیحین میں زیاد بن عاصہ کی حدیث سے جریر سے بھی مروی ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابو سعید نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم نے سفیان بنی ابو اہل سے بحوالہ جریر بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا:

”یا رسول اللہ ﷺ مجھ پر شرط عائد ہیجے۔ آپ شرط کو بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا:

”میں آپ کی اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ آپ خدائے واحد کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور مسلمان کی خیر خواہی کریں اور شرک سے پاک رہیں۔“

اسے نسائی نے شعبہ کی حدیث سے عن الامش عن ابی وائل عن جریر روایت کیا ہے اور ایک دوسرے طریق سے عن الامش عن منصور عن ابی وائل عن ابی خلیل عن جریر روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم اور اسی طرح اسے عن محمد بن قدامہ عن جریر عن مغیرہ عن ابی وائل اور شعبی، جریر سے روایت کیا ہے اور جریر سے عبد اللہ بن عمیرہ نے روایت کیا ہے اور احمد نے اسے منفرد روایت کیا ہے اور اس کے بیٹے عبید اللہ بن جریر، احمد نے بھی اسے منفرد روایت کیا ہے۔ اور ابو جلیلہ کا صحیح نام خلیلہ ہے۔ اور احمد اور نسائی نے اسے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح احمد نے اسے عن عبد عن شعبہ عن منصور عن ابی وائل عن رجل عن جریر روایت کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ آدمی ابو خلیلہ الجبلی ہے۔ واللہ اعلم

اور ہم نے بیان کیا ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو رسول کریم ﷺ نے انہیں ذوالخصلہ کے ایک گھر کی طرف بھیجا، جس کی نشہم اور بجیلہ عبادت کرتے تھے اور اسے کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا اور وہ اسے مکہ کے کعبہ کے مشابہ قرار دیتے تھے اور وہ مکہ کے کعبہ کو کعبہ شامیہ اور اپنے گھر کے کعبہ کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے رسول کریم ﷺ نے انہیں فرمایا کیا آپ مجھے ذوالخصلہ سے راحت نہیں پہنچائیں گے، اس وقت انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ وہ گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتے، تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک کو ان کے سینہ پر مارا یہاں تک کہ اس نے اس میں اثر ڈالا اور فرمایا: ”اے اللہ! اس کو ثابت رکھ اور ہادی اور مہدی بنادے۔“

اس کے بعد وہ گھوڑے سے نہیں گرے۔ اور وہ اپنی قوم احس کے ایک سو پچاس سواروں کے ساتھ ذوالخصلہ کی طرف چلے گئے اور اس گھر کو سمار کر کے آگ لگا دی اور اسے خارش اونیٹ کی طرح چھوڑ دیا اور رسول کریم ﷺ کی طرف ایک خوشخبری دینے والا بھیجا جسے ابورطاطہ کہا جاتا تھا، تو اس نے آپ کو یہ خوشخبری دی اور رسول کریم ﷺ نے احس کے گھوڑوں اور جوانوں کے لیے پانچ باردعا کی، اور صحیحین وغیرہ میں یہ حدیث مفصل بیان ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے قبل ازیں فتح کے بعد اسطراط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بیت العزیم کی تباہی کے ذکر کے بعد اس کا ذکر کیا ہے، ظاہر ہے کہ حضرت جریر فتح مکہ کے خاصے عرصے بعد مسلمان ہوئے تھے، امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ہشام بن القاسم نے بیان کیا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ بن علاشہ بن عبد الکرم بن مالک الجزری نے مجاہد سے بحوالہ جریر بن عبد اللہ الجبلی بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ:

”میں سورۃ مائدہ کے نزول کے بعد مسلمان ہوا تھا اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے مسلمان ہونے کے بعد سح کرتے دیکھا۔“

احمد اس کی روایت میں منفرد ہیں اور اس کا اسناد جید ہے، ہاں یہ مجاہد اور اس کے درمیان منقطع ہے اور صحیحین میں ہے کہ

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب کو جریر کی حدیث جو موزے کے نح کے بارے میں ہے تعجب میں ڈال آرتی تھی اس لیے کہ جریر نزول ناکدہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اور عنقریب جتہ الوداع میں بیان ہوگا کہ رسول کریم ﷺ نے اسے فرمایا: اے جریر لوگوں کو ناپوش کراؤ، آپ نے یہ حکم اس لیے دیا کہ وہ بچے تھے اور بڑے ناز و نخرے والے تھے۔ اور ان کا جو تا ایک ہاتھ تھا اور بہت خوبصورت تھے اور اس کے باوجود لگا ہیں پیچی رکھتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے ان سے حدیث صحیح میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے اچانک نظر پڑنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو“۔

یمن کے بادشاہ وائل بن حجر بن ربیعہ بن وائل بن معمر الحضرمی ابن ہنید کی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آمد:

ابو عمر بن عبدالبر جو حضرموت کا ایک سردار تھا اور اس کا باپ ان کے ملک میں سے تھا کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی آمد سے قبل اپنے اصحاب کو بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ آپ کے پاس بادشاہوں کے بیٹوں کی اولاد میں سے ایک آدمی آئے گا، پس جب وہ آیا تو آپ نے اسے خوش آمدید کہا اور اسے اپنے قریب کیا اور اس کی نشست کو اپنے نزدیک کیا اور اس کے لیے اپنی چادر بچھائی اور فرمایا:

”اے اللہ! وائل اس کی اولاد اور اولاد و اولاد کو برکت دے۔“

اور آپ نے اسے حضرموت کے سردار وائل پر افسر مقرر کیا اور اسے تین خط لکھ کر دیئے۔ ان میں سے ایک خط مہاجر بن ابی امیہ کی طرف تھا، اور ایک خط سرداروں اور بادشاہوں کی طرف تھا، اور آپ نے اسے زمین جاگیر دی اور اس کے ساتھ حضرت معاویہ بن ابوسفیان کو بھیجا، پس وہ پیادہ اس کے ساتھ چلے اور انہوں نے وائل سے گرمی کی تپش کی شکایت کی تو اس نے کہا اونٹنی کے سائے میں چلو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مجھے کیا فائدہ دے گا، کاش آپ مجھے اپنا ردیف بنا لیتے، وائل نے آپ سے کہا خاموش رہیے آپ بادشاہوں کے ارداف میں سے نہیں ہیں، پھر وائل بن حجر زندہ رہا، حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے پاس گیا جبکہ وہ امیر المؤمنین تھے، پس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے پہچان لیا اور اسے خوش آمدید کہا اور اسے اپنے قریب کیا اور اسے وہ بات بھی یاد کرائی اور اسے قیمتی عطیہ پیش کیا جس کے لینے سے اس نے انکار کر دیا، اور کہا یہ عطیہ اسے دے دیجیے جو مجھ سے اس کا زیادہ ضرورت مند ہے۔

حافظ بیہقی نے اس واقعہ کا کچھ حصہ بیان کیا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ امام بخاری نے تاریخ میں اس کے متعلق کچھ بیان کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حجاج نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے سہاک بن حرب سے عن علقمہ بن وائل عن ابیہ خردی کہ رسول کریم ﷺ نے اسے کچھ زمین جاگیر دی، اور آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو میرے ساتھ بھیجا کہ میں وہ زمین ان کو دے دوں۔ یا یہ کہ میں ان کو اس زمین کے متعلق بتا دوں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو، تو میں نے کہا آپ بادشاہوں کے ارداف میں سے نہیں ہیں، انہوں نے کہا مجھے اپنا جو تادے دو، میں نے کہا اونٹنی کے سایہ میں چلو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور مجھے

وہ بات بھی یاد کرائی۔ تاک بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں نے اسے اپنے آگے سہارا کر لیا ہوتا۔
ابو داؤد اور ترمذی نے اسے شعبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لقیط بن عامر المثنقی رزین العقیلی کی آمد:

امام احمد کے فرزند عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن حمزہ بن محمد بن حمزہ بن مسعب بن الزبیری نے مجھے خط لکھا کہ میں نے اس حدیث کو آپ کی خدمت میں تحریر کیا تھا اور میں نے جو کچھ آپ کو لکھا تھا آپ نے اسے دیکھا اور سنا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرحمن بن مغیرہ حزامی نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عیاش السمعی الانصاری القباٹی نے جو بنی عمرو بن عوف کا آدمی ہے، بحوالہ ولہم بن اسود بن عبد اللہ بن حاجب بن عامر بن المثنقی العقیلی اس کے باپ اور چچا لقیط بن عامر سے بیان کیا۔ اور ولہم بن عامر نے بحوالہ عاصم بن لقیط بیان کیا۔ کہ لقیط اپنے ایک ساتھی ہبیک بن عاصم بن مالک بن المثنقی کے ساتھ رسول کریم ﷺ کے پاس جانے کے لیے نکلا لقیط بیان کرتا ہے کہ میں اور میرا ساتھی نکلے یہاں تک کہ ہم رجب کے آخر میں مدینہ میں رسول کریم ﷺ کے پاس آگئے اور ہم آپ سے اس وقت ملے جب آپ نماز فجر کے بعد واپس آئے۔ آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور فرمایا:

”اے لوگو! تم نے چاردن سے میری آواز نہیں سنی، میں تمہیں بات سنانا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا آدمی موجود ہے جسے

اس کی قوم نے بھیجا ہو“۔

لوگوں نے کہا رسول کریم ﷺ جو فرماتے ہیں ہمیں بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی یا اپنے ساتھی کی باتیں غافل کر دیں یا بھول چوک سے آپ غافل ہو جائیں، لوگو! آگاہ رہو میں جو ابده ہوں کیا میں نے بات پہنچا دی ہے، سنو! زندہ رہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، راوی بیان کرتا ہے کہ لوگ بیٹھ گئے اور میں اور میرا ساتھی کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے چشم و دل ہمارے لیے فارغ ہو گئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے پاس کچھ علم غیب ہے، تو آپ مسکرائے اور اللہ کی قسم آپ نے اپنا سر ہلایا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں آپ کی غلطی کی جستجو میں ہوں، تو آپ نے فرمایا:

”تیرے رب نے غیب کی پانچ چابیوں کے بارے میں بخل سے کام لیا ہے اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا“۔

اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں نے عرض کیا وہ کون سی باتیں ہیں آپ نے فرمایا:

① موت کا علم، اے علم ہے کہ تم میں سے کس کی موت کب ہوگی لیکن تمہیں اس کا علم نہیں۔

② اور منی جب رحم میں ہوتی ہے تو اسے اس کا علم ہوتا ہے، لیکن تمہیں علم نہیں۔

③ اور کل جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم اور نہ تو کل کی امید رکھتا ہے اور نہ اسے جانتا ہے۔

④ بارش کے دن کا علم، اور تم پر دو سختیاں جھانکتی ہیں اور وہ ہنستا رہتا ہے اور اسے علم ہوتا ہے کہ تمہارا نمبر قریب ہے، لقیط بیان

کرتا ہے کہ ہم رب کی اس بات کو معدوم نہیں کر سکتے کہ وہ بھلائی کے لیے ہنستا ہے۔

⑤ اور قیامت کے دن کا علم۔

ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ! میں وہ باتیں بتا دیں جنہیں لوگ نہیں جانتے اور آپ جانتے ہیں میں ایک ایسے قبیلے کا آدمی ہوں کہ مدح جو ہمارے قریب ہے اس کا کوئی آدمی ہماری تصدیق کو درست قرار نہ دے گا۔ اور نہ ہی شتم جو ہمارا دوست ہے اور نہ ہی ہمارا قبیلہ جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں ہماری تصدیق کو درست قرار دے گا۔ آپ نے فرمایا:

”جس قدر تم شہرے ہو، شہر و گے، پھر تمہارا نبی فوت ہو جائے گا، پھر تم جس قدر شہرے ہو، شہر و گے، پھر آواز دینے والی بھیجی جائے گی۔ تیرے معبود کی قسم وہ زمین کی سطح پر کسی چیز کو نہیں چھوڑے گی، ہر چیز مر جائے گی اور وہ فرشتے بھی مر جائیں گے جو تیرے رب کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ زمین کا چکر لگائے گا اور شہر خالی ہو چکے ہوں گے اور تیرا رب بادل کو بھیجے گا جو عرش کے پاس سے برسے گا اور تیرے معبود کی قسم وہ سطح زمین پر کسی مقتول اور مدفن کو نہ چھوڑے گا، مگر اس کی قبر شق ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ اسے اس کے سر کے قریب سے پیدا کرے گا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر بیٹھ جائے گا اور تیرا رب کہے گا شہر جا، تو وہ کہے گا میں آج دیوانہ ہو گیا ہوں، پس وہ زندگی پانے کی وجہ سے اپنے اہل کے متعلق باتیں دریافت کرے گا، میں نے کہا: یا رسول اللہ! جبکہ ہوا میں، کہنگی اور درندے ہمیں پراگندہ کر چکے ہوں گے، تو وہ ہمیں کیسے اکٹھا کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، کہ اس کی مثال نعمائے الہی میں سے زمین میں پائی جاتی ہے، تو نے اسے دیکھا کہ وہ ایک بوسیدہ مٹی تھی تو تو نے کہا، یہ کبھی زندہ نہیں ہوگی، پھر تیرے رب نے اس پر بارش بھیجی اور ابھی تجھ پر چند روز ہی گزرے کہ تو نے اسے دیکھا کہ وہ ایک سرسبز حظل تھی۔ اور تیرے معبود کی قسم، کہ وہ تمہیں پانی سے بھی جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ زمین کی نباتات کو بھی جمع کر سکتا ہے۔ پس تم اپنی قبروں سے نکلو گے اور تم اس کی طرف دیکھو گے اور وہ تمہیں دیکھے گا۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ ہم زمین کی مقدار کے برابر ہوں گے اور خدائے عزوجل ایک ہستی ہوگا اور وہ ہماری طرف دیکھے گا اور ہم اس کی طرف دیکھیں گے، تو آپ نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں کہ نعمائے الہی میں سے اس کی مثال شمس قسم میں پائی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے، تم ایک ہی ساعت میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو اور تم ان دونوں کی رویت میں کوئی شک نہیں کرتے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جب ہم اپنے رب سے ملیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ فرمایا تمہیں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، تمہارے اعمال نامے اس کے سامنے کھلے ہوں گے اور تمہاری کوئی بات اس سے پوشیدہ نہ ہوگی، پس تیرا رب پانی کا ایک چلو لے گا اور تم سے پہلے لوگوں پر اسے چھڑک دے گا۔ اور تیرے معبود کی قسم، اس پانی کا ایک قطرہ بھی تم میں سے کسی کے چہرے سے خطا نہیں کرے گا۔ پس وہ مسلمان کے چہرے پر سفید رومال کی طرح ہوگا، اور کافر کو سیاہ کوکلوں کی طرح نکیل ڈال دے گا۔ آگاہ رہو پھر تمہارا نبی لوٹ جائے گا اور اس کے پیچھے صالح لوگ بھی لوٹ جائیں گے اور تم آگ کے ایک پل پر چلو گے اور تم میں سے ایک آدمی انگارے کو روندے گا اور کہے گا ”حسن“ اور تیرا رب کہے گا یہ اس کا وقت ہے پس تم حوض رسول پر پیاسے ہونے کی حالت میں پہنچو گے اور اللہ تعالیٰ اس پر سیراب کرنے والا ہوگا، تو نے اسے کبھی نہیں دیکھا، اور تیرے معبود کی قسم! تم میں سے جو آدمی اپنا ہاتھ پھیلائے گا اس کے ہاتھ پر ایک پیالہ آئے گا جسے وہ ناپاکی بول اور ضرر سے پاک کرے گا اور شمس و قمر کو روک دیا جائے گا اور تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ دیکھو گے۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم کس کے ساتھ دیکھیں

گے؟ فرمایا جیسے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ اس دن طلوعِ شمس کے ساتھ ہوگا جسے زمین نے روتن کیا ہے اور پہاڑوں نے اس کا سامنا کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں ہماری بٹیوں اور برائیوں کا بدلہ کیسے ملے گا؟ فرمایا نیکی کا بدلہ دس گنا ملے گا اور بدی کا اس جتنا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادے۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جنت اور دوزخ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے معبود کی قسم! آگ کے سات دروازے ہیں ان دروازوں میں سے دو دروازوں کے درمیان سوا ستر سال تک چلتا رہے۔ اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے بھی دو دروازوں کے درمیان سوا ستر سال تک چلتا رہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم جنت میں کیا کچھ دیکھیں گے؟ فرمایا مصفیٰ شہد کی نہریں! ایسے پیالے کی نہریں جس میں سرد اور ندامت نہ ہوگی! ایسے دودھ اور پانی کی نہریں جن کا مزہ تبدیل نہ ہوگا! اور ایسے پھل جن کا مزہ تبدیل نہ ہوگا! تیسری زندگی کی قسم! تم نہیں جانتے اور اس قسم کی اچھی چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی! اور پاک جوڑے ہوں گے! میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے لیے ان میں جوڑے ہوں گے یا ان میں اصلاح کرنے والی ہوں گی! فرمایا نیک عورتیں! نیک مردوں کے لیے ہوں گی اور تم ان سے ایسے ہی لطف اندوز ہو گے جیسے تم ان سے دنیا میں لطف اندوز ہوتے ہو اور وہ بھی تم سے لطف اندوز ہوں گی مگر ان کے اولاد نہ ہوگی لقیط بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا! ہم انتہائی بالغ ہوں گے اور بلوغت تک پہنچے ہوں گے۔

(اس کا جواب حضرت نبی کریم ﷺ نے نہیں دیا) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں کن شرائط پر آپ کی بیعت کروں تو حضرت نبی کریم ﷺ نے اپنا ہاتھ پھیلا یا اور فرمایا نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور شرک چھوڑنے پر! اور تو کسی معبود کو اللہ کا شریک نہ بنانا! راوی بیان کرتا ہے میں نے عرض کیا مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے ہمارے لیے ہے تو حضرت نبی کریم ﷺ نے اپنا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی انگلیاں پھیلا دیں اور خیال کیا کہ میں کوئی شرط لگانے لگا ہوں جو وہ مجھے نہیں دیں گے راوی بیان کرتا ہے میں نے عرض کیا! ہم جہاں سے چاہیں اس سے حلال کر لیں اور ہر آدمی اپنے فعل کا ذمہ دار ہوگا تو آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور فرمایا تو جہاں سے چاہے وہ تیرے لیے حلال ہے۔ اور تو اپنے نفس کا ذمہ دار ہوگا! راوی بیان کرتا ہے پھر ہم آپ کے پاس سے واپس آ گئے پھر آپ نے فرمایا! تیرے معبود کی قسم یہ دونوں آدمی دنیا و آخرت میں سب لوگوں سے اعلیٰ ہیں۔

بنی کلاب کے ایک آدمی کعب بن الحداریہ نے کہا! یا رسول اللہ ﷺ ان میں سے ہوا! مستفحق اس کے اہل ہیں؟ راوی بیان کرتا ہے! کہ ہم واپس آ گئے اور میں اس کے پاس گیا اور اس نے تمام حدیث کو بیان کیا یہاں تک کہ اس نے کہا! کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جو لوگ جاہلیت میں فوت ہو چکے ہیں ان میں سے کسی کی کوئی خبر ہے! راوی بیان کرتا ہے کہ قریش کے ایک معمولی آدمی نے کہا خدا کی قسم تیرا باپ المستفحق دوزخ میں ہے وہ بیان کرتا ہے! کہ گویا اس کی بات سے میری کھال چہرے اور گوشت کے درمیان گرمی پیدا ہو گئی کیونکہ میں لوگوں میں بیٹھا تھا پس میں نے ارادہ کیا کہ کہوں یا رسول اللہ ﷺ آپ کے والد بھی تو پھر ایک اور بہتر بات مجھے سوچ گئی میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے اہل بھی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے اہل بھی اور تو جس عامری یا قرشی مشرک کی قبر پر جائے تو کہہ کہ مجھے محمد ﷺ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میں تجھے اس بات کی خبر دوں جو تیرے لیے

تکلیف دے تو دوزخ میں اپنے چہرے اور پیٹ کے بل جیلے گا۔

راوی بیان کرتا ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اس نے ان سے یہ سلوک کیوں کیا ہے وہ یہی کچھ کر سکتے تھے اور وہ اپنے آپ کو اچھے کام کرنے والے خیال کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ سلوک اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مہمان کو اس کے آخر میں ایک نبی مبعوث فرماتا ہے پس جو اپنے نبی کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہوں میں سے ہو جاتا ہے اور جو اپنے نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بہت غریب ہے اور اس کے بعض الفاظ میں نکارت پائی جاتی ہے۔ اور حافظ بیہقی نے اسے کتاب البعث والنشور میں اور عبدالحق اشہیلی نے ”العاقبۃ“ میں اور قرطبی نے کتاب التذکرۃ فی احوال آلآخرۃ میں بیان کیا ہے۔

زیاد بن الحارث رضی اللہ عنہ کی آمد:

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابو احمد اسد ابازی نے اس کی خبر دی کہ ہمیں ابو بکر بن مالک القطعی نے خبر دی کہ ہم سے ابو عبد الرحمن المقرئ نے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم سے بیان کیا کہ مجھ سے زیاد بن نعیم الحضرمی سے بیان کیا کہ میں نے زیاد بن الحارث الصدائی رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے سنا ہے:

میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور میں نے اسلام پر آپ کی بیعت کر لی، مجھے پتہ چلا کہ آپ نے میری قوم کی طرف ایک فوج بھیجی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! فوج کو واپس بلا لیجیے، میں آپ کے سامنے اپنی قوم کے اسلام لانے اور اطاعت کرنے کا ضامن ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور نہیں واپس کر دو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میری اونٹنی در ماندہ ہو چکی ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہ امین واپس لے آیا، الصدائی بیان کرتا ہے کہ میں نے انہیں خط لکھا تو ان کا وفد ان کے ساتھ آیا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا اے صدائی! اپنی قوم میں مطاع ہے، میں نے عرض کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت کی طرف ان کی راہنمائی کی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”کیا میں آپ کو ان کا امیر بنا دوں؟“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! بے شک بنا دیجیے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے میرے لیے ایک خط لکھا اور مجھے امیر بنا دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ان کے صدقات کے بارے میں مجھے حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا اور آپ نے میرے لیے ایک اور خط لکھا، صدائی بیان کرتا ہے یہ آپ کے ایک سفر کا واقعہ ہے، پس رسول کریم ﷺ ایک جگہ اترے تو اس جگہ کے لوگ آپ کے پاس اپنے عامل کی شکایت کرتے ہوئے آگئے اور کہنے لگے کہ ہمارے اور اس کی قوم کے درمیان جاہلیت میں جو چپقلش پائی جاتی تھی اس نے اس کی وجہ سے ہم پر گرفت کی ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، کیا اس نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! تو رسول کریم ﷺ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور میں بھی ان میں موجود تھا، آپ نے فرمایا مومن آدمی کی امارت میں کوئی بھلائی نہیں، صدائی بیان کرتا ہے کہ آپ کی یہ بات میرے دل میں اثر کر گئی پھر ایک اور آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے عطا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا: ”جو شخص تو نگری کے باوجود لوگوں سے سوال کرتا ہے تو یہ سردرد اور پیٹ کی بیماری سے“ سائل نے کہا مجھے صدقہ سے دیجیے تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ صدقات کے بارے میں نہ نبی اور نہ کسی دوسرے آدمی

کے فضلے سے راضی ہوا ہے یہاں تک کہ اس نے خود ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اور ان کے آٹھ حصے کیے ہیں، پس اگر تو ان حصوں میں سے جو اتو میں تجھے دے دوں گا۔ صدائی بیان کرتا ہے کہ اس بات نے بھی میرے دل پر اثر کیا کہ میں مالدار ہوں اور میں نے آپ کے صدقہ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر رسول کریم ﷺ رات کے ابتدائی حصے میں چلے تو میں آپ کے ساتھ ہو گیا اور میں نزدیک ہی تھا اور آپ کے اصحاب آپ سے انگ دو جاتے تھے اور آپ سے پیچھے رہ جاتے تھے اور میرے سوا آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، پس جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے مجھے اذان کا حکم دیا اور میں نے اذان دی اور میں کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ، میں اقامت کہوں، اور آپ مشرق کی جانب فجر کی طرف دیکھنے لگے اور فرمانے لگے نہیں، اور جب فجر طلوع ہو گئی تو آپ اترے اور قضاے حاجت کے لیے میدان کی طرف چلے گئے، پھر واپس آ کر اپنے اصحاب سے مل گئے، اور فرمایا اے صداء کچھ پانی ہے میں نے عرض کیا تھوڑا سا پانی جو آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا آپ نے فرمایا اسے برتن میں ڈال دو اور پھر اسے میرے پاس لے آؤ، میں نے ایسے ہی کیا تو آپ نے اپنی ہتھیلی کو پانی میں ڈالا تو میں نے آپ کی دو انگلیوں کے درمیان چشمہ ابلتے دیکھا اور رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

اگر مجھے اپنے رب سے شرم محسوس نہ ہوتی تو ہم ضرور پانی پیتے اور پانی جمع کرتے۔“

اور میرے اصحاب سے جو پانی کے ضرور تمند تھے انہوں نے مجھے آواز دی اور میں نے ان میں اعلان کر دیا، پس ان میں سے جس نے چاہا کچھ پانی لے لیا، پھر رسول کریم ﷺ نماز کے لیے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنی چاہی تو رسول کریم ﷺ نے انہیں فرمایا کہ صداء نے اذان دی ہے اور جو اذان دے وہی اقامت کہتا ہے۔

صدائی بیان کرتا ہے کہ میں نے اقامت کہی اور جب رسول کریم ﷺ نماز ادا کر چکے تو میں آپ کے پاس دونوں خط لایا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ان دونوں باتوں سے معاف فرمائیے، آپ نے فرمایا تجھے کیا معلوم ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے کہ مومن شخص کی امارت میں دینی بھائی نہیں اور میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے آپ کو سائل سے فرماتے سنا ہے کہ جو شخص تو نگری کے باوجود لوگوں سے سوال کرتا ہے تو یہ سرد درداور پیٹ کی بیماری ہے اور میں نے آپ سے سوال کیا ہے حالانکہ میں تو نگری ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری مرضی ہے چاہو تو قبول کرو اور چاہو تو چھوڑ دو، میں نے عرض کیا، میں چھوڑتا ہوں، تو رسول کریم ﷺ نے مجھے فرمایا مجھے کسی آدمی کے متعلق بتاؤ جسے میں تم پر امیر مقرر کر دوں تو میں نے وفد کے آدمیوں میں سے جو آپ کے پاس آئے تھے آپ کو ایک آدمی بتا دیا تو آپ نے اسے ان پر امیر مقرر کر دیا پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارا ایک کنواں ہے جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کا پانی بڑھ جاتا ہے اور ہم اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اس کا پانی کم ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس کے ارد گرد کے پانیوں پر متفرق ہو جاتے ہیں۔ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے ارد گرد تمام لوگ دشمن ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے کنویں کے متعلق دعا فرمائیے کہ اس کا پانی ہمارے لیے بڑھ جائے اور ہم اس پر اکٹھے ہو جائیں اور پراگندہ نہ ہوں تو آپ نے سات سنگریزے منگوائے اور انہیں اپنے ہاتھ میں ملا اور ان کے بارے میں دعا فرمائی پھر فرمایا ان سنگریزوں کو لے جاؤ اور جب تم کنویں پر پہنچو تو ایک ایک کر کے اس میں پھینکو

اور اللہ کا ذکر، صدیقی بیان کرتا ہے کہ آپ نے جو کچھ ہمیں فرمایا تھا ہم نے اس کے مطابق عمل کیا، پھر اس کے بعد ہم کہیں کی کوئی چیز نہ کی۔

اور اس حدیث کے شواہد سنن ابی داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں اور واقدی نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے عمرہ الخیر کے بعد تیس بن سعد بن عبادہ کو چار سو آدمیوں کے ساتھ صداء کے علاقے کو روانہ کرنے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنی فوج کو میری قوم سے واپس بلا لیں اور میں ان کے بارے میں آپ کے پاس ضامن ہوں۔ پھر ان کے پندرہ آدمیوں کا وفد آیا۔ پھر آپ نے حجۃ الوداع میں ان کے سو آدمیوں کو دیکھا پھر واقدی ثوری سے عن عبد الرحمن بن زیاد بن النعمان بن زیاد بن النعمان بن زیاد بن الحارث الصدیقی، اذان کے بارے میں اس کا واقعہ روایت کرتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں الحارث بن احسان البکری کی آمد:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے زید بن الحباب نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوالمزہب سلام بن سلیمان نحوی نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم بن ابی النجود نے عن ابی وائل عن الحارث البکری بیان کیا کہ:

میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں العلاء بن الحضرمی کی شکایت کرنے گیا اور ربذہ سے گزرا کیا دیکھتا ہوں کہ بنی تمیم کی ایک بڑھیا وہاں الگ تھلگ بیٹھی ہے اس نے کہا اے بندۂ خدا! مجھے رسول اللہ ﷺ سے کوئی کام ہے کیا تو مجھے آپ کے پاس پہنچا دے گا۔ راوی بیان کرتا ہے میں اسے سوار کر کے مدینہ لے آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد لوگوں سے بھری پڑی ہے اور ایک سیاہ جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما تلوار لگائے رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑے ہیں؟ میں نے پوچھا لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آپ عمرو بن العاص کو امیر بنا کر بھیجا جاتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں بیٹھ گیا اور آپ کے گھر آیا اور آپ سے اجازت طلب کی آپ نے اجازت دی تو میں نے اندر جا کر سلام کہا تو آپ نے فرمایا: کیا تمہارے اور بنی تمیم کے درمیان کوئی چپقلش ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، اور انہیں شکست ہوئی ہے اور میں بنی تمیم کی ایک بڑھیا کے پاس سے گزرا ہوں جو وہاں الگ تھلگ بیٹھی تھی، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اسے سوار کر کے آپ کے پاس لے آؤں اور اس وقت وہ دروازے میں بیٹھی ہے، آپ نے اسے اجازت دی تو وہ اندر آئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ ہمارے اور بنی تمیم کے درمیان کوئی روک بنانا چاہتے ہیں تو ریگستان کو روک بنا دیجیے۔ پس بڑھیا گرمی کھا گئی اور تیار ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ﷺ آپ کا مضر کہاں مجبور ہوگا۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا میری مثال اس قول کی سی ہے جو میرے پہلے تسلی دہندہ نے کہا تھا کہ اس نے اپنی موت کو اٹھایا تھا، میں نے اس بڑھیا کو اٹھایا اور یہ نہ سمجھا کہ یہ میری مخالف ہوگی۔ میں عاد کے قاصد کی طرح ہونے سے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ چاہتا ہوں، اس بڑھیا نے کہا عاد کا قاصد کیا تھا؟ اور وہ اس سے بات کو بہتر جانتی تھی، لیکن اس سے مزا حاصل کر رہی تھی، میں نے کہا کہ عاد قوم میں قحط پڑ گیا تو انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا جسے قیل کہا جاتا تھا، وہ معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا تو اس کے پاس ٹھہر گیا وہ اسے شراب پلاتا اور دونوں دنیاں اسے گانا سناتیں جنہیں ٹڈیاں کہا جاتا تھا۔ پس جب ایک ماہ گزر گیا تو وہ مہرہ کے

پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں کسی مریض کے پاس نہیں آیا کہ اس کا علاج کروں اور نہ کسی قیدی کے پاس آیا ہوں کہ اسے چھڑاؤں۔ اے اللہ تو عاقل اور عاقل چیز سے میرا بکرہ ہے جس سے تو میرا بکرہ کیا کرتا ہے پس یاہ بادل اس کے پاس سے گزرے تو ان سے آواز آئی کہ پسند کر لے تو اس نے ایک سیاہ بادل کی طرف اشارہ کیا تو اس سے آواز آئی انہیں راکھ بنا دے اور عاقل سے ہی بابتی نہ چھوڑ۔ راوی بیان کرتا ہے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی ہوائیں جتنی میری اس انگٹھی میں چلتی ہے حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گئے۔

ابووائل نے بیان کیا ہے کہ اس نے درست کہا ہے۔ پس جب کوئی مرد یا عورت اپنے کسی قاصد کو بھیجتے تو کہتے کہ وہ عاقل کے قاصد کی طرح نہ ہو۔ اور نسائی اور ترمذی نے اسے ابوالمزہر بن سلام بن سلیمان کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اسے عن ابی بکر بن ابی شیبہ عن ابی بکر بن عیاش عن عاصم بن ابی النجد عن الحارث الکبریٰ روایت کیا ہے اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عاصم بن ابی وائل عن الحارث درست ہے۔

عبدالرحمن بن ابی عقیل کی اپنی قوم کے ساتھ آمد:

ابو بکر بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ اسحاق بن محمد بن یوسف السوسی نے ہمیں خبر دی کہ ابو جعفر محمد بن محمد بن عبد اللہ بغدادی نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں علی بن الجعد نے خبر دی کہ ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا کہ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا کہ ہم سے ابو خالد یزید اسد بنی نے بیان کیا کہ ہم سے عون بن ابی حنیفہ نے عن عبدالرحمن بن علقمہ ثقفی عن عبدالرحمن بن ابی عقیل بیان کیا کہ میں ایک وفد میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا اور ہم نے دروازے پر اونٹ بٹھا دیئے اور جس آدمی کے پاس ہم گئے اس سے بڑھ کر کوئی آدمی ہمیں مغفوس نہ تھا، پس جب ہم گئے اور آئے تو لوگوں میں اس شخص سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہ تھا، جس کے پاس ہم گئے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی نے کہا:

”یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے اپنے رب سے سلیمان کی بادشاہی کی طرح بادشاہی کی دعا نہیں کی۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ مسکرا پڑے۔ پھر فرمایا:

”شاید تیرا آقا اللہ کے ہاں سلیمان کی بادشاہی سے زیادہ افضل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، جس کو ایک دعا عطا نہ کی ہو، پس ان میں سے کسی نے اسے دنیا کے لیے رکھ لیا اور اللہ نے اسے دنیا دے دی اور ان میں سے کسی نے جب اس کی قوم نے نافرمانی کی تو اس نے ان پر بددعا کی اور وہ اس سے ہلاک ہو گئے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دعا عطا فرمائی ہے اور میں نے اسے بروز قیامت اپنے رب کے پاس اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا رکھا ہے۔“

طارق بن عبد اللہ اور اس کے اصحاب کی آمد:

حافظ بیہقی نے ابو خباب کلبی کے طریق سے جامع بن شداد محاربی سے روایت کی ہے کہ میری قوم کے طارق بن عبد اللہ نامی ایک آدمی نے مجھے بتایا وہ بیان کرتا ہے کہ: میں ذوالحجاز کے بازار میں کھڑا تھا کہ ایک چہ دار آدمی اس کے پاس آ کر کہنے لگا:

”اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے اور ایک آدمی اس کا پیچھا کر کے اسے پھر مار رہا تھا“ اور وہ کہہ رہا تھا: ”اے

لوگو! یہ کذاب ہے! میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بنی ہاشم کا ایک جوان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول خیال کرتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے پوچھا جو شخص اسے پتھر مار رہا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کا چچا عبدالمعز بن قیس ہے۔ راوی بیان کرتا ہے جب دو مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر گئے تو ہم ربذہ سے مدینہ جانے کے لیے نکلے تاکہ اس کی کھجوریں لائیں۔ پس جب ہم اس کی دیواروں اور کھجور کے درختوں کے نزدیک ہوئے تو میں نے کہا کاش ہم اترتے اور دوسرے کپڑے پہنتے! کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی دو چادریں اوڑھے ہوئے ہے اس نے ہمیں سلام کیا اور پوچھا یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے جواب دیا ربذہ سے اس نے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا اس مدینہ میں اس نے پوچھا تمہیں وہاں کیا کام ہے؟ ہم نے کہا ہم اس کی کھجوریں لینا چاہتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری ایک عورت بھی تھی اور ایک نکیل پڑا اونٹ بھی تھا اس نے پوچھا کیا تم اپنے اس اونٹ کو میرے پاس بیچو گے؟ ہم نے کہا ہاں، کھجور کے صاع کے ساتھ اس طرح، راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے جو کہا اس نے ہم سے اس میں کمی کرنے کو نہ کہا اور اونٹ کی مہار پکڑی اور چل دیا، پس جب وہ مدینہ کی دیواروں اور کھجور کے درختوں میں ہم سے اوٹھل ہو گیا تو ہم نے کہا ہم نے کیا کیا ہے؟ خدا کی قسم ہم نے اونٹ کو کسی واقف آدمی کے پاس نہیں بیچا۔ اور نہ ہم نے اس سے قیمت لی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے جو عورت ہمارے ساتھ تھی وہ کہنے لگی خدا کی قسم میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کے ٹکڑے کی طرح ہے اور میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں کہ اچانک وہ آدمی آ گیا اور کہنے لگا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہاری کھجوریں ہیں، پس کھاؤ اور سیر ہو جاؤ اور ماپو اور پورا لو۔ پس ہم نے کھجوریں کھائیں حتیٰ کہ ہم سیر ہو گئے اور ہم نے پورا ماپ لیا۔ پھر ہم مدینہ میں داخل ہوئے، پس جب ہم مسجد گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص منبر پر کھڑا ہو کر لوگوں کو خطبہ دے رہا ہے، ہم نے اس کے خطبے سے جو بات معلوم کی وہ یہ تھی کہ:

”صدقہ دو صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پرکا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی اور تیرے قریبی تیرے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اچانک بنی ربیع یا انصار کا ایک آدمی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ جاہلیت میں ہمارے کچھ خون ان کے ذمے ہیں، آپ نے تین بار فرمایا: باپ اپنے بیٹے پر ظلم نہیں کرتا۔“

اور نسائی نے صدقے کی فضیلت کا کچھ حصہ عن یوسف بن عیسیٰ عن الفضل بن موسیٰ عن یزید بن زیاد بن ابی الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد اللہ المحاربی بیان کیا ہے اور حافظ بیہقی نے اسے اسی طرح عن حاکم عن اصم عن احمد بن عبد الجبار عن یونس بن کثیر عن یزید بن زیاد عن جامع بن طارق پوری طوالت کے ساتھ روایت کیا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اس نے اس میں بیان کیا ہے کہ عورت نے کہا۔ ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو۔ میں نے اس آدمی کے چہرے کو دیکھا ہے وہ خیانت نہیں کرے گا، میں نے چودھویں کے چاند کے سوا کسی چیز کو اس کے چہرے کی مانند نہیں پایا۔

بلاد معان کے حکمران فروہ بن عمرو الحدادی کے قاصد کی آمد:

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ فروہ بن عمرو بن النافرہ الحدادی ثم السفاری نے اپنے اسلام کے ساتھ ایک قاصد کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا اور آپ کو سفید خچر بدیدیا اور فروہ، رومیوں کے قریبی عربوں پر ان کا عامل تھا اور اس کا مقام معان اور

اس کے ارد گرد کا شامی علاقہ تھا جسے جب رومیوں کو اس کے اسلام کی اطلاع ملی تو انہوں نے اسے تلاش کیا اور بکرا سے تیر کر دیا تو اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں میں کہا:

رات کو سلیبی کسی وقت میرے اصحاب کے پاس آئی جبکہ رومی دروازے اور قرآن کے درمیان تھے۔ خیال نے روک دیا اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا اسے برا خیال کیا اور میں نے اونگھنا پایا اور اس نے مجھے رُلا دیا۔ میرے بعد تمہی آنکھ میں سرمہ نہیں لگائے گی اور نہ آنے والے کو بدلا دے گی اور میں ابولہبہ کو جانتا ہوں اور وہ اعزبی کے درمیان میری زبان نہیں کاٹ سکتا اور گھر میں ہلاک ہو جاؤں تو تم اپنے بھائی کو کھودو گے اور اگر میں زندہ رہا تو وہ میرے مقام کو جان لیں گے اور جو کچھ کوئی جوان جمع کر سکتا ہے میں نے اس سے بڑی باتیں یعنی سخاوت و شجاعت اور بیان کو جمع کیا ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ جب رومیوں نے اسے اپنے ایک فلسطینی پانی عنفری پر صلیب دینے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا: کہ سلیبی کو اطلاع مل گئی ہے کہ اس کا خاوند عنفری کے پانی پر ایک اونٹنی پر سوار ہے وہ ایسی ناقہ پر سوار ہے جس کی ماں پر نرکو اس حال میں نہیں ڈالا گیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اونٹوں کے باہر سے کسے گئے ہوں۔

راوی کا بیان ہے کہ زہری کا خیال ہے کہ جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے لے گئے تو اس نے کہا: مسلمانوں کے سرداروں کو اطلاع کر دو کہ میں نے اپنی ہڈیاں اور اپنا مقام اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے پھر انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس پانی پر اسے صلیب دے دی۔ رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ و أرضاه و جعل الجنة مثواہ.

آنحضرت کے خروج کے وقت تمیم الداری کی آپ کے پاس آمد اور ایمان لانے والوں کا آپ پر ایمان لانا:

ابو عبد اللہ سہیل بن محمد بن نصر وہ المروزی نے نیشاپور میں پہلی اطلاع دی کہ ابو بکر محمد بن احمد بن الحسن قاضی نے ہمیں خبر دی کہ ابو سہیل احمد بن محمد بن زیاد القطان نے ہمیں خبر دی کہ یحییٰ بن جعفر بن زبیر نے ہم سے بیان کیا کہ وہب بن جریر نے ہمیں خبر دی کہ میرے باپ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے غیلان بن جریر کو شععی سے بحوالہ فاطمہ بنت قیس بیان کرتے سنا، وہ بیان کرتی ہیں کہ: تمیم الداری رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ کو بتایا کہ اس نے سمندر میں سفر کیا اور اس کی کشتی بھٹک گئی اور وہ ایک جزیرہ میں اتر گئے اور وہ اس میں پانی تلاش کرنے گئے تو وہ ایک انسان سے ملے جو اپنے بالوں کو گھسیٹ رہا تھا اس نے اس سے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں جسامہ ہوں انہوں نے کہا ہمیں کچھ بتاؤ اس نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ لیکن تمہیں اس جزیرہ میں جانا لازم ہے۔ پس ہم اس میں داخل ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں ایک آدمی کو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اس نے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، اس نے پوچھا جو نبی تم میں ظاہر ہوا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا لوگ اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کی پیروی کی ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اس نے کہا یہ بات ان کے لیے بہتر ہے اس نے کہا کیا تم چشمہ زعر کے متعلق بتاؤ گے کہ اس نے کیا کیا، تو ہم نے اسے اس کے متعلق خبر دی تو اس نے چھلانگ لگائی، قریب تھا کہ وہ دیوار کے پیچھے سے نکل جائے۔ پھر اس نے پوچھا بیسان کے کھجور کے درختوں نے کیا کیا، کیا انہیں بعد ازاں کھایا گیا ہے تو ہم نے اسے بتایا کہ انہیں کھایا گیا ہے تو اس نے اسی طرح چھلانگ لگائی، پھر کہنے لگا اگر مجھے نکلنے کی اجازت ہوتی تو طیبہ کے سوا سب شہر پامال

ہو جانے۔ فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے نکالا اور لوگوں سے باتیں کیں اور بتایا کہ یہ طیبہ ہے اور وہ دجال ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، مسلم اور ابیٰ یوسف نے کئی طرق سے عن عامر بن شراہیل الشعمی عن فاطمہ بنت قیس روایت کیا ہے۔ اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے اس کا شاہد بیان کیا ہے۔ اور غفریب یہ حدیث اپنے طرق والفاظ کے ساتھ کتاب الفتن میں بیان ہوگی۔ اور واقدی نے تخم کے الدارس کے وفد کا ذکر کیا ہے جو دس آدمی تھے۔

بنی اسد کا وفد:

اسی طرح واقدی نے بیان کیا ہے کہ ۹ھ کے آغاز میں بنی اسد کا وفد رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور وہ دس آدمی تھے جن میں ضرار بن الازور و ابصہ بن معبد اور طلحہ بن خویلد جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا پھر ازاں بعد وہ بہت اچھا مسلمان ہو گیا اور نفاذہ بن عبد اللہ بن خلف شامل تھے ان کے لیڈر حضرت بن عامر نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ کے پاس بے آب و گیاہ سال میں شب تار سے گذر کر آئے ہیں اور آپ نے ہماری طرف کوئی فوج نہیں بھیجی تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ:

”وہ تجھ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے اسلام کی جانب تمہاری رہنمائی کی ہے اگر تم راست باز ہو۔“

اور ان میں ایک قبیلہ تھا جسے بنو الرقیہ کہا جاتا تھا آپ نے ان کا نام بدل دیا اور فرمایا تم بنو الرشدہ ہو اور رسول اللہ ﷺ نے نفاذہ بن عبد اللہ بن خلف سے ایک اونٹنی ہدیہ طلب کی جس کے ساتھ کوئی بچہ نہ ہو اور وہ سواری اور دودھ کے لحاظ سے اچھی ہو اس نے اسے تلاش کیا اور وہ اسے اپنے ایک عمارد کے ہاں ملی اور وہ اسے لے آیا رسول کریم ﷺ نے اسے دوہنے کا حکم دیا پس آپ نے اس کا دودھ پیا اور اسے اپنا جھوٹا دودھ پلایا پھر فرمایا:

”اے اللہ! اس میں برکت دے اور اسے بھی جس نے اسے عطا کیا ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اور جو اسے لے کر آیا ہے اسے بھی برکت دے تو آپ نے فرمایا اور اسے بھی جو اسے لایا ہے۔“

بنی عیس کا وفد:

واقدی بیان کرتا ہے کہ وہ نو آدمی تھے۔ اور واقدی نے ان کے نام بھی بتائے ہیں پس حضرت نبی کریم ﷺ نے انہیں فرمایا: ”میں تمہارا دسواں ہوں“ اور آپ نے طلحہ بن عبد اللہ کو حکم دیا تو اس نے ان کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کا شعار ”اے دس“ مقرر کیا اور اس نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان سے خالد بن سنان العیسیٰ کے متعلق دریافت کیا جس کے حالات قبل ازیں ہم ایام جاہلیت میں ہی بیان کر آئے ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں نیز اس نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے انہیں شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کی نگرانی کے لیے بھیجا اس عبارت کا مقتضی یہ ہے کہ ان کی آمد فتح سے پہلے ہوئی تھی۔ واللہ اعلم

بنی فزارہ کا وفد:

واقدی بیان کرتا ہے کہ ہم سے عبداللہ بن محمد مرثدہ نے ابی وجزۃ السعدی سے بیان کیا کہ جب ۹ھ رسول کریم ﷺ تبوک سے واپس آئے تو آپ کی خدمت میں بنی فزارہ کا وفد آیا جو دس پندرہ آدمیوں پر مشتمل تھا جس میں خارجه بن حصن اور حارث بن قیس بن حصن شامل تھے اور حارث ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ لوگ کمزور سوار یوں پر آئے اور اہلام کا اقرار کرتے ہوئے آئے۔ رسول کریم ﷺ نے ان سے ان کے علاقے کے متعلق پوچھا تو ان میں سے ایک نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے اور ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے ہیں اور ہمارے باغات خشک ہو گئے ہیں اور ہمارے اہل و عیال بھوکے ہیں پس ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے رسول کریم ﷺ نے منبر پر چڑھ کر دعا کی۔

اے اللہ! اپنے ملک اور چوپایوں کو سیراب کر دے اور اپنی رحمت کو پھیلا دے اور اپنے مردہ ملک کو زندہ کر دے۔ اے اللہ! ہمیں عام بارش سے سیراب کر دے جو خوشگوار خوشحالی لانے والی، فضا کو ڈھانک لینے والی، وسیع جلد آنے والی، دیر نہ کرنے والی، نفع مند اور نقصان نہ دینے والی ہو اے اللہ! یہ سیرابی رحمت والی ہو عذاب والی ڈھانے والی، غرق کرنے والی اور مٹا دینے والی نہ ہو۔ اے اللہ! ہمیں بارش سے سیراب کر دے اور ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما۔

راوی بیان کرتا ہے کہ بارش ہوئی اور لوگوں نے ہفتہ تک آسمان کو نہ دیکھا تو رسول کریم ﷺ نے منبر پر چڑھ کر دعا کی: ”اے اللہ! ہمارے اردگرد دیلوں پر اور وادیوں کے بطون اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش کر اور ہم پر بارش نہ کر۔ پس مدینہ سے بادل یوں پھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ جا رہا ہے۔“

بنی مرہ کا وفد:

واقدی بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ ۹ھ میں آپ کی تبوک سے واپسی پر آئے تھے اور یہ تیرہ آدمی تھے جن میں حارث بن عوف بھی شامل تھا حضور ﷺ نے انہیں چاندی کے بیس اوقیہ عطیہ دیا۔ اور حارث بن عوف کو بارہ اوقیہ دیئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کا علاقہ قحط زدہ ہے تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی: ”اے اللہ! ان کو بارش سے سیراب کر دے۔“ اور جب وہ اپنے علاقے کو واپس گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ جس دن رسول کریم ﷺ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اسی دن یہاں بارش ہو گئی تھی۔

بنی نعلبہ کا وفد:

واقدی بیان کرتا ہے کہ مجھ سے موسیٰ بن محمد بن ابراہیم نے بنی نعلبہ کے ایک آدمی سے اور اس نے اپنے باپ سے بیان کیا ہے کہ جب ۸ھ میں رسول کریم ﷺ الحجرانہ سے تشریف لائے تو ہم چار آدمی آپ کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے ان لوگوں کے جو ہمارے پیچھے ہیں اپنی ہیں اور وہ اسلام کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ نے ہماری ضیافت کرنے کا حکم دیا اور ہم نے چند روز قیام کیا پھر ہم آپ کے پاس آپ کو الوداع کہنے آئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ان کو بھی ایسے ہی عطیہ دیجیے جیسے آپ وفد کو عطیہ دیتے ہیں۔ تو وہ چاندی کا ایک تیل لائے اور آپ نے ہم میں سے ہر ایک کو پانچ اوقیہ دیئے اور فرمایا ہمارے پاس دراہم نہیں ہیں اور اپنے علاقے کو واپس چلے گئے۔

بنی مبارب کا وفد:

واقفی بیان کرتا ہے کہ مجھ سے مدینہ صلیح نے ابو جردہ السعدی سے بیان کیا کہ محارب کا وفد، اہ میں تہہ الوداع میں آیا اور وہ دس آدمی تھے جن میں سواہ بن الحارث اور اس کا بیٹا خزیمہ بن سواہ شامل تھے پس وہ حارث کی بیٹی رملہ کے ہاں اترے اور حضرت بلال بن رباح کے پاس صبح و شام کا کھانا لاتے تھے پس وہ مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے ہم اپنے پچھلے لوگوں کے ذمہ دار ہیں اور ان اجتماعات میں ان سے بڑھ کر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ پر سخت گیر اور سخت کلام نہ تھا اور وفد میں ان کے ایک آدمی کو رسول کریم ﷺ نے پہچان لیا تو اس نے کہا اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے آپ کی تصدیق کرنے تک زندہ رکھا، اس پر رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”بے شک یہ دل اللہ کے قبضے میں ہیں“۔ اور رسول کریم ﷺ نے خزیمہ بن سواہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ سفید روشن ہو گیا اور آپ نے انہیں اسی طرح عطیات دیئے جیسے آپ وفد کو دیا کرتے تھے اور وہ اپنے علاقے کو واپس چلے گئے۔

بنی کلاب کا وفد:

واقفی بیان کرتا ہے کہ یہ ۹ھ میں آئے تھے اور تیرہ آدمی تھے جن میں مشہور شاعر لبید بن ربیعہ اور جبار بن سلمی شامل تھے اور اس کے اور کعب بن مالک کے درمیان دوستی تھی پس اس نے اسے خوش آمدید کہا اور اس کا اکرام کیا اور اسے ہدیہ دیا اور وہ اس کے ساتھ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ کو اسلام کا سلام کہا۔ اور آپ کو بتایا کہ ضحاک بن سفیان کلابی ان میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو لے گیا تھا جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور اس نے ان کو اللہ کی جانب بلایا تو انہوں نے اس کی بات قبول کر لی اور اس نے ان کے اغنیاء سے صدقات لے کر ان کے فقراء پر صرف کر دیئے ہیں۔

بنی رواس بن کلاب کا وفد:

واقفی نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی جسے عمرو بن مالک بن قیس بن بجید بن رواس بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ کہا جاتا تھا رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا، پھر اس نے اپنی قوم کے پاس واپس جا کر انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا جب تک ہم بنی عقیل کے اتنے آدمی قتل نہ کر لیں جتنے انہوں نے ہمارے آدمی قتل کیے ہیں اس وقت تک ہم دعوت الی اللہ کو قبول نہ کریں گے۔ اور اس نے ان کی باہمی جنگ کا ذکر کیا اور اس عمرو بن مالک نے بنی عقیل کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کڑی میں کس دیا اور رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور جو فعل میں نے کیا تھا اس کی اطلاع آپ کو مل چکی تھی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آیا تو میں اس کے ہاتھ پر جو کڑی سے اوپر ہے ماروں گا پس جب میں آیا تو میں نے سلام کہا اور آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا اور منہ پھیر لیا، پھر میں آپ کی دائیں جانب سے آیا تو آپ نے مجھ سے اعراض کیا، پھر میں آپ کی بائیں جانب سے آیا تو آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا، پھر میں آپ کے سامنے سے آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ بے شک اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ آپ نے فرمایا: ”میں راضی ہوں“۔

کنانہ کا وفد:

واقدی نے اپنی اسانید سے روایت کیا ہے کہ وائلہ بن الاسقع لیشی اس وقت رسول کریم ﷺ کے پاس آیا جب آپ تبوک کی طرف تیار ہو رہے تھے اس نے آپ کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی پھر اپنی قوم کی طرف واپس آ کر انہیں دعوت دی اور انہیں رسول کریم ﷺ کے متعلق بتایا تو اس کے باپ نے اسے کہا خدا کی قسم میں تمہیں کبھی سواری نہیں دوں گا اور اس کی بہن نے اس کی بات سنی تو وہ مسلمان ہو گئی اور اسے تیار کیا یہاں تک کہ وہ رسول کریم ﷺ کے ساتھ تبوک کی طرف گیا اور وہ کعب بن عجرہ کے اونٹ پر سوار تھا اور رسول کریم ﷺ نے اسے اکیدردومہ کی طرف بھیجا تھا، پس جب وہ واپس آئے تو وائلہ نے کعب بن عجرہ کے سامنے وہ شرط پیش کی جو اس نے نینیت کے حصہ کے متعلق اس پر عائد کی تھی تو کعب نے اسے کہا میں نے تجھے صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر سواری دی تھی۔

اشجع کا وفد:

واقدی بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ خندق کے سال آئے تھے اور وہ ایک سو آدمی تھے اور ان کا لیڈر مسعود بن زحلیہ تھا پس وہ سلع کی گھاٹی میں اترے تو رسول کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے لیے کھجوروں کے بوجھوں کا حکم دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بنی قریظہ سے آپ کی فراغت کے بعد آئے تھے اور یہ سات سو آدمی تھے پس آپ نے ان سے مصالحت کی اور وہ واپس چلے گئے پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔

بابلہ کا وفد:

ان کا لیڈر مطرف بن الکاہن فتح کے بعد آیا اور مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنی قوم کے لیے امان حاصل کی اور آپ نے اس کے لیے ایک تحریر لکھی جس میں اسلام کے فرائض و احکام کا ذکر تھا اور جسے حضرت عثمان بن عفان نے لکھا تھا۔

بنی سلیم کا وفد:

حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بنی سلیم کا ایک آدمی آیا جسے قیس بن شبہ کہا جاتا تھا آپ نے اس کی باتیں سنیں اور اس سے کچھ اشیاء کے متعلق دریافت کیا تو اس نے آپ کو جواب دیا اور آپ نے یہ سب باتیں یاد رکھیں، اور رسول اللہ ﷺ نے اسے دعوت اسلام دی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اپنی قوم بنی سلیم کی طرف واپس جا کر کہنے لگا میں نے رومیوں کے ترجمہ ایرانیوں کی آہستہ آواز عربوں کے اشعار کا ہنوں کی کہانت اور حمیر کے گفتگو کرنے والے کے کلام کو سنا ہے، پس محمد ﷺ کا کلام ان کے کلام سے کچھ بھی مشابہت نہیں رکھتا، پس میری مانو اور اس سے اپنا حصہ لے لو، اور جب فتح کا سال آیا تو بنو سلیم نکلے اور رسول اللہ ﷺ کو قدید میں ملے اور وہ سات سو تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہزار تھے اور ان میں عباس بن مرداس اور ان کے سرداروں کی ایک جماعت بھی تھی اور کہنے لگے ہمیں اپنے ہر اقل میں رکھیے اور ہمارا جھنڈا سرخ بنائیے اور ہمارا شعار مقدم بنائیے، تو آپ نے انہیں یہی کچھ بنا دیا اور وہ فتح مکہ طائف اور حنین میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ اور راشد بن عبد ربہ سلمی ایک بت کی پوجا کیا

کرتا تھا اس نے ایک روز دیکھا کہ وہ لوگ اس پر پیشاب کر رہے ہیں، تو اس نے کہا:

”کیا وہ رب ہے جس کے سر پر دو لومڑا پیشاب کر رہے ہیں اور جس کے سر پر لومڑا پیشاب کرے وہ کمزور ہوتا ہے۔“

پھر اس نے اس پر حملہ کر کے اسے توڑ دیا اور پھر رسول کریم ﷺ کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا رسول کریم ﷺ نے اس

سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا غادی بن عبدالعزیٰ تو آپ نے فرمایا بلکہ تو راشد بن عبد ربہ ہے اور اسے رباط نامی جگہ جاگیر

میں دی جس میں ایک چشمہ رواں تھا جسے چشمہ رسول کہا جاتا تھا۔ اور فرمایا یہ بنی سلیم کا بہترین آدمی ہے اور آپ نے اسے اپنی قوم

کا سردار بنا دیا اور وہ فتح مکہ اور اس کے بعد کے معرکوں میں شامل ہوا۔

بنی ہلال بن عامر کا وفد:

اور ان کے وفد میں عوف بن احمر بھی تھا جو مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور قبیصہ بن مخارق

بھی تھا جس کی صدقات کے بارے میں حدیث ہے اور بنی ہلال کے وفد میں زیاد بن عبداللہ بن مالک بن نجیر بن الہدم بن رویہ

بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بھی تھا اور جب یہ مدینہ میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے گھر جانے کا ارادہ کیا

اور ان کے پاس چلا گیا، پس جب رسول کریم ﷺ اپنے گھر آئے تو آپ نے اسے دیکھا تو غصے ہو گئے اور واپس لوٹے، تو حضرت

میمونہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ نہرا بھانجا ہے تو آپ اندر آ گئے۔ پھر زیاد کے ساتھ آپ مسجد کی طرف گئے اور آپ

نے نماز ظہر ادا کی، پھر آپ نے زیاد کو قریب کیا اور ان کے لیے دعا کی اور اپنے ہاتھ کو اس کے سر پر رکھا۔ پھر اسے اس کی ناک کی

ایک طرف لے گئے اور بنو ہلال کہا کرتے تھے کہ ہم ہمیشہ زیاد کے چہرے سے برکت حاصل کرتے تھے اور ایک شاعر نے علی بن

زیاد سے کہا:

”وہ ہستی جس کے سر کو حضرت نبی کریم ﷺ نے چھوا اور مسجد میں اس کے لیے دعائے خیر کی یعنی زیاد کے لیے اور میری

مراد اس کے سوا کوئی مسافر یا تہامہ یا نجد جانے والا نہیں ہے۔ اور وہ نور، ہمیشہ اس کی ناک پر رہا۔ یہاں تک اس نے قبر

میں اپنا گھر بنا لیا۔“

بنی بکر بن وائل کا وفد:

واقدی بیان کرتا ہے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے حس بن ساعدہ کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا وہ تم

میں سے نہیں ہے وہ ایاد کا آدمی ہے جو جاہلیت میں موحد ہو گیا تھا پس وہ عکاظ آیا اور لوگ اجتماع کیے ہوئے تھے اور اس نے ان

سے وہ باتیں کیں جو اس نے آپ سے حفظ کی تھیں، راوی بیان کرتا ہے کہ وفد میں بشیر بن الخصاصیہ، عبداللہ بن مرہد اور حسان بن

خوط بھی تھے، راوی کہتا ہے کہ حسان کی اولاد میں سے ایک آدمی نے کہا:

”میں اور حسان بن خوط اور میرا باپ بکر کے ایلچی بن کر حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس گئے۔“

بنی تغلب کا وفد:

بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سولہ مسلمان آدمی تھے اور نصاریٰ پر سنہری صلیبیں تھیں اور یہ حارث کی بیٹی رملہ کے گھر اترے، پس

رسول کریم ﷺ نے نصاریٰ سے ان شرائط پر مصالحت کی کہ وہ اپنی اولاد کو نصرانیت میں ضائع نہ کریں اور ان میں سے مسلمانوں کو پناہ دی۔

اہل یمن اور تحیب کے وفد

واقفی بیان کرتا ہے کہ وہ ۹۹ھ میں آئے تھے اور وہ تیرہ آدمی تھے اور آپ نے ان کو دوسروں سے زیادہ عطیات دیئے اور ان کے ایک جوان کو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟“ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے اور میرے دل کو فنی کر دے۔ آپ نے فرمایا:

”اے اللہ! اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کے دل کو فنی کر دے۔“

اور اس کے بعد وہ بڑے درویشوں میں سے ہو گیا۔

خولان کا وفد:

بیان کیا گیا ہے کہ یہ دس آدمی تھے اور یہ شعبان ۱۰ھ میں آئے تھے اور رسول کریم ﷺ نے ان سے ان کے بت کے بارے میں دریافت کیا جسے انس کہا جاتا تھا انہوں نے کہا ہم نے اس سے بہتر بت بدل لیا ہے اور اگر ہم واپس گئے تو ہم اسے مسمار کر دیں گے اور انہوں نے قرآن و سنن کو سیکھا اور جب واپس گئے تو بت کو مسمار کر دیا۔ اور جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اسے حلال ٹھہرایا اور جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام ٹھہرایا۔

جعفی کا وفد:

بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دل کے کھانے کو حرام قرار دیتے تھے جب ان کا وفد مسلمان ہو گیا تو رسول کریم ﷺ نے انہیں دل کے کھانے کا حکم دیا اور آپ کے حکم سے اسے بھونا گیا اور آپ نے اسے ان کے لیڈر کو دیا اور فرمایا جب تک تم اسے نہ کھاؤ تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا پس اس نے اسے پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا پس اس نے اسے کھایا اور کہا:

”میں نے بادل نخواستہ دل کو کھایا اور جب میری انگلیوں نے چھوا تو وہ کانپ رہی تھیں۔“



رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ازد کی آمد

ابو نعیم نے کتاب معرفۃ الصحابہ میں اور حافظ ابو موسیٰ المدینی نے احمد بن ابی الحواری کی حدیث سے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو سلیمان الدارانی کو کہتے سنا کہ مجھ سے علقمہ بن مرشد بن سوید ازدی نے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے دادا سے بحوالہ سوید بن الحارث مجھے بتایا کہ میں اپنی قوم کا ساتواں آدمی تھا جو رسول کریم ﷺ کے پاس گیا، پس جب ہم آپ کے پاس گئے اور آپ سے گفتگو کی تو آپ ہماری علامت اور لباس کو دیکھ کر حیران ہوئے اور فرمایا تم کون ہو؟ ہم نے جواب دیا۔ ہم مومن ہیں تو آپ مسکرائے اور فرمایا۔ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے قول اور ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے عرض کیا پندرہ خصائل ان میں سے پانچ کے متعلق آپ کے اہل بیویوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور پانچ پر آپ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور پانچ کو ہم نے جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پر قائم ہیں سوائے اس کے کہ آپ ان میں سے کسی کو ناپسند کریں، رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

وہ پانچ باتیں کون سی ہیں جن پر میرے اہل بیویوں نے تمہیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے؟ ہم نے کہا، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ، کتابوں، رسولوں اور بعثت اور موت پر ایمان لائیں، آپ نے فرمایا وہ پانچ باتیں کون سی ہیں جن پر میں نے تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں اور استطاعت کی صورت میں بیت اللہ کا حج کریں، آپ نے فرمایا وہ پانچ باتیں کون سی ہیں جو جاہلیت میں تم نے اختیار کی تھیں، انہوں نے جواب دیا:

”فراخی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، مصیبت کے وقت صبر کرنا، قضا و قدر کے فیصلہ پر راضی رہنا، جنگ کے میدان میں

ثابت قدم رہنا اور دشمنوں سے شامت ترک کرنا۔“

رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”حکماء، علماء، قریب ہیں کہ یہ اپنی سمجھ کی وجہ سے انبیاء ہو جائیں۔“

پھر آپ نے فرمایا میں تم سے پانچ باتوں کا خواہاں ہوں، تو تمہاری بیس خصالتیں پوری ہو جائیں گی اگر تم ایسے ہو جیسا کہ تم بیان کرتے ہو۔ جو تم کھاتے نہیں اسے جمع نہ کرو اور جس میں رہتے نہیں اسے نہ بناؤ اور اس چیز میں زیادہ رغبت نہ کرو جسے کل تم نے چھوڑ دینا ہے اور اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کی طرف تم نے لوٹنا ہے اور جس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس چیز میں رغبت نہ کرو جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے اور جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔

پس وہ لوگ رسول کریم ﷺ کے پاس سے واپس چلے گئے اور انہوں نے آپ کی وصیت کو یاد رکھا اور اس پر عمل کیا۔

کنندہ کا وفد:

یہ وفد پندرہ آدمی تھے جن کا لیڈر اشعث بن قیس تھا اور آپ نے انہیں دس اونیسے عطیہ دیا اور اشعث کو بارہ اونیسے دیئے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

الصفد کا وفد:

یہ وفد پندرہ سواروں کا تھا اور یہ رسول کریم ﷺ سے اس وقت ملے جبکہ آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، پس یہ بیٹھ گئے اور مسلمان نہ ہوئے، آپ نے فرمایا: ”کیا تم مسلمان ہو؟“ انہوں نے جواب دیا: ہاں، آپ نے فرمایا: تم نے سلام کیوں نہیں کیا، تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے نبی! آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو، آپ نے فرمایا: اور تم پر بھی سلام ہو، بیٹھ جاؤ، پس وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز کے اوقات کے متعلق دریافت کیا۔

نخسین کا وفد:

راوی بیان کرتا ہے کہ ابو ثعلبہ نخسینی اس وقت آیا جب رسول کریم ﷺ خیبر جانے کی تیاری کر رہے تھے پس وہ خیبر میں آپ کے ساتھ شامل ہوا، پھر اس کے بعد ان میں سے دس پندرہ آدمی آئے اور مسلمان ہو گئے۔

بنی سعد کا وفد:

پھر اس نے بنی سعد ہذیم، بلعی، بہراء، بنی عذرہ، سلاماں، جہینہ، بنی کلب اور جریموں کے وفود کا ذکر کیا ہے۔ اور قبل ازیں صحیح بخاری میں عمرو بن سلمہ الجرمی کی حدیث بیان ہو چکی ہے۔

اور اس نے ازد، غسان، حارث بن کعب، ہمدان، سعد العشیرہ، قیس، الداریون، الزہاد، یون بنی عامر، مسجع، بجیلہ، نخعم اور حضر موت کے وفود کا بھی ذکر کیا ہے اور ان میں وائل بن حجر کا بھی ذکر ہے۔ اور ان میں چار بادشاہوں، حمیدا، نحوسا، مشرجا اور ابضہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور مسند احمد میں ان کی تعریف ان کے بھائی الغمر کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اور واقدی نے اس کے متعلق طویل کلام کیا ہے۔

اور اس نے ازد، عمان، عافق، بارق، دوس، ثمالہ، حدار، اسلم، جذام، مہرہ، حمیر، نجران اور حیسان کے وفود کا بھی ذکر کیا ہے اور ان قبائل کے بارے میں طویل گفتگو کی ہے۔ اور قبل ازیں ہم بعض متعلقہ امور کفایت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔

درندوں کا وفد:

پھر واقدی بیان کرتا ہے کہ مجھ سے شعیب بن عبادہ نے عبدالمطلب بن عبد اللہ بن حطب سے بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ مدینہ میں اپنے اصحاب میں جلوس فرماتے تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بھونکا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ تمہاری طرف درندوں کا اپنی ہے۔ اگر تم پسند کرو تو اس کے لیے کچھ مقرر کرو اور اسے کسی دوسرے کی طرف نہ بھیجو اور اگر تم چاہو تو اسے چھوڑ دو اور اس سے احتیاط کرو، پس جو وہ لے لے وہ اس کا رزق ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا

رسول اللہ ﷺ ہمارا دل اس کے لیے کسی چیز کو پزندہ نہیں کرتا، تو رسول کریم ﷺ نے اپنی تین انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا یعنی ان کو اچک نے پس وہ حرکت کرنا ہوا چلا گیا۔ یہ حدیث اس طریق سے مرسل ہے اور یہ بھیڑ یا اس بھیڑیے کے مشابہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔

یزید بن ہارون نے ہم سے بیان کیا کہ ہمیں قاسم بن الفضل الحمرانی نے عن ابی نصرہ عن ابی سعید خدری خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا اور اسے پکڑ لیا پس چرواہے نے اسے تلاش کیا اور اسے بھیڑیے سے چھین لیا تو بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اور مجھ سے وہ رزق چھینتا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس نے کہا عجیب بات ہے کہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح گفتگو کرتا ہے، بھیڑیے نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات، محمد رسول اللہ ﷺ کے متعلق نہ بتاؤں وہ یثرب میں لوگوں کو گزشتہ باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا آیا یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گیا اور اس نے بکریوں کو مدینہ کے ایک کونے میں روک دیا۔ پھر رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو واقعہ بتایا، تو رسول کریم ﷺ کے حکم سے لوگوں کے جمع ہونے کے لیے منادی کی گئی، پھر آپ باہر آئے اور بدو سے کہا، انہیں بھی وہ واقعہ بتاؤ تو اس نے ان کو واقعہ بتایا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”اس نے سچ کہا ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے گفتگو نہ کریں اور آدمی سے اس کے کوڑے کا سرا اور اس کی جوتی کا تسمہ گفتگو کرے گا اور جو کچھ اس کے اہل و عیال اس کے بعد کرتے رہے ہوں گے اس کی ران اس کے متعلق اسے خبر دے گی۔“

اور ترمذی نے اسے سفیان بن وکج بن الجراح سے عن ابیہ عن القاسم بن الفضل بیان کیا ہے اور اسے حسن، غریب، صحیح کہا ہے اور یہ کہ ہم اسے قاسم بن الفضل کی حدیث کے سوا نہیں جانتے جو اہل عاریث کے نزدیک ثقہ مامون ہے اور یحییٰ اور ابن مہدی نے اسے ثقہ قرار دیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اسے امام احمد نے بھی ایسے ہی روایت کیا ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ شعیب ابن ابی حمزہ نے ہمیں خبر دی کہ مجھ سے عبد اللہ بن ابی الحسین نے بیان کیا کہ مجھ سے مہران نے بیان کیا کہ ہمیں ابو سعید خدری نے اس سے بتایا اور اس نے اس واقعہ کو اس عبارت سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے پھر احمد نے اسے روایت کیا ہے کہ ہم سے ابو النضر نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الحمید بن بہرام نے بیان کیا کہ ہم سے شہر نے بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ ابو سعید نے بیان کیا۔ اور یہ عبارت اس کی مانند ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ اسناد اہل السنن کی شرط کے مطابق ہے لیکن انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔



باب ۱۰

جنات کے وفد

اور قبل ازیں مکہ میں جنات کے وفد کا ذکر بیان ہو چکا ہے اور ہم نے اس بارے میں سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ کے قول: ”اور جب ہم نے تیری طرف جنات کی جماعت بھیجی جو قرآن سنتے تھے“۔

کی تفسیر میں انتہائی کلام کیا ہے۔ اور اس بارے میں جو احادیث و آثار بیان ہوئے ہیں ہم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اس سواد بن قارب کی حدیث بھی بیان کی ہے جو کاہن تھا اور مسلمان ہو گیا تھا اور جو کچھ اس نے اپنے اس چہرے کے متعلق بیان کیا ہے جو اس کے مسلمان ہونے پر اس کے پاس خبر لاتا تھا جب اس نے اسے کہا۔

”میں جنات اور ان کی نجاستوں اور ان کے اونٹوں کو ان کے عرق گیروں کے ساتھ مضبوط باندھ دینے سے حیران ہوتا ہوں۔ وہ مکہ کی جانب ہدایت کی جستجو میں جاتے ہیں اور مومن جن ان کے پلیدوں کی طرح نہیں ہوتا، پس ہاشم کے مخلص دوستوں کی طرف جا اور اپنی آنکھوں سے ان کے سر تک دیکھ“۔

پھر اس نے کہا:

”میں جنات اور ان کے مانگنے اور ان کے اونٹوں کو ان کے کجاووں کے ساتھ باندھنے سے حیران ہوں وہ مکہ کی جانب ہدایت کی جستجو میں جاتے ہیں اور ان کے آگے کے حصے ان کی دموں کی طرح نہیں ہیں، پس ہاشم کے مخلص دوستوں کی طرف جا اور اپنی آنکھوں سے ان کے دروازے کو دیکھو“۔

پھر اس نے کہا:

”میں جنات اور ان کے خبر دینے اور ان کے اونٹوں کو ان کے ریوڑ کے ساتھ باندھنے سے حیران ہوں وہ مکہ کی جانب ہدایت کی جستجو میں جاتے ہیں اور شرارتی ان کے نیک کی طرح نہیں ہوتا، پس ہاشم کے مخلص دوستوں کی طرف جا اور مومن جنات ان کے کفار کی طرح نہیں ہیں“۔

یہ اور اس قسم کے اشعار اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ جنات کے وفد بار بار مکہ کی طرف آتے تھے اور ہم نے وہاں پر اس بات کو بفضل خدا کفایت سے بیان کر دیا ہے۔

اور اس موقع پر حافظ بیہقی نے ایک نہایت غریب بلکہ منکر اور موضوع حدیث بیان کی ہے۔ لیکن اس کا مخرج ’عزیز ہے‘ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے اسی طرح بیان کریں جیسے حافظ بیہقی نے اسے بیان کیا ہے۔ اور قابل تعجب بات یہ ہے کہ وہ دلائل النبوة میں صامہ بن العیثم بن لاقیس بن ابلیس کے حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آنے اور اس کے اسلام لانے کے باب میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابوالحسن محمد بن الحسین بن داؤد علوی رحمہ اللہ نے خبر دی کہ ہمیں ابونصر محمد بن حمدویہ بن سہل القاری المروزی نے بتایا کہ

ہم سے عبد اللہ بن جراح آملی نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن ابی معشر نے بیان کیا کہ میرے باپ نے نافع سے بجا الہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

”ہم تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا آیا اس کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس نے حضرت نبی کریم ﷺ کو سلام کہا آپ نے اس کا جواب دیا پھر فرمایا: ”جنات کے نئے اور ان کا غیر واضح کلام تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا۔ میں ہامہ بن العیشم بن لاقیس بن ابلیس ہوں“ آپ نے فرمایا: ”تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو باپ ہیں تم پر کتنا زمانہ گزر چکا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے دنیا کی تھوڑی عمر ہی بسر کی ہے۔ جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا میں اس وقت چند سال کا تھا“ میں بات کو سمجھتا تھا اور میں ٹیلوں سے گزرتا تھا اور طعام کے خراب کرنے اور رستوں کے قطع کرنے کا حکم دیتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دوسرے لگانے والے بوڑھے اور دیر کرنے والے نوجوان کا عمل بہت برا ہے۔“ اس نے کہا مجھ سے تکرار نہ کیجئے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہوں۔ اور میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں ان کی قوم میں سے ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ تھا۔ اور میں ہمیشہ انہیں اپنی قوم کے خلاف بددعا کرنے پر ملامت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ روپڑے اور انہوں نے مجھے بھی رلا دیا۔ اور فرمایا میں بلاشبہ اس بارے میں پشیمان ہوں اور میں جاہلین میں ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں وہ بیان کرتا ہے میں نے کہا اے نوح میں بھی سعادت مند ہابیل بن آدم شہید کے خون میں شامل تھا کیا آپ کے نزدیک میری توبہ کی کوئی صورت ہے انہوں نے جواب دیا اے ہام! نیکی کا ارادہ کر اور حسرت و ندامت سے قبل اس پر عمل کر اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر کلام اتارا ہے میں نے اس میں پڑھا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو گا وہ اپنے معاملے کو اس طرح نہیں پائے گا جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے توجہ قبول کرنے کی صورت میں پائے گا پس کھڑا ہو جا اور وضو کر اور اللہ تعالیٰ کو دوسجدے کر وہ بیان کرتا ہے کہ جو آپ نے مجھے حکم دیا میں نے اسی وقت اس پر عمل کیا تو اس نے مجھے آواز دی اپنا سر اٹھا تیری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی ہے پس میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا وہ بیان کرتا ہے کہ میں حضرت ہود کے ساتھ ان کی مسجد میں ان کی قوم میں سے ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ تھا اور میں ہمیشہ انہیں اپنی قوم کے خلاف بددعا کرنے پر ملامت کرتا رہا حتیٰ کہ آپ ان پر گریہ کناں ہوئے اور مجھے بھی رلا یا اور کہا میں بلاشبہ اس بارے میں پشیمان ہوں اور میں جاہلین میں ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔

اور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کیا کرتا تھا۔ اور میں پر سکون مکان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اور میں حضرت الیاس علیہ السلام سے وادیوں میں ملا کرتا تھا اور اب بھی انہیں ملتا ہوں اور میں نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے تو انہوں نے مجھے تورات سکھائی اور کہا کہ اگر تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملے تو انہیں میرا سلام کہنا اور میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملا اور میں نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو محمد ﷺ سے

مطے تو آپ کو میرا سلام دینا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے اپنی دونوں آنکھوں کو آزادنی دے دی اور رونے پھر فرمایا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور تجھ پر ادائیگی امانت کی وجہ سے اے ہام جب تک دنیا قائم ہے سلام ہو اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ میرے ساتھ وہ کام کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا انہوں نے مجھے کچھ تورات سکھائی تھی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے اذا وقعت الواقعة والمرسلات عم يتساءلون اذا الشمس كورت معوذتین اور قل هو اللہ احد کی سورتیں سکھائیں اور فرمایا اے ہام! تمہیں جو ضرورت ہو ہمیں بتاؤ اور ہماری ملاقات کو نہ چھوڑنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی اور وہ ہماری طرف واپس نہیں آیا۔ اور اب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔

پھر بیہقی بیان کرتے ہیں کہ اس ابن ابی معشر سے کہا کہ روایت کیا ہے۔ مگر محدثین اسے ضعیف قرار دیتے ہیں اور یہ حدیث ایک اور طریق سے بھی مروی ہے جو اس سے اقویٰ ہے۔ واللہ اعلم



ہجرت کا دسواں سال

آنحضرت ﷺ کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجنا:

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ماہ ربیع الآخرا یا جمادی الاولیٰ ۱۰ھ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نجران میں بنی حارث بن کعب کی طرف بھیجا اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے قبل انہیں تین بار دعوت اسلام دے لیں، اگر وہ قبول کر لیں تو آپ ان کی بات کو قبول کر لیں اور اگر وہ قبول نہ کر لیں تو ان سے جنگ کریں، حضرت خالد رضی اللہ عنہ روانہ ہو کر ان کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے ہر طرف سواروں کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیج دیا۔ وہ کہتے اے لوگو! اسلام قبول کرو تم محفوظ ہو جاؤ گے، پس لوگوں نے اسلام قبول کیا اور دعوت اسلام میں شامل ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حکم رسول کے مطابق کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور جنگ نہ کریں، ان میں قیام پذیر ہو کر انہیں اسلام، کتاب اللہ اور سنت نبوی کی تعلیم دینے لگے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لکھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف سے، یا رسول اللہ ﷺ آپ پر اللہ کا سلام، رحمت اور برکت ہو۔ میں آپ کے ساتھ اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے، کو کوئی معبود نہیں، اما بعد! یا رسول اللہ ﷺ اللہ آپ پر اپنی رحمت فرمائے، آپ نے مجھے بنی حارث بن کعب کی طرف بھیجا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں تو ان کے ساتھ تین روز تک جنگ نہ کروں اور یہ کہ انہیں دعوت اسلام دوں، اور اگر وہ اسلام سے آئیں تو میں ان سے یہ بات قبول کروں اور انہیں اسلام کی نشانیاں، کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت کو سکھاؤں اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کروں، اور میں نے ان کے پاس آ کر تین روز تک انہیں دعوت اسلام دی، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا تھا اور میں نے ان میں سوار بھیجے جو یہ اعلان کرتے تھے کہ اے بنی حارث اسلام لاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے، پس وہ اسلام لے آئے اور انہوں نے جنگ نہیں کی اور میں ان کے درمیاں اقامت پذیر ہوں اور اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کا حکم دے رہا ہوں اور جس سے اللہ نے انہیں منع کیا ہے اس

① عموماً خطوط لکھنے کا طریق یہ ہے کہ مرسل اپنا نام پہلے لکھتا ہے اور اس کے بعد مرسل الیہ کا نام لکھتا ہے لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مرسل الیہ یعنی حضرت نبی کریم ﷺ کا نام پہلے لکھا اور بعد میں اپنا نام لکھا ہے دراصل یہ ادب نبوی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نگاہ کس قدر باریک تھی کہ وہ یہ بھی پسند نہ کرتے تھے کہ ان کا نام حضور کے نام سے پہلے آئے صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسا کرنے کو ادب کے خلاف سمجھتے تھے، پس ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ ہر حال میں ادب نبوی کو ملحوظ رکھے اس میں لاپرواہی کرنے سے اعمال کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہے۔ مترجم

سے رد کر رہا ہوں نیز میں انہیں اسلام کی نشاندہی اور نیک نبی کی تعلیم دے رہا ہوں یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ مجھے نہ لکھیں،
والسلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رسول کریم ﷺ نے انہیں دیکھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محمد نبی رسول اللہ کی جانب سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف آپ کو سلام ہو میں آپ کے ساتھ مل کر اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

ابا بعد! آپ کا خط آپ کے ایلچی کے ساتھ میرے پاس پہنچا جس سے معلوم ہوا کہ قبل اس کے کہ آپ ان سے جنگ کرتے وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ نے انہیں جو دعوت اسلام دی تھی انہوں نے اسے قبول کر لیا ہے اور انہوں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اللہ نے انہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے پس انہیں انذار و تبشیر کرو اور آ جاؤ اور آپ کے ساتھ ان کا وفد بھی آئے۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

پس حضرت خالد رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ کے ساتھ بنی حارث بن کعب کا وفد بھی آیا جس میں قیس بن الحسین، ذوالخصلہ، یزید بن عبد المذہب، یزید بن ارجل، عبد اللہ بن قراذ الیادی، شداد بن عبید اللہ القتانی اور عمرو بن عبد اللہ الضبابی شامل تھے پس جب یہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی جوانوں کی طرح ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ یہ بنو حارث بن کعب ہیں پس جب یہ رسول اللہ ﷺ سے مطلع ہوئے تو انہوں نے آپ کو سلام دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا تم وہ لوگ ہو جو منع کرنے پر آگے بڑھتے ہو پس انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور ان میں سے کسی نے آپ کو جواب نہ دیا پھر آپ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی پھر سہ بارہ دہرائی مگر ان میں سے کسی نے آپ کو جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے چوتھی بار اپنی بات دہرائی تو یزید بن عبد المذہب نے کہا ہاں یا رسول اللہ! ہم وہ لوگ ہیں جو روکنے سے آگے بڑھتے ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”اگر خالد نے مجھے یہ نہ لکھا ہوتا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور تم نے جنگ نہیں کی تو تمہارے سروں کو تمہارے پاؤں کے نیچے پھینک دیتا۔“

یزید بن عبد المذہب نے کہا خدا کی قسم نہ ہم نے آپ کی تعریف کی ہے اور نہ خالد رضی اللہ عنہ کی آپ نے فرمایا: پھر تم نے کس کی تعریف کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ ہم نے اس خدا کی تعریف کی ہے جس نے ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت دی ہے رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم نے درست کہا ہے پھر فرمایا:

جاہلیت میں جو لوگ تم سے جنگ کرتے تھے تم ان پر کس چیز سے غالب آیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم کسی پر غالب نہیں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا بے شک تم ان لوگوں پر غالب آتے تھے جو تم سے جنگ کرتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم سے

جو جنگ کرتا تھا ہم اس پر غائب آتے تھے ہم اکٹھے جاتے تھے اور متفرق نہیں ہوتے تھے اور نہ ہم کسی پر ظلم کرنے میں پہلے کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم درست کہتے ہو پھر آپ نے تمہیں بن الحسین کو ان کا امیر بنا دیا۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں پھر وہ شوال کے بقیہ دنوں یا ذوالقعدہ کے شروع میں اپنی قوم کی طرف واپس آ گئے، راوی بیان کرتا ہے پھر ان کے وفد کے پہلے جانے کے بعد آپ نے عمرو بن حزام کو انہیں دین سمجھانے اور اسلام کی نشانیوں اور سنت کی تعلیم دینے اور ان سے صدقات لینے کے لیے بھیجا اور آپ نے اس کے لیے ایک تحریر لکھی جس میں آپ نے اسے وصیت کی اور حکم دیا۔ پھر ابن اسحاق نے اسے بیان کیا ہے جسے ہم قبل ازیں ملوک حمیر کے وفد میں بیہقی کے طریق سے بیان کر چکے ہیں اور محمد بن اسحاق نے جو بیان کیا ہے نسائی نے اس کی نظیر کو بغیر اسناد کے روایت کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا اہل یمن کی طرف امراء کو بھیجنا:

امام بخاری، باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیسن قبل حجۃ الوداع میں بیان کرتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالملک نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ: حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیجا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے دونوں میں سے ہر ایک کو ایک صوبہ کی طرف بھیجا اور یمن کے دو صوبے ہیں۔ پھر فرمایا:

”تم دونوں آسانی پیدا کرنا، تنگی نہ کرنا اور بشارت دینا، نفرت پیدا نہ کرنا“۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دوسرے کی ماننا اور اختلاف نہ کرنا۔ اور دونوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی عملداری کی طرف چل دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب دونوں اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی تھے تو دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا عہد تازہ کیا اور اسے سلام کہا، پس حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے دوست حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کے قریب ان کے علاقے میں چلے گئے۔ پس آپ اپنے خنجر پر چلتے چلتے ان کے پاس آئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے پاس جمع ہیں اور ان کے پاس ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا اے عبداللہ بن قیس اس شخص کا کیا گناہ ہے، انہوں نے جواب دیا اس شخص نے اسلام کے بعد کفر اختیار کیا، انہوں نے کہا جب تک یہ قتل نہ کیا جائے میں نہیں اتروں گا، انہوں نے کہا اسے اسی لیے لایا گیا ہے، پس اتر آئیے۔ انہوں نے کہا جب تک یہ قتل نہ ہو میں نہیں اتروں گا۔ پس ان کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا، پھر وہ اترے اور پوچھا اے عبداللہ آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسے تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں، انہوں نے پوچھا اے معاذ رضی اللہ عنہ آپ کیسے قرآن پڑھتے ہیں، انہوں نے جواب دیا میں رات کے ابتدائی حصے میں سوتا ہوں پھر اٹھتا ہوں اور میں اپنی نیند کا حصہ پورا کر چکا ہوتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو مقدر کیا ہے اسے پڑھتا ہوں اور میں اپنی نیند کو بھی اپنے قیام کی طرح شمار کرتا ہوں۔

اس طریق سے مسلم کو چھوڑ کر امام بخاری منفرد ہیں، پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ اسحاق نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے خالد نے الشیبانی سے عن سعید بن ابی بردہ عن ابیہ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ:

رسول اللہ ﷺ نے انہیں یمن کی طرف بھیجا اور آپ سے ان شروہات کے متعلق دریافت کیا جو وہاں تیار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا شروہات ہیں؟ آپ نے جواب دیا: التبع امر میں نے ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: التبع کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: شہد کا نبیذ اور المزر جو کا نبیذ ہے آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسے جریر اور عبدالواحد نے البشیرانی سے بحوالہ ابو بردہ روایت کیا ہے۔ اور مسلم نے اسے سعید بن ابی بردہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حبان نے بیان کیا کہ ہمیں عبداللہ نے عن زکریا بن ابی اسحاق عن یحییٰ بن عبداللہ بن صفی عن ابی معبد مولیٰ ابن عباس عن ابن عباس خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ:

رسول کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجے وقت فرمایا: ”آپ اہل کتاب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں پس جب آپ ان کے پاس جائیں تو انہیں دعوت دیں کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں پس اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں پس اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جاتا ہے اور ان کے فقراء کو دے دیا جاتا ہے پس اگر وہ آپ کی یہ بات مان جائیں تو ان کے بہترین اموال کے لینے سے بچنا اور مظلوم کی دعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔“

اور بقیہ جماعت نے بھی اسے متعدد طریقوں سے بیان کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابوالمغیرہ نے بیان کیا کہ ہم سے صفوان نے بیان کیا کہ مجھ سے راشد بن سعد نے عاصم بن حمید السکونی سے بحوالہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ:

جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو آپ ان کے ساتھ وصیت کرتے ہوئے نکلے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور حضرت نبی کریم ﷺ ان کی اونٹنی کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور جب آپ وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”اے معاذ! ممکن ہے آپ اس سال کے بعد مجھے نہ مل سکیں اور شاید آپ میری اس مسجد اور قبر کے پاس سے گزریں۔“ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے فراق کے خوف سے رو پڑے پھر آپ نے مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا:

”میرے سب سے قریب تر تقویٰ شعار ہیں خواہ وہ کوئی ہو اور جہاں بھی ہو۔“

پھر انہوں نے اسے ابو الیمان سے عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حمید السکونی روایت کیا ہے کہ:

جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے یمن کی طرف بھیجا تو آپ وصیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ نکلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور رسول کریم ﷺ ان کی اونٹنی کے ساتھ پیدل چل رہے تھے جب آپ وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا:

”اے معاذ! ممکن ہے آپ اس سال کے بعد مجھے نہ مل سکیں اور شاید آپ میری اس مسجد اور اس قبر کے پاس سے گزریں۔“ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے فراق کے خوف سے رو پڑے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے معاذ رضی اللہ عنہ! مت زور و نونے کے وقت ہوتے ہیں اور رونا شیطان سے ہے۔“

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابوالسیرہ نے بیان کیا کہ ہم سے صفوان نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو زیاد یحییٰ بن عبید الغسانی نے یزید بن قطیب سے۔ حوالہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ۔

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا شاید آپ میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزریں، میں نے آپ کو رقیق القلب لوگوں کی طرف بھیجا ہے، بود و بارحق پر لڑتے ہیں، پس آپ ان میں سے اطاعت کرنے والے کے مقابلہ میں نافرمانی کرنے والے سے جنگ کریں، پھر وہ اسلام کی طرف پلٹ آئیں گے، یہاں تک کہ عورت اپنے خاوند سے اور بیٹا اپنے باپ سے اور بھائی اپنے بھائی سے سبقت کریں گے، پس دوستوں کے درمیان سکون اور عاجزی پیدا کیجئے۔“

اس حدیث میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے بعد رسول کریم ﷺ سے نہیں مل سکیں گے اور یہی وقوع میں آیا۔ کیونکہ آپ نے یمن میں اقامت اختیار کر لی تھی، حتیٰ کہ حجۃ الوداع اور حج اکبر کے اکیاسی دن کے بعد حضور ﷺ کی وفات ہو گئی۔

اب رہی وہ حدیث جس کے متعلق امام احمد نے بیان کیا ہے کہ ہم سے وکیع نے عن اعمش عن ابی ظبیان عن معاذ بیان کیا ہے کہ۔ جب آپ یمن سے واپس آئے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے یمن میں آدمیوں کو ایک دوسرے کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں، آپ نے فرمایا:

”اگر میں کسی آدمی کو حکم دیتا کہ وہ آدمی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔“

اور اسے احمد نے ابن نمیر سے بحوالہ اعمش روایت کیا ہے کہ میں نے ابو ظبیان کو انصار کے ایک آدمی سے بحوالہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے سنا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے آدمیوں کو دیکھا ہے، پس اس نے اس کا مفہوم بیان کیا۔ اور وہ ان کے ایک آدمی کا چکر لگا تا رہا ہے اور اس قسم کے آدمی سے حجت نہیں پکڑی جاتی، خصوصاً جبکہ دوسرے اہم آدمیوں نے اس کی مخالفت کی ہو، انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی شام سے آمد کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح احمد نے اسے روایت کیا ہے کہ ہم سے ابراہیم بن مہدی نے بیان کیا کہ ہم سے اسماعیل بن عیاش نے عن عبدالرحمن بن ابی حسین عن شہر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

”جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔“

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شیبہ عن معاذ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

”اے معاذ! ابرائی کے پیچھے نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ۔“

وکیع بیان کرتے ہیں، میں نے اسے اپنے اس خط میں دیکھا ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا تھا اور وہ سماع اول ہے۔ اور سفیان نے ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ پھر امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل بن لیث

عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شیبہ عن معاذ روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: ”تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہ“ انہوں نے عرض کیا مجھے مزید وصیت فرمائیے فرمایا: ”لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ“ قرظہ نے اسے اپنی جامع میں محمود بن خیطان سے عن وکیع عن سفیان ثوری روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے ہمارے شیخ نے الاطراف میں بیان کیا ہے اور فضیل بن سلیمان نے عن یس بن ابی سلیم عن اعمش عن حبیب اس کی متابعت کی ہے اور احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہم سے اسماعیل بن عباس نے عن صفوان بن عمرو عن عبدالرحمان بن جبیر بن نفیر الحضرمی عن معاذ بن جبل عن نبی اللہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی:

① کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنانا خواہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔

② اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ وہ تجھے اپنے مال اور اہل و عیال سے دستبردار ہونے کا حکم دیں۔

③ فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، بلاشبہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے۔

④ شراب نوشی نہ کرنا بلاشبہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔

⑤ معصیت سے بچنا، کیونکہ معصیت اللہ کی ناراضگی کو جائز کرتی ہے۔

⑥ جنگ میں فرار اختیار کرنے سے بچنا، خواہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔

⑦ جب لوگوں کو موت آئے تو تو ان میں موجود ہو، تو ثابت قدم رہنا۔

⑧ اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا۔

⑨ اپنے عصا کو ادب کی خاطر ان سے نہ اٹھانا۔

⑩ اور اللہ کی خاطر ان سے محبت رکھنا۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یونس نے بیان کیا کہ ہم سے بقیہ نے اسری بن نعم عن شریح عن مسروق عن معاذ بن جبل بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا:

”آسودگی سے اجتناب اختیار کرنا، بلاشبہ اللہ کے بندے آسودہ نہیں ہوتے۔“

احمد بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد ہاشمی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابو بکر یعنی ابن عیاش نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم نے ابو اہل سے بحوالہ حضرت معاذ عن نبی اللہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ:

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں ہر بالغ سے ایک دینار لوں یا اس کے برابر معافر

لوں، نیز آپ نے مجھے حکم دیا کہ ہر چالیس گایوں پر ایک مسنہ اور ہر تیس گایوں پر ایک سالہ تبیعد لوں اور آپ نے مجھے حکم

دیا کہ جو زمینیں بارش سے سیراب ہوتی ہیں ان سے عشر اور جو ڈولوں سے سیراب ہوتی ہیں ان سے نصف عشر لوں۔“

اور ابو داؤد اسے ابو معاذیہ کی حدیث سے اور نسائی نے محمد بن اسحاق سے بحوالہ اعمش سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور اہل سنن

اربعہ نے اسے کئی طرق سے عن اعمش عن ابی راکل عن مسروق عن اعزاز روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے معاویہ نے بخوالہ عمرو اور ہارون بن معروف بیان کیا وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے عن حیوۃ بن یزید ابن ابی حبیب عن سلمہ بن اسامہ عن یحییٰ بن الحکم بیان کیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ نے مجھے اہل یمن سے صدقہ لینے کے لیے بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں ہر تین گایوں پر ایک تہیج یعنی جذع یا جذعہ لوں۔ اور ہر چالیس پر مسنہ لوں، پس انہوں نے میرے سامنے یہ بات پیش کی کہ میں چالیس اور پچاس اور ساٹھ اور ستر اور اسی اور نوے کے درمیان لوں، مگر میں نے اس بات سے انکار کر دیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں اس بارے میں حضرت نبی کریم ﷺ سے دریافت کروں گا، پس میں نے آ کر حضرت نبی کریم ﷺ کو اطلاع دی تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر تین پر تہیج اور ہر چالیس پر مسنہ اور ساٹھ پر دو تہیج، اور ایک سو دس پر دو مسنہ اور ایک تہیج، اور ایک سو بیس پر تین مسنہ یا چار تہیج لوں، راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کی درمیانی تعداد پر کچھ نہ لوں، سوائے اس کے کہ وہ مسنہ یا جذع تک پہنچ جائے۔ راوی کا خیال ہے کہ مخلوط جانوروں میں کچھ فرض نہیں اور یہ احمد کی افراد روایات میں سے ہے اور اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے تھے اور صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد حضرت نبی کریم ﷺ کو نہیں دیکھا، جیسا کہ ان ازیں حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔

اور عبدالرزاق بیان کرتا ہے کہ ہمیں معمر بن زہری سے، بخوالہ ابی بن کعب بن مالک خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت، سخی اور اپنی قوم کے بہترین نوجوانوں میں سے تھے، آپ سے جس چیز کا سوال کیا جاتا آپ اسے عطا کر دیتے، یہاں تک کہ آپ پر اس قدر قرض ہو گیا جس سے آپ کا مال تنگ ہو گیا، پس آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بات کی کہ آپ ان کے قرض داروں سے بات کریں۔ تو آپ نے ان سے گفتگو کی مگر انہوں نے انہیں کوئی چیز نہ چھوڑی، پس اگر کسی کے بات کرنے سے کسی کی چیز چھوڑی جاتی تو رسول اللہ ﷺ کی گفتگو سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو چھوٹ مل جاتی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے بلایا اور وہاں ٹھہر کر اس کے مال کو فروخت کیا اور اسے ان کے قرض داروں کے درمیان تقسیم کر دیا، راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو ان کے پاس کوئی مال موجود نہ تھا، راوی بیان کرتا ہے جب رسول اللہ ﷺ نے حج کیا تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، راوی بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اس مال سے تجارت کی وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھے، راوی بیان کرتا ہے کہ آپ یمن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اس وقت رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو چکی تھی، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے آپ نے فرمایا کیا آپ میری بات مان کر اس مال کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیں گے۔ پس اگر وہ یہ مال آپ کو دے دیں تو آپ اسے قبول کر لیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میں انہیں یہ مال نہیں دوں گا، رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس لیے یمن بھیجا تھا تاکہ آپ میری حالت کو درست کریں، پس جب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہ مانی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا اس آدمی کی طرف پیغام بھیج کر اس سے مال لے لیجئے اور کچھ مال اس کے لیے چھوڑ دیجیئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایسا کرنے کا

نبیؐ رسول اللہ ﷺ نے اسے اس کی حالت کی درنگی کے لیے بھیجا تھا میں اس سے کچھ لینے کا نہیں راوی بیان کرتا ہے جب صبح ہوئی تو حضرت معاذؓ حضرت عمرؓ کے پاس گئے اور کہا آپ نے جو بات کہی تھی میں اس پر عمل پیرا ہوں گا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے۔ عبدالرزاق کے خیال کے مطابق انہوں نے کہا۔ مجھے گھسیٹ کر آگ کی طرف لے جایا جاتا ہے اور آپ میری کمر کو پکڑے ہوئے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ تمام چیزوں کو حضرت ابوبکرؓ کے پاس لے گئے یہاں تک کہ اپنا کوزا بھی لے آئے اور آپ لے سامنے حلف اٹھایا کہ انہوں نے آپ سے کوئی چیز نہیں چھپائی راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا یہ مال تیرا ہوا میں اس سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔

اسے ابوثور نے عمرؓ سے زہری من عبدالرحمن بن کعب بن مالک روایت کیا ہے اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جب فتح مکہ کا سال آیا تو رسول اللہ ﷺ نے آپ کو یمن کے ایک گروہ پر امیر بنا کر بھیجا پس آپ وہاں ٹھہر رہے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی پھر آپ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت میں آئے اور شام کی طرف چلے گئے۔

بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو حضرت عتاب بن اسید کے ساتھ مکہ میں اپنا نائب بنایا تاکہ آپ وہاں کے باغیوں کو تعلیم دیں اور آپ غزوہ تبوک میں بھی حاضر ہوئے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو یمن کی طرف بھیجا گیا۔ واللہ اعلم

پھر امام بیہقی حضرت معاذؓ کے خواب کے واقعہ کو شاہد کے طور پر بیان کرتے ہیں جو اعش کے طریق سے عن ابی وائل عن عبداللہ مروی ہے، کیونکہ غلام جو سامان لائے تھے وہ بھی انہیں میں شامل تھے پس وہ ان کو حضرت ابوبکرؓ کے پاس لائے پس جب حضرت ابوبکرؓ نے سب سامان انہیں واپس کر دیا تو وہ ان کے ساتھ واپس چلے گئے۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو وہ سب بھی کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ نماز پڑھتے پس جب واپس ہوئے تو آپ نے پوچھا تم نے کس کی نماز پڑھی ہے انہوں نے جواب دیا اللہ کی تو آپ نے فرمایا تم اس کی خاطر آزاد ہو پس آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے عن ابی عون عن الحارث بن عمرو بن اخی المغیرہ بن شعبہ عن ناس من اصحاب معاذ من اہل حمس عن معاذ بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا اگر تجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو تم کیا کرو گے انہوں نے جواب دیا میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا اگر وہ کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذؓ نے عرض کیا میں سنت رسولؐ کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا اگر وہ سنت رسولؐ میں بھی موجود نہ ہو تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذؓ نے جواب دیا میں بغیر کوتاہی کیے اجتہاد کروں گا حضرت معاذؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا:

”اس خدا کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے اچلی کو اس بات کی توفیق دی ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے۔“

اور احمد نے اسے وکیع سے عن عفان عن شیبہ اپنے اسناد اور الفاظ سے بیان کیا ہے۔ اور ابوداؤد اور ترمذی نے اسے شعبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ ہم اسے صرف اس طریق سے جانتے ہیں اور میرے نزدیک اس کا اسناد متصل

نہیں اور ابن ماجہ نے اسی سے کی اور طریق سے بیان کیا ہے، مگر یہ محمد بن سعد بن حسان، ابو ایک منسوب کذاب ہے سے عن عیاذ بن بشر عن عبدالرحمن بن معاذ سے اسی طرح مروی ہے۔ اور امام احمد نے محمد بن زعفر اور یحییٰ بن سعید سے بحوالہ شعبہ عن عمرو بن ابی حکیم عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحییٰ بن معمر عن ابوالاسود الدلی روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ:

حضرت معاذ بن عمرو بن جمح میں تھے کہ آپ کے پاس ایک یہودی کے بارے میں ہومر چکا تھا اور اس نے ایک مسلمان بھائی کو چھوڑا تھا، مقدمہ کیا گیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ ”اسلام اضافہ کرتا ہے کمی نہیں کرتا“ اور آپ نے اسے وارث قرار دیا۔ اور ابو داؤد نے اسے ابن بریدہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور یہ مذہب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی جانب سے بھی بیان کیا گیا ہے اور آپ نے اسے یحییٰ بن عمر قاسمی اور سلف کے ایک گروہ سے بیان کیا ہے اور اسحاق بن راہویہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے اور جمہور نے ان کی مخالفت کی ہے، جن میں سے ائمہ اربعہ اور ان کے اصحاب صحیحین میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ روایت سے حجت پکڑتے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

”کافر، مسلمان کا اور مسلمان، کافر کا وارث نہیں ہوگا۔“

حاصل مطلب یہ کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جن میں حضرت نبی کریم ﷺ کے قاضی اور جنگوں کے جج تھے اور آپ کے پاس صدقات لانے والے تھے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مقدم حدیث اس پر دلالت کرتی ہے اور آپ لوگوں کی خاطر باہر نکلتے اور انہیں پانچوں نمازیں پڑھایا کرتے تھے جیسا کہ بخاری نے بیان کیا ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن عمرو بن میمون بیان کیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن آئے تو آپ نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی اور یہ آیت پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً تو ایک آدمی نے کہا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ بخاری اس کے بیان میں منفرد ہے۔



باب ۱۲

رسول اللہ ﷺ کا حجۃ الوداع سے قبل حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیجنا

پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا کہ ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ نے ابو اسحاق سے بیان کیا کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ:

رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیں یمن کی طرف بھیجا، راوی بیان کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ بھیجا اور فرمایا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے اصحاب کو حکم دیجیے کہ ان میں سے جو شخص آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ آپ کے پیچھے آ جائے اور جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، پس میں ان لوگوں میں شامل تھا جو آپ کے پیچھے چلے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے بہت سے اوقیے غنیمت میں حاصل کیے۔ اس طریق سے بخاری اس کے بیان کرنے میں منفرد ہے۔ پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا کہ ہم سے علی بن سوید بن منجوف نے عبد اللہ بن بریدہ اور ان کے باپ سے بیان کیا کہ:

حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خنس لینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صبح کو اٹھ کر غسل کیا تو میں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے؟ پس جب ہم نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تو میں نے اس بات کا ذکر آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا: ”اے بریدہ تو علیؓ سے بغض رکھتا ہے؟“ میں نے عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا: ”اس سے بغض نہ رکھو۔ اس کے لیے شمس میں اس سے بھی زیادہ حصہ ہے۔“

اس طریق سے مسلم کو چھوڑ کر بخاری اس کے بیان میں منفرد ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الجلیل نے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک حلقہ میں پہنچا جس میں ابو مجاز اور بریدہ کے دونوں لڑکے بھی شامل تھے، عبد اللہ بن بریدہ نے کہا کہ مجھ سے ابو بریدہ نے بیان کیا کہ:

میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسا بغض رکھتا تھا کہ اس قسم کا بغض میں نے کسی اور سے کبھی نہیں رکھا اور میں نے قریش کے ایک آدمی سے محبت رکھی اور میں اس سے صرف بغض علی کی وجہ سے محبت رکھتا تھا، راوی بیان کرتا ہے کہ اس آدمی کو سواروں کا امیر بنا کر بھیجا گیا اور میں نے صرف اس وجہ سے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے اس کی مصاحبت کی، راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے

کچھ قیدی پائے اور اس نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں نہ لکھا کہ آپ کسی آدمی کو بھیجیں جو غم سے لگا ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے غم لگایا اور تقسیم کی اور آپ اس حال میں باہر نکل گئے کہ آپ کے سر سے پانی چپکتا تھا، ہم نے دریافت کیا اسے اللہ نے کیا ہے؟ آپ نے کہا، کیا تم نے قیدیوں میں اس خادمہ لڑکی کو نہیں دیکھا، میں نے تقسیم کی اور غم لگایا تو وہ غم میں چلی گئی پھر وہ اہل بیت نبویؐ میں چلی گئی، پھر وہ آل علیؑ میں چلی گئی اور میں اس سے ہم بستر ہوا، پس اس آدمی نے حضرت نبی کریم ﷺ کی طرف خط لکھا تو میں نے کہا مجھے بھیج دیجیے پس اس نے مجھے تصدیق کنندہ بنا کر بھیج دیا اور میں خط پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے درست کہا ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے میرا ہاتھ اور خط پکڑ لیا اور فرمایا:

”کیا تو علیؑ سے بغض رکھتا ہے میں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اس سے بغض نہ رکھو اور اگر تو اس سے محبت رکھتا ہے تو اس کی محبت میں بڑھ جا، پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے کہ غم میں آل علیؑ کا حصہ خادمہ لڑکی سے بڑھ کر ہے۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس قول کے بعد حضرت علیؑ نے غم سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہ تھا، عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ اس حدیث میں میرے اور حضرت نبی کریم ﷺ کے درمیان ابوریدہ کے سوا کوئی آدمی نہیں۔

اس سیاق میں عبدالجلیل بن عطیہ الفقیہ اہل بصری متفرد ہے اور ابن معین اور ابن حبان نے اسے ثقہ قرار دیا ہے اور امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے بارے میں بھول بھی جاتا تھا۔ اور محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ ہم سے ابان بن صالح نے عبداللہ بن دینار اسلمی سے بیان کیا اور اس نے اپنے ماموں عمرو بن شاس اسلمی سے جو اصحاب حدیبیہ میں سے تھا بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت علیؑ ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے ان سواروں میں شامل تھا جنہیں حضرت نبی کریم ﷺ نے یمن کی طرف بھیجا تھا، پس آپ نے مجھ سے کچھ بدسلوکی کی تو میرے دل میں ان کے حلق رنج تھا اور جب میں مدینے آیا تو میں نے مدینہ کی مجالس میں اور ہر ملنے والے سے آپ کی شکایت کی، ایک روز میں آیا تو رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے، جب آپ نے مجھے دیکھا تو میں نے آپ کی دونوں آنکھوں پر نگاہ ڈالی، یہاں تک کہ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، اور جب میں آپ کے پاس بیٹھا تو آپ نے فرمایا:

”اے عمرو بن شاس، بخدا تو نے مجھے اذیت دی ہے۔“

میں نے کہا اننا لله وانا الیہ راجعون میں رسول اللہ ﷺ کو اذیت دینے سے اللہ تعالیٰ اور اسلام کی پناہ چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا: ”جس نے علیؑ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی ہے۔“

اور تبہتی نے اسے اور طریق سے عن ابن اسحاق عن ابان بن الفضل بن معقل بن سنان عن عبداللہ بن دینار عن عمرو بن شاس روایت کیا ہے اور اس نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور حافظ تبہتی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حافظ محمد بن عبداللہ نے خبر دی کہ ہمیں ابو اسحاق مولیٰ نے خبر دی کہ ہم سے عبیدہ بن ابی السفر نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق کو اپنے باپ

ابن احاق سے بواہلہ البراء روایت کرتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل یمن کو دعوتِ اسلام دینے کے لیے حضرت خالد بن ولیدؓ کو بھیجا البراء بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ حضرت خالد بن ولیدؓ کے ساتھ گئے ان میں بھی شامل تھا پس ہم چھ دن تک ٹھہر کر ان کو دعوتِ اسلام دیتے رہے مگر انہوں نے آپ کو کوئی جواب نہ دیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالبؓ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ حضرت خالد بن ولیدؓ کو واپس بھیج دیں، سوائے اس شخص کے جو حضرت خالد بن ولیدؓ کے ساتھ تھا۔ آپ نے چاہا کہ وہ حضرت علی بن ولیدؓ کے ساتھ پیچھے رہے اور وہ بھی اسے اپنے ساتھ پیچھے رکھیں البراءؓ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت علی بن ولیدؓ کے ساتھ پیچھے رہے تھے، پس جب وہ لوگوں کے قریب ہوئے تو وہ ہمارے پاس آگئے اور انہیں رسول اللہ ﷺ کا خط پڑھ کر سنایا تو تمام ہمدان نے اسلام قبول کر لیا، پس حضرت علی بن ولیدؓ نے رسول اللہ ﷺ کی طرف ان کے اسلام قبول کرنے کے متعلق خط لکھا اور جب رسول کریم ﷺ نے خط پڑھا تو آپ سجدہ ریز ہو گئے، پھر آپ نے سر اٹھا کر فرمایا:

ہمدان پر سلامتی ہو۔ ہمدان پر سلامتی ہو۔ یہی بیان کرتے ہیں کہ بخاری نے اسے ایک اور طریق سے مختصر ابراہیم بن یوسف سے روایت کیا ہے۔ اور یہی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابو الحسن محمد بن الفضل القطان نے خبر دی کہ ہمیں ابو سہل بن زیاد القطان نے خبر دی کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے بھائی نے عن سلیمان بن بلال عن سعد بن اسحاق بن کعب بن عجر عن عمہ زینب بنت کعب بن عجر عن ابی سعید خدریؓ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی بن ولیدؓ کو یمن کی طرف بھیجا، ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانے والوں میں شامل تھا، پس جب آپ نے صدقہ کے اونٹ لیے تو ہم نے آپ سے ان پر سوار ہونے اور اپنے اونٹوں کو آرام دینے کے متعلق دریافت کیا۔ کیونکہ ہمارے اونٹ سست ہو گئے تھے۔ تو آپ نے ہماری بات نہ مانی اور فرمایا تمہارا ان میں اسی طرح کا حصہ ہے جیسا دیگر مسلمانوں کا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت علی فارغ ہو گئے اور یمن سے واپسی کے لیے چلے تو آپ نے ہم پر ایک آدمی کو امیر بنایا اور خود جلدی سے آ کر حج کر لیا، پس جب آپ حج ادا کر چکے تو حضرت نبی کریم ﷺ نے انہیں فرمایا: ”اپنے اصحاب کی طرف لوٹ جائیے اور ان کے پیشرو بنیے، ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو حضرت علی بن ولیدؓ نے نائب بنایا تھا، ہم نے اس سے وہی بات دریافت کی جس سے آپ نے ہمیں منع کر دیا تھا، تو اس نے ہماری بات پر عمل کیا، پس جب آپ کو معلوم ہوا کہ صدقہ کے اونٹوں پر سواری ہوئی ہے اور آپ نے سواروں کے نشان بھی دیکھے تو آپ نے جسے امیر بنایا تھا اس کو آگے بلا کر ملامت کی، میں نے کہا:

خدا کی قسم مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر میں مدینہ آیا تو میں رسول اللہ ﷺ سے ضرور ذکر کروں گا اور آپ کو اس درستی اور تنگی کے متعلق ضرور اطلاع دوں گا، جس سے ہم دو چار ہوئے ہیں۔

راوی بیان کرتا ہے کہ جب ہم مدینہ آئے تو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گیا اور میں وہ بات کرنا چاہتا تھا جس پر میں نے حلف اٹھایا تھا، پس میں حضرت ابو بکرؓ سے ملا جبکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آ رہے تھے اور جب انہوں نے مجھے

دیکھا تو میرے پاس کھڑے ہو گئے اور مجھے خوش آبدیہ کہا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے سوالات و جوابات کئے اور آپ نے پوچھا تو آپ کب آئے ہیں۔ میں نے جواب دیا میں رات کو آیا تھا تو آپ میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں واپس چلے گئے اور اندر جا کر کہا یہ سعد بن مالک بن شہید ہے، آپ نے فرمایا اسے اجازت دو، پس میں داخل ہوا تو میں رسول اللہ ﷺ سے اور آپ مجھ سے دیا، کرنے لگے اور آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر مجھ سے میرے بارے میں اور میرے اہل و عیال کے بارے میں دریافت کیا اور سوال کو بار بار دہرانے لگے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمیں حضرت علیؓ کی بدسلوکی، درستی اور سختی سے تکلیف پہنچی ہے تو رسول اللہ ﷺ سنجیدہ ہو گئے اور میں حضرت علیؓ کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کو شمار کرنے لگا۔ اور ابھی میں اپنی گفتگو کے وسط ہی میں تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے میری ران پر مارا اور میں آپ کے نزدیک ہی تھا اور فرمایا:

”اے سعد بن مالک بن شہید! اپنے بھائی علیؓ کے متعلق باتیں کرنے سے رُک جا، قسم بخدا مجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں بہت اچھا ہے۔“

راوی بیان کرتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا، سعد بن مالک تیری ماں تجھے کھودے۔ کیا آپ نے مجھے وہی بات نہیں دکھا دی جسے آج میں دیکھنا پسند نہ کرتا تھا، اور بے شک مجھے اس کا علم نہ تھا اور قسم بخدا میں کبھی بھی پوشیدہ اور علانیہ طور پر آپ کو برائی سے یاد نہیں کروں گا۔ اور نسانی کی شرط پر یہ اسناد جید ہے اور کتب ستہ کے اصحاب میں سے کسی نے اسے روایت نہیں کیا۔ اور یونس محمد بن اسحاق سے روایت کرتا ہے کہ یحییٰ بن عبد اللہ بن ابی عمر نے بحوالہ یزید بن طلحہ بن یزید بن رکانہ مجھ سے بیان کیا کہ: جو فوج یمن میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھی وہ ان سے ناراض ہو گئی اس لیے کہ جب وہ آئے تو حضرت علیؓ نے ان پر ایک آدمی کو اپنا نائب مقرر کیا اور جلدی سے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ گئے، راوی بیان کرتا ہے کہ اس آدمی نے ہر آدمی کو حلقہ پہنا دیا، پس جب وہ قریب آئے تو حضرت علیؓ ان کی ملاقات کو نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حلے زیب تن کیے ہوئے ہیں، حضرت علیؓ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلاں آدمی نے ہمیں حلے پہنائے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے سے قبل تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا ہے؟ آپ جو چاہتے کرتے پس آپ نے ان کے حلے اتروالیے اور جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے آپ کے پاس اس امر کی شکایت کی اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے صلح کر لی اور آپ نے حضرت علیؓ کو صرف ساقط کیے ہوئے جزیہ کے لیے بھیجا تھا۔

میں کہتا ہوں یہ اسلوب بیہتھی کے اسلوب سے اقرب ہے اس لیے کہ حضرت علیؓ حج کی وجہ سے ان سے پہلے آ گئے تھے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور لائے تھے اور حضرت نبی کریم ﷺ کے تکبیر کہنے کے ساتھ انہوں نے تکبیر کہی تھی۔ اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ احرام باندھ کر ٹھہرے رہیں۔ اور حضرت البراء بن عازبؓ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے کہا کہ میں قربانی کے جانور لایا ہوں اور میں قارن ہوں۔

حاصل کلام یہ کہ جب صدقہ کے اونٹوں کے استعمال سے منع کرنے اور ان حلوں کو واپس لینے کا باعث، جنہیں آپ کے نائب نے انہیں دیا تھا، حضرت علیؓ کے متعلق اس فوج میں بکثرت قیل و قال ہو گئی حالانکہ حضرت علیؓ نے جو کیا وہ اس

میں مخذرت تھے لیکن ساجیوں میں آپ کے متعلق بات مشہور ہو گئی، تو اس لیے، واللہ اعلم، جب رسول اللہ ﷺ اپنے حج کے لوٹے اور اس کی عبادات سے فارغ ہو گئے اور مدینہ کی طرف واپس لوٹے تو خندیر خم کے پاس سے گزرے تو لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے دامن کو پاک کیا اور ان کی شان کو بلند کیا اور ان کی فضیلت سے آگاہ کیا تاکہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں جو بات بیٹھ گئی ہے اسے دور کر دیں، عنقریب اپنے موقع پر یہ بات مفصل بیان ہوگی۔ ان شاء اللہ

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ تنبیہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عبد الواحد نے عمارہ بن قعقاع بن ثبرمد سے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن ابی نعم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے سنا کہ:

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے یمن سے حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کیکر کے پتوں میں رنگی ہوئی کھال میں ایک چیز بھیجی جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور جسے ابھی تک مٹی سے صاف نہیں کیا گیا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے اسے چار آدمیوں، عبیدہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید النخیل اور علقمہ بن علاشہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم کر دیا تو آپ کے اصحاب میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم ان لوگوں کی نسبت اس کے زیادہ حقدار ہیں، حضرت نبی کریم ﷺ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا: کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے، حالانکہ میں آسمان والوں میں امین ہوں اور صبح و شام میرے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک دھنسی ہوئی آنکھوں، ابھرے ہونے، رخساروں، اٹھی ہوئی پیشانی، گھنی ڈاڑھی، منڈے ہوئے سر اور اونچے تہ بند والا آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ ﷺ! اللہ سے ڈریئے، آپ نے فرمایا کیا میں تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے کا حقدار نہیں؟۔ راوی بیان کرتا ہے پھر وہ آدمی پشت پھیر کر پڑا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کتنے ہی نمازی ہیں وہ جو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے لوگوں کے دلوں کی کرید و تحقیق کرنے اور ان کے بطون کو پھاڑنے کا حکم نہیں دیا گیا“۔ راوی بیان کرتا ہے پھر آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور وہ آپ کی طرف پشت کیے ہوئے تھا، آپ نے فرمایا اس شخص کے اصل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو کتاب اللہ کو رطب اللسانی سے پڑھیں گے اور وہ ان کے گلے سے تجاؤز نہیں کرے گی۔ یہ لوگ دین سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیرکمان سے نکل جاتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”اگر میں ان کو پاتا تو ان کو شمشود کی طرح قتل کرتا“۔

بخاری نے اسے اپنی کتاب کے دوسرے مقامات پر روایت کیا ہے اور مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الزکوٰۃ میں متعدد طرق سے جو عمارہ بن قعقاع تک پہنچتے ہیں، روایت کیا ہے۔

پھر امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن اعمش عن عمرو بن مرہ عن ابی البختری عن علیؓ بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا اور اس وقت میں نوعر ہی تھا، میں نے عرض کیا آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف بھیج رہے ہیں جن کے درمیان واقعات ہوں گے اور مجھے قضا کا کوئی علم نہیں، آپ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کی راہنمائی کرے گا اور آپ کے دل کو مضبوط کرے گا“۔

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے کبھی شک نہیں ہوا۔ ابن ماجہ نے اسے اعمش کی حدیث سے روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے اسود بن عامر نے بیان کیا کہ ہم سے شریک نے سماک سے اور اس نے حنش سے اور اس نے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ:

رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے ایسے لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں جو مجھ سے عمر رسیدہ ہیں اور میں نو عمر ہوں اور قضا کو بھی نہیں سمجھتا، حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اے اللہ! اس کی زبان کو ثبات بخش اور اس کے دل کی راہنمائی کر۔ اے علیؓ! جب دو جھگڑنے والے آپ کے پاس بیٹھے ہوں تو جب تک آپ دوسرے آدمی سے وہ بات نہ سن لیں جو آپ نے پہلے آدمی سے سنی ہے ان دونوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ پر بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کسی فیصلے میں مشکل پیش نہیں آئی۔

اور احمد نے بھی اسے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد نے شریک سے کئی طرق سے اور ترمذی نے زائدہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور دونوں نے سماک بن حرب سے بحوالہ حنش بن المعتمر روایت کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ابن ربیعہ کنانی کوئی نے اسے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے ارجح سے عن شععی عن عبد اللہ بن ابی الخلیل عن زید بن ارقم بیان کیا کہ چند آدمیوں نے طہر میں ایک عورت سے جماع کیا تو حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں سے فرمایا کیا تم دونوں اس فعل سے خوشدل تھے انہوں نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے دوسرے دو آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم دونوں اس فعل سے خوشدل تھے انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم باہم مخالف شریک ہو۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرعہ اندازی کروں گا اور جس کا تم میں سے قرعہ نکلا میں اسے دو تہائی دیتا ہوں اور ڈالوں گا اور بچہ اسے دے دوں گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس بات کا ذکر حضرت نبی کریم ﷺ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں تو وہی کچھ جانتا ہوں جو علیؓ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔

اور احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے شریح بن نعمان نے بیان کیا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہ ہمیں ارجح نے عن شععی عن ابی الخلیل عن زید بن ارقم خبر دی کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ جب یمن میں تھے تو آپ نے تین آدمیوں کے درمیان جو ایک بچے میں شریک تھے فیصلہ کیا، آپ نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی اور جس کا قرعہ نکلا آپ نے اسے دو تہائی دیتا ہوں اور بنایا اور بچے کو اس کے سپرد کر دیا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر آپ کو حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی اطلاع دی تو آپ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھیں نمایاں ہو گئیں۔

اور ابو داؤد نے اسے اسود سے بحوالہ یحییٰ القطان روایت کیا ہے اور نسائی نے علی بن حجر اور علی بن مسہر سے اور ان دونوں نے ارجح بن عبد اللہ سے عن عامر الشعمی عن عبد اللہ بن الخلیل روایت کیا ہے اور نسائی نے عبد اللہ بن الخلیل کی روایت میں جو زید بن ارقم سے مروی ہے بیان کیا ہے کہ:

میں حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس تھا کہ ایک یمنی آدمی نے آ کر کہا کہ تین آدمی حضرت علیؓ کے پاس ایک بیچے کے بارے میں بھگڑتے ہوئے آئے جنہوں نے ایک طہر میں ایک عورت سے جماع کیا تھا اور پہلے جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس کے مطابق اس نے ذکر کیا تو حضرت نبی کریم ﷺ مسکرا پڑے۔ اور ابو داؤد اور نسائی نے اسے شعبہ کی حدیث سے عن سلمہ بن کہیل عن شععی عن ابی الخلیل عن علیؓ روایت کیا ہے اور اسے مرسل قرار دیا ہے مرفوع قرار نہیں دیا۔ اور امام احمد نے اسے اسی طرح عبدالرزاق سے عن سفیان ثوری عن الجاح عن شععی عن عبد خیر عن زید بن ارقم روایت کیا ہے اور جو کچھ پہلے بیان ہوا اسی طرح بیان کیا ہے اور ابو داؤد اور نسائی دونوں نے اسے عن حنش بن اصرم بیان کیا ہے اور ابن ماجہ نے اسحاق بن منصور سے روایت کیا ہے اور دونوں نے عبدالرزاق سے عن سفیان ثوری عن صالح الہمدانی عن شععی عن عبد خیر عن زید بن ارقم روایت کیا ہے۔

ہمارے شیخ الاطراف میں بیان کرتے ہیں کہ شاید یہ عبد خیر، عبد اللہ بن الخلیل ہے لیکن راوی اس کے نام کو ضبط نہیں کر سکا۔ میں کہتا ہوں اس بنا پر یہ حدیث کو قوی کرتا ہے اگرچہ اس کا غیر اس کی متابعت کی وجہ سے زیادہ جمید ہے۔ لیکن الجاح ابن عبد اللہ کندی کے بارے میں کلام ہے اور امام احمد نے انساب میں قرعہ کے قول کو اختیار کیا ہے حالانکہ وہ اس کے افراد میں سے ہیں۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے اسرائیل نے بیان کیا کہ ہم سے سماک نے حنش سے بحوالہ حضرت علیؓ بیان کیا کہ:

رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا پس ہم ایک قوم کے پاس پہنچے جنہوں نے شیر کے شکار کے لیے گڑھا بنایا ہوا تھا۔ اسی دوران میں کہ وہ ایک دوسرے کو دکھیل رہے تھے کہ ایک آدمی گر پڑا تو وہ دوسرے سے چٹ گیا پھر دوسرا آدمی تیسرے آدمی سے چٹ گیا یہاں تک کہ اس میں چار آدمی گر پڑے اور شہر نے انہیں زخمی کر دیا پس ایک آدمی برچھالے کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اسے مار دیا اور وہ سب آدمی بھی اپنے زخموں کی تاب کے باعث مر گئے پس پہلے آدمی کے وارث دوسرے آدمی کے وارثوں کے پاس گئے انہوں نے آپس میں لڑنے کے لیے ہتھیار نکال لیے تو حضرت علیؓ اس تیاری میں ان کے پاس آئے اور فرمایا کیا تم رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں لڑنا چاہتے ہو۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں اور وہی فیصلہ ہوگا۔ وگرنہ میں تم کو ایک دوسرے سے روکوں گا یہاں تک کہ تم حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچ جاؤ اور جو وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں وہی فیصلہ ہوگا اور جو اس کے بعد تجاؤ کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ جن لوگوں نے کھودا تھا ان کے قبائل سے دیت کا چوتھائی تہائی نصف حصہ اور پوری دیت اکٹھی کر دیں پہلے آدمی کو چوتھائی دیت ملے گی کیونکہ وہ باک ہو گیا ہے اور دوسرے آدمی کو تہائی دیت ملے گی اور تیسرے کو نصف دیت ملے گی اور چوتھے کو پوری دیت ملے گی پس انہوں نے رضامند ہونے سے انکار کر دیا۔ اور وہ حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اس وقت آپ مقام ابراہیم کے پاس تھے۔ پس انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ حضرت علیؓ نے ہمارا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے سب واقعہ آپ کو سنایا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے نافذ کر دیا۔ پھر امام احمد نے اسے اسی طرح وکیع سے عن حماد بن سلمہ عن سماک بن حرب عن حنش عن علیؓ روایت کیا ہے۔

باب ۱۳

حجۃ الوداع

اسے حجۃ البلاغ، حجۃ الاسلام اور حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس میں لوگوں کو الوداع کہا تھا اور اس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا۔ اور اسے حجۃ الاسلام کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے مدینہ سے اس کے سوا کوئی حج نہیں کیا۔ لیکن آپ نے ہجرت سے قبل، نبوت سے پہلے اور بعد کئی دفعہ حج کیے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ حج کا فریضہ اسی سال نازل ہوا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ۹ھ میں اور بعض کہتے ہیں کہ ۶ھ میں نازل ہوا تھا اور بعض کا قول ہے کہ ہجرت سے قبل نازل ہوا ہے مگر یہ قول غریب ہے۔ اور اسے حجۃ البلاغ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے حج میں قولاً اور فعلاً لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت پہنچادی اور اسلام کے تمام دعائم و قواعد کو آپ نے واضح کر دیا۔ پس جب آپ نے ان کے لیے حج کے قوانین بیان کر دیئے اور اس کی تشریح و توضیح کر دی تو اللہ تعالیٰ نے جبکہ آپ عرفہ میں کھڑے تھے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی کہ:

”آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔“

عنفریب اس ساری بات کی وضاحت بیان ہوگی اور مقصود صرف آپ کے حج کا بیان کرنا ہے کہ وہ کیسے ہوا۔ کیونکہ ناقلمین نے اپنے تک پہنچنے والی معلومات کے مطابق اس میں بہت اختلاف کیا ہے خصوصاً صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد ان میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق سے ان روایات کو بیان کریں گے جنہیں ائمہ نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے اور ان کے درمیان تطبیق دیں گے جو تامل و تعق کرنے والوں اور حدیث کے دونوں طریق کے درمیان موافقت پیدا کرنے والوں اور اس کے معانی سمجھنے والوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی۔ ان شاء اللہ

محققین اور متاخرین ائمہ میں سے بہت سے لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے حج کے متعلق بہت اہتمام کیا ہے۔ اور علامہ ابو محمد بن حزم اندلسی نے حجۃ الوداع کے متعلق ایک جلد لکھی ہے جس کے اکثر حصہ کو اس نے بہت عمدگی سے لکھا ہے اور اس میں انہیں کچھ اوہام بھی پڑے ہیں جنہیں ہم اپنے اپنے مواقع پر بیان کریں گے۔



باب ۱۴

اس بات کے بیان میں کہ حضورؐ نے مدینہ سے صرف ایک ہی حج کیا اور اس سے قبل آپؐ نے تین عمرے کیے

بخاری اور مسلم نے عن بدیع بن ہمام عن قتادہ عن انس روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ نے چار عمرے کیے جو سب کے سب ذوالقعدہ میں ہوئے سوائے اس کے جو آپ نے اپنے حج میں کیا اور یونس بن کبیر نے عن عمر بن ذر عن مجاہد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی طرح روایت کی ہے۔ اور سعد بن منصور نے عن الدردردی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے تین عمرے کیے ایک عمرہ شوال میں اور دو ذی القعدہ میں اور اسی طرح اسے ابن کبیر نے عن مالک عن ہشام بن عروہ روایت کیا ہے۔ اور امام احمد نے عمرو بن شعیب کی حدیث سے اس کے باپ اور دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تین عمرے کیے جو سب کے سب ذی القعدہ میں ہوئے اور احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابو النضر نے بیان کیا کہ ہم سے داؤد یعنی عطار نے عن عمرو بن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے چار عمرے کیے عمرۃ الحدیبیہ، عمرۃ القضا، عمرۃ الجعرانہ اور وہ عمرہ جو آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ اور ابوداؤد ترمذی اور نسائی نے اسے داؤد عطار کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

قبل ازیں یہ فصل عمرۃ الجعرانہ میں بیان ہو چکی ہے اور عنقریب اس فصل میں بیان ہوگی جس میں کسی کا یہ قول ہے کہ حضور ﷺ نے حج قرآن کیا تھا و باللہ المستعان۔ ان عمروں میں سے پہلا عمرہ، عمرۃ الحدیبیہ ہے جس سے آپ کو روک دیا گیا تھا پھر اس کے بعد عمرۃ القضا ہے جسے عمرۃ القصاص اور عمرۃ القضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمرۃ الجعرانہ ہے جو آپ نے طائف سے واپسی پر کیا۔ جب آپ نے حنین کی غنائم کو تقسیم کیا اور ہم قبل ازیں اس کے موقع پر اسے مکمل طور پر بیان کر چکے ہیں اور چونکہ عمرہ وہ ہے جو آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ اور آپ کے اس عمرہ کے بارے میں لوگوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے ہم عنقریب اسے بیان کریں گے۔ کہ کیا آپ متنع تھے کہ آپ نے حج سے قبل عمرہ کیا اور اس سے حلال ہو گئے یا آپ کو ہدی لانے نے حلال ہونے سے روک دیا۔ یا آپ نے اسے حج کے ساتھ ملا لیا۔ جیسا کہ ہم اس امر پر دلالت کرنے والی احادیث سے اسے بیان کریں گے یا آپ نے اسے حج سے الگ کیا اور اسے حج کی ادائیگی کے بعد کیا، یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جو حج مفرد کے قائل ہیں جیسا کہ امام شافعی کے متعلق یہ بات مشہور ہے اور ہم عنقریب اس کا بیان آپ کے احرام میں کریں گے کہ وہ مفرد تھا یا متنع تھا یا قارن تھا۔

امام بخاریؒ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا کہ ہم سے ابواسحاق نے بیان

کیا کہ مجھ سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے انیس غزوے کیے اور ہجرت کے بعد ایک حج کیا، ابواسحاق بیان کرتا ہے کہ مکہ میں آپ نے ایک اور حج کیا اور مسلم نے اسے زہیر کی حدیث سے روایت کیا ہے اور دونوں نے اسے شعبہ کی حدیث سے بیان کیا ہے۔ بخاری اور اسرائیل نے تیسرے کا اضافہ کیا، عن ابواسحاق عمرو بن عبد اللہ السمعی عن زید کیا ہے اور یہ بات ابواسحاق نے بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے مکہ میں ایک حج کیا۔ یعنی مکہ میں آپ نے صرف ایک ہی حج کیا ہے۔ جیسا کہ اس کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ مگر یہ بعید ہے کیونکہ آپ رسالت کے بعد حج کے اجتماعات میں شامل ہوئے تھے اور لوگوں کو دعوت الی اللہ کرتے تھے اور فرماتے تھے:

”کون شخص مجھے پناہ دے گا تاکہ میں اپنے رب کا کلام پہنچا سکوں۔ کیونکہ قریش نے مجھے کلام الہی کے پہنچانے سے روک دیا ہے۔“

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کی ایک جماعت کو مقرر کر دیا جو آپ کو عقبہ کی شب یعنی قربانی کے دن کی رات کو حجرۃ العقبہ کے پاس متواتر تین سال تک ملتے رہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے سال کے آخر میں عقبہ ثانیہ کی شب کو آپ کی بیعت کر لی اور یہ آپ کی ان کے ساتھ تیسری ملاقات تھی۔ اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی۔ جیسا کہ ہم اس کے موقع پر اسے مفصل بیان کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم

اور جعفر بن محمد بن علی بن الحسین کی حدیث میں ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے بحوالہ جابر بن عبد اللہ بیان کی ہے کہ۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں نو سال قیام کیا اور حج نہ کیا۔ پھر آپ نے لوگوں میں حج کی منادی کر دی تو مدینہ میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ ۲۵ یا ۲۶ ذی القعدہ کو نکلے اور جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی پر اچھی طرح بیٹھ گئے اور جب وہ آپ کو ویرانے میں لے گئی تو آپ نے تلبیہ کہا اللہ ہم نے تسبیح پڑھی اور ہماری نیت حج کی تھی۔ عنقریب یہ حدیث اپنی طوالت کے ساتھ بیان ہوگی جو صحیح مسلم میں ہے اور یہ الفاظ بیہقی کے ہیں جو احمد بن حنبل کے طریق سے عن ابراہیم بن طہمان عن جعفر بن محمد بیان ہوئے ہیں۔



ابودجانہ سماک بن حرشہ ساعدی یا سباع بن عرفطہ غفاری کو مدینہ پر عامل مقرر کرنے کے بعد حضور کی مدینہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانگی

محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ جب دسویں سال کا ذی القعدہ آیا تو رسول اللہ ﷺ حج کے لیے تیار ہوئے اور لوگوں کو بھی اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، پس عبدالرحمن بن القاسم نے اپنے باپ قاسم بن محمد سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے بیان کیا کہ ۲۵ ذی القعدہ کو رسول اللہ ﷺ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اور یہ اسناد جید ہے اور حضرت امام مالک نے موطاء میں یحییٰ بن سعید انصاری سے عن عمرہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے اور امام احمد نے اسے عبداللہ بن نمیر سے عن یحییٰ بن سعید انصاری عن عمرہ بیان کیا ہے اور وہ صحیحین سے ثابت ہے، اور سنن نسائی ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ نے کئی طرق سے عن یحییٰ بن سعید انصاری عن عمرہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ہم ۲۵ ذی القعدہ کو حج کی نیت سے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے۔ عنقریب یہ حدیث اپنی طوالت کے ساتھ بیان ہوگی۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن ابی بکر المقدمی نے بیان کیا کہ ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ کریب نے مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ:

رسول اللہ ﷺ نکلتے تیل لگانے اور چادر و تہ بند پہننے کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے اور آپ نے کیسری چادروں اور تہ بندوں کے سوا جو جلد کو زرد کر دیتے ہیں اور کسی چیز سے منع نہ فرمایا، آپ نے ذوالحلیفہ میں صبح کی اور اونٹنی پر سوار ہوئے یہاں تک کہ ویرانے پر متصرف ہو گئے یہ ۲۵ ذی القعدہ کا واقعہ ہے۔ پس آپ ۵ ذی الحجہ کو مکہ آئے۔ امام بخاری اس حدیث کی روایت میں متفرد ہیں اور آپ کا یہ قول کہ یہ ۲۵ ذی القعدہ کا واقعہ ہے۔ اگر اس سے آپ کی مراد ذوالحلیفہ کے دن کی صبح ہے تو ابن حزم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں کہ آپ جمعرات کے روز مدینہ سے نکلے اور جمعہ کی شب آپ نے ذوالحلیفہ میں گزاری اور جمعہ کے دن کی صبح آپ کو وہیں ہوئی اور وہ ذی القعدہ کا پچیسواں دن تھا۔ اور اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے قول ۲۵ ذی القعدہ سے وہ دن مراد لیتے ہیں جس روز آپ نکلتے تیل لگانے اور چادر و تہ بند پہننے کے بعد مدینہ سے چلے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ وہ مدینہ سے ۲۵ ذی القعدہ کو روانہ ہوئے تو ابن حزم کا قول بعید ہو جاتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا معتذر رہو جاتا ہے اور اس کے بغیر ہی بات متعین ہو جاتی ہے اور خواہ ماہ ذی قعدہ پورا ہی ہو۔ یہ بات جمعہ کے دن کے سوا کسی پر منطبق نہیں ہوتی۔ اور جمعہ کے روز آپ کا مدینہ سے روانہ ہونا جائز نہیں کیونکہ بخاری نے روایت کی ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے ایوب نے ابو قلابہ سے بحوالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ:

”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ آپ نے مدینہ میں ظہر کی چار رکعت پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔ پھر آپ نے وہاں رات بسر کی یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ پھر آپ سوار ہو گئے یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی ویرانے پر متصرف ہو گئی اور آپ نے اللہ کی تسبیح و تہنید کی پھر حج اور عمرہ کی بلند آواز سے تکبیر کہی۔“

اور مسلم اور نسائی دونوں نے اسے عن قتیبہ عن حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس بن مالک عن عائشہ روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ظہر کی چار رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔ اور احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمن نے ہم سے عن سفیان عن محمد ابن المنکدر اور ابراہیم بن میسرہ عن انس بن مالک عن عائشہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ظہر کی چار رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی چار رکعتیں پڑھیں۔ اور بخاری نے اسے ابو نعیم سے بحوالہ سفیان ثوری روایت کیا ہے۔ اور مسلم، ابوداؤد اور نسائی نے اسے سفیان بن عیینہ کی حدیث سے عن محمد بن المنکدر اور ابراہیم بن میسرہ عن انس بیان کیا ہے اور احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بکیر نے بیان کیا کہ ہم سے ابن جریج نے محمد بن المنذر سے بحوالہ انس بیان کیا کہ:

”رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ہمیں ظہر کی نماز چار رکعت پڑھائی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز دو رکعت پڑھائی، پھر آپ نے ذوالحلیفہ میں رات گزار لی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پس جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور وہ آپ کو لے کر اچھی طرح چل پڑی تو آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی۔“

احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یعقوب نے بیان کیا کہ ہم سے میرے باپ نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن المنذر تمیمی نے بحوالہ انس بن مالک انصاری بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں مدینہ میں اپنی مسجد میں ظہر کی چار رکعتیں پڑھائیں۔ پھر ہمیں ذوالحلیفہ میں سکون کے ساتھ عصر کی دو رکعتیں پڑھائیں اور آپ کو حجۃ الوداع کے بارے میں کوئی خوف نہ تھا احمد ان دو آخری وجوہات سے جو صحیح کی شرط کے مطابق ہیں اس کی روایت میں متفرد ہیں یہ بات قطعی طور پر حضور ﷺ کے جمعہ کے روز روانہ ہونے کی نفی کرتی ہے اور اس بنا پر جمعرات کے روز آپ کی روانگی درست قرار نہیں پاتی جیسا کہ ابن حزم نے بیان کیا ہے کیونکہ یہ ذوالقعدہ کا چوبیسواں دن بنتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ یکم ذی الحجہ کو جمعرات کا دن تھا، پس اگر آپ کی روانگی جمعرات کے روز ذوالقعدہ کے چوبیسویں دن ہوتی تو قطعی طور پر مہینے کی چھ راتیں باقی رہ جاتیں۔ جمعہ کی رات، ہفتہ کی رات، اتوار کی رات، سوموار کی رات، منگل کی رات اور بدھ کی رات، پس یہ چھ راتیں ہوئیں اور حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم نے بیان کیا ہے کہ ذی القعدہ کی پانچ راتیں باقی تھیں کہ آپ روانہ ہوئے اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق اس کا جمعہ کا دن ہونا محذور ہے۔ پس اس بنا پر متعین ہو گیا کہ آپ ہفتہ کے روز مدینہ سے روانہ ہوئے اور راوی نے گمان کر لیا کہ مہینہ پورا تھا، پس اس سال اتفاقاً وہ کم ہوا۔ پس بدھ کا روز گزر گیا اور جمعرات کی شب کو ماہ ذی الحجہ شروع ہو گیا، اور اس کی تائید حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ ذی القعدہ کی پانچ یا چار راتیں باقی تھیں۔ اور یہ بیان اس اندازے کی بنا پر ہے جس سے گریز کی کوئی گنجائش نہیں۔ واللہ اعلم

آپ کے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہونے کا بیان

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا کہ ہم سے انس بن عیاض نے عبید اللہ بن عمر سے من نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ: رسول اللہ ﷺ درخت کے راستے سے باہر جاتے تھے اور آخر شب اترنے کی جگہ کے راستے سے آیا کرتے تھے اور جب آپ مکہ کی جانب جاتے تو درخت والی مسجد میں نماز پڑھتے۔ اور جب واپس آتے تو ذوالحلیفہ میں وادی کے نشیب میں نماز پڑھتے اور رات گزارتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ امام بخاری اس طریق سے اس کے بیان میں متفرد ہیں اور حافظ ابو بکر البزار بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں عن عمرو بن مالک عن یزید بن زریع عن ہشام عن عروہ عن ثابت عن ثمامہ عن انس لکھا ہوا پایا کہ: رسول اللہ ﷺ نے ایک بوسیدہ کجاوے پر جس کے نیچے ایک چادر تھی حج کیا اور اس میں نہ دکھاوا تھا نہ شہرت تھی اور بخاری نے اسے اپنی صحیح میں معلق قرار دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر المقدی کہتا ہے کہ ہم سے یزید بن زریع نے عن عروہ عن ثابت عن ثمامہ بیان کیا ہے کہ:

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک بوسیدہ کجاوے پر حج کیا حالانکہ آپ بخیل نہیں تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حج کیا اور وہ آپ کے ردیف تھے۔ اسی طرح البزار اور بخاری نے اسے معلق اور ابتداء سے مقطوع الاسناد بیان کیا ہے۔ اور حافظ بیہقی نے اسے اپنے سنن میں مضبوط کہا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابوالحسن علی بن محمد بن اسحاق نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے یوسف بن یعقوب قاضی نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا پھر اس کے بعد حدیث بیان کی ہے۔ اور حافظ ابو یعلیٰ موصلی نے اسے اپنے مسند میں ایک اور طریق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے علی بن الجعد نے بیان کیا کہ ہمیں ربیع بن صبیح نے یزید الرقاشی سے بحوالہ انس خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بوسیدہ کجاوے پر اور ایک چادر جو چادر درہم کے برابر تھی یا نہیں تھی کے ساتھ حج کیا اور فرمایا: اے اللہ! یہ ایسا حج ہے جس میں ریا کا کوئی شائبہ نہیں۔

اور ترمذی نے اسے الشماکل میں ابوداؤد طیالسی کی حدیث سے روایت کیا ہے اور سفیان ثوری اور ابن ماجہ نے وکیع بن الجراح کی حدیث سے روایت کیا ہے اور تینوں نے اسے ربیع بن صبیح سے روایت کیا ہے اور یہ اسناد یزید بن ابان الرقاشی کی جہت سے ضعیف ہے کیونکہ ائمہ کے نزدیک وہ مقبول الروایت نہیں۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ہاشم نے بیان کیا کہ ہم سے اسحاق بن سعید نے اپنے باپ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ:

میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ واپس آیا تو ہمارے پاس سے یمانی ساتھیوں کی جماعت گزری جن کے کجاوے چمڑے کے تھے اور ان کے اونٹوں کی مہاریں پتھر کے گگنوں کی تھیں، حضرت عبد اللہ کہنے لگے: ”جو شخص اس سال رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی مانند اصحاب کو دیکھنا چاہتا ہے (جب آپ اور آپ کے اصحاب حجۃ الوداع میں آئے) تو وہ ان اصحاب کو دیکھے۔ اور ابوداؤد

نے اسے عن بناد عن کعب عن اسحاق عن - مید بن عمرو بن - مید بن العاص عن ابیہ عن ابن عمر روایت کیا ہے۔ اور حافظ ابو بکر اللہبی نے بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ ابوطاہر نقیہ ابو زکریا بن ابی اسحاق ابو بکر بن الحسن اور ابو سعید بن ابی عمرو نے ہمیں اطلاع دی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابو العباس یعنی اصم نے بیان کیا کہ ہمیں محمد بن عبد اللہ الحکم نے خبر دی کہ ہمیں سعید بن بشیر قرظی نے خبر دی کہ ہم سے عبد اللہ بن حکیم کنانی نے جو اہل یمن کے موالی میں سے ایک آدمی ہے، بشر بن قدامہ ضبابی سے بیان کیا کہ:

میری دونوں آنکھوں نے میرے محبوب رسول اللہ ﷺ کو عرفات میں لوگوں کے ساتھ ایک سرخ قصواء اونٹنی پر کھڑے دیکھا اور آپ کے نیچے ایک بولانی چادر تھی آپ فرما رہے تھے: ”اے اللہ! اسے ایسا حج بنا دے جس میں ریا اور شہرت نہ ہو۔“ اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبد اللہ بن ادریس نے بیان کیا کہ ہم سے ابن اسحاق نے یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر سے بیان کیا اور وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ:

ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کو نکلے یہاں تک کہ ہم العرج پہنچ گئے اور رسول اللہ ﷺ وہاں اتر پڑے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے پہلو میں بیٹھ گئیں اور میں اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھ گئی، اور رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا بوجھ ایک ہی تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام کے پاس تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے وہ آیا تو اس کا اونٹ اس کے پاس نہیں تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارا اونٹ کہاں ہے اس نے جواب دیا میں نے اسے رات کو گم کر دیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو نے ایک اونٹ کو گم کر دیا اور اسے مارنے لگے اور رسول کریم ﷺ مسکرا کر فرمانے لگے: اس محرم کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ابوداؤد نے احمد بن حنبل اور محمد بن عبد العزیز بن ابی رزمہ سے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اسے ابو بکر بن ابوشیبہ سے روایت کیا ہے اور تنوخی نے اسے عبد اللہ بن ادریس سے روایت کیا ہے۔

اور وہ حدیث جسے ابو بکر البرزازی نے اپنے مسند میں یہ کہتے ہوئے روایت کیا ہے کہ ہم سے اسماعیل بن حفص نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن الیمان نے بیان کیا کہ ہم سے حمزہ الزیاتی نے حمران بن اعین سے عن ابی الطفیل عن ابی سعید بیان کیا کہ:

”رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ نے مدینہ سے مکہ تک پیادہ حج کیا انہوں نے اپنی کمریں کس لیں اور ان کی چال دوڑ سے ملتی جلتی تھی۔“

یہ حدیث منکر اور ضعیف الاسناد ہے اور حمزہ الزیاتی ضعیف ہے اور اس کا شیخ متروک الحدیث ہے۔ اور البرزازی نے کہا کہ یہ اسی طریق سے مروی ہے۔ اگرچہ اس کا اسناد ہمارے نزدیک حسن ہے۔ اور اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ عمرہ میں تھے کیونکہ حضور ﷺ نے صرف ایک ہی حج کیا ہے اور آپ سوار تھے اور آپ کے بعض اصحاب پیدل تھے۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت نبی کریم ﷺ اپنے عمروں میں سے کسی عمرہ میں پیادہ نہ تھے نہ حدیبیہ میں نہ قضا میں نہ جعرانہ میں نہ جتہ الوداع میں اور آپ کے حالات مشہور و معروف ہیں جو لوگوں سے پوشیدہ نہیں، بلکہ یہ حدیث شاذ اور منکر ہے اور اس جیسی حدیث ثابت نہیں۔ واللہ اعلم

مدینہ منورہ میں ظہر کی چار رکعت اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دو رکعت نماز پڑھنے کا بیان

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ظہر کی نماز چار رکعت پڑھی پھر وہاں سے سوار ہو کر ذوالحلیفہ یعنی وادی عقیق میں آئے تو وہاں آپ نے عصر کی نماز دو رکعت پڑھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن کو عصر کے وقت ذوالحلیفہ آئے تھے اور وہاں پر آپ نے قصر نماز پڑھی۔ اور ذوالحلیفہ مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے۔ پھر آپ نے وہاں مغرب اور عشا کی نمازیں پڑھیں اور وہیں رات بسر کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی اور انہیں بتایا کہ رات کو آپ کے پاس وحی آئی تھی جس پر وہ احرام کے بارے میں اعتماد کرتے ہیں جیسا کہ امام احمد نے بیان کیا ہے کہ ہم سے یحییٰ بن آدم نے بیان کیا کہ ہم سے زہیر نے موسیٰ بن عقبہ سے عن سالم عن عبد اللہ بن عمر عن النبی ﷺ بیان کیا کہ آپ ذوالحلیفہ سے آخر شب اترنے کی جگہ آئے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ بطحاء مبارکہ میں ہیں۔ اور بخاری اور مسلم نے اسے صحیحین میں موسیٰ بن عقبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے ولید اور بشر بن بکر نے بیان کیا کہ ہم سے اوزاعی نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا کہ مجھ سے عکرمہ نے بیان کیا کہ اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے وادی عقیق میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ:

”آج شب میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کھوج میں عمرہ۔“

بخاری و مسلم کے بغیر اس حدیث میں متفرد ہیں اور یہ ظاہر بات ہے کہ وادی عقیق میں آپ کو نماز کا حکم دینا وہاں پر آپ کو ٹھہرنے کا حکم دینا ہے تاکہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں۔ کیونکہ آپ کے پاس رات کو حکم آیا اور آپ نے انہیں صبح کی نماز کے بعد بتایا پس صرف ظہر کی نماز ہی باقی رہ گئی اور آپ کو وہاں پر اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہ اس کے بعد احرام کو اتار دیں اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ آج شب میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کھوج میں عمرہ۔ اور اس سے حج قرآن پر حجت پکڑی گئی ہے اور یہ اس امر پر سب سے قوی دلیل ہے۔ جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا۔

حاصل کلام یہ کہ حضرت نبی کریم ﷺ کو وادی عقیق میں ظہر کی نماز تک ٹھہرنے کا حکم دیا گیا اور آپ نے اس حکم پر عمل کیا اور وہاں ٹھہرے رہے اور اس صبح کو اپنی نوبیویوں کے ہاں چکر لگایا جو سب کی سب آپ کے ساتھ گئی تھیں اور ظہر تک آپ وہاں رہے جیسا کہ ابو حسان اعرج کی حدیث میں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے بیان ہوگا کہ:

رسول اللہ ﷺ نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز پڑھی پھر آپ نے اپنی اونٹنی کو شکار پہنایا۔ پھر سوار ہوئے اور بلند آواز سے

تکبیر کہی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور امام احمد نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے کہ ہم سے روح نے بیان کیا کہ ہم سے اشعثؓ یعنی ابن عبدالمکک نے حسن سے بحوالہ انس بن مالک بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور جب ویرانے کی بلندی پر چڑھے تو بلند آواز سے تکبیر کہی اور ابو داؤد نے اسے احمد بن حنبل سے اور نسائی نے اسحاق بن راہویہ سے اس مفہوم میں نصر بن شمیل سے بحوالہ اشعث روایت کیا ہے۔

اور جو روایت احمد بن الازہر سے عبد محمد بن عبد اللہ بحوالہ اشعث مروی ہے وہ اس سے مکمل تر ہے۔ اور اس میں ابن حزم کا رد پایا جاتا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ واقعہ دن کے پہلے حصے میں ہوا ہے۔ اور وہ بخاری کی اس روایت سے مدد لے سکتے ہیں جو ایوب کے طریق سے عن رجل عن انس بیان ہوئی ہے کہ۔ رسول اللہ ﷺ نے ذوالحلیفہ میں رات بسر کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ نے صبح کی نماز پڑھا کی پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جب وہ آپ کو ویرانے میں لے گئی تو آپ نے بلند آواز سے حج اور عمرہ کی تکبیر کہی لیکن اس کے اسناد میں ایک مبہم آدمی ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ وہ ابو قلابہ ہے۔ واللہ اعلم

امام مسلم اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن حبیب حارثی نے بیان کیا کہ ہم سے خالد بن الحارث نے بیان کیا کہ ہم سے شیبہ نے ابراہیم بن محمد بن المنشتر بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ کو بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے سنا آپ فرماتی تھیں کہ: میں رسول اللہ ﷺ کو خوشبو لگانی مٹھی پھر آپ اپنی بیویوں کے ہاں چکر لگاتے پھر محرم ہو جاتے اور خوشبو اتارتے۔

اور بخاری نے اسے شعبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور دونوں نے اسے ابو عوانہ کی حدیث سے بیان کیا ہے اور مسلم، مسعر، سفیان بن سعید ثوری چاروں نے ابراہیم بن محمد بن المنشتر سے روایت کی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ابراہیم بن محمد ابن المنشتر عن ابیہ روایت کی گئی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جو خوشبو لگا کر محرم ہو جاتا ہے انہوں نے فرمایا: ”میں پسند نہیں کرتا کہ میں محرم ہو کر خوشبو اتارتا پھروں، ایسے فعل کی نسبت مجھے تارکول کا لپ کر لینا زیادہ محبوب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو احرام باندھنے کے قریب خوشبو لگائی پھر آپ نے اپنی بیویوں میں چکر لگایا پھر محرم ہو گئے۔ یہ الفاظ جو مسلم نے روایت کیے ہیں اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس چکر لگانے سے قبل خوشبو لگایا کرتے تھے تاکہ یہ امر آپ کے لیے خوشگوار ہو اور انہیں بھی پسند ہو۔ پھر جب آپ جنابت سے غسل کرتے اور احرام کے لیے غسل کرتے تو آپ اسی طرح احرام کے لیے دوسری خوشبو لگاتے جیسا کہ ترمذی اور نسائی نے اسے عبد الرحمن بن ابی الزناد کی حدیث سے جو اس نے اپنے باپ سے عن خارجہ بن زید بن ثابت عن ابیہ روایت کی ہے بیان کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے احرام کے لیے کپڑے اتارے اور غسل کیا، ترمذی نے اسے حسن غریب کہا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے زکریا بن عدی نے بیان کیا کہ ہمیں عبید اللہ بن عمر عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن عروہ عن عائشہ خبر دی کہ وہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ جب احرام باندھنے کا ارادہ کرتے تو خطمی بوٹی اور اشان گھاس سے اپنا سر دھوتے اور تھوڑا سا تیل لگاتے۔ احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں۔

اور ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے ہمیں عثمان بن عروہ سے خبر دی کہ میں نے

اپنے باپ کو کہتے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے سنا کہ:

میں نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کے حل و حرم کے لیے خوشبو لگائی۔ میں نے آپ سے کہا کون سی خوشبو آپ نے فرمایا بہترین خوشبو اور مسلم نے اسے سفیان بن عیینہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور بخاری نے اسے وہب کی حدیث سے روایت کیا ہے جو عن ہشام بن عروہ عن اخیہ عثمان بن ابیہ عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے۔

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبد اللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہمیں مالک نے عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ:

رسول اللہ ﷺ جب احرام باندھتے تھے تو میں آپ کو احرام کے لیے خوشبو لگاتی تھی اور قبل اس کے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں میں آپ کے حل کے لیے بھی آپ کو خوشبو لگاتی تھی۔

اور امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبد اللہ بن حمید نے بیان کیا کہ ہمیں محمد بن ابوبکر نے خبر دی کہ ہمیں ابن جریج نے اطلاع دی کہ مجھے عن ابن عبد اللہ بن عروہ نے خبر دی کہ اس نے عروہ اور قاسم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دیتے سنا وہ فرماتی ہیں کہ ”میں نے اپنے ہاتھوں سے حجۃ الوداع میں حل و حرم کے لیے رسول اللہ ﷺ کو ذریعہ خوشبو لگائی“۔

اور مسلم نے سفیان بن عیینہ کی حدیث سے روایت کی ہے جو زہری سے عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے وہ بیان فرماتی ہیں کہ:

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے ان دونوں ہاتھوں سے آپ کے احرام باندھنے کے وقت اور بیت اللہ کے طواف سے قبل آپ کے احرام سے نکلنے کے وقت خوشبو لگائی“۔

اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے احمد بن منیع اور یعقوب الدوری نے بیان کیا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہ ہمیں منصور نے عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا خبر دی وہ فرماتی ہیں کہ:

”میں رسول اللہ ﷺ کو احرام باندھنے اور کھولنے سے قبل اور یوم النحر کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے قبل خوشبو لگایا کرتی تھی جس میں کستوری ہوتی تھی“۔

اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابوبکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے عن ابی الضحیٰ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا وہ فرماتی ہیں۔ گویا میں رسول اللہ ﷺ کی مانگ میں کستوری کی مہک دیکھ رہی ہوں اور وہ تلبیہ کہہ رہے ہوتے تھے۔ پھر مسلم نے اسے ثوری وغیرہ کی حدیث سے عن حسن بن عبید اللہ عن ابراہیم عن اسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں یوں معلوم ہوتا ہے میں رسول اللہ ﷺ کی مانگ میں جبکہ آپ محرم ہوتے تھے کستوری کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ اور بخاری نے اسے سفیان ثوری کی حدیث سے اور مسلم نے اعمش کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے عن منصور عن ابراہیم عن اسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے اور دونوں نے اسے صحیحین میں شعبہ کی حدیث سے عن الحکم بن ابراہیم عن اسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا ہے۔

ابو ذؤدہ دہلیسی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اشعث نے عن منصور عن ابراہیم عن اسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا خبر دی کہ آپ فرماتی ہیں کہ: گویا میں رسول اللہ ﷺ کے بالوں کی جڑوں میں محرم ہونے کی حالت میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عفان نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن سلمہ نے عن ابراہیم النخعی عن اسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا۔ آپ فرماتی ہیں گویا میں کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ ﷺ کی مانگ میں جبکہ آپ محرم تھے خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔

اور عبد اللہ بن زبیر حمیدی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ ہم سے عطاء بن سائب نے عن ابراہیم النخعی عن اسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا آپ فرماتی ہیں:

”میں نے تیسرے دن کے بعد رسول اللہ ﷺ کی مانگ میں جبکہ آپ محرم تھے خوشبو دیکھی۔“

یہ احادیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ غسل کے بعد خوشبو لگایا کرتے تھے اور اگر غسل سے قبل خوشبو لگائی جاتی تو غسل اس کا خاتمہ کر دیتا اور اس کا کچھ نشان باقی نہ رہتا، خصوصاً احرام کے دن سے تیسرے دن بعد تو اس کا کچھ اثر بھی نہ رہتا۔ اور سلف کا ایک گروہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، کا مذہب یہ ہے کہ وہ احرام کے وقت خوشبو کو پسند نہیں کرتے اور ہم نے اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابوالحسین بن بشران نے بغداد میں ہمیں بتایا کہ ابوالحسن علی بن محمد مصری نے ہمیں خبر دی کہ یحییٰ بن غسان بن صالح نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن ابی العمر نے ہم سے بیان کیا کہ یعقوب بن عبد الرحمن نے عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ:

”میں نے احرام کے وقت رسول اللہ ﷺ کو بہترین خوشبو لگائی۔ یہ اسناد غریب اور عزیز المخرج ہے۔ پھر حضور ﷺ

نے اپنے سر کو چمکایا تاکہ آپ اس کی خوشبو کو محفوظ کر سکیں اور اسے منیٰ اور غبار کے پڑنے سے بچا سکیں۔ مالک نے نافع

سے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ ﷺ

ان لوگوں کا کیا حال ہے جو عمرہ سے حلال ہو گئے ہیں اور آپ اپنے عمرہ سے حلال نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے

اپنے سر کو چمکایا ہے اور اپنے قربانی کے جانور کو قلاہہ ڈال دیا ہے اور میں قربانی کرنے تک حلال نہ ہوں گا۔“

اور دونوں نے اسے صحیحین میں مالک کی حدیث سے بیان کیا ہے اور نافع سے اس کے بہت طرق ہیں۔

امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حاکم نے خبر دی کہ ہمیں اصم نے بتایا کہ ہمیں یحییٰ نے اطلاع دی کہ ہم سے عبید اللہ بن

عمر القواریری نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الاعلیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن اسحاق نے نافع سے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا

کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے سر کو شہد سے چمکایا۔ یہ اسناد جدید ہے۔ پھر آپ نے قربانی کے جانور کو نشان لگایا اور قلاہہ پہنایا اور وہ

ذوالحلیفہ میں آپ کے ساتھ تھے لیث عن عقیل عن زہری عن سالم اور اس کے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

حجۃ الوداع میں عمرہ کو حج سے ملا کر فائدہ اٹھایا، یعنی حج تمتع کیا اور ہدیٰ لے گئے، پس آپ ذوالحلیفہ سے ہدیٰ اپنے ساتھ لے گئے

اور عنقریب یہ حدیث مکمل طور پر بیان ہوگی جو کہ صحیحین میں ہے اور اس پر گفتگو بھی ہوگی ان شاء اللہ۔

اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ محمد بن اہمشی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم نے سہاذ بن ہشام المدنی نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ نے قتادہ سے عن ابی حسان عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ ذوالحلیفہ آئے تو آپ نے اپنی اونٹنی منگوائی اور اس کی کوبان کی دائیں جانب اسے نشان لگایا اور اس کا خون نکالا اور اسے تلوار کے میان کے لوہے کے دوسروں کا ہار پہنایا۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ اور سنن ابوداؤد کے مؤلفین نے اسے کئی طرق سے قتادہ سے روایت کیا ہے اور یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے اس اونٹنی کو یہ نشان اور ہار اپنے بابرکت ہاتھ سے پہنایا اور بقیہ قربانی کے جانوروں کو نشان لگانے اور ہار پہنانے کا کام کسی اور شخص نے کیا۔ کیونکہ قربانی کے جانور بہت زیادہ تھے، یعنی ایک سواونٹیاں یا اس سے کچھ کم تھیں اور آپ نے اپنے بابرکت ہاتھ سے تریسٹھ اونٹیاں ذبح کیں اور بقیہ اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے حضرت نبی کریم ﷺ کے لیے اونٹ لائے۔ اور ابن اسحاق کے سیاق میں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹوں میں شریک کیا۔ واللہ اعلم

اور دوسرے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یوم النحر کو آپ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک سواونٹ کو ذبح کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان اونٹوں کو ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد محرم ہونے کی حالت میں بعض اونٹوں کو خریدا ہو۔



باب ۱۸

اس جگہ کا بیان جہاں سے حضور ﷺ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور ناقلمین کا

اختلاف اور اس بارے میں حق کو ترجیح دینے کا بیان

قبل ازیں وہ حدیث بیان ہو چکی ہے جسے بخاری نے اوزاعی کی حدیث سے عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عمرہ عن ابن عباس عن عمر روایت کیا ہے کہ میں نے وادی عقیق میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ:

میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ اور امام بخاری باب الابلال عند مسجد ذی الحلیفہ میں بیان کرتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ بن عقبہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبد اللہ سے سنا اور عبد اللہ بن مسلمہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے مالک نے موسیٰ بن عقبہ سے عن سالم بن عبد اللہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے باپ کو کہتے سنا کہ:

”رسول کریم ﷺ نے صرف مسجد ذی الحلیفہ سے بلند آواز سے تکبیر کہی۔“

اور ابن ماجہ کے سوا اسے ایک جماعت ایک دوسرے طرق سے موسیٰ بن عقبہ سے روایت کیا ہے اور مسلم کی ایک روایت میں جو موسیٰ بن عقبہ سے عن سالم و نافع و حمزہ بن عبد اللہ بن عمر مروی ہے اور ان تینوں نے اسے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ نے لبیک کہا اور ان دونوں کی روایت میں جو مالک کے طریق سے عن موسیٰ بن عقبہ عن سالم بیان ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ:

”یہ تمہارا وہی ویرانہ ہے جس میں تم رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ رسول کریم ﷺ نے مسجد کے پاس بلند آواز سے تکبیر کہی۔“

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف بھی روایت کی گئی ہے جیسا کہ دوسرے حصے میں بیان ہوگا۔ اور وہ حدیث وہ ہے جسے ان دونوں نے صحیحین میں مالک کے طریق سے عن سعید المقبری عن عبید بن جریج عن ابن عمر روایت کیا ہے۔ آپ نے اس میں ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ عبد اللہ نے کہا کہ بلند آواز سے تکبیر کہنے کی بات یہ ہے کہ:

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس وقت تک بلند آواز سے تکبیر کہتے نہیں دیکھا جب تک آپ کی سواری تیز نہ ہو جاتی۔“

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یعقوب نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے میرے باپ نے ابن اسحاق سے بیان کیا کہ مجھ سے خسیف بن عبد الرحمن الجزری نے سعید بن جبیر سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا اے ابوالعباس عجیب بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب آپ کے بلند آواز سے تکبیر کہنے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ

آپ نے اسے کب واجب کہا ہے انہوں نے جواب دیا میں اس بات کو سب لوگوں سے بہتر جانتا ہوں یہ رسول اللہ ﷺ سے صرف ایک حج میں ہوا اور وہیں صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہوا ہے رسول اللہ ﷺ حج کے لیے روانہ ہوئے اور جب آپ نے ذوالحلیفہ میں اپنی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی تو آپ اپنی مجلس میں بیٹھ گئے اور جب اپنی دو رکعتوں سے فارغ ہوئے تو آپ نے بلند آواز سے حج کی تکبیر کہی تو کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ نے اس وقت بلند آواز سے تکبیر کہی ہے جب آپ دیرانے کی بلند جگہ پر چڑھے اور قسم بخدا آپ نے اپنے مصلیٰ میں تکبیر کہی۔ اور اس وقت بلند آواز سے تکبیر کہی جب آپ کی ناقہ نے آپ کو اٹھا لیا اور اس وقت بھی بلند آواز سے تکبیر کہی جب آپ دیرانے کی بلند جگہ پر چڑھے۔ پس جس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو اختیار کیا وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی دو رکعتوں سے فارغ ہو کر اپنے مصلیٰ میں بلند آواز سے تکبیر کہی۔ اور ترمذی اور نسائی نے اسے عن قتیبہ عن عبدالسلام بن حرب عن خصیف اسی طرح روایت کیا ہے۔

اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حسن غریب ہے اور ہم عبدالسلام کے سوا اس کے کسی راوی کو نہیں جانتے۔ اور امام احمد کی روایت قبل ازیں بیان ہو چکی ہے جو محمد بن اسحاق کے طریق سے مروی ہے۔ اسی طرح حافظ بیہقی نے اسے حاکم سے عن القطعی عن عبداللہ بن احمد عن ابیہ روایت کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خصیف الجزری قوی نہیں ہے اور واقدی نے اسے اپنے اسناد سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ واقدی کی متابعت کوئی فائدہ نہیں دیتی اور اس بارے میں جو احادیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہیں ان کی مسانید قوی اور ثابت نہیں۔ واللہ اعلم میں کہتا ہوں اگر یہ حدیث صحیح ہو تو احادیث میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس سے ان میں تطبیق ہو سکتی ہے اور خلاف واقع نقل کے بارے میں عذر کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے اسناد میں ضعف پایا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو کچھ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کے خلاف بھی روایت کیا گیا ہے جیسا کہ ہم اس سے آگاہ کریں گے اور اسے واضح کریں گے۔ اسی طرح اس شخص کا قول بھی ذکر کیا گیا ہے جس نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس وقت بلند آواز سے تکبیر کہی جب آپ کی ناقہ صحیح طور پر چلنے لگی۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کہ ابن جریج نے مجھے اطلاع دی کہ مجھ سے محمد بن المنکدر نے بحوالہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں چار رکعت اور ذوالحلیفہ میں دو رکعت نماز پڑھی پھر آپ نے رات بسر کی یہاں تک کہ آپ نے ذوالحلیفہ میں صبح کی پس جب آپ اپنی ناقہ پر سوار ہوئے اور وہ صحیح طور پر چلنے لگی تو آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی۔ بخاری مسلم اور اہل سنن نے اسے کئی طرق سے عن محمد بن المنکدر و ابیہم بن میسر عن انس روایت کیا ہے۔ اور صحیحین میں مالک کی حدیث سے جو سعید المقبری سے عن عبید بن جریج عن ابن عمر مروی ہے ثابت کیا ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ:

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس وقت تک بلند آواز سے تکبیر کہتے نہیں دیکھا جب تک آپ کی سواری تیز نہ ہو جاتی۔

رسول اللہ ﷺ ذوالحلیفہ سے اپنی ناقہ پر سوار ہوئے تھے اور جب وہ آپ کو لے کر تیزی سے چلتی تو آپ بلند آواز سے تکبیر کہتے۔

اور امام بخاری نے باب من اهل حین استوت بہ راحلتہ میں بیان کیا ہے کہ ابو عاصم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابن جریج نے بیان کیا کہ مجھے صالح بن کیسان نے نافع سے بحوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خبر دی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ جب رکاب میں اپنا پاؤں رکھتے اور آپ کی سواری تیزی سے آپ کو لے کر چلتی تو آپ ذوالحلیفہ سے بلند آواز سے تکبیر کہتے۔ اس طریق سے مسلم اس کی روایت میں منفرد ہیں اور دونوں نے اسے ایک اور طریق سے عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر روایت کیا ہے پھر امام بخاری باب الابلال مستقبل القبلة میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب ذوالحلیفہ میں صبح کی نماز پڑھتے تو اپنی ناقہ لانے کا حکم دیتے وہ لائی جاتی تو پھر آپ سوار ہو جاتے اور جب وہ ٹھیک چلنے لگتی تو آپ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو جاتے پھر تلبیہ کہتے یہاں تک کہ حرم میں پہنچ جاتے پھر خاموش ہو جاتے اور جب ذی طویٰ مقام پر آ جاتے تو وہاں رات گزارتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور جب صبح کی نماز پڑھتے تو غسل کرتے آپ کا خیال تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا کیا تھا پھر بیان کرتے ہیں کہ غسل کے بارے میں اسماعیل نے بحوالہ ایوب اس کی متابعت کی ہے اور اس میں سے عن یعقوب بن ابراہیم الدورقی عن اسماعیل ابن علیہ مدونی ہے اور مسلم نے اسے عن زہیر بن حرب عن اسماعیل اور ابو الریح الزہرانی وغیرہ سے عن حماد بن زید روایت کیا ہے۔ پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ سلیمان ابو الریح نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے فلیح نے نافع سے روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ:

”جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتے تو ایسا تیل لگاتے جس کی خوشبو اچھی نہ ہوتی، پھر ذوالحلیفہ کی مسجد میں آتے اور نماز پڑھتے پھر سوار ہوتے اور جب ان کی ناقہ تیزی سے چلتی تو احرام باندھتے، پھر فرماتے میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔“

بخاری اس طریق سے اس کے بیان میں منفرد ہیں اور مسلم نے عن قتیبہ عن حاتم بن اسماعیل عن موسیٰ بن عقبہ عن سالم عن ابیہ روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں یہ تمہارا وہی ویرانہ ہے جس میں تم رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ قسم بخدا رسول اللہ ﷺ درخت کے پاس سے اس وقت بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے جب ان کا اونٹ رک جاتا تھا۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی پہلی روایت اور ان روایات کے درمیان جو آپ سے روایت کی گئی ہیں تطبیق پیدا کر دیتی ہے اور وہ یہ کہ آپ مسجد کے پاس سے احرام باندھتے تھے لیکن اپنی ناقہ پر سوار ہونے کے بعد جب وہ زمین پر آپ کو لے کر تیزی سے چلنے لگتی تھی اور یہ اس مقام پر پہنچنے سے قبل ہوتا تھا جو ویرانے کے نام سے معروف ہے۔ پھر امام بخاری ایک دوسری جگہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن ابی بکر المقدمی نے بیان کیا کہ ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے کریب نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ:

رسول اللہ ﷺ کنگھی کرنے اور تیل لگانے کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے اور آپ نے اور آپ کے اصحاب نے چادریں

اور تینہ زیب تس کے اور آپ نے ان کسری پاؤروں کے ساتھ جگہ کو زرد رنگ کر دیا ہے اور کسی قسم کی پاؤر سپینے سے منع نہیں فرمایا۔ پس آپ نے ذوالحلیفہ میں صبح کی اور اپنی ناقہ پر سوار ہوئے اور جب وہ زمین پر اٹھی طرح چلنے لگی تو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور آپ نے اپنے اونٹوں کو قلا دے پہنائے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ذی الحجہ کی پانچ راتیں باقی تھیں۔ پس آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور سنا اور مردہ کے درمیان سعی کی اور آپ اپنے اونٹوں کی وجہ سے حلال نہیں ہوئے کیونکہ آپ نے انہیں قلا دے پہنائے تھے اور آپ مسلسل مکہ کے بالائی حصے میں حجون کے پاس رہے جو حج کے لیے بلند آواز سے تکبیر کہنے کی جگہ ہے اور آپ کعبہ کے طواف کے بعد اس کے نزدیک نہیں آئے یہاں تک کہ آپ عرفہ سے واپس آئے اور آپ نے اپنے اصحاب کو بیت اللہ کا طواف کرنے صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرنے پھر اپنے سروں کے بال چھوٹے کرانے اور پھر حلال ہو جانے کا حکم دیا۔ اور یہ حکم اس شخص کے لیے تھا جس کے پاس قلا دے والا اونٹ نہیں تھا اور جس کے ساتھ اس کی بیوی تھی وہ اس کے لیے حلال تھی اور اسے خوشبو لگانا اور کپڑے پہننا بھی جائز تھا۔ بخاری اس روایت کے بیان میں مضمرد ہے۔

اور امام احمد نے بزر بن اسد حجاج، روح بن عبادہ اور عفان بن مسلم سے روایت کی ہے اور اس نے شعبہ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے قتادہ نے بتایا کہ میں نے ابو حسان اعرج ابجد یعنی مسلم بن عبداللہ بصری کو حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز پڑھی پھر اپنا اونٹ لانے کا حکم دیا اور اس کی کوہان کی دائیں جانب نشان لگایا اور اس سے خون نکالا اور اسے تلوار کے میان کے دوسروں کا ہار پہنایا پھر اپنی ناقہ لانے کا حکم دیا۔ اور جب وہ زمین پر اچھی طرح چلنے لگی تو آپ نے بلند آواز سے حج کی تکبیر کہی۔ اور اسی طرح انہوں نے اسے ہمیشہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے اصحاب نے ہمیں خبر دی جن میں شعبہ بھی شامل ہے۔ پس اس نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ پھر امام احمد نے اسے اسی طرح روح، ابوداؤد طیالسی اور وکیع بن الجراح سے روایت کیا ہے اور ان سب نے اسے ہشام الدستوائی سے بحوالہ قتادہ بیان کیا ہے۔

اور اسی طریق سے مسلم نے اسے اپنی صحیح میں اور اہل سنن نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ پس یہ سب طرق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں کہ حضور ﷺ نے اس وقت بلند آواز سے تکبیر کہی جب آپ کی ناقہ ٹھیک طور پر چلنے لگی۔ اور یہ نصیف الجریزی کی اس روایت سے جو سعید بن جبیر سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے صحیح اور اثبت ہے۔ اور اسی طرح وہ مفسرہ روایت بھی کہ آپ نے اس وقت بلند آواز سے تکبیر کہی جب آپ کی ناقہ ٹھیک طور پر چلنے لگی دوسری روایت پر اس احتمال کی وجہ سے مقدم ہے کہ آپ نے مسجد کے پاس سے اس وقت احرام باندھا ہو جب آپ کی سواری ٹھیک ہو گئی ہو۔ اور آپ کے ناقہ پر سوار ہونے والی روایت میں دوسری سے زیادہ علم پایا جاتا ہو۔ واللہ اعلم

اور اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت معارض سے محفوظ ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بھی معارض سے محفوظ ہے جو صحیح مسلم میں حضرت جعفر صادق کے طریق سے ان کے باپ سے عن ابی الحسین زین

العابدین عن جابر مروی ہے۔ اس طویل حدیث میں جو ابھی بیان ہوگی، بیان ہوا ہے کہ۔ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت بلند آواز سے تکبیر کہی جب آپ کی ناقہ ٹھیک طور پر چلنے لگی۔

اور بخاری نے اوزاعی کے طریق سے روایت کی ہے کہ میں نے عطاء بن جابر بن عبد اللہ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے ذوالحلیفہ میں اس وقت بلند آواز سے تکبیر کہی جب آپ کی ناقہ ٹھیک طور پر چلنے لگی۔ اور وہ حدیث جسے محمد بن اسحاق بن یسار نے ابوالزناد سے عائشہ بنت سعد سے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ سعد نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ جب الفراع کا راستہ اختیار کر لیتے تو اس وقت بلند آواز سے تکبیر کہتے جب آپ کی ناقہ آپ کو اٹھالیتی۔ اور جب کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے تو اس وقت بلند آواز سے تکبیر کہتے، جب ویرانے کی بلندی پر چڑھتے۔

ابوداؤد اور بیہقی نے اسے ابن اسحاق کی حدیث سے روایت کیا ہے اور اس میں نکارت و غرابت پائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم

یہ تمام طرق قطعی طور پر یا ظن غالب کے طور پر اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نماز کے بعد اور اپنی ناقہ پر سوار ہونے اور اس کے چلنے کے بعد احرام باندھا، ابن عمر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ قبلہ رخ تھے۔



حضور نے اپنے اس حج میں، افراد تمتع اور قرآن میں سے کس کا احرام باندھا اس کے

متعلق تفصیلی بیان

اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت:

ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی بیان کرتے ہیں کہ مالک نے ہمیں عبدالرحمن بن القاسم سے خبر دی کہ ان کے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج افراد کیا۔ اور مسلم نے اسے عن اسماعیل بن ابی اویس و یحییٰ عن مالک روایت کیا ہے۔ اور امام احمد نے اسے عن عبدالرحمن بن مہدی عن مالک روایت کیا ہے اور احمد بیان کرتے ہیں کہ اسحاق بن عیسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن المنکدر نے عن ربیعہ بن ابی عبدالرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حج افراد کیا۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے شریح نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی الزناد نے اپنے باپ سے عن عروہ عن عائشہ اور عن علقمہ بن ابی علقمہ عن امہ عن عائشہ اور عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ بیان کیا کہ: رسول اللہ ﷺ نے حج افراد کیا۔ ان طرق سے احمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے میں متفرد ہیں اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالاعلیٰ بن حماد نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے مالک بن انس کو عن ابی الاسود عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حج افراد کیا نیز وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے روح نے بیان کیا کہ ہم سے مالک نے عن ابی الاسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل جو عروہ کی گود میں یتیم تھا، عن عروہ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حج افراد کیا اور ابن ماجہ نے اسے عن ابی مصعب عن مالک اسی طرح روایت کیا ہے اور نسائی نے اسے عن قتیبہ عن مالک اسی طرح روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بلند آواز سے حج کی تکبیر کہی اور احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبدالرحمن نے عن مالک عن ابی الاسود عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ پس ہم میں کچھ لوگوں نے بلند آواز سے حج کی تکبیر کہی اور کچھ لوگوں نے بلند آواز سے عمرہ کی تکبیر کہی۔ اور کچھ لوگوں نے بلند آواز سے حج اور عمرہ کی تکبیر کہی اور رسول اللہ ﷺ نے بلند آواز سے حج کی تکبیر کہی۔ پس جنہوں نے بلند آواز سے عمرہ کی تکبیر کہی تھی وہ بیت اللہ اور صفا اور مروہ کا طواف کر کے حلال ہو گئے اور جنہوں نے حج یا حج اور عمرہ کی تکبیر کہی تھی وہ یوم النحر تک حلال نہیں ہوئے۔ اور بخاری نے بھی اسے اسی طرح عن عبداللہ بن یوسف، القعنسی، اسماعیل بن ابی اویس عن مالک روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے عن یحییٰ بن یحییٰ عن مالک روایت کیا ہے اور احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے سفیان نے زہری سے عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بلند آواز سے حج کی تکبیر کہی اور کچھ لوگوں نے حج اور عمرہ کی اور کچھ نے عمرہ کی تکبیر کہی اور مسلم نے اسے عن ابن ابی عمر عن سفیان بن عیینہ ایسے ہی روایت کیا ہے۔

اور جس حدیث کے متعلق امام احمد نے بیان کیا ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز بن محمد نے عن

عائشہ بن ابی علقمہ عن امہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو حکم دیا اور فرمایا کہ جو حج سے قبل عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ عمرہ کر لے اور رسول اللہ ﷺ نے حج افراد کیا۔ آپ نے عمرہ نہیں کیا۔ یہ حدیث بہت غریب ہے۔ اس کی روایت میں احمد بن حنبل متفقہ ہیں اس کے استناد میں کوئی اعتراض نہیں لیکن اس کے الفاظ میں شدید نکارت پائی جاتی ہے اور وہ اس کا یہ قول ہے کہ ”آپ نے عمرہ نہیں کیا“ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آپ نے حج کے ساتھ عمرہ نہیں کیا اور نہ اس سے پہلے کیا ہے تو یہ قول ان لوگوں کا ہے جو حج افراد کی طرف گئے ہیں اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آپ نے کلیتہً عمرہ نہیں کیا نہ حج سے پہلے اور نہ حج کے ساتھ اور نہ اس کے بعد تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ بات کسی عالم نے کہی ہو۔ پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر لوگوں کی صحیح روایت کے خلاف ہے کہ آپ نے چار عمرے کیے جو سب کے سب ذوالقعدہ میں ہوئے سوائے اس عمرہ کے جو آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ عنقریب اس کا مفصل بیان فصل القرآن میں آئے گا۔ واللہ اعلم

اور اسی طرح وہ روایت بھی ہے جسے امام احمد نے اپنے مسند میں یہ کہتے ہوئے روایت کیا ہے کہ ہم سے روح نے بیان کیا کہ ہم سے صالح بن اخضر نے بیان کیا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ انہیں عروہ نے آنحضرت ﷺ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بتایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں حج اور عمرہ کے لیے بلند آواز سے تکبیر کہی اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لے گئے اور لوگوں نے آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے بلند آواز سے تکبیر کہی اور وہ اپنے ساتھ قربانی کے جانوروں کو لے گئے اور کچھ لوگوں نے عمرہ کے لیے بلند آواز سے تکبیر کہی اور قربانی کے جانوروں کو نہ لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے عمرہ کے لیے بلند آواز سے تکبیر کہی تھی اور میں قربانی کا جانور نہیں لے گئی تھی۔ پس جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا: تم میں سے جس شخص نے عمرہ کی تکبیر کہی ہے اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا ہے وہ بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرے اور جو چیز اس پر حرام ہے وہ اسے حلال نہ کرے یہاں تک کہ وہ اپنے حج کو ادا کرے اور یوم النحر کو اپنی قربانی کا جانور ذبح کرے اور جس نے تم میں سے عمرہ کی تکبیر کہی ہے اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا تو وہ بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرے پھر بال چھوئے کرے اور حلال ہو جائے پھر حج کی تکبیر کہے اور قربانی کا جانور لائے اور جو قربانی کا جانور نہ پائے تو وہ حج میں تین دن کے روزے رکھے اور سات روزے اس وقت رکھے جب وہ اپنے اہل کے پاس واپس چلا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے حج کو مقدم کیا جس کے فوت ہونے کا خدشہ تھا اور عمرہ کو مؤخر کیا۔ یہ حدیث امام احمد کے افراد میں سے ہے اور اس کے بعض الفاظ میں نکارت پائی جاتی ہے اور اس کے لیے صحیح میں شاہد پایا جاتا ہے اور صالح بن ابی الاخضر ہری کے اعلیٰ اصحاب میں سے نہیں ہے۔ خصوصاً اس صورت میں جب دوسرے اس کے مخالف ہوں جیسا کہ اس جگہ اس کے سیاق کے بعض الفاظ میں ہے۔ اور اس کا یہ قول کہ آپ نے حج کو مقدم کیا جس کے فوت ہونے کا خدشہ تھا اور عمرہ کو مؤخر کیا یہ حدیث کے پہلے حصے سے موافقت نہیں رکھتا کہ آپ نے حج اور عمرہ کی تکبیر کہی پس اگر اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے دونوں کی اکٹھے تکبیر کہی اور حج کے افعال کو مقدم کیا پھر اس کے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کی تکبیر کہی جیسا کہ ان لوگوں کا قول

ہے جو افراد کے فاک ہیں۔ پس یہ وہ بات ہے ہواں جگہ ہمارے ریر بحث ہے اور اس کا استعداد یہ ہے کہ آپ نے افعال حج کو عمرہ کے افعال سے الگ کیا اور عمرہ حج میں ہی داخل ہے۔ تو یہ قول ان لوگوں کا ہے جو قرآن کے قائل ہیں اور جس نے آپ سے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے حج افراد کیا وہ اس کی تاویل کرتے ہیں کہ آپ نے حج کے افعال کو الگ کیا۔ اگرچہ آپ نے اس کے ساتھ ہی عمرہ کی نیت کی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے افراد کی روایت کی ہے ان سب نے قرآن کی بھی روایت کی ہے جیسا عنقریب اس کی وضاحت ہوگی۔ واللہ اعلم

افراد کے بارے میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر نے نافع سے بحوالہ ابن عمر بیان کیا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ:

ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج مفرد کی تکبیر کہی اور مسلم نے اسے اپنی صحیح میں عن عبد اللہ بن عون عن عبد اللہ بن عباس عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج مفرد کی تکبیر کہی۔ اور حافظ ابو بکر البزار بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حسن بن عبد العزیز اور محمد بن مسکین نے بیان کیا کہ ہم سے بشر بن بکیر نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن عبد العزیز بن زید بن اسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حج مفرد کی تکبیر کہی۔ اس کا اسناد جید ہے مگر انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔

افراد کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت:

حافظ بیہقی، روح بن عبادہ کی حدیث سے عن شعبہ عن ایوب بن ابی العالیہ البراء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بلند آواز سے حج کی تکبیر کہی اور ذوالحجہ کی چار راتیں گذر چکی تھیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں بطحاء میں صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا جو اسے عمرہ بنانا چاہتا ہے وہ اسے عمرہ بنا لے۔ پھر حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ مسلم نے اسے عن ابراہیم بن دینار عن ابی روح روایت کیا ہے۔ اور قتادہ کی روایت سے جو عن ابی حسان اعرن عن ابن عباس مروی ہے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز پڑھی پھر آپ اونٹ کے پاس آئے اور اس کی کوہان کو دائیں جانب نشان لگایا پھر اپنی ناقہ کے پاس آئے اور اس پر سوار ہو گئے اور جب وہ زمین پر ٹھیک طرح چلنے لگی تو آپ نے بلند آواز سے حج کی تکبیر کہی۔ اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ایسے ہی بیان ہوئی ہے۔

اور حافظ ابوالحسن دارقطنی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حسین بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ابو ہشام نے بیان کیا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا کہ ہم سے ابو حسین نے عبد الرحمن بن الاسود سے اس کے باپ کے حوالے سے بیان کیا کہ:

میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو آپ نے صرف حج کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تو انہوں نے بھی صرف حج کیا اور حضرت عثمان کے ساتھ کیا تو انہوں نے بھی صرف حج کیا۔ ثوری نے ابو حصین سے اس کی متابعت کی ہے۔ ہم نے اس جگہ پر اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ ائمہ توقیف سے ایسا کرتے تھے۔ اس جگہ تجرید سے مراد افراد

ہے۔ واللہ اعلم

اور دارقطنی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابو سعید اللہ القاسم بن اسماعیل اور محمد بن خالد نے بیان کیا کہ ہم سے علی بن محمد بن معاذ یہ راز نے بیان کیا کہ ہم سے عبد اللہ بن نافع نے عن عبد اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور انہوں نے حج افراد کیا پھر آپ نے ۹ھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا تو آپ نے بھی حج افراد کیا پھر رسول کریم ﷺ نے ۱۰ھ میں حج کیا اور حج افراد کیا پھر رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے حج افراد کیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو حج افراد کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو آپ نے حج افراد کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود حج افراد کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہوا تو آپ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو لوگوں کا امیر مقرر کیا تو انہوں نے حج افراد کیا۔ اس کے اسناد میں عبد اللہ بن عمر العمری ہے جو ضعیف ہے۔ لیکن حافظ بیہقی نے بیان کیا ہے کہ اسناد صحیح سے اس کا شاہد موجود ہے۔

ان لوگوں کا بیان جو آپ کے حج تمتع کے قائل ہیں:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حجاج نے بیان کیا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل نے عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں حج تمتع کیا اور بلند آواز سے تکبیر کہی اور ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور لائے اور رسول اللہ ﷺ نے پہلے عمرہ کی تکبیر کہی پھر حج کی اور کچھ لوگ ایسے تھے جو قربانی کا جانور لائے تھے پس وہ ذوالحلیفہ سے قربانی کے جانوروں کو ہانک لائے اور کچھ لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے۔ پس جب رسول اللہ ﷺ مکہ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا: تم میں سے جو شخص قربانی کا جانور لایا ہے وہ کسی حرام چیز کو حلال نہ کرے یہاں تک کہ اپنے حج کو ادا کرے اور جو قربانی کا جانور نہیں لایا وہ بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرے اور بال کٹائے اور حلال ہو جائے۔ پھر بلند آواز سے حج کی تکبیر کہے اور قربانی کا جانور لے جائے اور جو قربانی کا جانور نہ پائے وہ تین دن کے روزے رکھے اور سات روزے اس وقت رکھے جب اپنے اہل کی طرف واپس جائے۔ اور جس وقت رسول اللہ ﷺ مکہ آئے آپ نے طواف کیا اور سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر سات چکروں میں سے تین چکر دوڑ کر لگائے اور چار چل کر لگائے۔ پھر طواف کی تکمیل کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی پھر سلام پھیرا اور واپس لوٹ گئے اور صفا کے پاس آ کر صفا اور مروہ کے چکر لگائے۔ پھر آپ نے حج کی ادائیگی اور یوم النحر کو اپنے قربانی کے جانور کے ذبح کرنے تک کسی حرام چیز کو اپنے لیے حلال نہیں کیا اور واپس آ کر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور جس طرح رسول اللہ ﷺ نے کیا اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو قربانی کے جانور لائے تھے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حجاج نے بیان کیا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل نے ابن شہاب سے بحوالہ عروہ بن زبیر بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں رسول اللہ ﷺ سے ایسے ہی بتایا جیسے سالم بن عبد اللہ عن رسول اللہ انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حج تمتع کیا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی حج تمتع کیا۔ اور بخاری نے اس

حدیث کو یحییٰ بن بکیر سے روایت کیا ہے اور مسلم اور ابوداؤد نے من عبد الملک بن شعیب من لیث بن ابیہ روایت کیا ہے اور نسائی نے عن محمد بن عبد اللہ المبارک الخرمی عن ثیین بن ائشی بیان کیا ہے اور ان تینوں نے لیث بن سعد سے من عقیل بن زہری عن مروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے یہ حدیث تینوں اقوال کے لحاظ سے مشکل احادیث میں سے ہے۔ افراد والے قول میں عمرہ کا اثبات ہے خواہ حج سے قبل ہو یا اس کے ساتھ ہو۔ اور خاص تمتع کے قول میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے صفا اور مروہ کے طواف کے بعد بھی حرام چیزوں کو حلال نہیں کیا۔ حالانکہ تمتع کا یہ حال نہیں ہوتا اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی کا جانور لانے نے آپ کو حلال ہونے سے روک دیا تھا جیسا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے مفہوم ہوتا ہے جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں:

”یا رسول اللہ ﷺ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو عمرہ سے حلال ہو گئے ہیں اور آپ اپنے عمرہ سے حلال نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے سر کو چکا لیا تھا اور اپنے قربانی کے جانور کو قلاذہ ڈال دیا تھا پس میں جب تک قربانی نہ کر لوں حلال نہیں ہوں گا۔“

ان کا یہ قول بعید ہے کیونکہ جو احادیث قرآن کے اثبات میں وارد ہوئی ہیں وہ اس قول کو رد کرتی ہیں اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتیں کہ آپ نے بلند آواز سے پہلے عمرہ کی تکبیر کہی پھر صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد آپ نے بلند آواز سے حج کی تکبیر کہی۔ اس انداز پر کسی ایک آدمی نے بھی اسے اسناد حج کے ساتھ نقل نہیں کیا بلکہ حسن اور ضعیف اسناد کے ساتھ بھی نقل نہیں کیا۔ اور اس حدیث میں جو یہ قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں حج تمتع کیا اگر اس سے مراد تمتع عام ہے تو اس میں قرآن داخل ہوگا اور یہی مراد ہے اور اس کا یہ قول کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلے بلند آواز سے عمرہ کی تکبیر کہی اور پھر حج کی تکبیر کہی۔ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آپ نے حج کے لفظ سے عمرہ کا لفظ پہلے کہا یعنی یہ کہا کہ لیکن اللہم عمرہ و حجاً تو یہ سہل بات ہے جو قرآن کے منافی نہیں اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آپ نے پہلے عمرہ کی تکبیر کہی پھر وقفے کے ساتھ اس کے ساتھ حج کو شامل کیا پھر بھی طواف سے قبل آپ قارن ہو گئے ہیں۔ اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آپ نے بلند آواز سے عمرہ کی تکبیر کہی پھر اس کے افعال سے فارغ ہو گئے اور قربانی کا جانور لانے کے لیے حلال ہوئے یا نہ ہوئے جیسا کہ زعم کرنے والوں کا زعم ہے لیکن آپ نے مناسک عمرہ کی ادائیگی کے بعد اور منیٰ کی طرف جانے سے قبل حج کی تکبیر کہی تو جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں اس بات کو صحابہؓ سے کسی نے نقل نہیں کیا اور جو کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کا قول عدم نقل اور قرآن کے اثبات میں وارد ہونے والی احادیث کی مخالفت کی وجہ سے مردود ہوگا جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا بلکہ ان احادیث کی مخالفت کی وجہ سے مردود ہوگا جو قبل ازیں افراد کے بارے میں بیان ہو چکی ہیں۔ واللہ اعلم

حقیقت حال کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بظاہر لیث کی یہ حدیث جو عن عقیل بن زہری عن سالم بن ابیہ مروی ہے دوسرے طریق سے بھی اس وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی ہے۔ جب آپ نے حج افراد کیا اور جب حجاج نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا محاصرہ کیا تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اگر آپ اس سال حج کو مؤخر کر

دیتے تو آپ کیا کرتے آپ نے جواب دیا میں وہی کرتا جو رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا، یعنی حدیبیہ کے سال محاصرہ کے زمانہ میں۔ آپ نے ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا پھر آپ ویرانے کی بلندی پر چڑھے آپ نے کہا میں ان دونوں باتوں کو ایک ہی خیال کرتا ہوں اور آپ نے اس کے ساتھ حج کی تکبیر کہی۔ پس راوی نے خیال کر لیا کہ رسول اللہ ﷺ نے برابر ایسا ہی کیا ہے۔ آپ نے پہلے عمرہ کی تکبیر کہی، پھر حج کی تکبیر کہی اور انہوں نے اسے اسی طرح روایت کر دیا۔ اور اس میں اعتراض پایا جاتا ہے جسے ہم عنقریب بیان کریں گے اور اس کا بیان اس حدیث میں ہے جسے عبداللہ بن وہب نے روایت کیا ہے کہ مالک بن انس وغیرہ نے مجھے خبر دی کہ نافع نے ان سے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فتنہ کے سال عمرہ کے لیے نکلے اور فرمایا اگر مجھے بیت اللہ سے روک دیا گیا تو ہم وہی کریں گے جو رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا۔ پس آپ گئے اور عمرہ کی تکبیر کہی اور چلتے گئے اور جب ویرانے میں بلندی پر چڑھے تو اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ ان دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حج کو عمرہ کے ساتھ لازم کر لیا۔ پس آپ گئے یہاں تک کہ بیت اللہ پہنچ گئے اور اس کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے اور اس پر کوئی اضافہ نہ کیا اور آپ نے خیال کیا کہ یہی آپ کی طرف سے کفایت کریں گے اور قربانی کا جانور بھیجا۔ اور صحیح کے مؤلف نے اسے مالک کی حدیث سے روایت کیا ہے اور دونوں نے اسے عبید اللہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور عبدالرزاق نے اسے عبید اللہ اور عبدالعزیز بن ابی داؤد سے بحوالہ نافع روایت کیا ہے اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ پھر آپ نے اس کے آخر میں کہا ہے کہ اس طرح رسول اللہ ﷺ نے کیا۔

اور بخاری نے جو روایت کی ہے اس میں بیان کیا ہے کہ ہم سے تنبیہ نے بیان کیا کہ ہم سے لیث نے نافع سے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سال حج کا ارادہ کیا جس سال حجاج، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے مقابلہ کے لیے اترے تو آپ سے کہا گیا کہ لوگوں کے درمیان جنگ ہونے والی ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ وہ آپ کو روک دیں گے۔ آپ نے جواب دیا تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذات میں ایک نمونہ موجود ہے اگر ایسا ہوا تو میں ایسا ہی کروں گا جیسے رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ کو لازمی کر لیا ہے پھر آپ چلے گئے اور جب ویرانے کے بلند مقام پر آئے تو فرمایا میں حج اور عمرہ کے معاملہ کو ایک ہی خیال کرتا ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج کو بھی لازم کر لیا ہے پس آپ نے قربانی کا جانور بھیجوایا جسے آپ نے قدید سے خریدا تھا اور اس پر کچھ اضافہ نہ کیا اور نہ قربانی کی اور نہ کسی حرام چیز کو حلال کیا، نہ سر منڈایا، نہ بال کٹوائے، یہاں تک کہ یوم النحر آ گیا تو آپ نے قربانی کی اور سر منڈایا اور آپ نے خیال کیا کہ آپ نے اپنے پہلے طواف کے ساتھ حج اور عمرہ کا طواف پورا کر دیا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا ہی کیا تھا۔

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے ابن علیہ نے عن ایوب عن نافع بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ان کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ آیا اور کہنے لگا مجھے خدشہ ہے کہ اس سال لوگوں کے درمیان جنگ ہوگی اور وہ آپ کو بیت اللہ سے روک دیں گے۔ کاش آپ ٹھہر جاتے آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ گئے تو کفار قریش آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے پس اگر وہ میرے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوئے تو میں بھی رسول اللہ ﷺ کی طرح

کروں گا۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات میں تمہارے لیے نیک نمونہ موجود ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں بھی وہی کروں گا جو رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج کو لازم کر لیا ہے۔ پھر آپ آئے اور ان دونوں کا ایک ہی طواف کیا۔ اور اسی طرح بخاری نے اسے ابی العثمان سے عن حماد بن زید عن ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی عن نافع روايت کیا ہے اور مسلم نے اسے ان دونوں کی حدیث سے ایوب سے روایت کیا ہے پس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دشمن کے محاصرہ کی صورت میں حلال ہونے اور حج اور عمرہ کے ایک طواف پر اکتفا کرنے میں رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کی اس لیے کہ آپ نے تمتع ہونے کے لیے پہلے عمرہ کا احرام باندھا، پھر آپ کو محاصرہ کا خدشہ پیدا ہو گیا تو آپ نے دونوں کو اکٹھا کر لیا اور عمرہ سے قبل طواف سے پہلے حج کو عمرہ کے ساتھ شامل کر کے قارن بن گئے اور فرمایا: میں ان دونوں کے معاملہ کو ایک ہی سمجھتا ہوں یعنی انسان کے حج یا عمرہ سے یادوں سے روکے جانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پس جب آپ مکہ آئے تو آپ نے دونوں کی جانب سے اپنے طواف اول پر ہی اکتفا کر لی جیسا کہ سیاق اول میں اس کی تصریح کی گئی ہے جسے ہم نے الگ بیان کیا ہے اور وہ اس کا یہ قول ہے کہ: ”آپ نے خیال کیا کہ آپ نے اپنے طواف اول ہی میں حج اور عمرہ کا طواف پورا کر دیا ہے“۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یعنی آپ نے حج اور عمرہ کے ایک ہی طواف پر قناعت کی تھی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان۔ اس بیان میں اس امر پر دلالت پائی جاتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے قرآن کی روایت کی ہے اس لیے نسائی نے عن محمد بن منصور عن سفیان بن عیینہ عن ایوب بن موسیٰ عن نافع روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حج اور عمرہ ملا لیا اور ایک طواف کیا پھر نسائی نے اسے عن علی بن میمون الرقی عن سفیان بن عیینہ عن اسماعیل بن امیہ اور ایوب بن موسیٰ اور ایوب سختیانی اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے اور ان چاروں نے نافع سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ذوالحلیفہ آئے تو آپ نے بلند آواز سے عمرہ کی تکبیر کہی، پھر آپ کو خدشہ ہوا کہ آپ کو بیت اللہ سے روک دیا جائے گا۔ پھر ان نے پوری حدیث بیان کی ہے کہ آپ حج کو عمرہ کے ساتھ شامل کر کے قارن بن گئے۔

حاصل کلام یہ کہ بعض رواۃ نے جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول سنا کہ ”میں وہی کروں گا جو رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا“ اور آپ کا یہ قول کہ ”رسول اللہ ﷺ نے بھی ایسا ہی کیا تھا تو انہوں نے خیال کر لیا کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلے عمرہ کی بلند آواز سے تکبیر کہی پھر حج کی اور طواف سے قبل ہی اسے عمرہ کے ساتھ شامل کر لیا اور اس نے جو کچھ سمجھا تھا اس مفہوم کو روایت کر دیا“ حالانکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے اس امر کا ارادہ کیا تھا جو ہم نے بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

پھر اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ نے پہلے عمرہ کی تکبیر کہی پھر طواف سے قبل اس کے ساتھ حج کو شامل کر لیا تو آپ قارن ہو گئے نہ کہ تمتع خاص کے تمتع پس اس میں ان لوگوں کے قول پر دلالت پائی جاتی ہے جو تمتع کی فضیلت کے قائل ہیں۔ واللہ اعلم اور وہ حدیث جسے بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ہام نے قتادہ سے بیان کیا کہ مجھ سے مطرف نے بحوالہ عمران بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تمتع کیا اور قرآن اترا اور ایک آدمی نے اپنی رائے سے جو یا کہا اور مسلم نے اسے محمد بن المثنیٰ سے عن عبد الصمد ابن الوارث عن ہام عن قتادہ روایت کیا ہے۔

اور اس سے مراد وہ متعہ ہے جو قرآن اور تمتع خاص سے اعم ہے اور اس پر وہ روایت دلائل کرتی ہے جسے مسلم نے شعبہ اور سعید بن ابی عمروہ کی حدیث سے عن قتادہ عن مطرف عن عبد اللہ بن اشیر عن عمران بن الحصین بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کو اکٹھا کر لیا اور پھر تمام حدیث بیان کی ہے اور سلف کی اکثریت قرآن پر متعہ کا اطلاق کرتی ہے جیسا کہ بخاری نے کہا ہے کہ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے حجاج بن محمد اعمور نے بحوالہ شعبہ عن عمرو بن مرہ عن سعید بن المسیب بیان کیا کہ:

حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے عسفان میں متعہ کے بارے میں اختلاف کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ایسے کام سے روکنا چاہتے ہیں جسے رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے۔ مگر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو دونوں کی اکٹھے بلند آواز سے تکبیر کہی اور مسلم نے بھی اسے اسی طرح شعبہ کی حدیث سے عن الحکم بن سینینہ عن علی بن الحسین عن مروان بن الحکم دونوں سے روایت کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں کسی آدمی کے قول کے باعث رسول اللہ ﷺ کی سنت کو چھوڑنے کا نہیں“ اور اسی طرح مسلم نے شعبہ کی حدیث سے بھی اسے عن قتادہ عن عبد اللہ بن شقیق روایت کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ کو علم ہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تمتع کیا، انہوں نے کہا بے شک لیکن ہم خوفزدہ تھے۔

اور وہ حدیث جسے مسلم نے شعبہ کی حدیث سے عن شعبہ اور عن عبید اللہ بن معاذ عن ابیہ عن شعبہ عن مسلم بن حذراق المقبری روایت کیا ہے کہ اس نے حضرت ابن عباس کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے بلند آواز سے عمرہ کی تکبیر کہی۔ اور آپ کے اصحاب نے حج کی تکبیر کہی۔ پس رسول اللہ ﷺ حلال نہ ہوئے اور نہ ہی آپ کے اصحاب میں وہ اشخاص حلال ہوئے جو قربانی کے جانور لے گئے تھے اور بقیہ لوگ حلال ہو گئے۔

اور ابوداؤد و طیالسی نے اسے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور روح بن عبادہ عن شعبہ عن مسلم المقبری عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے بلند آواز سے حج کی تکبیر کہی“ اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے بلند آواز سے حج کی تکبیر کہی، پس ان میں سے جس کے پاس تمتع کی قربانی کا جانور نہ تھا وہ حلال ہو گیا اور جس کے پاس قربانی کا جانور تھا وہ حلال نہ ہوا۔ الحدیث پس اگر ہم دونوں روایتوں کو صحیح قرار دیں تو قرآن ثابت ہوگا۔ اور اگر ہم دونوں روایتوں میں سے ہر ایک پر توقف کریں تو دلیل ٹھہر جائے گی اور اگر ہم مسلم کی اس روایت کو صحیح قرار دیں جسے اس نے اپنی صحیح میں عمرہ کی روایت میں بیان کیا ہے جو قبل ازیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان ہو چکی ہے کہ آپ نے افراد روایت کیا ہے اور وہ حج کا احرام باندھنا ہے، پس یہ حج پر اضافہ ہوگا اور خاص طور پر قرآن کا قول لایا جائے گا اور عنقریب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ روایت بیان ہوگی جو اس پر دلالت کرے گی۔

اور مسلم نے غندر اور معاذ بن معاذ کی حدیث سے عن شعبہ عن الحکم بن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ عمرہ ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ پس جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ تمام حل کو حلال کرے۔ پس قیامت تک عمرہ حج میں شامل ہو گیا ہے اور بخاری نے آدم بن ابی ایاس اور مسلم نے غندر کی حدیث سے اور ان دونوں نے شعبہ سے بحوالہ ابی جرہ روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ:

میں نے تمتع کیا تو مجھے لوگوں نے منع کر دیا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر چھا تو آپ نے مجھے تمتع کرنے کا حکم دیا۔ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ حج مبرور اور مقبول متعہ نہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر یہ تو ابوالقاسم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی سنت ہے اور اس جگہ پر متعہ سے مراد قرآن ہے اور القعنسی وغیرہ نے عن مالک بن انس عن ابن شہاب عن محمد بن عبد اللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے حج کے سال سعد بن ابی وقاص اور ضحاک بن قیس کو عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا ذکر کرتے سنا تو ضحاک کہنے لگے یہ کام وہی شخص کرتا ہے جو امر الہی سے بیگانہ نہ ہو تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے میرے بھتیجے! تو نے بہت بری بات کی ہے، ضحاک کہنے لگے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس سے منع فرمایا کرتے تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے اور ہم نے بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔

اور ترمذی اور نسائی نے اسے تہیہ سے بحوالہ مالک روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور عبدالرزاق نے معتمر بن سلیمان اور عبد اللہ بن المبارک سے بیان کیا ہے اور ان دونوں نے سلیمان التیمی سے روایت کی ہے کہ غنیم بن قیس نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے کیا ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان دنوں عرش، یعنی مکہ میں کافر تھے۔ اور مسلم نے اسے شعبہ سفیان ثوری، یحییٰ بن سعید اور مروان الفزازی سے روایت کیا ہے اور ان چاروں نے سلیمان التیمی سے روایت کی ہے کہ میں نے غنیم بن قیس سے سنا کہ میں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے تمتع کے مسئلہ پر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہم نے اسے کیا ہے اور یہ ان دنوں عرش میں کافر تھے۔ اور یحییٰ بن سعید، یعنی معاویہ کی روایت میں ہے کہ یہ سب بات تمتع کے اطلاق کے باب میں ہے جو تمتع خاص سے اعم ہے اور وہ عمرہ کا احرام باندھنا اور اس سے فارغ ہو جانا ہے اور پھر حج اور قرآن کا احرام باندھنا ہے۔ بلکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے کلام میں حج کے مہینوں میں عمرے پر تمتع کے اطلاق کی دلالت پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عمرہ کیا اور معاویہ ابھی حج سے قبل مکہ میں کافر تھے اور عمرہ حدیبیہ یا عمرۃ القضا بھی اس کی مانند ہیں۔ اب رہی بات عمرۃ الجعرانہ کی تو معاویہ اپنے باپ کے ساتھ فتح مکہ کی شب کو مسلمان ہو گئے۔ اور ہم نے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک عمرہ میں ایک چوڑے پھل والے تیر کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے تھے اور وہ لامحالہ عمرۃ الجعرانہ ہی تھا۔



حضور ﷺ کو قارن قرار دینے والوں کی دلیل کا بیان

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت:

قبل ازین بخاری کی وہ روایت بیان ہو چکی ہے جو ابو عمر و اوزاعی کی حدیث سے مروی ہے کہ میں نے یحییٰ بن ابی کثیر کو عکرمہ سے عن ابن عباس عن ابن عمر رضی اللہ عنہم بیان کرتے سنا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وادی عقیق میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ: ”میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کبوج میں عمرہ“ اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ علی بن احمد بن عمر بن حفص المقبری نے ہمیں بغداد میں خبر دی کہ ہمیں احمد بن سلیمان نے اطلاع دی کہ عبدالملک بن محمد کو سنایا گیا اور میں سن رہا تھا کہ ابو زید الہروی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا کہ ہم سے عکرمہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عقیق میں حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس مبارک وادی میں دو رکعت نماز پڑھو اور کبوج میں عمرہ پس روز قیامت تک عمرہ حج میں شامل ہو گیا ہے۔

پھر بیہقی بیان کرتے ہیں کہ بخاری نے اسے ابو زید الہروی سے روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ہاشم نے بیان کیا کہ ہم سے سیار نے ابو وائل سے بیان کیا کہ ایک نصرانی آدمی تھا جسے الضحیٰ بن معبد کہا جاتا تھا اس نے جہاد کا ارادہ کیا تو اسے کہا گیا کہ حج سے آغاز کرو تو وہ اشعری کے پاس آیا تو اس نے اسے حکم دیا کہ وہ حج اور عمرہ کی بلند آواز سے اکٹھے تکبیر کہے تو اس نے ایسے ہی کیا اسی دوران میں وہ تلبیہ کہتے ہوئے زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ کے پاس سے گزرا تو ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا۔ یہ شخص اس اونٹ سے بھی جو اپنے مالک سے غائب ہو زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ پس الضحیٰ نے بھی اسے سن لیا اور یہ بات اسے شاق گذری پس جب وہ آیا تو اس نے آ کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا: ”تو نے اپنے نبی کی سنت کی طرف راہ پائی ہے“۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک دوسری بار آپ کو فرماتے سنا کہ: ”تو نے اپنے نبی کی سنت کو پالیا ہے“۔ اور امام احمد نے اسے عن یحییٰ بن سعید القطان عن اعمش عن شقیق عن ابی وائل عن الضحیٰ بن معبد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی کہ تو نے اپنے نبی کی سنت کو پالیا ہے۔ اور اس نے اسے عن عبدالرزاق عن سفیان ثوری عن منصور عن ابی وائل بھی روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح اس نے اسے عن غندر عن شعبہ عن الحکم عن ابی وائل اور عن سفیان عن عیینہ عن عبیدہ بن ابی لبابہ عن ابی وائل بھی روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں الضحیٰ بن معبد نے بیان کیا کہ میں ایک نصرانی آدمی تھا میں نے مسلمان ہو کر حج اور عمرہ کی بلند آواز سے اکٹھے تکبیر کہی تو زید بن

صوحان اور سلمان بن ربیعہ نے مجھے ان دونوں کی مانند آواز سے تکبیر کہتے سنا تو وہ دونوں کہنے لگے۔ یہ شخص اس اونٹ سے بھی جو اپنے مالک سے غائب ہو زیادہ بھکا ہوا ہے۔ گویا ان دونوں نے اپنی اس بات سے مجھ پر ایک پہاڑ کا بوجھ ڈال دیا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں بتایا تو آپ نے جا کر ان دونوں کو ملامت کی اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ تو نے اپنے نبی کی سنت کو پالیا ہے۔ عہدہ بیان کرتا ہے کہ ابو وائل نے بہت دفعہ بیان کیا کہ میں اور مسروق، الضمی بن معبد کے پاس اس بات کے دریافت کرنے کے لیے بہت دفعہ گئے۔ اور صحیح کی شرط پر یہ اسانید جید ہیں۔

اور ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ نے اسے کئی طرق سے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے روایت کیا ہے اور نسائی اپنے سنن کی کتاب الحج میں بیان کرتے ہیں کہ محمد بن علی بن الحسن بن شقیق نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے عن جمرۃ العسکری عن مطرف عن سلمہ بن کھیل عن طاؤس عن ابن عباس عن عمرو مجھ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ:

”قسم بخدا! میں تاکیدا تمہیں متعہ سے منع کرتا ہوں اور یہ کتاب اللہ میں موجود تھا اور حضرت نبی کریم ﷺ نے بھی اسے کیا ہے۔“

امیر المومنین حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے ہم سے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمرو بن مرہ سے بحوالہ حضرت سعید بن المسیب روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ:

حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما عسفان میں اکٹھے ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما متعہ یا عمرہ سے منع کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہما نے کہا جس کام کو رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے اس سے منع کرنے سے آپ کا کیا مقصد ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔

امام احمد نے مختصر اُسے اسی طرح روایت کیا ہے اور دونوں نے اسے صحیحین میں شعبہ کی حدیث سے عن عمرو بن مرہ عن سعید بن المسیب روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عسفان میں حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا متعہ کے بارے میں اختلاف ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہما نے کہا جس کام کو رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے اس سے منع کرنے سے آپ کا کیا مقصد ہے پس جب حضرت علی رضی اللہ عنہما نے یہ صورت حال دیکھی تو دونوں کی بلند آواز سے اکٹھے تکبیر کہی۔ اور بخاری کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ محمد بن یسار نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے غنڈر نے عن شعبہ عن الحکم عن علی بن الحسین عن مروان بن الحکم روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ:

میں نے حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کو دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے منع کرتے تھے اور ان دونوں کے اکٹھے کرنے سے بھی روکتے تھے۔ پس جب حضرت علی رضی اللہ عنہما نے یہ صورت حال دیکھی تو بلند آواز سے دونوں کی تکبیر کہی اور لبیک ہمرۃ و حج کہا اور فرمایا میں کسی کے قول کے باعث حضرت نبی کریم ﷺ کی سنت کو چھوڑنے کا نہیں۔

اور نسائی نے اسے شعبہ کی حدیث سے اور اعمش کی حدیث سے عن مسلم الطین عن علی بن الحسین روایت کیا ہے۔ اور امام

امد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے شجبہ نے بھو الہ قادیان کیا کہ عبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ حضرت عثمان متعہ سے منع فرماتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا حکم دیتے تھے اور حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ایسے ایسے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ متعہ کیا تھا، انہوں نے جواب دیا ہے 'نک'، لیکن ہم خوفزدہ تھے۔ اور مسلم نے اسے شجبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو روایت کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا اعتراف کیا ہے اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حجۃ الوداع کے سال حضرت نبی کریم ﷺ کی طرح بلند آواز سے تکبیر کہی تھی۔ اور آپ قربانی کا جانور بھی لے گئے تھے اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ حالت حرام میں ٹھہرے رہیں، اور حضرت نبی کریم ﷺ نے انہیں اپنے قربانی کے جانور میں شریک کیا جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ ان شاء اللہ

اور امام مالک نے مؤطا میں جعفر بن محمد سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ مقداد بن اسود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پانی لے کر گئے تو آپ دودھ اور آٹے کو ملارہے تھے اور جا کر کہنے لگے یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حج اور عمرہ کو اکٹھا کرنے سے منع کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور آٹا اور دودھ آپ کے ہاتھوں پر لگا ہوا تھا۔ آٹے اور دودھ کا جو نشان آپ کے ہاتھوں پر پڑا ہوا تھا میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور کہا آپ حج اور عمرہ کو اکٹھا کرنے سے منع کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری رائے ہے، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر باہر نکلے اور آپ کہہ رہے تھے۔ اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے حاضر ہوں:

لبيك اللهم ليك بحجة و عمرة معا.

ابوداؤد اپنے سنن میں بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یونس نے عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کی وہ بیان کرتے ہیں:

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے یمن کا امیر بنایا تو میں آپ کے ساتھ تھا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آمد کی حدیث کو بیان کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کی طرح بلند آواز سے تکبیر کہی ہے آپ نے فرمایا میں قربانی کا جانور لایا ہوں اور میں قارن ہوں۔ اور نساکی نے اسے اپنے اسناد سے جو شیخین کی شرط کے مطابق ہے، یحییٰ بن معین سے روایت کیا ہے اور حافظ بیہقی نے اسے معلل قرار دیا ہے کیونکہ اس نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ان الفاظ کا ذکر نہیں کیا اور یہ تعلیل قابل غور ہے کیونکہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے قرآن مروی ہے جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ۔ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ مدینہ سے آئے اور میں یمن سے آیا اور میں نے کہا، میں حضرت نبی کریم ﷺ کی تکبیر کی طرح تکبیر کہہ کر حاضر ہوں، تو حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میں نے حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھے تکبیر کہی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت:

آپ سے تابعین کی ایک جماعت نے اسے روایت کیا ہے ہم انہیں حروف تہجی کی ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔
بکر بن عبداللہ المزنی:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہشیم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے حمید الطویل نے بیان کیا کہ ہمیں بکر بن عبداللہ المزنی نے خبر دی کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ:

میں نے رسول اللہ ﷺ کو حج اور عمرہ کا اکٹھا تلبیہ کہتے سنا، میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کیا تو آپ نے فرمایا آپ نے صرف حج کا تلبیہ کہا تھا، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مل کر انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بات بتائی تو آپ نے فرمایا: ہم سے بچے تجاوز کر رہے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو لیبیک عمرہ و حجاً کہتے سنا ہے۔

اور بخاری نے اسے مسدد سے عن بشر بن الفضل عن حمید روایت کیا ہے۔ اور مسلم نے اسے شریح بن یونس سے بحوالہ ہشیم اور امیہ بن بسطام سے عن یزید بن زریع عن حبیب بن الشہید عن بکر بن عبداللہ المزنی روایت کیا ہے۔

ثابت البنانی کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ کعب نے ہم سے عن ابن ابی لیلیٰ عن ثابت عن انس روایت کی کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے کہا:

لیبک بعمرہ و حجة معاً اس طریق سے حسن بصری اس سے متفرد ہیں۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے روح نے بیان کیا کہ ہم سے اشعث نے بحوالہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ: حضرت نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب مکہ آئے اور انہوں نے

حج اور عمرہ کا تلبیہ کہا اور جب وہ بیت اللہ اور صفا اور مروہ کا طواف کر چکے تو اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے انہیں حلال ہو جانے اور اسے عمرہ بنا لینے کا حکم دیا۔ تو یوں معلوم ہوا کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میں قربانی کا جانور نہ لایا

ہوتا تو میں حلال ہو جاتا۔ پس لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے تمتع کیا۔ حافظ ابو بکر البزازی بیان کرتے ہیں کہ حسن بن قزعة نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن حبیب نے بیان کیا کہ ہم سے اشعث نے حسن سے بحوالہ انس بیان کیا کہ۔ حضرت نبی کریم ﷺ

اور آپ کے اصحاب نے بلند آواز سے حج اور عمرہ کی تکبیر کہی اور جب وہ مکہ آئے تو انہوں نے بیت اللہ اور صفا اور مروہ کا طواف کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں حلال ہو جانے کا حکم دیا تو وہ اس بات سے خوفزدہ ہو گئے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا حلال ہو

جاؤ، اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا، پس وہ حلال ہو گئے یہاں تک کہ عورتوں کے پاس چلے گئے۔ پھر البزازی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اسے حسن سے اشعث بن عبد الملک کے سوا کسی نے روایت کیا ہو۔

حمید بن تیرویہ الطویل کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ نے حمید سے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ لیبک بحج و عمرہ و حج یہ اسناد ثلاثی، شیخین کی شرط کے مطابق ہے لیکن شیخین نے اس کی تخریج نہیں کی اور نہ اس طریق پر اصحاب کتب میں

سے کسی نے اس کی روایت کی ہے، لیکن مسلم نے اسے یحییٰ بن یحییٰ سے عن ہشیم عن یحییٰ بن ابی اسحاق و عبد العزیز بن صہب و حمید

روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دونوں اکٹھے تلبیہ کہتے سنا۔ لیبک عمرہ و حجاً لیبک عمرہ و حجاً اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عمر بن یسر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عبد اللہ نے بیان کیا کہ ہمیں حمید الطویل نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ بہت سے اونٹ لانے اور فرمایا لیبک عمرہ و حج اور میں آپ کی ناقہ کی بائیں ران کے پاس تھا۔ اس طریق سے احمد اس کے بیان میں متفرد ہے۔

حمید بن ہلال عدوی بصری کی روایت:

حافظ ابو بکر البزازی اپنے مسند میں بیان کرتے ہیں کہ محمد بن الحنفی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عبد الوہاب نے ایوب سے عن ابی قلابہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کی اور ہم نے اسے سلمہ بن شعیب سے بیان کیا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے ایوب سے عن ابی قلابہ و حمید بن ہلال عن انس بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کا ردیف تھا اور اس کا گھٹنا رسول اللہ ﷺ کے گھٹنے سے مس ہوتا تھا حالانکہ آپ حج اور عمرہ کا تلبیہ کہہ رہے تھے۔ یہ اسناد جید اور قوی ہے اور صحیح کی شرط کے مطابق ہے لیکن انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔ اور البزازی نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ حج اور عمرہ کا تلبیہ کہنے والے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے اسے ملامت نہیں کی، مگر اس تاویل میں اعتراض ہے اور اسے حضرت انس کی طرف سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور جیسا کہ ابھی بیان ہوگا، پھر ضمیر کو مذکورین میں سے اقرب کی طرف لوٹانا اولیٰ ہے اور وہ اس صورت میں اقوی الدلالت ہوگا۔ واللہ اعلم

اور عنقریب سالم بن ابی الجعد کی روایت میں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس تاویل کا صریح رد ہوگا۔

زید بن اسلم کی روایت:

حافظ ابو بکر البزازی بیان کرتے ہیں کہ سعید بن عبد العزیز تنوفی نے زید بن اسلم سے بحوالہ انس بن مالک روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کی تکبیر کہی۔ حسن بن عبد العزیز الجروی اور محمد بن مسکین بیان کرتے ہیں کہ بشیر بن بکر نے سعید بن عبد العزیز سے عن زید بن اسلم بن انس ہم سے بیان کیا، میں کہتا ہوں یہ اسناد صحیح ہے۔ اور صحیح کی شرط کے مطابق ہے، مگر انہوں نے اس طریق سے اس کی روایت نہیں کی۔ اور حافظ ابو بکر بیہقی نے اسے اس سیاق سے بھی زیادہ ربط کے ساتھ روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ اور ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے ہمیں اطلاع دی کہ ہم سے ابو العباس محمد بن یعقوب نے بیان کیا کہ ہمیں عباس بن ولید بن زید نے خبر دی کہ مجھے میرے باپ نے بتایا کہ ہم سے شعیب بن عبد العزیز نے زید بن اسلم وغیرہ سے بیان کیا کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آ کر کہا، رسول اللہ ﷺ نے کس کی تکبیر کہی تھی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ نے حج کی تکبیر کہی تھی، تو وہ واپس چلا گیا۔ پھر اگلے سال ان کے پاس آ کر کہنے لگا، رسول اللہ ﷺ نے کس کی تکبیر کہی تھی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تو پہلے سال میرے پاس نہیں آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، بے شک آیا تھا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ آپ قارن تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ عورتوں کے پاس جاتے تھے تو

وہ برہنہ سر ہوتی تھیں اور میں رسول اللہ ﷺ کی ناقہ کے نیچے تھا مجھے اس کا لعاب مس کرتا تھا میں آپ کو حج کا تلبیہ کہتے سنتا تھا۔
سالم بن ابی الجعد عطفانی کوئی کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن آدم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے شریک نے عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ وہ اسے حضرت نبی کریم ﷺ تک مرفوع کرتے ہیں کہ آپ نے حج اور عمرہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا لیبیک بعمرہ و حج معاً یہ روایت حسن ہے۔ مگر انہوں نے اسے روایت نہیں کیا اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عفان نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا کہ ہم سے عثمان بن مغیرہ نے عن سالم بن ابی الجعد عن سعد مولیٰ حسن بن علی سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں۔ کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے اور ذوالحلیفہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حج اور عمرہ کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں پس جو ایسا کرنا چاہتا ہے وہ میری طرح کہے پھر آپ نے تلبیہ کہا لیبیک بعمرہ و حج معاً اور سالم کہتے ہیں کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ قسم بخدا کہ میرا پاؤں رسول اللہ ﷺ کے پاؤں سے مس کرتا تھا اور آپ دونوں کی اکٹھے تکبیر کہہ رہے تھے اور اس طریق سے یہ اسناد جید ہے لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی۔ اور حافظ الہز ار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حمید بن ہلال کی حدیث کی جو تاویل کی ہے یہ اسباق اس کی تردید کرتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم
سلیمان بن طرخان التیمی کی روایت:

حافظ ابو بکر الہز ار بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن حبیب بن عربی نے بیان کیا کہ ہم سے المعتمر بن سلیمان نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ کو بحوالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے سنا کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو دونوں کا اکٹھے تلبیہ کہتے سنا پھر الہز ار کہتے ہیں کہ التیمی سے اس کے بیٹے کے سوا کسی اور آدمی نے روایت نہیں کی اور صرف یحییٰ بن حبیب عربی نے اسے اس سے سنا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ صحیح کی شرط کے مطابق ہے مگر انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔
سوید بن جحیر کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے ابو قزعة سوید بن جحیر نے بحوالہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ: میں ابو طلحہ کا ردیف تھا اور قریب تھا کہ ابو طلحہ کا گھٹنا رسول اللہ ﷺ کے گھٹنے کو گزند پہنچائے اور رسول کریم ﷺ دونوں کی اکٹھے تکبیر کہہ رہے تھے۔ اور یہ اسناد جید ہے اور احمد اس میں متفرد ہے اور انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی اور اس میں حافظ الہز ار کی واضح تردید موجود ہے۔

عبداللہ بن زید ابو قلابہ الجرمی کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس اطلاع دی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ردیف تھا اور وہ حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ چل رہے تھے وہ بیان کرتے ہیں میرا پاؤں رسول اللہ ﷺ کی رکاب کو مس کر رہا تھا پس میں نے آپ کو حج اور عمرہ کا اکٹھے تلبیہ کہتے سنا۔ اور بخاری نے اسے کئی طرق سے عن ابی قلابہ عن انس روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ظہر کی چار رکعت نماز

مدینہ میں پڑھی اور زوالِ الجملینہ میں عصر کی نماز ذکر کنت پڑھی پھر دہاں رات بسر کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر آپ اپنی ناقہ پر سوار ہوئے اور جب وہ دیرانے میں آپ کو لے کر ٹھیک طور پر چلنے لگی تو آپ نے تسبیح و تمجید کی اور تکبیر کہی اور حج اور عمرہ کی بلند آواز سے تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی دونوں کی تکبیر کہی اور ان کی ایک روایت میں ہے کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما کا ردیف تھا اور وہ سب کے سب حج اور عمرہ کی اکٹھے تکبیر کہہ رہے تھے۔ اور ان کی ایک روایت میں جو ایوب سے من رجل عن انس مروی ہے بیان ہوا ہے کہ پھر آپ نے رات بسر کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو آپ نے صبح کی نماز پڑھی پھر اپنی ناقہ پر سوار ہوئے اور جب وہ آپ کو لے کر دیرانے میں اچھی طرح چلنے لگی تو آپ نے حج اور عمرہ کی تکبیر کہی۔

عبدالعزیز بن صہیب کی روایت جو جمید الطویل کی روایت کے ساتھ ہے قبل ازیں بحوالہ مسلم بیان ہو چکی ہے۔

علی بن زید بن جدعان کی روایت:

حافظ ابو بکر البزار بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن سعید نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے علی بن حکیم نے عن شریک عن علی بن زید عن انس بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھے تکبیر کہی یہ اس طریق سے غریب ہے اور اصحاب سنن میں سے کسی نے اسے روایت نہیں کیا حالانکہ یہ ان کی شرط کے مطابق ہے۔

قتادہ بن دعامہ سدوسی کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بہز اور جبر الصمد المعنی نے بیان کیا کہ ہمام بن یحییٰ نے ہمیں خبر دی کہ قتادہ نے ہمیں بتایا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے کتنے حج کیے تھے انہوں نے کہا ایک حج اور چار عمرے کیے تھے۔ ایک عمرہ حدیبیہ کے زمانے میں اور دو مدینہ سے ذوالقعدہ میں اور تیسرا عمرۃ الجمرانہ جو ذوالقعدہ میں کیا۔ جب آپ نے حنین کی غنائم کو تقسیم کیا اور چوتھا حج کے ساتھ عمرہ کیا۔ اور اسے صحیحین میں ہمام بن یحییٰ کی حدیث سے بیان کیا گیا ہے۔

مصعب بن سلیم زہری کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا کہ ہم سے مصعب بن سلیم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے بلند آواز سے حج اور عمرہ کی تکبیر کہی۔ احمد اس کے بیان میں متفرد ہے۔

یحییٰ بن اسحاق حضرمی کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہشیم نے ہم سے بیان کیا کہ ہمیں یحییٰ بن اسحاق عبدالعزیز بن صہیب اور جمید الطویل نے حضرت انس سے خبر دی کہ انہوں نے آپ کو فرماتے سنا کہ۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حج اور عمرہ کا اکٹھے تلبیہ کہتے سنا، آپ لیک عمرۃ وحجاً لیک عمرۃ وحجاً کہہ رہے تھے۔ اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مسلم نے اسے یحییٰ بن یحییٰ سے بحوالہ ہشیم روایت کیا ہے اسی طرح امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبدالاعلیٰ نے یحییٰ سے بحوالہ انس بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ کی طرف گئے اور میں نے آپ کو لیک عمرۃ وحجاً کہتے سنا۔

ابو الصیقل کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ حسن نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے زبیر نے بیان کیا اور احمد بن مالک نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے زبیر نے عن ابی اسحاق عن ابی اسماء الصیقل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج کی آواز بلند کرتے ہوئے نکلے پس جب ہم مکہ آئے تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور فرمایا اگر میں اپنے معاملے سے دوچار ہوتا تو پیٹھ نہ دیتا اور میں اسے عمرہ بنا لیتا، لیکن میں قربانی کا جانور لایا ہوں اور میں نے حج اور عمرہ کو ملا لیا ہے۔

اور نسائی نے اسے ہناد سے عن ابوالاحوص عن ابی اسحاق عن ابی اسماء الصیقل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دونوں کا تلبیہ کہتے سنا۔

ابو قدامہ حنفی جس کا نام محمد بن عبید بیان کیا جاتا ہے اس کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ روح بن عبادہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے عن یونس بن عبید عن ابی قدامہ حنفی بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کس کا تلبیہ کہتے تھے انہوں نے جواب دیا میں نے آپ کو سات بار حج اور عمرہ کا تلبیہ کہتے سنا۔ امام احمد اس حدیث کے بیان میں متفرد ہیں اور اس کا اسناد جدید اور قوی ہے۔ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کو ملا لیا۔ اور حافظ بیہقی نے ان طرق میں سے ایک کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ پھر ایسے کلام سے اس کی تعلیل کی ہے جس میں اعتراض ہے اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اشتباہ ہوا ہے نہ کہ اس شخص کو جو ان سے نیچے ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات سنی ہو اور وہ دوسرے شخص کو بتا رہے ہوں کہ قرآن کی تکبیر کیسے کہی جاتی ہے نہ یہ کہ وہ خود ان دونوں کی بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی لوگوں نے روایت کی ہے اور اس کے ثبوت میں اعتراض ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس کلام میں بظاہر جو اعتراض پاتا جاتا ہے وہ غور و فکر کرنے والے شخص پر حنفی نہیں ہے اور بسا اوقات اس کلام کو ترک کرنا اولیٰ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں باوجود اس کے تواتر کے صحابی کے حفظ کے متعلق احتمال پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے اور اس بات کا آغاز ایک بہت بڑے خوفناک امر تک پہنچا دیتا ہے۔

قرآن کے بارے میں البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث:

حافظ ابو بکر بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو الحسین بن بشران نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں علی بن محمد مصری نے بتایا کہ ہم سے ابو غسان مالک بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا کہ ہمیں زکریا بن ابی زائدہ نے عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین عمرے کیے جو سب کے سب ذوالقعدہ میں کیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ بات معلوم ہی ہے کہ آپ نے اس عمرہ سمیت جو آپ نے حج کے ساتھ کیا چار عمرے کیے ہیں بیہقی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث محفوظ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عنقریب یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب صحیح اسناد کے ساتھ بیان ہو

گی۔ ان شاء اللہ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت:

حافظ ابوالحسن دارقطنی بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر بن داؤد محمد بن جعفر بن رمیس، قاسم بن اسماعیل، ابوعبید اور عثمان بن جعفر البان وغیرہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے احمد بن یحییٰ صوفی نے بیان کیا کہ ہم سے زید بن حباب نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے تین حج کیے، دو حج ہجرت سے پہلے اور ایک وہ حج جس کے ساتھ آپ نے عمرہ کو ملایا۔

اور اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سفیان بن سعید ثوری کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ پھر بیان کیا ہے کہ یہ سفیان کی حدیث سے غریب ہے اور ہم اسے صرف زید بن حباب کی حدیث سے جانتے ہیں اور میں نے عبد اللہ بن عبد الرحمن یعنی رازی کو دیکھا ہے اس نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں عبد اللہ بن ابی زیاد سے روایت کیا ہے اور میں نے محمد سے اس کے متعلق پوچھا وہ اسے نہیں جانتے تھے اور وہ اسے محفوظ بھی شمار نہیں کرتے تھے، وہ بیان کرتے ہیں اسے صرف ثوری سے عن ابی اسحاق عن مجاہد مرسل روایت کیا گیا ہے اور بیہقی کے السنن الکبیر میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ ابوعبسیٰ ترمذی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے متعلق محمد بن اسماعیل بخاری سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث غلط ہے اور اسے صرف ثوری سے مرسل روایت کیا گیا ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ زید بن حباب جب غلط روایت کرتا تھا تو بسا اوقات وہ غلطی کر جاتا تھا اور ابن ماجہ نے اسے عن القاسم بن محمد بن عباد المہلکی عن عبد اللہ بن داؤد الخضر ہی عن سفیان روایت کیا ہے اور یہ وہ طریق ہے جس سے ترمذی اور بیہقی واقف ہی نہیں ہیں اور بسا اوقات بخاری بھی اس سے واقف نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے زید بن حباب کے متعلق یہ خیال کر کے کہ وہ اس کے بیان میں منفر د ہے اس پر اعتراض کیا ہے، حالانکہ آیا نہیں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک دوسرا طریق:

ابوعبسیٰ ترمذی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابن ابی عمر نے بیان کیا کہ ہم سے معاویہ نے عن حجاج عن ابی الزبیر عن جابر بیان کیا کہ: رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کو ملایا اور ان دونوں کا ایک طواف ہی کیا، پھر بیان کیا یہ حدیث حسن ہے اور صحیح کے نسخہ میں ہے اور ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول کریم ﷺ نے اپنے حج اور عمرہ کے لیے ایک ہی طواف کیا۔

میں کہتا ہوں یہ حجاج بن ارطاط ہے، اور کئی ائمہ نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ لیکن یہ ایک اور طریق سے بھی عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ اسی طرح مروی ہے، جیسا کہ حافظ ابوبکر البرز آراپنے مسند میں بیان کرتے ہیں کہ ہم سے مقدم بن محمد نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے چچا قاسم بن یحییٰ بن مقدم نے عن عبد الرحمن بن عثمان بن عثیم عن ابی الزبیر عن جابر بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور آپ نے حج اور عمرہ کو ملایا اور قربانی کا جانور بھی لائے۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے قربانی کے جانور کو قتلادہ نہیں پہنایا وہ اسے عمرہ بنا لے، پھر البرز ار بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کلام کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صرف اس طریق اور اس

اناد کے ساتھ مروی جانتے ہیں اور البزازی اپنے منہ میں اس طریق کے بیان میں منفر ہیں اور اس کا اسناد نہایت غریب ہے اور اس لحاظ سے کتب سنہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ واللہ اعلم
حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو معاویہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے حجاج بن ارطاط نے حسن بن سعد سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کو اکٹھا کیا ہے۔ اور ابن ماجہ نے اسے عن علی بن محمد عن ابی معاویہ اپنے اسناد و الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کو ملا لیا۔ اور حجاج بن ارطاط ضعیف ہے۔ واللہ اعلم
حضرت سراقہ بن مالک بن جشم رضی اللہ عنہ کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے کنی بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے داؤد یعنی ابن سوید نے بیان کیا کہ میں نے عبد الملک زراد کو بیان کرتے سنا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی النزال بن سبرہ کو بیان کرتے سنا کہ میں نے سراقہ کو بیان کرتے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ قیامت کے روز تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں قرآن کیا
آنحضرت ﷺ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت:

آپ نے حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر فائدہ اٹھایا اور یہی قرآن ہے۔

اور امام مالک ابن شہاب سے عن محمد بن عبد اللہ بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو بتایا کہ اس نے معاویہ بن ابی سفیان کے حج کے سال حضرت سعد بن ابی وقاص اور ضحاک بن قیس کو عمرہ کے ساتھ حج کو ملا کر فائدہ اٹھانے کا ذکر کرتے سنا، تو ضحاک کہنے لگے یہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جو امر الہی سے بیگانہ ہو، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے تو نے بہت بری بات کہی ہے ضحاک کہنے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے منع فرمایا کرتے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ایسا کیا ہے اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اور ترمذی اور نسائی دونوں نے اسے قہیبہ سے بحوالہ مالک روایت کیا ہے اور ترمذی نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے سلیمان التیمی نے بیان کیا کہ مجھ سے غنیم نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی وقاص سے متعہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہم نے متعہ کیا اور یہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت عرش میں کافر تھے انہوں نے اسے اس طرح مختصر روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے اپنی صحیح میں سفیان بن سعید ثوری شعبہ مروان الفراری اور یحییٰ بن سعید القطان سے روایت کیا ہے اور ان چاروں نے سلیمان بن طرفان التیمی سے روایت کی ہے کہ میں نے غنیم بن قیس سے سنا کہ میں نے سعید بن ابی وقاص سے متعہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہم نے متعہ کیا ہے اور یہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دنوں عرش میں کافر تھے اور عبد الرزاق نے اسے معمر بن سلیمان اور عبد اللہ بن المبارک سے اور ان دونوں نے اسے سلیمان التیمی سے بحوالہ غنیم بن قیس

روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے عمرہ کو حج کے ساتھ مانانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا 'میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور حضرت معاویہ ان دنوں عرش یعنی مکہ میں کافر تھے۔ اور یہ دوسری حدیث اسناد کے لحاظ سے صحیح ہے اور ہم نے اس کا ذکر اعتماداً نہیں صرف مضبوطی کے لیے کیا ہے۔ اور پہلی حدیث صحیح الاسناد ہے اور یہ اس کے مقابلے میں مقصود کو زیادہ واضح کرنے والی ہے۔ واللہ اعلم

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کی روایت:

طبرانی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے سعید بن محمد بن مغیرہ مصری نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن عطاء نے اسماعیل بن خالد سے بحوالہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کو صرف اس لیے اکٹھا کیا، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ آپ اس سال کے بعد حج نہیں کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابونضر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے داؤد القطان نے عن عمرو بن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چار عمرے کیے، عمرۃ الحدیبیہ، عمرۃ القضاء، عمرۃ الجعراندہ اور اپنے حج کے ساتھ عمرہ اور ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے اسے کئی طرق سے داؤد بن عطار کی سے عن عمرو بن دینار عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے اور ترمذی نے اسے عن سعید بن عبدالرحمن عن سفیان بن عیینہ عن عمرو بن عکرمہ مرسل روایت کیا ہے اور حافظ بیہقی نے اسے ابوالحسن علی بن عبدالعزیز بغوی کے طریق سے حسن بن ربیع اور شہاب بن عماد سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے داؤد بن عبدالرحمن سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ چوتھا عمرہ وہ ہے جسے آپ نے اپنے حج کے ساتھ ملا لیا تھا، پھر ابوالحسن علی بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ داؤد بن عبدالرحمن کے سوا کوئی آدمی اس حدیث کے بارے میں بیان نہیں کرتا، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، پھر بیہقی نے بخاری سے بیان کیا کہ آپ نے داؤد بن عبدالرحمن کو صادق قرار دیا ہے۔ ہاں بسا اوقات اسے کسی چیز کے بارے میں وہم ہو جاتا ہے اور بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے طریق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے وہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے وادی عقیق میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ۔

اور شاہد ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو بیان کیا ہے اس میں ان کا یہی مستند ہو۔ واللہ اعلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت:

بخاری اور مسلم نے لیث کے طریق سے جو کچھ عن عقیل بن زہری عن سالم بن ابی عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے وہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں تمتع کیا اور قربانی کا جانور بھیجا اور ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور لے گئے اور رسول اللہ ﷺ نے پہلے بلند آواز سے عمرہ کی تکبیر کہی پھر حج کی تکبیر کہی اور سعی کے بعد آپ کے حلال نہ ہونے کے بارے میں پوری حدیث کا ذکر کیا ہے، پس معلوم ہو گیا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ آپ تمتع خاص کے تمتع نہیں تھے اور آپ نے حج

اور عمرہ کا سفا اور مردہ کے درمیان ایک ہی طواف کیا تھا اور جمہور کے مذہب کے مطابق یہ حال قارن کا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ واللہ اعلم

اور حافظ ابو یعلیٰ موصلی بیان کرتے ہیں کہ ابوخیثمہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن یمان نے عن سفیان عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے قارن ہونے کی وجہ سے ایک ہی طواف کیا اور دونوں کے درمیان حلال نہیں ہوئے اور آپ نے راستے سے قربانی کا جانور خریدا اور یہ اسناد جمید ہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ اور اگرچہ یحییٰ بن یمان مسلم کے رجال میں سے ہے مگر اس نے ثوری سے جو احادیث روایت کی ہے اس میں شدید نکارت پائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم اور اس سے اس بات کو ترجیح ملتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو افراد روایت کیا ہے اس سے آپ کی مراد افعال حج کا افراد ہے نہ کہ وہ افراد خاص جس کی طرف شافعی کے اصحاب جاتے ہیں اور وہ حج کرنا ہے پھر اس کے بعد بقیہ ذوالحجہ میں عمرہ کرنا ہے شافعی کا قول ہے کہ مالک نے ہمیں صدقہ بن یسار سے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ ذوالحجہ میں مجھے حج کے بعد عمرہ کرنے کی نسبت حج سے قبل عمرہ کرنا اور قربانی بھیجنا زیادہ محبوب ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو احمد یعنی زبیری نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یونس بن حارث نے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے صرف بیت اللہ سے روک دینے کے خوف سے قرآن کیا اور فرمایا اگر حج نہ ہو تو عمرہ ہی سہی۔ یہ حدیث سند اور متن کے لحاظ سے غریب ہے اور امام احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں اور امام احمد نے اس یونس بن حارث ثقفی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ مضطرب الحدیث ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے اور اسی طرح یحییٰ بن معین نے بھی اسے اس سے روایت کرنے میں ضعیف قرار دیا ہے اور نسائی نے بھی۔

اور متن کے لحاظ سے اس کا یہ قول کہ رسول اللہ ﷺ نے صرف بیت اللہ سے روک دینے کے خوف سے قرآن کیا، آپ کو بیت اللہ سے کون روک سکتا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر اسلام کو قوت دی اور بلد الحرام کو فتح کیا اور گذشتہ سال منیٰ کے میدان سے حج کے ایام میں اعلان کیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا اور نہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا اور حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تقریباً چالیس ہزار آدمی تھے پس اس کا یہ قول کہ ”بیت اللہ سے روک دینے کے خوف سے“ یہ قول اس قول سے عجیب تر نہیں جو حضرت عثمان نے حضرت علی بن ابی طالب سے اس وقت کہا تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ:

آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تمتع کیا تھا، انہوں نے کہا بے شک کیا تھا لیکن ہم خوفزدہ تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ خوف کس طرف سے تھا؟ ہاں یہ صحابی کی روایت میں بیان ہوا ہے اور اسے عثمان کے ظن پر محمول کیا جائے گا، پس جو کچھ انہوں نے روایت کیا ہے وہ صحیح اور مقبول ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے خیال کیا ہے اس میں وہ معصوم نہیں، پس یہ ان کی سمجھ ہے جو دوسروں پر حجت نہیں اور نہ ہی اس سے اس حدیث کا رد کرنا لازم آتا ہے جو آپ نے روایت کی ہے یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا

قول ہے اگر اس کی نسبت آپ کی طرف درست ہو۔ واللہ اعلم
حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن جعفر اور حجاج نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے حمید بن بلال سے بیان کیا کہ میں نے خاموشی سے سنا کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس سے فائدہ پہنچائے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کو اکٹھا کیا پھر آپ نے وفات تک اس سے منع نہیں فرمایا اور نہ ہی قرآن نے اسے حرام قرار دیا ہے اور وہ مجھے سلام کہتے تھے پس جب میں نے اپنے آپ کو داغ دیا تو وہ میرے پاس آنے سے رک گئے اور جب میں نے داغ لگا تا ترک کر دیا تو وہ دوبارہ میرے پاس آنے لگے۔ اور مسلم نے اسے محمد بن ایشی اور محمد بن الیسار سے عن غندر عن عبید اللہ بن معاذ عن ابیہ روایت کیا ہے۔ اور نسائی نے محمد بن عبدالاعلیٰ سے بحوالہ خالد بن حارث روایت کی ہے اور ان تینوں نے شعبہ سے عن حمید بن بلال عن مطرف عن عمران روایت کی ہے اور مسلم نے اسے شعبہ اور سعید بن ابی عروبہ کی حدیث سے عن قتادہ عن مطرف بن عبداللہ بن الشخیر عن عمران بن حصین روایت کیا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کو اکٹھا کیا۔ (المدریث) اور حافظ ابوالحسن دارقطنی نے صحیحہ کی حدیث کو جو حمید بن بلال سے بحوالہ مطرف مروی ہے صحیح قرار دیا ہے اور وہ حدیث جو اس نے قتادہ سے بحوالہ مطرف بیان کی ہے اسے شعبہ سے صرف بقیہ بن الولید نے روایت کیا ہے اور غندر وغیرہ نے اسے سعید بن عروبہ سے بحوالہ قتادہ روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں اسے نسائی نے بھی اپنے سنن میں عمرو بن علی الفلاس سے عن خالد بن حارث عن شعبہ روایت کیا ہے اور ایک نسخہ میں شعبہ کی بجائے عن سعید عن قتادہ عن مطرف عن عمران بن حصین روایت ہوئی ہے۔ واللہ اعلم اور صحیحین میں ہمام کی حدیث سے جو عن قتادہ عن مطرف عن عمران بن حصین مروی ہے لکھا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ۔ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں ہم نے متنع کیا پھر قرآن نے اس کو حرام قرار نہیں دیا اور نہ ہی رسول کریم ﷺ نے اپنی وفات تک اس سے منع فرمایا ہے۔

حضرت الہر ماس بن زیاد باہلی کی روایت:

عبداللہ بن امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمران بن علی ابو محمد نے جوزے کا باشندہ تھا اور اصلاً اصہبانی تھا ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن الضریس نے بیان کیا کہ ہم سے عکرمہ بن عمار نے الہر ماس سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا ردیف تھا میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ پر لیک بچہ و عمرہ معاً کہہ رہے ہیں اور یہ حدیث سنن کی شرط کے مطابق ہے لیکن انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔

ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کی روایت:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبدالرحمن نے عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن حفصہ رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ سے عرض کیا:

”آپ عمرے سے حلال کیوں نہیں ہوئے؟ آپ نے جواب دیا، میں نے اپنے سر کو چپکا لیا ہے اور اپنے قربانی کے جانور کو قلاہہ ڈال دیا ہے میں جب تک قربانی نہ کر لوں حلال نہ ہوں گا۔“

اور صحیحین میں دونوں نے اسے مانک اور سعید اللہ بن عمر کی حدیث سے روایت کیا ہے بخاری اور موسیٰ بن عقبہ نے اضافہ کیا ہے اور مسلم اور ابن جریر سب نے نافع سے بحوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس میں اضافہ کیا ہے اور ان دونوں کے الفاظ میں ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم ﷺ سے کہا:

یا رسول اللہ ﷺ! لوگوں کا کیا حال ہے وہ عمرہ سے حلال ہو گئے ہیں اور آپ اپنے عمرہ سے حلال کیوں نہیں ہوئے آپ نے فرمایا میں نے اپنے قربانی کے جانور کو قلاہہ ڈال دیا ہے اور اپنے سر کو چپکا لیا ہے میں جب تک قربانی نہ کر لوں حلال نہ ہوں گا۔ اسی طرح امام احمد بیان کرتے ہیں کہ شعیب بن ابی حمزہ نے ہم سے بیان کیا کہ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے سال اپنی ازواج کو حلال ہونے کا حکم دیا، تو آپ کی ایک بیوی نے آپ سے کہا، آپ کو حلال ہونے سے کیا چیز مانع ہے آپ نے فرمایا، میں نے اپنے سر کو چپکا لیا ہے اور اپنے قربانی کے جانور کو قلاہہ ڈال دیا ہے، پس جب تک میں اپنے قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر لوں حلال نہ ہوں گا۔

اسی طرح امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن ابراہیم نے بیان کیا کہ میرے باپ نے بحوالہ ابو اسحاق ہم سے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بحوالہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کو عمرہ سے حلال ہو جانے کا حکم دیا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو ہمارے ساتھ حلال ہونے سے کیا چیز مانع ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے قربانی کا جانور بھیج دیا ہے اور سر کو چپکا لیا ہے، پس میں اپنا قربانی کا جانور ذبح کرنے تک تاخیر کروں گا۔ پھر احمد نے اسے کثیر بن ہشام سے عن جعفر بن برقان عن نافع ابن عمر عن حفصہ روایت کیا ہے اور اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ عمرہ کا احرام باندھے ہوئے تھے اور آپ اس سے حلال نہ ہوئے اور مقدم الذکر احادیث الافراد سے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے اسی طرح حج کے لیے تکبیر کہی، پس ان تمام احادیث سے معلوم ہو گیا کہ آپ قارن تھے جیسا کہ گذشتہ روایت میں وضاحت ہو چکی ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت:

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلم نے مالک سے عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ حجۃ الوداع میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے، تو ہم نے بلند آواز سے عمرہ کی تکبیر کہی، پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ حج کے ساتھ عمرہ کی تکبیر کہے پھر ان دونوں سے حلال ہونے تک حلال نہ ہو، پس میں مکہ آئی اور میں حائض تھی اور میں نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا اور نہ ہی صفا اور مروہ کا طواف کیا، اور میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اس امر کی شکایت کی، آپ نے فرمایا اپنا سر کھول دو اور کنگھی کرو اور حج کی تکبیر کہو اور عمرہ کو چھوڑ دو۔ تو میں نے ایسے

ہی کیا۔ پس جب میں نے حج ادا کر لیا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے عبدالرحمن بن ابی بکر کے ساتھ تعظیم کی طرف بھیج دیا اور میں نے عمرہ کر لیا اور آپ نے فرمایا یہ آپ کے عمرہ کی جگہ ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں پس جن لوگوں نے عمرہ کی تکبیر کہی تھی انہوں نے بیت اللہ اور صفا اور مروہ کا طواف کیا پھر حلال ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے منیٰ سے لوٹنے کے بعد ایک اور طواف کیا اور جن لوگوں نے حج اور عمرہ کو اٹھنا کر لیا تھا انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ اور اسی طرح مسلم نے اسے مالک کی حدیث سے زہری سے بیان کیا ہے پھر اس نے اسے عن عبد بن حمید عن عبدالرزاق عن معمر عن زہری عن مروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے تو میں نے عمرہ کی تکبیر کہی اور میں قربانی کا جانور نہیں لے گئی تھی رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ اپنے عمرہ کے ساتھ حج کی تکبیر کہے یہاں تک دونوں سے حلال ہو جائے اور پوری حدیث کو بیان کیا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس جگہ پر اس حدیث کے لانے کا مقصد وہ قول بیان کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرہ کی تکبیر کہے اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ آپ کے پاس قربانی کا جانور تھا پس جس نے یہ مشورہ دیا ہے وہ اس کا اول اور اولیٰ مخاطب ہے اس لیے کہ صحیح معنوں میں مخاطب اپنے خطاب کے عموم میں داخل ہوتا ہے اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کو اٹھا کیا تھا انہوں نے ایک ہی طواف کیا یعنی صفا اور مروہ کے درمیان اور مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صفا اور مروہ کے درمیان صرف ایک طواف کیا جس سے معلوم ہوا کہ آپ نے حج اور عمرہ کو اٹھا کر لیا تھا اور مسلم نے حماد بن زید کی حدیث سے عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ روایت کی ہے آپ فرماتی ہیں کہ قربانی کے جانور رسول اللہ ﷺ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ذوالیسار کے ساتھ تھے۔ اسی طرح آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دو قربانیوں سے حلال نہ ہوئے اور آپ متنع بھی نہ تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے گزارش کی کہ آپ مجھے تعظیم سے عمرہ کروائیں آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ لوگ حج اور عمرہ کو جا رہے ہیں اور میں حج کو جا رہی ہوں تو آپ نے انہیں ان کے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر کے ساتھ بھجوادیا اور انہوں نے آپ کو تعظیم سے عمرہ کروایا اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے حج کے بعد عمرہ کیا تھا حالانکہ آپ مفرد نہ تھے پس معلوم ہوا کہ آپ قارن تھے کیونکہ لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع میں عمرہ کیا تھا۔ واللہ اعلم

اور حافظ بیہقی نے یزید بن ہارون کے طریق سے عن زکریا عن ابی زائدہ عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ جو روایت کی ہے وہ پہلے بیان ہو چکی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین عمرے کیے اور سب کے سب ذوالقعدہ میں کیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بات معلوم ہی ہے کہ آپ نے اس عمرہ سمیت جو آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا چار عمرے کیے ہیں اور بیہقی نے الخلافیات میں بیان کیا ہے کہ ہمیں ابوبکر بن حارث فقیہ نے بتایا کہ ابو محمد بن خبان اصہبانی نے ہمیں خبر دی کہ ابراہیم بن شریک نے ہمیں بتایا کہ ہمیں احمد بن یونس نے خبر دی کہ زہیر نے ہم سے بیان کیا کہ ابواسحاق نے ہم سے بحوالہ مجاہد بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے کتنے عمرے کیے تھے تو آپ نے فرمایا دو بار

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو معلوم ہے کہ اس عمرہ کے سوا جسے آپ نے حجۃ الوداع کے ساتھ ملا لیا تھا آپ نے تین عمرے کیے تھے پھر تیسری بیان کرتے ہیں کہ اس اسناد میں کوئی اعتراض نہیں لیکن اس میں ارسال پایا جاتا ہے۔ یعنی بعض محدثین کے قول کے مطابق مجاہد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ساعت نہیں کی۔

میں کہتا ہوں شعبہ اسے منکر قرار دیتا ہے اور بخاری اور مسلم نے اسے ثابت کیا ہے۔ واللہ اعلم

اور قاسم بن عبد الرحمن بن ابی بکر اور عروہ بن زبیر اور کئی لوگوں کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی ہے کہ حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اور تمعیم سے آپ نے جو عمرے کیے اور اہل مکہ کے پاس آ کر آپ نے ان سے جو دوستی کی اور مہذب میں آپ نے جو شب بسر کی ان میں بھی آپ کے ساتھ قربانی کا جانور تھا یہاں تک کہ آپ نے مکہ میں صبح کی نماز پڑھی اور مدینہ کو واپس آ گئے یہ تمام امور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے اس حج کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اور مجھے کسی صحابی کے متعلق معلوم نہیں کہ اس نے اسے روایت کیا ہو اور یہ بات بھی معلوم ہی ہے کہ آپ دو قربانیوں کے درمیان حلال نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کے طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد تخلیق و تقصیر یا تحلل کی تھی بلکہ بالاتفاق آپ نے مسلسل احرام باندھے رکھا اور یہ بھی منقول نہیں کہ آپ نے منیٰ کی طرف جاتے ہوئے حج کی تکبیر کہی تھی پس معلوم ہو گیا کہ آپ متمتع نہیں تھے اور لوگوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضور ﷺ نے حجۃ الوداع کے سال عمرہ کیا تھا اور آپ دونوں قربانیوں کے درمیان حلال نہیں ہوئے تھے اور نہ آپ نے نئے سرے سے حج کا احرام باندھا تھا اور نہ حج کے بعد عمرہ کیا تھا پس قرآن کا ہونا لازم آ گیا اور یہ وہ بات ہے جس کا جواب مشکل ہے۔ واللہ اعلم

اسی طرح قرآن کی روایت مثبت ہے کیونکہ افراد اور تمتع کی روایت کرنے والے اس کے بارے میں خاموش ہیں اور اس کی نفی کرنے سے بھی خاموش ہیں اور وہ ان پر مقدم ہے جیسا کہ علم اصول میں طے پا چکا ہے اور ابی عمران سے روایت ہے کہ اس نے اپنے غلاموں کے ساتھ حج کیا وہ بیان کرتے ہیں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین میں نے بھی حج نہیں کیا پس میں کس سے آغاز کروں؟ حج سے یا عمرہ سے؟ آپ نے فرمایا جس سے چاہو آغاز کر لو پھر میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے مجھے وہی جواب دیا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا پھر میں نے آ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے قول کے متعلق بتایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ اے آل محمد ﷺ جو تم میں سے حج کرے تو وہ حج میں عمرہ کی تکبیر کہے۔ ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے اور ابن حزم نے اسے حجۃ الوداع میں لیث بن سعد کی حدیث سے عن یزید بن ابی حبیب عن اسلم عن ابی عمران عن ام سلمہ روایت کیا ہے۔



باب ۲۰

دونوں روایات میں تطبیق کا بیان

اگر کہا جائے کہ تم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے یہ روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے حج مفرد کیا تھا، پھر انہی صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہ روایت کی ہے کہ آپ نے حج اور عمرہ کو اکٹھا کر لیا تھا پس ان دونوں روایات کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے حج مفرد کیا تھا وہ روایت اس امر پر محمول ہوگی کہ آپ نے افعال حج کو جدا کیا تھا اور نیۃ، نفل اور وقت اس میں عمرہ داخل تھا اور یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے حج کے طواف وسی پر قناعت کی تھی، جیسا کہ قارن کے بارے میں جمہور کا مذہب ہے مگر حضرت امام ابوحنیفہ اس کے خلاف ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ قارن دو طواف کرے گا اور دو دفعہ سعی کرے گا، اور انہوں نے اس بارے میں اس روایت پر اعتماد کیا ہے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مگر آپ کی طرف اس کے اسناد میں اعتراض پایا جاتا ہے۔

اور جن لوگوں نے تمتع کی روایت کی ہے اور پھر قرآن کی روایت کی ہے اس کے متعلق ہم قبل ازیں جواب دے چکے ہیں کہ سلف کے کلام میں تمتع، تمتع خاص اور قرآن سے اعم ہے بلکہ وہ اس کا اطلاق حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے پر کرتے ہیں خواہ اس کے ساتھ حج نہ بھی ہو جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ: ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تمتع کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دنوں عرش یعنی مکہ میں کافر تھے، حالانکہ اس سے آپ کی مراد دو عمروں میں سے ایک عمرہ ہے، خواہ حدیبیہ کا عمرہ ہو یا عمرۃ القضاء اور عمرۃ الجعرانہ کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ وہ فتح مکہ کے بعد ہوا تھا اور حجۃ الوداع اس کے بعد ۱۰ھ میں ہوا تھا اور یہ ایک واضح اور کھلی بات ہے۔ واللہ اعلم



ابوداؤد طیالسی کی روایت کردہ حدیث کا جواب

اگر کہا جائے کہ اس حدیث کا کیا جواب ہے جسے ابوداؤد طیالسی نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے کہ ہم سے ہشام نے قتادہ سے بحوالہ ابی سح الہنائی؛ جس کا نام صفوان بن خالد ہے، بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم ﷺ کے اصحاب کی ایک جماعت سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول کریم ﷺ نے چیتوں کی صف بندی کرنے سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا درست ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی اس کے درست ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگے کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مقطع سونے کے سوا سونا پہننے سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا درست ہے، پھر کہنے لگے کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کو ملانے سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا یہ درست نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے قسم بخدا یہ بات بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عفان نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ہمام نے قتادہ سے بحوالہ ابی سح الہنائی روایت کی وہ بیان کرتا ہے میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی ایک جماعت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے، کہ رسول کریم ﷺ نے چیتوں کے چروں سے اور ان پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا درست ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مقطع سونے کے سوا سونا پہننے سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا درست ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا درست ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے متعہ سے یعنی متعہ الحج سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا یہ بات درست نہیں۔

اور احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے سعید نے عن قتادہ عن ابی سح الہنائی بیان کیا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے اور ان کے پاس آنحضرت ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بھی موجود تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا درست ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا درست ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا یہ بات درست نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے قسم بخدا یہ بات بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔

اور اسی طرح اسے حماد بن سلمہ نے قتادہ سے روایت کیا ہے اور یہ اضافہ کیا ہے کہ تم اس بات کو بھول گئے ہو۔ اور اسی طرح اسے اشعث بن نزار، سعید بن ابی عمرو، اور ہمام نے قتادہ سے اصل الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور مطر الوراق اور بیہس بن

فہدان نے اسے ابی سح سے صحیح الحج میں روایت کیا ہے۔ ابوداؤد اور نسائی نے اسے کئی طرق سے ابی سح سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث جید الاسناد ہے اور حضرت معاویہ نے حج اور عمرہ کے اکٹھا کرنے کی منافی کے بارے میں جو روایت بیان کی ہے وہ اس سے بھی عجیب ہے، شاید اصل حدیث متعدی کی منافی کے بارے میں ہے اور راوی نے اسے صحیح الحج خیال کر لیا ہے حالانکہ وہ صحیح النساء ہے۔ اور ان صحابہ کے پاس اس سے منافی کے بارے میں کوئی روایت نہ تھی یا شاید وہ منافی کھجوروں کے ملانے کے بارے میں ہو جیسا کہ ابن عمر کی حدیث میں ہے، اور راوی نے اسے حج میں قرآن کرنا خیال کر لیا ہو اور اسے مفعول مالم یسم فاعلہ بنا دیا ہو۔ اور راوی نے اسے صراحت کے ساتھ حضرت نبی کریم ﷺ تک مرفوع کر دیا ہو اور اس بارے میں وہم میں پڑ گیا ہو اور صحیح الحج سے منع فرمانے والے حضرت عمر بن الخطاب ہیں اور آپ کا اس سے منع کرنا تحریم اور حتم کے طور پر نہ تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں آپ اس سے اس لیے منع فرماتے تھے کہ حج کے لیے الگ سفر کیا جائے تاکہ بیت اللہ کی زیارت بکثرت ہو اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے بہت ڈرتے تھے اور آپ کی مخالفت کی جسارت نہیں کرتے تھے اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، ان سے کہا جاتا کہ آپ کے والد تو اس سے منع کرتے ہیں تو وہ کہتے، مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں گے، اسے رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ کی سنت کی اتباع ہوگی یا حضرت عمر بن الخطاب کی سنت کی اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی اس سے منع فرماتے تھے اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے حضرت علی بن ابی طالب نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا، میں کسی آدمی کے قول کے باعث رسول اللہ ﷺ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔

اور عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ متع کیا پھر قرآن میں اس کی حرمت نازل نہ ہوئی اور نہ وفات تک رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا، اسے صحیحین نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم میں حضرت سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے انکار متع پر انہیں ملامت کی اور کہا ہم نے اسے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا ہے اور یہ یعنی حضرت معاویہ ان دنوں عرش میں کافر تھے یعنی جن دنوں میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اسے کیا حضرت معاویہ ان دنوں مکہ میں کافر تھے۔

میں کہتا ہوں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حج قرآن کیا جیسا کہ ہم نے اس بارے میں وارد ہونے والی احادیث سے اسے بیان کیا ہے اور رسول کریم ﷺ کی وفات کے درمیان اور حجۃ الوداع کے درمیان اکیسا ہی دن تھے۔ اور چالیس ہزار سے زائد صحابہ نے قولاً اور فعلاً آپ کو حجۃ الوداع کرتے دیکھا پس اگر آپ نے اس حج میں قرآن سے منع کیا ہوتا جسے لوگوں نے آپ کو کرتے دیکھا تو صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی تنہا نہ رہتا اور جن لوگوں نے آپ سے یہ بات سنی یا نہ سنی تھی، ان کی ایک جماعت ان کی تردید کرتی، یہ سب امور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس طرح یہ روایت حضرت معاویہ سے محفوظ نہیں ہے۔ واللہ اعلم

اور ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہ مجھے حیوۃ نے خبر دی کہ مجھے ابو عبید بن خراسانی نے عن عبداللہ بن القاسم خراسانی عن سعید بن المسیب بتایا کہ آنحضرت ﷺ کے اصحاب میں سے ایک

آدنی مسرت عمر بن الخطاب کے پاس آیا اور اس نے گواہی دی کہ اس نے رسول اللہ ﷺ سے مرض الموت میں سنا ہے کہ آپ حج سے قبل تہرہ کرنے سے منع فرماتے تھے یہ اسناد اعتراض سے خالی نہیں پھر اگر اس صحابی نے حضرت معاویہ سے روایت کی ہے تو قبل ازیں اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ مگر یہ نبی متع کے بارے میں ہے نہ کہ قرآن کے بارے میں۔ اور اگر اس نے حضرت معاویہ کے سوا کسی اور سے روایت کی ہے تو فی الجملہ یہ مشتبه امر ہے لیکن قرآن کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں واللہ اعلم۔
آپ کے احرام کو مطلق قرار دینے والوں کا مستند:

بعض لوگوں کا قول ہے کہ حضور علیہ السلام نے احرام کو مطلق رکھا اور اذلاح اور عمرہ کو معین نہ کیا پھر اس کے بعد آپ نے اسے معین کر لیا۔ اور حضرت امام شافعی سے منقول ہے کہ یہ افضل قول ہے مگر ضعیف ہے امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ سفیان نے ہمیں خبر دی کہ ابن طاؤس، ابراہیم بن میسرہ، اور ہشام بن حجر نے ہمیں طاؤس سے خبر دی کہ وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ حج اور عمرہ کا نام لیے بغیر مدینہ سے نکلے اور فیصلہ کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان آپ پر فیصلے کا نزول ہو گیا اور آپ کے جن اصحاب نے حج کی تکبیر کہی تھی آپ نے انہیں حکم دیا کہ جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ اسے عمرہ بنا لیں اور فرمایا اگر مجھے اپنے معاملے کے متعلق پہلے علم ہوتا تو میں پیٹھ نہ دیتا اور نہ قربانی کا جانور لاتا، لیکن میں نے اپنے سر کو چپکا لیا ہے اور اپنی قربانی کا جانور لے آیا ہوں پس اب میرا مقام میری قربانی کے جانور کا مقام ہے۔ اور سراقہ بن مالک نے آپ کے پاس جا کر کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی فیما فرمادیں گویا وہ آج ہی پیدا ہوئے ہیں کیا آپ نے اس کو اس سال کے لیے عمرہ بنایا ہے یا ہمیشہ کے لیے تو رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا بلکہ ہمیشہ کے لیے اور روز قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ یمن کے کچھ آدمی میرے پاس آئے تو رسول کریم ﷺ نے ان میں سے ایک سے پوچھا تو نے کس چیز کی تکبیر کہی ہے اس نے جواب دیا میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کی تکبیر کہی لیکر کہا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کے حج کو لیکر کہا ہے۔ اور یہ طاؤس کی مرسل روایت ہے اور اس میں غرابت پائی جاتی ہے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ آپ مجرد مرسل روایت کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک دوسری روایت اس کو مضبوط نہ کرے سوائے اس کے کہ وہ کبار تابعین سے مروی ہو جیسا کہ مرسل کے بارے میں آپ کا معتبر کلام ہے۔ کیونکہ اغلباً وہ صحابہ سے ہی مرسل کرتے ہیں اور یہ مرسل اس قبیل سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ متقدم الذکر تمام احادیث کے مخالف ہے جو سب کی سب احادیث الافراد احادیث التمتع اور احادیث القرآن ہیں جو صحیح سند ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ اس سے مقدم ہیں کیونکہ وہ اس امر کی مثبت ہیں جس کی اس مرسل نے نفی کی ہے اور مثبت نافی سے مقدم ہوتا ہے خواہ برابر کا ہو پس جب مسند صحیح ہو تو پھر اس کا کیا حال ہوگا اور مرسل اپنی سند کے انقطاع کی وجہ سے حجت نہیں ہو سکتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اور حافظ ابو بکر بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں ابو العباس اصم نے خبر دی کہ ہم سے عباس بن محمد الدوری نے بیان کیا کہ ہم سے محاضر نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے عن ابراہیم عن اسود عن عائشہ بیان کیا آپ بیان فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے ہم حج کا ذکر کرتے تھے نہ عمرہ کا پس جب ہم آئے تو آپ نے ہمیں حلال ہو جانے کا حکم

دیا۔ جب ذوالحجہ کی بارہویں شب آئی تو حضرت صفیہ بنت حی جاحظہ جو گئیں تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اپنے رحم کے خون کو خشک کر۔“ میرے خیال میں یہ تم کو روک دے گی پھر فرمایا کیا تو نے یوم النحر کو طواف کر لیا تھا، حضرت صفیہ نے جواب دیا ہاں آپ نے فرمایا، واپس چلی جاؤ۔ حضرت صفیہ بیان فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تکبیر نہیں کہی آپ نے فرمایا پھر تعظیم سے عمرہ کا احرام باندھو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت صفیہ کے ساتھ ان کا بھائی گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مدح سے ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تمہاری مقررہ جگہ فلاں فلاں ہے، تمہاری بیٹی نے اسے اسی طرح روایت کیا ہے۔

اور بخاری نے اسے محمد سے کہتے ہیں کہ وہ یحییٰ الذہلی ہے بحوالہ محاضرین المورع روایت کیا ہے نیز اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کا ذکر کرنے نکلے اور یہ پہلی احادیث کی مانند ہے۔ لیکن مسلم نے سوید بن سعید سے عن علی بن مسہر عن اعمش عن ابراہیم عن اسود عن عائشہ روایت کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج و عمرہ کا ذکر کیے بغیر نکلے۔ اور بخاری اور مسلم نے اسے منصور کی حدیث سے عن ابراہیم عن اسود عن عائشہ روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے اور ہماری رائے میں آپ صرف حج کے لیے نکلے تھے اور یہ حدیث صحیح اور اثبت ہے۔ واللہ اعلم۔ اور اس طریق حضرت عائشہ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ ہم حج اور عمرہ کا ذکر کیے بغیر تلبیہ کہتے ہوئے نکلے اور یہ حدیث اس امر پر محمول ہے کہ وہ تلبیہ کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ حالت احرام میں انہوں نے اس کا نام لیا تھا جیسا کہ حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَ عُمْرَةً کہتے سنا اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دونوں کا بلند آواز سے ذکر کرتے سنا، پس وہ حدیث جسے مسلم نے داؤد بن ابی ہند کی حدیث سے عن ابی نصرہ عن جابر و ابی سعید خدری روایت کیا ہے اس میں وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آئے اور ہم حج کی آواز بلند کر رہے تھے اس طریق سے یہ حدیث مشکل ہے۔ واللہ اعلم

رسول اللہ ﷺ کے تلبیہ کا بیان:

حضرت امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ مالک نے نافع سے بحوالہ حضرت عبداللہ بن عمر ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ کا تلبیہ یہ تھا:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ

لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ . اور حضرت عبداللہ بن عمر اس میں یہ اضافہ بھی کرتے تھے:

لَبَّيْكَ لَكَ وَ سَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرُّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

اور بخاری نے اسے عبداللہ بن یوسف سے اور مسلم نے اسے یحییٰ بن یحییٰ سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے اسے مالک سے روایت کیا ہے اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عباد نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے حاتم بن اسماعیل نے عن موسیٰ بن عقبہ عن سالم بن عبداللہ بن عمر عن نافع مولیٰ عبداللہ بن عمرو حمزہ بن عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر بیان کیا کہ جب مسجد الحلیفہ کے پاس رسول اللہ ﷺ کی ناقہ آپ کو لے کر ٹھیک طور پر چلنے لگی تو آپ نے بلند آواز سے کہا:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .

وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ ﷺ کے تلبیہ کے بارے میں کہا کرتے تھے، نافع کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ اس کے ساتھ یا اسناد بھی کرتے تھے۔

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَ سَعْدِيكَ وَ الْخَيْرُ بِيَدِيكَ وَ الرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَ الْعَمَلُ

محمد بن ثنی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے عبداللہ سے بیان کیا کہ مجھے نافع نے حضرت ابن عمر سے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے جلدی جلدی تلبیہ سیکھا اور آپ ان کی حدیث کے مطابق بیان کرنے لگے کہ مجھ سے حرمہ بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ہم کو ابن وہب نے خبر دی کہ مجھے یونس نے ابن شہاب سے بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ مجھے انہوں نے اپنے باپ سے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بلند آواز سے تلبیہ کہتے سنا، آپ کہہ رہے تھے:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

آپ ان کلمات پر کوئی اضافہ نہیں کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ ذوالحلیفہ میں دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور جب سحر ذوالحلیفہ کے پاس آپ کی ناقہ آپ کو لے کر ٹھیک طور سے چلے لگتی تو آپ ان کلمات سے تلبیہ کہا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب ان کلمات کے ساتھ حضرت نبی کریم ﷺ کی طرح تلبیہ کہا کرتے تھے آپ کہتے تھے:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، وَ سَعْدِيكَ وَ الْخَيْرُ بِيَدِيكَ لَبَّيْكَ وَ الرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَ الْعَمَلُ.

یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور جابر کی حدیث تلبیہ میں وہی الفاظ ہیں جو ابن عمر کی حدیث میں ہیں جو عنقریب پوری طوالت سے بیان ہوگئی۔ اور مسلم نے اسے منفرد طور پر بیان کیا ہے۔ اور امام بخاری اسے مالک کے طریق پر عن ابن عمر بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے عن اعمش عن عمارہ عن ابی عطیہ عن عائشہ بیان کیا۔ آپ فرماتی ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کیسے تلبیہ کہتے تھے۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ.

ابو معاویہ نے اعمش سے اس کی متابعت کی ہے اور شعبہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان نے ہمیں خبر دی کہ میں نے خثیمہ کو ابو عطیہ سے روایت کرتے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا بخاری اس کے بیان میں منفرد ہیں۔

اور امام احمد نے اسے عبدالرحمن بن مہدی سے عن سفیان ثوری عن سلیمان بن مہران الأعمش عن عمارہ بن عمیر عن ابی عطیہ الوادی عن عائشہ روایت کیا ہے اور اسے بخاری کی طرح برابر روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اسے محمد بن جعفر اور روح بن عبادہ سے عن شعبہ عن سلیمان بن مہران الأعمش روایت کیا ہے جیسا کہ بخاری نے اسے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اسے ابوداؤد طیالسی نے اپنے مسند میں شعبہ سے برابر روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن فضیل نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے عن عمارہ بن عمیر عن ابی عطیہ بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ

رسول اللہ ﷺ کیسے تلبیہ کہتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے پھر میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تلبیہ کہتے بنا آپ نے کہا:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالسُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ پس اس نے اس سیاق میں وَحْدَهُ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ کا اضافہ کر دیا۔

اور تابعی بیان کرتے ہیں کہ عالم نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں اصم نے بتایا کہ ہم سے محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم نے بیان کیا کہ ہمیں ابن وہب نے خبر دی کہ مجھے عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے بتایا کہ عبداللہ بن فضل نے اس سے عبدالرحمن الاعرج سے بحوالہ ابو ہریرہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے تلبیہ میں ”لبیک الہ الحق“ کے الفاظ بھی شامل تھے۔ اور نسائی نے اسے قتیبہ سے عن حمید بن عبدالرحمن عن عبدالعزیز بن ابی سلمہ اور ابن ماجہ نے اسے عن ابی بکر بن ابی شیبہ اور علی بن محمد روایت کیا ہے اور ان دونوں نے وکیع سے بحوالہ عبدالعزیز روایت کی ہے نسائی بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ عبدالعزیز کے سوا کسی نے اسے عبداللہ بن فضل کی طرف منسوب کیا ہو۔ اور اسماعیل بن امیہ نے اسے مرسل روایت کیا ہے اور امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ سعید بن سالم القداح نے ابن جریج سے ہمیں بتایا کہ حمید اعراج نے مجھ سے مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ تلبیہ میں سے لبیک اللہم لبیک کو واضح کیا کرتے تھے پھر اس نے تلبیہ کا ذکر کیا، راوی بیان کرتا ہے ایک دن کا واقعہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس سے واپس جا رہے تھے تو آپ کو یہ منظر عجیب لگا تو آپ نے تلبیہ میں یہ اضافہ کیا کہ لبیک ان العیش عیش الاخرة۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں میرے خیال میں یہ عرفہ کا دن تھا اور یہ ابن طریق سے مرسل ہے۔

اور حافظ ابو بکر تبعی بیان کرتے ہیں کہ حافظ عبداللہ نے ہمیں بتایا کہ مجھے ابواحمد یوسف بن محمد بن محمد بن یوسف نے بتایا کہ ہم سے محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے بیان کیا کہ ہم سے نصر بن علی الجعفی نے بیان کیا کہ ہم سے محبوب بن الحسن بن ابی اسحاق نے بیان کیا کہ ہم سے داؤد نے عکرمہ سے بحوالہ حضرت ابن عباس بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفات میں خطبہ دیا اور جب آپ نے لبیک اللہم لبیک کہا تو فرمایا ان الخیر خیر الاخرة، یہ اسناد غریب ہے اور اس کا اسناد سنن کی شرط کے مطابق ہے لیکن انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ روح نے ہم سے بیان کیا کہ اسامہ بن زید نے ہم سے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی لبید نے المطلب بن عبید اللہ بن حطب سے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے تلبیہ میں آواز بلند کرنے کا حکم دیا ہے پس بیشک یہ شعاع حج میں سے ہے احمد اس کے بیان میں متفرد ہیں۔

اور تابعی نے اسے حاکم سے عن الاصم عن محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم عن وہب عن اسامہ بن زید عن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان وعبد اللہ بن ابی لبید عن المطلب عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ ﷺ روایت کیا ہے اور پھر اس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ ثوری نے ہمیں ابن ابی لبید سے عن المطلب بن حطب عن خلا عن السائب عن زید بن خالد خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور فرمایا، اپنے اصحاب کو تلبیہ میں اپنی آوازوں کو بلند کرنے کا حکم دیں پس بیشک یہ شعاع حج میں سے ہیں۔

اور اسی طرح ابن ماجہ نے اسے عن علی بن محمد عن وکیع عن ثوری روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح اسے شعبہ اور موسیٰ بن عقبہ نے

عبداللہ بن ابی لبید سے روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ وکیع نے ہم سے بیان کیا کہ سلیمان نے ہم سے عن عبداللہ بن ابی لبید عن المظب بن عبداللہ بن حطب عن خلاد بن السائب عن زید بن خالد الجعفی بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد ﷺ اپنے اصحاب کو حکم دیں اور وہ تلبیہ میں اپنی آوازوں کو بلند کریں پس بیشک یہ حج کا شعار ہے۔

ہمارے شیخ ابوالحجاج المزنی نے اپنی کتاب الاطراف میں بیان کیا ہے کہ معاویہ نے اسے ہشام اور قبیصہ سے عن سفیان ثوری عن عبداللہ بن ابی لبید عن المظب عن خلاد بن السائب عن ابیہ عن زید بن خالد روایت کیا ہے۔ اور احمد بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے ہم سے عن عبداللہ بن ابی بکر عن عبدالملک بن ابی بکر بن الحارث بن ہشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن ابیہ عن النبی ﷺ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اپنے اصحاب کو حکم دیجیے اور وہ تلبیہ میں اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ احمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے مالک کے حوالہ سے عبدالرحمن بن مہدی کو سنا یا اور روح نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے مالک بن انس نے عن عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبداللہ بن ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام عن خلاد بن السائب الانصاری عن ابیہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ یا تکبیر میں اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ ان دونوں میں سے ایک آپ کی مراد تھی۔ اور اسی طرح امام شافعی نے اسے مالک سے روایت کیا ہے۔ اور ابوداؤد نے اسے القعنسی سے بحوالہ مالک روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد نے اسے ابن جریج کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابن جریج نے اسے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر کو خط لکھا اور انہیں یہ حدیث یاد دلائی لیکن انہوں نے اس کے اسناد میں ابوخلاد کا ذکر نہیں کیا امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ مالک اور سفیان بن عیینہ کی روایت عن عبداللہ بن ابی بکر عن عبدالملک عن خلاد بن السائب عن ابیہ عن النبی ﷺ صحیح ہے۔ اور امام بخاری وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے۔

اور امام احمد اپنے مسند میں بیان کرتے ہیں کہ السائب بن خلاد بن سوید ابی سہلہ انصاری نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن بکیر نے بیان کیا کہ ابن جریج نے بتایا اور روح نے ہم سے بیان کیا کہ ابن جریج نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر محمد بن عمرو بن حزم کی جانب عن عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام عن خلاد بن السائب الانصاری عن ابیہ السائب ابن خلاد لکھا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کو حکم دیں کہ وہ تلبیہ اور تکبیر میں اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ اور روح نے تلبیہ یا تکبیر کہا ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون تھا اور کہا میں یا عبداللہ یا خلاد تکبیر یا تلبیہ میں تھے۔ یہ اپنے مسند میں احمد کے الفاظ ہیں اور اسی طرح ہمارے شیخ نے الاطراف میں ابن جریج سے مالک اور سفیان بن عیینہ کی روایت کی طرح بیان کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم



باب ۴۴

رسول اللہ ﷺ کے حج کے بارہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو اکیلا ہی ایک مستقل عبادت ہے

ہماری رائے میں اس کا یہاں بیان کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس میں تلبیہ وغیرہ کا ذکر بھی موجود ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور آئندہ بھی بیان ہوگا پس ہم اس کے طرق اور الفاظ کو بیان کریں گے۔ پھر اس مفہوم میں وارد ہونے والی احادیث کے شواہد سے اس کا پیچھا کریں گے۔ وباللہ المستعان

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے ہم سے بیان کیا کہ جعفر بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ بنی سلمہ کے ہاں فروکش تھے کہ ہم ان کے پاس آئے اور ہم نے ان سے رسول اللہ ﷺ کے حج کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نو سال مدینہ میں رہے اور آپ نے حج نہیں کیا، پھر لوگوں میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اس سال حج کرنے والے ہیں، راوی بیان کرتا ہے کہ مدینہ میں بہت سے آدمی آگے اور وہ سب کے سب رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کے خواہاں تھے۔ اور جو فعل آپ کرنا چاہتے تھے وہ بھی وہی کرنا چاہتے تھے، پس رسول اللہ ﷺ ۲۵ ذوالقعدہ کو نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے اور جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو حضرت اسماء بنت عمیس نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا اور رسول اللہ ﷺ کو پیغام بھیجا کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا غسل کر پھر کپڑے کا لٹوٹ باندھ لے، پھر تلبیہ کہہ، پھر رسول کریم ﷺ چل پڑے اور جب آپ کی ناقہ آپ کو لے کر ٹھیک طور سے زمین پر چلنے لگی تو آپ نے بلند آواز سے خدائے واحد کا ذکر کیا:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

اور لوگوں نے بھی تلبیہ کہا اور لوگ ذوالمعارض اور اس قسم کا دوسرا کلام زیادہ پڑھ رہے تھے اور حضرت نبی کریم ﷺ سن رہے تھے مگر آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ میں نے حد نظر تک رسول اللہ ﷺ کے آگے سوار اور پیادہ دیکھے۔ اور یہی صورت حال آپ کے پیچھے اور دائیں بائیں تھی، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان تھے اور آپ پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ اس کی تاویل کو جانتے تھے اور جو کچھ آپ نے کیا ہم نے بھی اس پر عمل کیا پس ہم صرف حج کی نیت سے نکلے، مگر جب ہم کعبہ میں آئے تو رسول اللہ ﷺ نے حجر اسود کو بوسہ دیا پھر آپ نے تین چکر دوڑ کر اور چار چکر چل کر لگائے اور جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ مقام ابراہیم کی طرف گئے اور اس کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی پھر وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّىٰ كِی تَلَاوَتِ كِی۔ احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ یعنی جعفر کہتے ہیں کہ آپ نے ان دونوں رکعتوں میں توحید اور قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ پڑھی پھر حجر اسود کو بوسہ دیا اور صفا کی طرف چلے گئے، پھر إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللّٰهِ كِی

تلاوت کی پھر فرمایا: جس سے اللہ نے آغاز کیا ہے ہم اس سے آغاز کرتے ہیں! پس آپ صفا پر چڑھ گئے اور جب آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھا تو تکبیر کہی پھر کہا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَرُ وَعُدَّةٌ وَنَصْرٌ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

پھر آپ نے دعا کی پھر اسی کلام کو پڑھنے لگے پھر اترے اور جب وادی میں آپ کے پاؤں تک گئے تو آپ دوڑ پڑے اور جب اوپر چڑھے تو چلنے لگے اور جب مروہ کے پاس آئے تو اس پر چڑھ گئے اور بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کر وہی کہا جو صفا پر کہا تھا اور جب مروہ کے پاس آئے آپ کا ساتواں چکر تھا تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! اگر میں اپنے معاملے کو پہلے سے جانتا تو میں پیٹھ نہ پھیرتا اور قربانی کا جانور نہ لاتا اور اسے عمرہ بناتا پس جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ حلال ہو جائے اور اسے عمرہ بنا لے پس جب سب لوگ حلال ہو گئے اور حضرت سراقہ بن مالک بن جشم جو وادی کے نشیب میں تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ حکم اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر تین بار فرمایا ہمیشہ کے لیے پھر فرمایا قیامت کے روز تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت علیؓ یمن سے قربانی کا جانور لے کر آئے اور رسول اللہ ﷺ مدینہ سے قربانی کے جانور میں سے ایک جانور اپنے ساتھ لے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہؓ جی، حضرت حلال ہو گئی ہیں اور انہوں نے رنگ دار کپڑے پہنے ہیں اور سرمہ لگایا ہے حضرت علیؓ نے اس بات سے برا منایا تو حضرت فاطمہ نے کہا مجھے میرے باپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے حضرت علیؓ نے کوفہ میں کہا کہ جعفرؓ کہتے ہیں کہ حضرت جابرؓ نے یہ لفظ نہیں کہے پس میں برا فروختہ ہو کر رسول اللہ ﷺ سے وہ بات پوچھنے لگا جس کا ذکر حضرت فاطمہؓ نے کیا تھا میں نے کہا حضرت فاطمہؓ نے رنگ دار کپڑے پہنے ہیں اور سرمہ لگایا ہے اور کہا ہے کہ مجھے میرے باپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے درست کہا میں نے اسے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علیؓ سے فرمایا تم نے کس چیز کی تکبیر کہی؟ حضرت علیؓ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ! میں وہ تکبیر کہتا ہوں جو تیرے رسول نے کہی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ قربانی کا جانور بھی تھا آپ نے فرمایا تم حلال نہ ہو راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت علیؓ یمن سے قربانی کے جو جانور لائے تھے اور جو رسول اللہ ﷺ لائے تھے وہ ایک سو جانور تھے پس رسول کریم ﷺ نے تریٹھ جانور اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ اور بقیہ جانور حضرت علیؓ نے ذبح کیے اور آپ نے حضرت علیؓ کو اپنے قربانی کے جانور میں شریک کیا پھر آپ نے ہراونٹ سے ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا اور انہیں ایک ہنڈیا میں ڈالا اور دونوں نے ان کا گوشت کھایا اور شور بہنیا پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے یہاں قربانی کی ہے اور منی تمام قربان گاہ ہے اور عرفہ میں کھڑے ہو کر فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں اور عرفہ سب کا سب موقف ہے اور مزدلفہ میں کھڑے ہو کر فرمایا میں یہاں کھڑا ہوا ہوں اور مزدلفہ سب کا سب موقف ہے۔

امام احمد نے اس حدیث کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ مگر اس کے آخری حصے کو بہت مختصر کر دیا ہے اور امام مسلم بن الحجاج نے اسے اپنی صحیح کے مناسک میں ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے حاتم بن اسماعیل سے عن

جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم عن ابہ عن جابر بن عبد اللہ روایت کی ہے اور انہوں نے ہمیں ان متفاوت احسانوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔ جو احمد اور مسلم کے سیاق میں اس قول تک پائے جاتے ہیں جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اس نے درست کہا ہے جب حج فرض ہو گیا تو تو نے کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا! اے اللہ! میں وہ تکبیر کہتا ہوں جو تیرے رسول نے کہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے پاس قربانی کا جانور تھا، آپ نے فرمایا تم حلال نہ ہونا، راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یمن سے قربانی کے جو جانور لائے تھے اور جو رسول اللہ ﷺ نے کر آئے تھے وہ ایک سو تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ سب لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے بال کوائے مگر حضرت نبی کریم ﷺ اور جن کے پاس قربانی کے جانور تھے وہ حلال نہ ہوئے اور جب یوم الترویہ آیا تو وہ منیٰ کی طرف گئے اور انہوں نے حج کی تکبیر کہی اور رسول اللہ ﷺ حوار ہوئے اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اور آپ نے اپنا بالوں والا خیمہ لگانے کا حکم دیا وہ نمبرہ میں آپ کے لیے لگایا گیا اور رسول اللہ ﷺ چل پڑے اور قریش کو یہی شک تھا کہ آپ مشعر الحرام کے پاس کھڑے ہیں جیسا کہ جاہلیت میں قریش کیا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ ﷺ وہاں سے گزر کر عرفہ آ گئے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ نمبرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا ہے، پس وہاں آپ فروکش ہوئے اور جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے قصواء کے لانے کا حکم دیا پس اسے آپ کے لیے لایا گیا تو آپ نے وادی کے نشیب میں آ کر لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا:

”تمہارے خون اور تمہارے اموال تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارا یہ دن اور یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے آگاہ رہو جاہلیت کی ہر چیز اور جاہلیت کے خون بھی میرے پاؤں کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور میں اپنے خونوں میں سے سب سے پہلا خون یعنی ابن ربیعہ بن الحارث کا خون ساقط کرتا ہوں جو بنی سعد میں رہا، کو تلاش کر رہا تھا کہ ہذیل نے اسے قتل کر دیا۔ اور جاہلیت کا سود بھی ساقط ہے اور ہمارے سودوں میں سے سب سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا سود ہے جسے میں مکمل طور پر ساقط کرتا ہوں اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری سے حاصل کیا ہے اور کلام الہی سے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ اسے تمہارا بستر پامال نہ کرنے دیں پس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی ضرب لگاؤ جو سخت تکلیف دہ نہ ہو۔ اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم معروف طریق پر ان کی خوراک اور لباس کا خیال رکھو اور میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اس سے تمسک کرو گے گمراہ نہ ہو گے اور تم میرے بارے میں دریافت کیے جاؤ گے۔ پس تم کیا کہنے والے ہونا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ابلاغ حق کر دیا ہے اور خیر خواہی کر دی ہے۔ اور آپ نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور اس سے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، پھر اذان دی پھر اقامت کہی اور ظہر پڑھی، پھر اقامت کہہ کر عصر پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کچھ نہ پڑھا۔ پھر رسول اللہ ﷺ سوار ہوئے اور موقف میں آ گئے اور آپ کی ناقہ قصواء کا پیٹ چٹانوں سے لگنے لگا اور آپ نے حیل المشاة کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور آپ مسلسل وہاں کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور کچھ زردی بھی چلی گئی

یہاں تک کہ سورج کی نکیہ غائب ہو گئی اور آپ نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو اپنے پیچھے بٹھالیا اور آپ نے قصواء کی مہار کو کھینچا، یہاں تک کہ اس کا سر آپ کی ٹانگ کے اگلے حصہ تک پہنچ گیا اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے فرمانے لگے۔ لوگو! سکون اختیار کرو اور جب کبھی آپ کسی پہاڑ پر آتے تو اس کی لگام کچھ ڈھیلی کر دیتے تاکہ وہ چڑھ جائے حتیٰ کہ آپ مزدلفہ آگئے اور وہاں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کوئی تسبیح نہ کی، پھر رسول اللہ ﷺ لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، پس آپ نے ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ فجر پڑھی، یہاں تک کہ صبح نمایاں ہو گئی، پھر آپ قصواء پر سوار ہو کر مشعر الحرام آئے اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور اللہ کی حمد اور تکبیر کہی اور تسبیح کی اور توحید بیان کی اور آپ مسلسل کھڑے رہے، یہاں تک کہ دن بہت روشن ہو گیا اور طلوع آفتاب سے پہلے کوچ کر گئے اور آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھالیا اور وہ بہت خوبصورت بالوں والا اور سفید رنگ آدمی تھا، پس جب رسول اللہ ﷺ چلے تو دوڑتی ہوئی عورتیں گزریں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو آپ نے اپنا ہاتھ فضل کے چہرے پر رکھ دیا تو اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تو رسول اللہ ﷺ نے دوسری جانب سے اپنا ہاتھ فضل کے چہرے پر رکھ دیا تو اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تو رسول اللہ ﷺ نے دوسری جانب سے اپنا ہاتھ فضل کے چہرے پر رکھ دیا تو وہ دوسری طرف منہ پھیر کر کے دیکھنے لگے یہاں تک کہ آپ بطن حمر میں آگئے تو آپ کچھ تیز چلے، پھر اس درمیانی راستے پر چل پڑے جو حجرہ کبریٰ کو جا نکلتا ہے یہاں تک کہ آپ اس حجرہ پر آئے جو درخت کے پاس ہے اور آپ نے اسے سات سنگریزے مارے اور ہر سنگریزے کے ساتھ آپ تکبیر کہتے تھے اور آپ نے سنگریزے واہی کے نشیب سے مارے پھر قربان گاہ کی طرف واپس آگئے اور آپ نے تریٹھ قربانیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کیں اور بقیہ قربانیوں کو صنعت علیٰ نے ذبح کیا اور آپ نے حضرت علیٰ کو اپنے قربانی کے جانور میں شریک کیا پھر آپ نے ہراونٹ سے ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا، یہ ٹکڑے ایک ہنڈیا میں ڈال کر پکائے گئے اور آپ دونوں نے ان کا گوشت کھایا اور شور بہ پیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ سوار ہوئے اور بہت اللہ کی جانب لوٹ آئے اور مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی اور بنی عبدالمطلب کے پاس آئے اور وہ زمزم پر پانی پلا رہے تھے آپ نے فرمایا بنی عبدالمطلب ڈول نکالو اگر لوگ تمہارے حوض پر غالب نہ آجاتے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول نکالتا، پس انہوں نے آپ کو ڈول پکڑا لیا اور آپ نے اس سے پانی پیا۔

پھر مسلم نے اسے عن عمرو بن حفص عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر روایت کیا ہے اور اسے اسی طرح بیان کیا ہے اور ابوسنان کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ ایک برہنہ گدھے پر اہل جاہلیت کو ہٹاتا تھا۔ اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے یہاں پر قربانی کی ہے اور سارا منیٰ قربان گاہ ہے پس تم اپنی قیام گاہوں میں ذبح کرو اور میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور سارا عرفہ موقف ہے۔ اور میں یہاں پر کھڑا ہوں اور مزدلفہ سارا موقف ہے۔ اور ابوداؤد نے اسے پوری طوالت کے ساتھ انفیسی عثمان بن ابی شیبہ اور ہشام بن عمار اور سلیمان بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے۔ اور بسا اوقات ایک نے دوسرے سے کوئی ایک آدھ بات کا اضافہ کر دیا ہے اور ان چاروں نے حاتم بن اسماعیل سے بحوالہ جعفر مسلم کی روایت کی طرح روایت کی ہے اور ہم نے اس کے بعض اضافوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ابوداؤد نے بھی اسے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ اور نسائی نے عن یعقوب بن ابراہیم عن یحییٰ بن سعید القطان عن جعفر روایت کی ہے اور اسی طرح نسائی نے اسے عن محمد بن اہشی عن یحییٰ بن سعید روایت کیا ہے اور اس کا کچھ حصہ ابراہیم بن ہارون ثنی سے اور کچھ حاتم بن اسماعیل سے روایت کیا ہے۔

ان مقامات کا بیان جن میں آپ نے اپنے حج و عمرہ میں مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے نماز ادا کی

امام بخاری باب المساجد التي على طرق المدينة الموضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم میں بیان کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر المقدمی نے ہم سے بیان کیا کہ فضیل بن سلیمان نے ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ بن عقبہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو راستے میں ان مقامات کو تلاش کرتے دیکھا تاکہ ان میں نماز پڑھیں اور وہ بیان کرتے تھے کہ ان کا باپ ان مقامات پر نماز پڑھتا کرتا تھا اور یہ کہ اس نے حضرت نبی کریم ﷺ کو ان مقامات میں نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نافع نے مجھ سے بحوالہ حضرت ابن عمر بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے اور میں نے سالم سے دریافت کیا تو انہوں نے تمام مقامات کے بارے میں نافع سے موافقت کی صرف اس مسجد کے بارے میں دونوں نے اختلاف کیا جو الروحاء کی بلندی پر ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن اسد نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ نے اسے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے حج اور عمرہ میں ذوالحلیفہ میں ببول کے درخت تلے اترتے تھے جو مسجد ذوالحلیفہ کی جگہ پر تھا۔ اور جب آجہ جنگ سے واپس آتے اور آپ اس راستہ میں ہوتے یا حج اور عمرہ میں ہوتے تو وادی کے نشیب میں اتر جاتے اور جب وادی کے نشیب سے اوپر آتے تو اس کشادہ نالے پر سواریوں کو بٹھاتے جو وادی کے مشرقی کنارے پر ہے اور رات کے پچھلے پہر اتر کر وہاں آرام کرتے۔ پھر صبح ہو جاتی اور مسجد کے پاس کوئی پتھر نہیں اور نہ ہی اس ٹیلے پر کوئی پتھر ہے جس پر مسجد واقع ہے وہاں پر ایک خلیج تھی جس کے پاس حضرت عبداللہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے نشیب میں پست زمین تھی جہاں رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا کرتے تھے پس سیلاب اسے بہا کر کشادہ نالے میں لے گیا حتیٰ کہ وہ جگہ جس میں حضرت عبداللہ نماز پڑھا کرتے تھے دب گئی اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے بتایا کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے وہاں نماز پڑھی جہاں وہ چھوٹی مسجد واقع ہے جو الروحاء کی بلند جگہ والی مسجد کے ورے ہے۔ اور حضرت عبداللہ کو وہ جگہ معلوم تھی جس میں حضرت نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تو مکہ جا رہا ہو اور تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو تیری دائیں جانب راستے کے دائیں کنارے پر وہ جگہ ہے اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر پھینکنے کے برابر فاصلہ ہے اور حضرت ابن عمر اس چھوٹے پہاڑ پر نماز پڑھا کرتے تھے جو الروحاء کے موڑ کے پاس ہے۔ اور جب تو مکہ جا رہا ہو یہ چھوٹا پہاڑ راستے کے کنارے پر اس کے آخری کونہ پر ہے جو اس مسجد کے ورے ہے جو اس کے اور موڑ کے درمیان واقع ہے۔ اب وہاں پر مسجد تعمیر ہو گئی ہے اور حضرت عبداللہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے آپ اسے اپنی بائیں جانب اور پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اور اس سے آگے چھوٹے پہاڑ پر نماز پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ شام کو الروحاء سے واپس آ جاتے تھے نماز ظہر اس جگہ پر آ کر پڑھتے تھے۔ اور جب مکہ سے آتے تو اگر صبح سے ایک گھڑی پہلے یہاں سے گزرتے یا سحر کے آخر میں گزرتے تو یہاں اتر کر آرام

کرتے اور صبح کی نماز وہاں پڑھتے اور حضرت عبداللہ نے انہیں بتایا کہ حضرت نبی کریم ﷺ ایک لمبے درخت کے نیچے اتر کر تھے جو رویشہ سے درے راستے کی دائیں جانب تھا اور راستے کے سامنے ایک جگہ ہموار زمین تھی جو اس ٹیلے تک لے جاتی ہے جو رویشہ سے دو میل دور ہے اور اس کے اوپر کا حصہ ٹوٹ چکا ہے اور اپنے وسط سے دو ہوا ہو چکا ہے اور وہ اپنے پچھلے حصے پر کھڑا ہے اور اس کے پچھلے حصے میں بہت سے ٹیلے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ٹیلے کی ایک طرف عرج کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور جب تو پہاڑ کی طرف جا رہا ہو تو اس مسجد کے پاس دو یا تین قبریں ہیں اور ان قبروں پر بڑے بڑے پتھر چنے ہوئے ہیں جو راستے کی دائیں جانب راستے کے پتھروں کے پاس ہیں، حضرت عبداللہ دو پہر کا سورج ڈھل جانے کے بعد عرج سے ان پتھروں کے درمیان آیا کرتے تھے اور اس مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ نیز حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں یہ بھی بتایا کہ رسول کریم ﷺ راستے کی بائیں جانب لمبے درختوں کے پاس ہر شے سے درے پانی بننے کی جگہ پر اترے اور پانی بننے کی یہ جگہ ہر شے کے گوشوں سے متصل ہے۔ اس کے اور راستے کے درمیان ایک تیر کی انتہائی مار کے قریب فاصلہ ہے اور حضرت عبداللہ راستے کے قریب ترین طویل درخت کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے جو سب درختوں سے زیادہ طویل تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں یہ بھی بتایا کہ رسول کریم ﷺ پانی بننے کی اس جگہ پر فروکش ہوا کرتے تھے جو مدینہ سے پہلے مہر الظہر ان کے قریب ہے۔ آپ جب الصفر ادا تے سے نیچے جاتے تو بائیں جانب سے اس پانی بننے کی جگہ کے نشیب میں اترتے۔ اور جب تو مکہ جا رہا ہو تو رسول اللہ ﷺ کے اترنے کی جگہ اور راستے کے درمیان ایک پتھر کے پھینکنے کے برابر فاصلہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں یہ بھی بتایا کہ حضرت نبی کریم ﷺ ذی طوی میں اتر کر تے تھے اور رات بسر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور مکہ آتے ہوئے آپ صبح کی نماز وہاں پڑھتے۔ اور رسول اللہ ﷺ کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے ٹیلے پر تھی اس مسجد میں نہیں تھی جو آپ نے تعمیر کی بلکہ اس سے نیچے ایک بڑے ٹیلے پر تھی اور حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں یہ بھی بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے پہاڑ کی پست جگہ کی طرف منہ کیا۔ جو کعبہ کی جانب آپ کے اور طویل پہاڑ کے درمیان تھی، پھر آپ نے اس مسجد کو جو آپ نے تعمیر کی وہاں کی مسجد کے بائیں جانب ٹیلے کے ایک طرف رکھا اور رسول کریم ﷺ کے نماز پڑھنے کی جگہ اس کے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی جو ٹیلے سے دس ہاتھ کے قریب ہے، پھر تو اس پہاڑ کی جو تیرے اور کعبہ کے درمیان ہے، دونوں پست زمینوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے طول و سباق میں متفرد ہیں، ہاں مسلم نے اس سے یہ قول جس کے آخر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں بتایا کہ رسول کریم ﷺ ذی طوی میں اتر کر تے تھے آخر تک محمد بن اسحاق السیبی سے عن انس بن عیاض عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر نقل کیا ہے اور امام احمد نے اسے پوری طوالت کے ساتھ عن ابی قرہ موسیٰ بن طارق عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر اسی طرح روایت کیا ہے، آج ان مقامات میں سے بہت سے مقامات یا اکثر مقامات پہچانے نہیں جاتے، کیونکہ آج جو بدو وہاں رہتے ہیں انہوں نے اکثر مقامات کے ناموں کو تبدیل کر دیا ہے اور ان کی اکثریت پر جہل کا غلبہ ہے۔ اور امام بخاری نے صرف اس لیے انہیں اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ شاید کوئی آدمی سوچ بچار غور و فکر اور فراست سے انہیں معلوم کر لے یا شاید امام بخاری کے زمانے میں ان میں سے اکثر مقامات یا بہت سے مقامات معلوم تھے۔



رسول اللہ ﷺ کا مکہ میں داخلہ

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ مسد نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ذی طویٰ میں رات بسر کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر آپ مکہ میں داخل ہو گئے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایسے ہی کیا کرتے تھے اور مسلم نے اسے یحییٰ بن سعید القطان کی حدیث سے روایت کیا ہے اور اس نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز بھی کیا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز بھی پڑھی یا کہا ہے کہ آپ نے صبح کی اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ ابو الربیع الزہرانی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے ایوب سے عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ وہ ذی طویٰ میں رات گزار کر مکہ آیا کرتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی اور وہ غسل کرتے پھر دن کو مکہ میں داخل ہوتے اور وہ حضرت نبی کریم ﷺ کے متعلق بیان کرتے تھے کہ آپ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اور بخاری نے اسے حماد بن زید کی حدیث سے بحوالہ ایوب روایت کیا ہے اور ان دونوں کا ایک اور طریق بھی ہے جو عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حرم کے قریبی علاقے میں داخل ہوتے تو تلبیہ کہنا بند کر دیتے پھر ذی طویٰ میں رات گزار دیتے۔ اور ابھی وہ حدیث بیان ہو چکی ہے جسے بخاری اور مسلم نے موسیٰ بن عقبہ کے طریق سے نافع سے بحوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ذی طویٰ میں رات گزارتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو آپ مکہ آتے ہوئے صبح کی نماز پڑھتے اور رسول اللہ ﷺ کے نماز پڑھنے کی جگہ بڑے ٹیلے کے پاس تھی اور رسول اللہ ﷺ نے اس پہاڑ کی پست زمین کی طرف منہ کیا جو کعبہ کی جانب آپ کے اور طویل پہاڑ کے درمیان واقع ہے پس آپ نے اس مسجد کو جو آپ نے تعمیر کی وہاں کی مسجد کے بائیں جانب ٹیلے کے ایک طرف رکھا اور رسول اللہ ﷺ کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی جو ٹیلے سے دس ہاتھ کے قریب ہے پھر آپ نے اس پہاڑ کی پست زمینوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جو تیرے اور کعبہ کے درمیان ہے اسے صحیحین نے روایت کیا ہے۔

اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ جب اپنے سفر میں ذی طویٰ پہنچے جو مکہ کے قریب ہے اور حرم سے ملحق ہے تو آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دیا اس لیے کہ آپ مقصود تک پہنچ چکے تھے اور آپ نے اس جگہ پر رات بسر کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ نے اس جگہ نماز پڑھی جسے انہوں نے طویل پہاڑ کی پست زمین کے درمیان بیان کیا ہے اور جو شخص ان جگہوں کو جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بصیرت کی آنکھ سے دیکھے گا وہ انہیں اچھی طرح پہچان لے گا اور وہ جگہ اس کے لیے متعین ہو جائے گی جس میں رسول کریم ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔

پھر آپ نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کیا پھر سوار ہوئے اور بطحا کی بلند گھاٹی کی جانب سے دن کے وقت علانیہ مکہ میں داخل ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح اس لیے داخل ہوئے کہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ انہیں دیکھ سکیں۔ اور اسی طرح

آپ فتح مکہ کے روز بھی داخل ہوئے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ امام مالک نافع سے بحوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ بلند گھائی سے مکہ میں داخل ہوئے اور نچلی گھائی سے باہر نکلے۔ بخاری اور مسلم نے اسے صحیحین میں اس کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ان دونوں کا ایک طریق عبید اللہ بن عمر بن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بطحائف کی بلند گھائی سے مکہ میں داخل ہوئے اور نچلی گھائی سے باہر نکلے۔ اور اسی طرح ان دونوں نے ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ کے طریق سے بھی اسے اسی طرح روایت کیا ہے اور جب آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑی اور امام شافعی نے جسے اپنے مسند میں روایت کیا ہے کہ سعید بن سالم نے ہمیں ابن جریج سے بتایا کہ حضرت نبی کریم ﷺ جب بیت اللہ کو دیکھتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے۔ اے اللہ اس گھر کی تشریف و تعظیم اور تکریم و ہیبت میں اضافہ فرما اور جو شخص اس گھر کو شرف و عظمت دے اور جو اس کا حج و عمرہ کرے تو اس کی تشریف و تکریم اور تعظیم اور نیکی میں اضافہ فرما دے۔ حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے اور سفیان ثوری سے عن ابی سعید شامی عن مملوس اس کا ایک مرسل شاہد ہے وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ جب مکہ میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ بلند کرتے اور تکبیر کہتے اور فرماتے اے اللہ! تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے آتی ہے۔ پس اے ہمارے رب! تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اے اللہ! اس گھر کی تشریف و تعظیم، تکریم، ہیبت اور نیکی میں اضافہ کر دے اور جو شخص اس کا حج اور عمرہ کرے اس کی بھی تشریف، تعظیم و تکریم اور نیکی میں اضافہ کر دے۔

امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ سعید بن سالم نے ہمیں ابن جریج سے خبر دی کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ کہ مجھے مقسم سے عن ابن عباس عن النبی ﷺ بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ نماز میں ہاتھ اٹھائے جائیں اور جب آدمی بیت اللہ کو دیکھے اور صفا اور مروہ پر بھی ہاتھ اٹھائے جائیں اور عرفہ کی شام کو اور جمع کے وقت اور دونوں جمروں اور میت پر بھی ہاتھ اٹھائے جائیں۔

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے اسے عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس اور عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ موقوف اور میت کے ذکر کے بغیر حضرت نبی کریم ﷺ تک مرفوع روایت کیا ہے۔ بیہقی کہتے ہیں کہ یہ ابن ابی لیلیٰ قوی نہیں ہے پھر آپ باب بنی شیبہ سے مسجد میں داخل ہوئے حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن جریج سے بحوالہ عطاء بن ابی رباح روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ محرم جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے اور باب بنی مخزوم سے نکل کر صفا کی طرف چلے گئے۔ پھر بیہقی بیان کرتے ہیں یہ حید مرسل ہے۔ اور بیہقی نے باب بنی شیبہ سے مسجد میں داخل ہونے کے استحباب پر استدلال کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے ابوداؤد طیالسی کے طریق سے روایت کی ہے کہ ہم سے حماد بن سلمہ اور قیس بن سلام نے بیان کیا اور ان سب نے عن سماک بن حرب عن خالد بن عمرہ عن علی بن رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب جرہم کے بعد بیت اللہ منہدم ہو گیا تو قریش نے اسے تعمیر کیا اور جب انہوں نے حجر اسود کو رکھنا چاہا تو آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ اسے کون رکھے پس انہوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہی اسے رکھے گا، تو رسول اللہ ﷺ باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے اور آپ نے حجر اسود کو ایک کپڑے میں رکھنے کا حکم دیا، پس حجر اسود کو اس کے وسط میں رکھ دیا گیا اور آپ نے ہر قبیلے کو حکم دیا کہ وہ کپڑے کا ایک حصہ پکڑے پس

انہوں نے اسے اٹھایا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے پکڑ کر رکھ دیا، اور ہم نے اس واقعہ کو بعثت سے قبل تعمیر کعبہ میں مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ اور باب بنی شیبہ سے داخل ہونے کے انتخاب پر جو استدلال کیا گیا ہے اس میں اعتراض پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم
آپ کے طواف کا بیان:

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ اصح بن الفرج نے ابن وہب سے ہمیں بتایا کہ عمرو بن محمد نے مجھے محمد بن عبد الرحمن سے خبر دی وہ کہتے ہیں میں نے عروہ سے ذکر کیا تو اس نے بیان کیا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول کریم ﷺ جب آئے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا پھر طواف کیا پھر عمرہ نہ تھا پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی آپ کی طرح حج کیا پھر میں نے ابوالزبیر کے ساتھ حج کیا تو سب سے پہلے آپ نے طواف کیا پھر میں نے مہاجرین اور انصار کو طواف کرتے دیکھا۔ اور میری والدہ نے مجھے بتایا کہ اس نے اور اس کی بہن نے اور زبیر نے اور فلاں فلاں نے عمرہ کی تکبیر کہی اور جب انہوں نے رکن کو چھوا تو حلال ہو گئے یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور انہوں نے اسے ایک دوسری جگہ پر احمد بن حنبلہ اور مسلم سے بحوالہ ہارون بن سعید روایت کیا ہے اور ان تینوں نے اسے وہب سے روایت کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول کہ پھر عمرہ نہ تھا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ رسول کریم ﷺ دونوں عبادتوں کے درمیان حلال نہیں ہوئے اور سب سے پہلے آپ نے طواف سے قبل حجر اسود کو بوسہ دیا۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ میں آئے تو آپ نے رکن کو بوسہ دیا اور تین چکر دوڑ کر اور چار چکر چل کر لگائے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ محمد بن کثیر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے عن اعمش عن ابراہیم عن عابس بن ربیعہ عن عمر بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور ابراہیم نے بوسہ دیا اور فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور مسلم نے اسے یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، زبیر بن حرب اور ابن ابی نمیر سے روایت کیا ہے اور ان سب نے ابو معاویہ سے عن اعمش عن ابراہیم عن عابس بن ربیعہ روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عبید اور ابو معاویہ نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے ابراہیم بن عابس بن ربیعہ سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کے پاس آتے دیکھا آپ نے فرمایا تم بخدا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا پھر آپ نے قریب ہو کر اسے بوسہ دیا۔ یہ سیاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے جو کہا سو کہا پھر اس کے بعد صاحبان صحیحین کے برخلاف اسے بوسہ دیا۔ واللہ اعلم

اور احمد بیان کرتے ہیں کہ کعب اور یحییٰ نے ہم سے بیان کیا اور یہ الفاظ کعب کے ہیں جو ہشام اور اس کے باپ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب حجر اسود کے پاس آئے اور فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ

نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیا ہے تو میں نے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا راوی بیان کرتا ہے پھر آپ نے اسے بوسہ دیا یہ حدیث عروہ بن زبیر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان منقطع ہے۔ اور امام بخاری اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ سعید بن ابی مریم نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن جعفر بن ابی کثیر نے ہم سے بیان کیا کہ زید بن اسلم نے مجھے اپنے باپ سے خبر دی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رکن سے کہا۔ قسم بخدا! مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا پھر آپ نے اسے بوسہ دیا پھر فرمایا ہمیں دوڑ سے کیا واسطہ یہ دوڑ ہم نے مشرکین کو دکھائی تھی اور اب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے پھر فرمایا یہ کام رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے ہم اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوسہ دینا بات کرنے سے پیچھے ہوا ہے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ احمد بن سنان نے ہم سے بیان کیا کہ یزید بن ہارون نے ہم سے بیان کیا کہ ورقاء نے ہم سے بیان کیا کہ زید بن اسلم نے اپنے باپ سے ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔

اور مسلم بن الحجاج بیان کرتے ہیں کہ حرمہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہ مجھے یونس ابن یزید ابلی اور عمرو بن دینار نے خبر دی اور ہم سے ہارون بن سعید ابلی نے بیان کیا کہ ابن وہب نے ہمیں بتایا کہ مجھے عمرو بن شہاب سے بحوالہ سالم خبر دی کہ اس کے باپ نے اسے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر فرمایا قسم بخدا مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور ہارون نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ عمرو نے کہا کہ مجھے زید بن اسلم نے اپنے باپ اسلم سے اسی طرح روایت بتائی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ بوسہ دینا بات ہے پہلے ہوا۔ واللہ اعلم

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ زید بن عبد اللہ نے نافع سے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ امام احمد نے اسے ایسے ہی روایت کیا ہے اور مسلم نے اپنی صحیح میں اسے محمد بن ابی بکر المقدمی سے عن حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ پھر مسلم بیان کرتے ہیں کہ خلف بن ہشام المقدمی ابو کامل اور قتیبہ نے ہم سے بیان کیا اور ان سب نے حماد سے روایت کی ہے خلف بیان کرتا ہے کہ حماد بن زید نے ہم سے عن عاصم الاحول عن عبد اللہ بن سرجس روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح احمد نے اسے عن غندر عن شعبہ عن عاصم الاحول روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی نے ہم سے عن سفیان عن ابراہیم بن عبد الاعلیٰ عن سوید بن غفلہ بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے اور فرماتے دیکھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان لیکن میں نے ابوالقاسم کو تیرا احترام کرتے دیکھا ہے۔ پھر

احمد نے اسے وکیع سے بحوالہ سفیان ثوری روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے اسے بوسہ دیا اور اس سے چٹ گئے اور اسی طرح مسلم نے اسے عبدالرحمن بن مہدی کی حدیث سے بلا اضافہ روایت کیا ہے اور وکیع کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس سے چٹ گئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو تیرا احترام کرتے دیکھا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عفان نے ہم سے بیان کیا کہ وہب نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن عثمان بن خصم نے شعیب بن جبیر سے بحوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما رکن پر جھکے اور فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے اور اگر میں نے اپنے حبیب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا (اور رسول اللہ ﷺ کی ذات میں تمہارے لیے نیک نمونہ ہے) اور یہ اسناد جدید اور قوی ہے لیکن انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔

اور ابوداؤد طیالسی بیان کرتے ہیں کہ جعفر بن عثمان قرظی مکی نے ہم سے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد بن عباد بن جعفر کو حجر اسود کو بوسہ دیتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا۔ پھر بیان کرتا ہے میں نے تیرے ماموں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے اسے بوسہ دیا اور اس پر سجدہ کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ آپ نے اسے بوسہ دیا اور اس پر سجدہ کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو اسے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں اسے بوسہ نہ دیتا یہ اسناد بھی حسن ہے۔ مگر اسے صرف نسائی نے عن عمرو بن عثمان عن الولید بن مسلم عن حنظلہ بن ابی سفیان عن طاؤس عن ابن عباس عن عمر روایت کیا ہے اور اسے ابی طرح بیان کیا ہے۔ اور یہ حدیث امام احمد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح یعلیٰ بن امیہ کی حدیث سے روایت کی ہے اور ابو یعلیٰ بن امیہ نے اسے اپنے مسند میں عن ہشام عن حشیش بن الاشقر عن عمر بیان کیا ہے۔ اور ہم نے یہ سب کچھ اپنے الفاظ و طرق اور اس کے اسناد و علل کے ساتھ اس کتاب میں درج کر دیا ہے جسے ہم نے مسند امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما میں جمع کیا ہے۔

بالجملہ یہ حدیث متعدد طرق سے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جو اس شان کے کثیر ائمہ کے نزدیک قطعیت کا فائدہ دیتے ہیں لیکن ان روایات میں یہ بات موجود نہیں کہ آپ نے حجر اسود پر سجدہ کیا، اسے میں نے صرف ابوداؤد طیالسی کی روایت میں پایا ہے جو جعفر بن عثمان سے مروی ہے لیکن وہ مرفوع ہونے میں صریح نہیں، لیکن حافظ بیہقی نے اسے ابو عاصم النبیل کے طریق سے روایت کیا ہے کہ جعفر بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد بن عباد بن جعفر کو دیکھا کہ اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس پر سجدہ کیا۔ پھر اس نے کہا میں نے تیرے ماموں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے اسے بوسہ دیا اور اس پر سجدہ کیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ آپ نے اسے بوسہ دیا اور اس پر سجدہ کیا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح کرتے دیکھا تو میں نے ایسا کیا۔

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابوالحسن علی بن احمد بن عبدان نے ہمیں خبر دی کہ طبرانی نے ہمیں بتایا کہ ابوالزبایع نے ہمیں خبر دی کہ یحییٰ بن سلیمان نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن یمان نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن ابی حسین نے عکرمہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجر اسود پر سجدہ کرتے دیکھا۔ اور طبرانی کہتے ہیں

کہ یحییٰ بن یمان کے سوا کسی نے روایت نہیں کیا۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ مسدد نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے زبیر ابن حربی سے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسے بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا اگر مجھ پر بھیڑ ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا دائیں جانب کو اختیار کر لو میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسے بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ مسلم کو چھوڑ کر بخاری اس کے بیان میں متفرد ہیں۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ مسدد نے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ نے ہم سے عبید اللہ سے عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کو ان دور کنوں کو بوسہ دیتے دیکھا ہے میں نے فراخی اور تنگی میں ان دونوں کو بوسہ دینا ترک نہیں کیا، میں نے نافع سے پوچھا کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں رکنوں کے درمیان چلتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا صرف اس لیے چلتے تھے کہ اسے بوسہ دینا آسان ہو۔

اور ابو داؤد اور نسائی نے یحییٰ بن سعید القطان کی حدیث سے عبدالعزیز بن ابی داؤد سے عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ دینا نہ چھوڑتے تھے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابو الولید نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے لیث بن ابی شہاب سے سالم اور اس کے باپ سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رکنین یمانیین کے سوا بیت اللہ میں سے اور کسی چیز کو رسول اللہ ﷺ کو بوسہ دیتے نہیں دیکھا۔ اور مسلم نے اسے یحییٰ بن یحییٰ اور قتیبہ سے بحوالہ لیث بن سعد روایت کیا ہے۔ اور ان کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو دونوں شامی رکنوں کو بوسہ ترک کرتے نہیں دیکھا، مگر وہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل نہیں ہیں۔ اور امام بخاری اور محمد بن ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ ابن جریج نے ہمیں خبر دی کہ مجھے عمرو بن دینار نے ابوالشعشاء سے بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بیت اللہ میں سے کسی چیز سے بچے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما رکان کو بوسہ دیا کرتے تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ وہ ان دور کنوں کو بوسہ دیتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما نے انہیں کہا کہ بیت اللہ میں سے کوئی چیز چھوڑنے والی نہیں اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما ان سب کو بوسہ دیا کرتے تھے بخاری اس حدیث کی روایت میں متفرد ہیں۔ اور مسلم اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں کہ ابوالظاہر نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن الحارث نے خبر دی کہ قتادہ بن دماغ نے اس سے بیان کیا کہ ابوالطفیل البکری نے اس سے بیان کیا کہ اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بیان کرتے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دونوں یمانی رکنوں کے سوا کسی چیز کو بوسہ دیتے نہیں دیکھا، مسلم اس کی روایت میں متفرد ہیں اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو روایت کی ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بیان کے موافق ہے کہ وہ دونوں شامی رکنوں کو بوسہ نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل نہیں ہوئے اس لیے کہ قریش کا خرچ تھڑ گیا تھا۔ اور انہوں نے بیت اللہ کو بناتے وقت حجر اسود کو اس سے نکال دیا تھا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور حضرت نبی کریم ﷺ چاہتے تھے کہ اگر وہ اس کو بنا سکتے تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کرتے، لیکن چونکہ لوگ نئے نئے جاہلیت سے نکلے تھے اس لیے آپ نے خدشہ محسوس کیا کہ ان

کہا کہ اس سے برا منائیں گے۔ اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی امارت کا زمانہ آیا تو آپ نے کعبہ کو گرا دیا اور اسے اپنی نالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت الصديق خدیجہ کے مشورہ کے مطابق تعمیر کیا۔ اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تمام ارکان کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما ان سب کو بوسہ دیتے تھے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور قسم بخدا وہ اس بارے میں وہم میں مبتلا تھے۔ اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ مسد نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ نے مہد العزیز بن ابی داؤد سے سننا نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ:

”رسول اللہ ﷺ ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ دینا نہیں چھوڑتے تھے۔“

اور نسائی نے اسے محمد بن الحنفی سے بحوالہ یحییٰ روایت کیا ہے اور نسائی بیان کرتے ہیں کہ یعقوب بن ابراہیم الدورقی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید القطان نے ابن جریج سے عن یحییٰ بن عبید عن ابیہ عن عبداللہ بن السائب بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا اتسافی الدنيا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار پڑھتے سنا۔ اور ابو داؤد نے اسے عن مسد عن عیسیٰ بن یونس عن ابن جریج بیان کیا ہے۔ اور ترمذی بیان کرتے ہیں کہ محمود بن غیلان نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن آدم نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے جعفر بن محمد سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مکہ آئے تو مسجد میں داخل ہو کر حجر اسود کو بوسہ دیا پھر اس کی دائیں جانب گئے اور تین چکر دوڑ کر اور چار چکر چلے گئے۔ پھر مقام ابراہیم پر آئے اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ کی تلاوت کی اور دو رکعتیں پڑھیں اور مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا پھر دو رکعتوں کے بعد آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا پھر صفا کی طرف چلے گئے اور ان العذیفا و المروءة من شعائر اللہ کی تلاوت کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے اور اسی طرح اسے اسحاق بن راہویہ نے یحییٰ بن آدم سے روایت کیا ہے اور طبرانی نے اسے نسائی وغیرہ سے عبدالاعلیٰ بن واصل سے بحوالہ یحییٰ بن آدم روایت کیا ہے۔

اپنے طواف میں حضور ﷺ کے رمل واضطباع کا بیان:

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے اصبح بن الفرج نے بیان کیا کہ مجھے ابن وہب نے عن یونس عن ابن شہاب عن سالم عن ابیہ بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مکہ آتے وقت دیکھا آپ جب رکن اسود کو بوسہ دیتے تو سب سے پہلے سات چکروں میں سے تین چکر دوڑ کر لگاتے۔ اور مسلم نے اسے ابو الظاہر بن السرح اور حرمہ سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے اسے ابن وہب سے روایت کیا ہے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہ ہم سے شریح بن نعمان نے بیان کیا کہ ہم سے فلیح نے نافع سے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے حج اور عمرہ میں تین

① رمل ایسی دوڑ کو کہتے ہیں جس میں دوڑنے والا اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑتا ہے۔ اور اضطباع بازو ننگا کر کے چادر کو دائیں نفل کے نیچے سے

لا کر بائیں کندھے پر ڈالنے کو کہتے ہیں۔ مترجم

چکر دوڑ کر اور چار چل کر لگائے اور لیث نے اس کی متابعت کی ہے اور کثیر بن فرقہ نے عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا کہ ہم سے ابو حمزہ انس بن عیاض نے بیان کیا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے بحوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب حج اور عمرہ میں طواف کرتے تو سب سے پہلے تین چکر دوڑ کر لگاتے اور چار چکر چل کر لگاتے پھر دو بدے کرتے پھر صفا اور مروہ کے درمیان پھر لگاتے۔

اور مسلم نے اسے مسلم بن عقبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا کہ ہم سے انس نے عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تو آپ تین چکر دوڑ کر اور چار چکر چل کر لگاتے اور جب صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے تو پانی پینے کی جگہ کے نشیب میں دوڑتے۔

اور مسلم نے اسے عبید اللہ بن عمر کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر بن ابان الجعفی نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں ابن المبارک نے خبر دی کہ عبید اللہ نے ہمیں نافع سے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے حجر اسود سے حجر اسود تک تین چکر دوڑ کر اور چار چکر چل کر لگائے پھر انہوں نے اسے سلیم بن اخضر کی حدیث سے بحوالہ عبید اللہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور امام مسلم اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابوطاہر نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد اللہ بن وہب نے بیان کیا کہ مجھے مالک اور ابن جریج نے عن جعفر بن محمد بن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے حجر اسود سے حجر اسود تک تین چکر دوڑ کر لگائے۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دوڑ لگانے اور کندھوں کے ننگا کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوط کر دیا ہے اور کفر کو دور کر دیا ہے اس لیے باوجود ہم اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے جسے ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا کرتے تھے احمد ابو داؤد ابن ماجہ اور بیہقی نے اسے ہشام بن عبد کی حدیث سے عن زید بن اسلم عن ابیہ جابر بن عبد اللہ روایت کیا ہے اور یہ سب کچھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے تابعین کی روایت میں ہے کہ مرسل سنت نہیں ہوتی اس لیے کہ رسول کریم ﷺ نے یہ فعل اس وقت کیا جب آپ اور آپ کے اصحاب عمرۃ القضا میں چوتھے دن کی صبح کو آئے اور مشرکین نے کہا کہ تمہارے پاس وہ وفد آ رہا ہے جسے یشرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ تو رسول کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ تین چکر دوڑ کر لگائیں اور رکین کے درمیان چلیں اور آپ نے صرف رحم کے خوف سے ان کو تمام چکر دوڑ کر لگانے سے نہیں روکا۔ اور یہ بات صحیحین میں آپ سے ثابت ہے اور اس کی تصریح آپ نے ایک عذر کے باعث کی جس کا سبب صحیح مسلم میں بہت واضح ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جتۃ الوداع میں دوڑ کے وقوع کے منکر ہیں۔ اور نقل ثابت سے صحیح طور پر ثابت ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے بلکہ اس میں حجر اسود سے حجر اسود تک دوڑ کی تکمیل میں اضافہ ہے۔ اور آپ اس سبب کے زائل ہو جانے کی وجہ سے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے رکینین کے درمیان نہیں چلے اور وہ سبب کمزوری تھا۔ اور حدیث صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے عمرۃ الجعرانہ میں رطل واضطباع کیا اور یہ ان کا رد ہے کیونکہ عمرۃ الجعرانہ میں کوئی خوف باقی نہ تھا اس لیے کہ وہ فتح مکہ کے بعد ہوا تھا (جیسے کو پہلے بیان ہو چکا ہے) اسے حماد بن سلمہ نے عن عبد اللہ بن عثمان بن خثیم عن سعید بن جبیر عن

ابن عباس روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے الحج انہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور بیت اللہ کے گرد دوڑ لگائی اور اضطباع کیا اور اپنی چادروں کو اپنی بغلوں کے نیچے اور اپنے کندھوں پر رکھا۔ اور ابو داؤد نے اسے حماد کی حدیث سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور عبد اللہ بن حنیف کی حدیث سے ابو الطفیل سے بحوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایسے ہی روایت کیا ہے اور جبہ الوداع میں اضطباع کے متعلق قبصہ اور الفریابی نے عن سفیان ثوری عن ابن جریج عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ عن یعلیٰ بن امیہ عن یعلیٰ بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اضطباعی صورت میں بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا ترمذی نے اسے ثوری کی حدیث سے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے عن ابن جریج عن ابی یعلیٰ عن ابیہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سبز چادر کے ساتھ اضطباع کر کے طواف کیا۔ اور امام احمد نے ایسے ہی اسے عن وکیع عن ثوری عن ابن جریج عن ابی یعلیٰ عن ابیہ روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی سبز چادر کے ساتھ اضطباع کر کے بیت اللہ کا طواف کیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی متقدم حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ کے پاس آئے تو آپ نے رکن کو بوسہ دیا اور تین چکر دوڑ کر اور چار چکر چل کر لگائے۔ پھر آپ مقام ابراہیم میں آئے اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ کی آیت پڑھی اور مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔ اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھیں اور ان میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایہا الکفرون کی تلاوت کی۔

آپ اس طواف میں سوار تھے یا پیدل:

اس کے جواب میں دو نقلیں آئی ہیں جن کے اختلافی متعارض ہونے کا گمان کیا جاتا ہے اور ہم ان کے درمیان تطبیق دینے اور ان کے اشتباہ کو دور کرنے کی طرف اشارہ کریں گے۔ وباللہ التوفیق

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ احمد بن صالح اور یحییٰ بن سلیمان نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہ یونس نے ابن شہاب سے عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں اپنے اونٹ پر طواف کیا۔ آپ کھوٹی کے ساتھ رکن کو بوسہ دیتے تھے۔ اور ترمذی کے سوا اسے ایک جماعت نے ابن وہب سے کئی طرق سے روایت کیا ہے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ الدر اور ددی نے زہری کے بھتیجے سے اس کے بچا سے اس کی متابعت کی ہے اور یہ متابعت نہایت غریب ہے اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ محمد بن المثنیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا کہ ہم سے خالد الخداء نے عکرمہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا اور جب آپ رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے۔ اور ترمذی نے اسے عبد الوہاب بن عبد الحمید ثقفی اور عبد الوارث کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے خالد بن مہران الخداء سے عکرمہ سے بحوالہ حضرت ابن عباس روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی اونٹنی پر طواف کیا اور جب آپ رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے خالد بن عبد اللہ نے عن خالد الخداء عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا اور

جب آب رکن کے پاس آتے تو ایک چیز کے ساتھ جو آپ کے پاس تھے اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے۔ ابراہیم بن طہمان نے خالد الخداع سے اس کی متابعت کی ہے اور اس نے اس تعلق کو اس جگہ کتاب الطواف میں عن بعد اللہ بن محمد عن ابی عامر عن ابراہیم بن طہمان سے منبوط کیا ہے اور مسلم نے الحکم بن مویس سے عن شعیب بن اسحاق عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ بنی عن روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں کعبہ کے گرد اونٹ پر طواف کیا اور آپ اس ناپسندیدگی کی وجہ سے رکن کو بوسہ دیتے کہ رک جائیں گے، پس یہ اس امر کا اثبات ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر طواف کیا۔ لیکن حجۃ الوداع میں تین طواف تھے پہلا طواف القدم دوسرا طواف الافاعہ یہ طواف فرض ہے اور یوم النحر کو ہوتا ہے اور تیسرا طواف الوداع اور شاید آپ آخری دو طوافوں میں سے ایک میں سوار تھے یا دونوں ہی میں سوار تھے۔ اور پہلے طواف یعنی طواف القدم میں آپ پیدل تھے اور امام شافعی نے اس سب پر نص پیش کی ہے۔ واللہ اعلم

اور اس کی دلیل وہ قول ہے جسے حافظ ابو بکر بیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبیر میں بیان کیا ہے کہ حافظ ابو عبید اللہ نے ہمیں خبر دی کہ مجھے ابو بکر محمد بن المؤمن بن الحسن بن عیسیٰ نے بتایا کہ ہم سے فضل بن محمد بن المسیب نے بیان کیا کہ ہم سے نعیم بن حناد نے بیان کیا کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے محمد بن اسحاق یعنی ابن یسار رحمہ اللہ سے عن ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین عن جابر بن عبد اللہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چاشت کے بلند ہونے کے وقت مکہ میں داخل ہوئے پس حضرت نبی کریم ﷺ مسجد کے دروازے پر آئے اور اپنی اونٹنی کو بٹھایا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور حجر اسود سے آغاز کیا اور اسے بوسہ دیا اور گریہ سے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پھر آپ نے تین چکر دوڑ کر اور چار چل کر لگائے یہاں تک کہ فارغ ہو گئے، پس جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا یہ اسناد جید ہے۔

اور ابو داؤد نے جو روایت ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا ہم سے خالد بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن ابی زیاد نے عکرمہ سے بحوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ بیمار کی حالت میں مکہ آئے اور آپ نے اپنی اونٹنی پر طواف کیا پس جب آپ رکن کے پاس آئے تو آپ نے اسے کھوٹی سے بوسہ دیا اور جب آپ اپنے طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے اونٹنی کو بٹھا کر دو رکعت نماز پڑھی یزید بن ابی زیاد اس کی روایت میں متفرد ہے اور وہ ضعیف ہے، پھر اس نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ آپ حجۃ الوداع میں تھے یا حجۃ الوداع کے طواف اول میں تھے۔ پھر مسلم کے نزدیک ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث صحیح میں آپ سے بیان نہیں کیا اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے ضعف کی وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ آنحضرت ﷺ اپنے طواف میں سوار تھے۔ انہوں نے صرف لوگوں کی کثرت اور آپ کے پاس ان کے آنے کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ اپنے سامنے ان کے چلنے کو پسند نہیں کرتے تھے جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آئے گا۔ ان شاء اللہ

پھر ابن اسحاق نے اپنی روایت میں طواف اور دو رکعت کی ادائیگی کے بعد جس دوسرے بوسے کا ذکر کیا ہے وہ بھی اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس میں آپ نے طواف کی دو رکعت نماز کے ذکر کے بعد بیان کیا ہے کہ پھر آپ رکن کے پاس واپس آئے اور اسے بوسہ دیا اور مسلم بن الحجاج نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ ہم سے ابو بکر بن

شیبہ اور ابن نمیر نے ابو خالد سے بیان کیا، ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو خالد ان حجر نے ہم سے عبید اللہ سے بحوالہ نافع بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو بوسہ دیتے دیکھا پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا وہ بیان کرتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے دیکھا ہے میں نے اسے ترک نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کو کسی طواف میں یا آخری بوسے میں ایسا کرتے دیکھا ہو۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے یا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی کمزوری کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکے ہوں یا اس لیے کہ آپ سے کوئی دوسرا آدمی نکلانہ جائے اور آپ اس سے تکلیف اٹھائیں۔ اور رسول کریم ﷺ نے آپ کے والد سے جو بات فرمائی اسے احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے کہ وکیع نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے ابی یعفر العبدی سے بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حجاج کی امارت کے زمانے میں ایک بوڑھے آدمی کو حضرت عمر بن الخطاب کے حوالے سے بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا: اے عمر! آپ ایک طاقتور آدمی ہیں حجر اسود پر مزاحمت کر کے کمزور کو تکلیف نہ دیجیے، اگر آپ خلوت محسوس کریں تو اسے بوسہ دیں ورنہ اس کی طرف منہ کریں اور تکبیر کہیں۔ یہ اسناد جدید ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت کرنے والا آدمی مبہم ہے جس کا نام بیان نہیں کیا گیا اور ظاہر ہے کہ وہ بڑا ثقہ آدمی ہے۔ اور امام شافعی نے اسے سفیان بن عیینہ بحوالہ ابی یعفر العبدی روایت کیا ہے اور اس کا نام و قد ان ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے خزاعہ کے ایک آدمی سے اس وقت یہ بات سنی جب حضرت ابن زبیر قتل ہوئے اور آپ مکہ کے امیر تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابی حفص! آپ ایک طاقتور آدمی ہیں رکن پر مزاحمت نہ کیجیے اس طرح آپ کمزور آدمی کو تکلیف دیں گے، لیکن اگر آپ کو خلوت میسر آئے تو اسے بوسہ دیجیے وگرنہ تکبیر کہہ کر چلتے بیٹے سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عبدالرحمن بن الحارث تھے جنہیں حجاج نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے قتل ہونے پر مکہ سے واپس آتے وقت وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا، میں کہتا ہوں کہ یہ عبدالرحمن بڑے نجیب اور بڑی قدر و منزلت کے انسان تھے اور یہ ان چار آدمیوں میں سے ایک تھے جنہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان مصاحف کی کتابت پر مقرر کیا تھا جنہیں آپ نے آفاق میں بھیجا تھا اور آپ نے جو کچھ کیا اس پر اجماع و اتفاق ہو چکا ہے۔

صفا اور مروہ کے درمیان آپ کے طواف کا بیان:

مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی متقدم الذکر طویل حدیث میں آپ کے بیت اللہ کے سات چکر لگانے اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز ادا کرنے کے ذکر کے بعد بیان کیا ہے کہ پھر آپ نے رکن کی طرف لوٹ کر اسے بوسہ دیا پھر دروازے سے صفا کی طرف چلے گئے اور جب آپ صفا کے قریب آئے تو آپ نے ان الصفا والمرۃ من شعائر اللہ کی تلاوت کی اور فرمایا میں اس سے آغاز کرتا ہوں جس سے اللہ نے آغاز کیا ہے۔ پس آپ نے صفا سے آغاز کیا اور اس پر چڑھ گئے اور بیت اللہ کو دیکھا اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور اللہ کی توحید و تکبیر بیان کی اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد و هو علی کل شیء قذیر لا الہ الا اللہ انجز وعدہ و نصر عبدہ و حزم الاحزاب وحدہ، پھر اس کے درمیان دعا کی اور تین بار اسی طرح کہا، پھر آپ اتر آئے اور جب وادی میں آپ کے قدم ٹک گئے تو آپ دوڑ پڑے اور جب آپ

چڑھنے لگے تو چل پڑے حتیٰ کہ آپ مردہ کے پاس آگئے اور اس پر چڑھ گئے اور بیت اللہ کو دیکھ کر مردہ پر بھی وہی کچھ کہا جو صفار کہا تھا۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عمر بن ہارون بنی ابو جہش نے بیان کیا کہ ہم سے ابن بروج نے بنی لعلی بن امیہ کے ایک آدمی نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو صفا اور مردہ کے درمیان اپنی نجرانی چادر میں حالت اضطباع میں دیکھا۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یونس نے بیان کیا کہ ہم سے عبد اللہ بن المؤمل نے عمر بن عبد الرحمن سے بیان کیا کہ ہم سے عطیہ نے حبیبہ بنت تجرأة سے بیان کیا وہ کہتی ہیں کہ میں قریش کی مستورات کے ساتھ حصین کے گھر میں گئی اور حضرت نبی کریم ﷺ صفا اور مردہ کے درمیان طواف کر رہے تھے وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ دوڑ رہے تھے اور دوڑ کی شدت سے اپنا تہبند گھما رہے تھے اور اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے دوڑو بے شک اللہ تعالیٰ نے دوڑ کو تم پر فرض کیا ہے۔ اور اسی طرح احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے شریح نے بیان کیا کہ ہم سے عبد اللہ بن المؤمل نے بیان کیا کہ ہم سے عطاء بن ابی رباح نے صفیہ بنت شیبہ سے بحوالہ حبیبہ بنت ابی تجرأة سے بیان کیا وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو صفا اور مردہ کے درمیان طواف کرتے دیکھا اور لوگ آپ کے آگے آگے تھے اور آپ ال کے پیچھے تھے اور آپ دوڑ رہے تھے یہاں تک کہ میں نے دوڑ کی شدت سے آپ کے دونوں گھٹنوں کو دیکھا۔ اور آپ اپنے تہبند کو باندھ رہے تھے اور فرما رہے تھے دوڑو بیشک اللہ تعالیٰ نے تم پر دوڑ کو فرض کیا ہے۔ احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں۔ اور اسی طرح احمد نے اسے عن عبد الرزاق عن معمر بن واصل مولیٰ ابن عیینہ عن موسیٰ عن عبیدہ عن صفیہ بنت شیبہ بھی روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے اسے خبر دی کہ اس نے صفا اور مردہ کے درمیان رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ تم پر دوڑ کو فرض قرار دیا گیا ہے پس دوڑو اور یہ عورت وہی حبیبہ بنت ابی تجرأة ہے جس کا پہلے دو اسناد میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور شیبہ کی ام ولد سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو صفا اور مردہ کے درمیان دوڑتے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے کہ درست نالے کو قطع نہیں کیا جائے گا اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور اس جگہ دوڑ سے مراد صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے اور مروہ سے صفا کی طرف آنا ہے اور یہاں پر دوڑ سے مراد دوڑنا اور تیز ہونا نہیں کیونکہ اللہ نے اسے قطعاً ہم پر فرض نہیں کیا بلکہ اگر انسان ساتوں چکروں میں ان دونوں کے درمیان آہستگی سے چلے اور پانی کے بہنے کی جگہ پر نہ دوڑے تو علماء کی ایک جماعت کے نزدیک یہ بات اسے کافی ہو جائے گی اور ہم ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں پاتے۔

اور ترمذی نے اسے اہل علم سے نقل کیا ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے ابن فضیل نے عطاء بن السائب سے بحوالہ کثیر بن جہمان بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دوڑ کی جگہ پر چلتے دیکھا تو میں نے کہا آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کی بجائے چلتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا اگر میں دوڑوں تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دوڑتے دیکھا ہے اور اگر میں چلوں تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو چلتے دیکھا ہے اور میں ایک بہت بوڑھا آدمی ہوں۔ پھر امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور سعید بن جبیر نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی قسم کی روایت کی ہے۔ اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسے عطاء بن السائب کی حدیث سے عن کثیر بن جہمان سلمیٰ کوئی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما

روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی دونوں حالتوں کے شاہد ہیں، دو چیزوں کا استعمال رکھتا ہے ایک یہ کہ آپ نے رسول کریم ﷺ کو دوڑ کے وقت پیدل چلتے دیکھا اور آپ نے کھیتہ دوڑ کو اس میں شامل نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کو کچھ راستہ چلتے دیکھا اور اس طریق کو قوت حاصل ہے۔ اس لیے کہ بخاری اور مسلم نے عبید اللہ بن عمر العمری کی حدیث سے نافع سے بحوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے تو پانی بننے کی جگہ کے نشیب میں دوڑتے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ صفا سے اترے اور جب وادی میں آپ کے قدم ٹک گئے تو آپ دوڑ پڑے اور جب آپ چڑھے تو چلنے لگے حتیٰ کہ مروہ تک آگئے اور یہ وہ بات ہے جسے تمام علماء پسند کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے والے (جابر کی حدیث میں پہلے بیان ہو چکا ہے) کے لیے پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ وادی کے نشیب میں اپنے ہر چکر میں پانی بننے کی جگہ کے نشیب میں پایا جاتا ہے وہ اس پانی بننے کی جگہ کے نشیب سے زیادہ وسیع ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے دوڑ لگائی تھی۔ واللہ اعلم

اور محمد بن حزم نے حجتہ الوداع کے بارے میں جو کتاب مرتب کی ہے اس میں ان کا قول ہے کہ پھر رسول کریم ﷺ صفا کی طرف گئے اور آپ نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی تلاوت کی اور فرمایا میں اس سے آغاز کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے، پس آپ نے اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان اونٹ پر سوار ہو کر سات چکر لگائے، تین دوڑ کر اور چار چل کر اور ان کے اس قول کی کوئی متابعت نہیں ہوئی اور نہ ان سے پہلے کسی آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان تین چکر دوڑ کر اور چار چل کر لگائے۔ پھر یہ ایک فتیخ غلطی ہے۔ اور انہوں نے کھیتہ اس پر کوئی دلیل بیان نہیں کی۔ بلکہ جب وہ اس جگہ کے نشان دریافت کرنے پر پہنچے تو کہا کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کی تعداد کو مخصوص نہیں پاتے، لیکن یہ ایک متفقہ بات ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تین چکروں میں دوڑ ہوتی ہے جسے انہوں نے متفق بیان کیا ہے تو یہ درست نہیں، بلکہ یہ بات کسی آدمی نے بھی بیان نہیں کی۔ اور اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ فی الجملہ پہلے تین چکروں میں دوڑ متفق علیہ ہے تو یہ ان کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں اور نہ ان کا مقصد اس سے پورا ہوگا، کیونکہ انہوں نے جس طرح پہلے تین چکروں میں دوڑ پر اتفاق کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے اسی طرح انہوں نے آخری چار چکروں میں اس کے استحباب پر اتفاق کیا ہے۔ پس ابن حزم نے پہلے تین چکروں میں دوڑ کے استحباب کی جو تخصیص کی ہے وہ علماء کے بیان کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم

اور ابن حزم نے جو یہ کہا ہے کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان سوار تھے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول کریم ﷺ پانی بننے کے نشیب میں دوڑ لگایا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اگر میں دوڑوں تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دوڑتے دیکھا ہے اور اگر میں چلوں تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو چلتے دیکھا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وادی میں آپ کے پاؤں ٹک گئے تو آپ دوڑ پڑے اور جب آپ چڑھنے لگے تو چل پڑے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حبیبہ بنت ابی مجرأة کہتی ہیں کہ آپ دوڑ کی

سنت سے اپنے تہبند کو گھماتے تھے اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ صفا پر چڑھے اور بیت اللہ کو دیکھا اور اسی طرح مروہ پر لیا۔ اور قبل ازیں ہم محمد بن اسحاق کی حدیث کو بیان کر چکے ہیں جو ابو جعفر الباقری سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے اونٹ کو مسجد کے دروازے پر بٹھایا یہاں تک کہ آپ نے طواف کیا پھر انہوں نے بیان نہیں کیا کہ آپ جس وقت صفا کی طرف گئے اس وقت سوار تھے۔ اس تمام بیان کا متقضاء یہ ہے کہ آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان چل کر سعی کی، لیکن امام مسلم کہتے ہیں کہ ہم سے عبد بن حمید نے بیان کیا کہ ہم سے محمد (یعنی ابن بکر) نے بیان کیا کہ ابن جریج نے ہمیں بتلایا کہ ابوزبیر نے ہمیں بتلایا کہ ابوزبیر نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان اپنے اونٹ پر چکر لگایا، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ سے سوال کر سکیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو ڈھانک لیا تھا۔ اور حضرت نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب نے صفا اور مروہ کے درمیان ایک ہی طواف کیا تھا۔ اور اسی طرح مسلم نے اسے عن ابی بکر بن ابی شیبہ عن علی بن مسہر اور عن علی بن خشرم عن عیسیٰ بن یونس اور عن محمد بن حاتم عن یحییٰ بن سعید روایت کیا ہے اور ان سب نے اسے ابن جریج سے روایت کیا ہے۔ اور بعض روایات میں صفا اور مروہ کے درمیان کے الفاظ موجود نہیں۔

اور ابو داؤد نے اسے عن احمد بن حنبل عن یحییٰ بن سعید القطان عن ابن جریج روایت کیا ہے کہ مجھے ابوزبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگایا، اور نسائی نے اسے عن الفلاس عن یحییٰ اور عن عمران بن یزید عن سعید بن اسحاق روایت کیا ہے اور ان دونوں نے اسے ابن جریج سے روایت کیا ہے اور یہ ابن جریج کی حدیث کے مقابلہ میں محفوظ ہے اور وہ بہت مشتبہ ہے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بقیہ روایات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور ﷺ صفا اور مروہ کے درمیان پیادہ تھے اور ابوزبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو روایت کی ہے اس میں ”صفا اور مروہ کے درمیان“ کے قول کا اضافہ پایا جاتا ہے اور یہ اضافہ صحابی کے بعد کے شخص کی طرف سے مقم یا مدرج ہے۔ واللہ اعلم۔ یا آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان کچھ چکر پیادہ لگائے اور آپ سے وہ کچھ دیکھا گیا جو بیان کیا گیا ہے، پس جب لوگوں نے آپ پر اڑو حام کیا اور بکثرت ہو گئے تو آپ سوار ہو گئے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آئندہ بیان ہونے والی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور ابن حزم نے تسلیم کیا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کا پہلا طواف پیادہ پا کیا تھا اور انہوں نے طواف میں آپ کے سوار ہونے کو بعد پر محمول کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ آپ صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان سوار تھے۔ نیز کہا ہے کہ آپ نے ان دونوں کے درمیان ایک ہی دفعہ چکر لگایا ہے پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قول کہ ”جب وادی میں آپ کے قدم ٹک گئے تو آپ دوڑ پڑے“ کی تاویل کی ہے اور اس کو درست قرار نہیں دیا خواہ آپ سوار ہی تھے کیونکہ جب آپ کا اونٹ کھڑا ہو گیا تو وہ پورے کا پورا کھڑا ہوا اور باقی تمام جسم کے ساتھ اس کے پاؤں بھی ٹک گئے۔ اور اسی طرح انہوں نے دوڑ کا ذکر کیا ہے جس سے چوپائے کا اپنے سوار سمیت دوڑنا مراد ہے اور یہ بہت بعید تاویل ہے۔ واللہ اعلم

ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابو سلمہ موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بیان کیا کہ ہمیں ابو عاصم الغنوی نے بحوالہ ابو

الطفیل خبر دی در بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیت اللہ کا طواف دوڑ کر کیا اور یہ آپ کی سنت ہے؟ آپ نے جواب دیا انہوں نے سچ کہا ہے اور جھوٹ بولا ہے، میں نے کہا انہوں نے کیا سچ کہا ہے اور کیا جھوٹ بولا ہے؟ آپ نے کہا انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی دوڑ کے متعلق سچ کہا ہے اور سنت کے متعلق جھوٹ بولا ہے یہ سنت نہیں ہے۔ قریش نے صلح حدیبیہ کے وقت کہا محمد ﷺ اور ان کے اصحاب کو چھوڑ دو تا کہ وہ نغف^۱ کی موت مر جائیں اور جب انہوں نے آپ کے ساتھ آئندہ سال حج کرنے اور تین دن مکہ میں ٹھہرنے پر مصالحت کی تو رسول اللہ ﷺ اور مشرکین قیفات کی جانب تھے، پس آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ دوڑ کر بیت اللہ کے تین چکر لگائیں اور یہ سنت نہیں، اس نے کہا آپ کی قوم کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صفا اور مروہ کے درمیان اونٹ پر چکر لگایا اور یہ سنت ہے۔ آپ نے جواب دیا انہوں نے سچ کہا ہے اور جھوٹ بولا ہے، میں نے کہا انہوں نے کیا سچ کہا ہے اور کیا جھوٹ بولا ہے؟ آپ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے صفا اور مروہ کے درمیان اونٹ پر چکر لگایا ہے، یہ انہوں نے سچ کہا ہے اور سنت کے متعلق جھوٹ بولا ہے، یہ سنت نہیں ہے، لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ہٹتے ہی نہیں تھے اس لیے آپ نے اونٹ پر طواف کیا تا کہ لوگ آپ کی بات سن سکیں اور آپ کے مقام کو دیکھ سکیں اور ان کے ہاتھوں سے آپ کو گزند نہ پہنچے ابوداؤد نے اسے اسی طرح روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی اسے عن ابی کامل عن عبدالواحد بن زیاد عن الجریری عن ابی الطفیل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے اور جس طرح پہلے بیان ہوا اس طرح بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، پھر میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، مجھے صفا اور مروہ کے درمیان سوار ہو کر طواف کرنے کے بارے میں بتائیے کیا یہ سنت ہے؟ کیونکہ آپ کی قوم اسے سنت خیال کرتی ہے۔ آپ نے کہا انہوں نے سچ کہا اور جھوٹ بولا ہے، میں نے کہا آپ کی یہ بات کیا ہوئی کہ انہوں نے سچ کہا ہے اور جھوٹ بولا ہے؟ آپ نے کہا کہ لوگوں نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ محمد ﷺ ہیں، یہ محمد ﷺ ہیں، آپ پر بھیڑ کر دی، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں اور رسول اللہ ﷺ اپنے آگے کے لوگوں کو ہٹاتے نہیں تھے، پس جب انہوں نے آپ پر بھیڑ کر دی تو آپ سوار ہو گئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ چلنا اور سعی کرنا افضل ہے، یہ مسلم کے الفاظ ہیں جو اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپ صرف اس حال میں سوار ہوئے تھے اور اس سے احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم

اور مسلم نے اپنی صحیح میں جو روایت کی ہے کہ محمد بن رافع نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن آدم نے بیان کیا کہ ہم سے زہیر نے عبد الملک بن سعید سے بحوالہ ابو الطفیل بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا۔ میرا خیال ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے۔ آپ نے کہا میرے سامنے اس کی کیفیت بیان کیجیے۔ میں نے کہا، میں نے آپ کو مروہ کے پاس ناقدہ پر دیکھا اور لوگوں نے آپ پر بھیڑ کی ہوئی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وہ رسول اللہ ﷺ تھے وہ لوگ آپ سے ہٹتے نہیں تھے اور انہیں مجبور کیا جاتا تھا، مسلم اس حدیث کے روایت کرنے میں متفرد ہیں اور اس میں اس امر پر دلالت نہیں پائی جاتی کہ آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سوار ہو کر سعی کی تھی جب کہ انہوں نے نہ اسے حجۃ الوداع سے مقید کیا ہے اور نہ کسی دوسرے

① نغف اونٹ اور بکری کی ناک میں پیدا ہونے والے کیڑے کو کہتے ہیں۔ مترجم

حج سے ہو سکتا ہے کہ ایسا بجز النوداح میں ہوا ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ نے نبی کر نے اور مروہ پر نشست کرنے اور لوگوں کو خطاب کرنے سے فارغ ہونے کے بعد ان لوگوں کو جو قربانی کے جانور نہیں لائے تھے یہ حکم دیا ہو کہ وہ حج کو فتح کر کے عمرہ کر لیں۔ پس قربانی کے جانور لانے والوں کے سوا سب لوگ حلال ہو گئے جیسا کہ قبل ازیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان ہو چکا ہے پھر ان سب باتوں کے بعد آپ اپنی ناقہ کے پاس آئے اور اس پر سوار ہو گئے اور کشادہ نالے میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے اور اس وقت ابو الطفیل عامر بن وائلہ الکبریٰ نے آپ کو دیکھ لیا ہو اور اس وقت وہ صفار صحابہ نبی ﷺ میں شمار ہوتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ عراقیوں کے ایک گروہ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب اور ثوری کا خیال ہے کہ قارن دو طواف کرتا ہے اور دو دفعہ سعی کرتا ہے۔ اور یہ حضرت علیؓ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما مجاہد اور شعبی سے مروی ہے اور وہ جابر طویل کی حدیث سے بھی حجت پکڑ سکتے ہیں اور اس میں یہ دلالت بھی پائی جاتی ہے کہ آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان چل کر سعی کی اور ان کی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کی تعداد کے مطابق سوار ہو کر سعی کی ایک دفعہ پیدل اور ایک دفعہ سوار ہو کر۔

اور سعید بن منصور نے ایک دستاویز میں حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ آپ نے حج اور عمرہ کی بلند آواز سے تکبیر کہی پس جب آپ مکہ آئے تو آپ نے اپنے عمرہ کے لیے بیت اللہ اور صفا اور مروہ کا طواف کیا پھر واپس چلے گئے اور اپنے حج کے لیے بیت اللہ اور صفا اور مروہ کا طواف کیا پھر یوم النحر تک محرم رہے یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور ابو ذر الہروی نے اسے اپنے مناسک میں حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے حج اور عمرہ کو اکٹھا کیا اور ان کے لیے دو طواف کیے اور دو دفعہ سعی کی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح کرتے دیکھا ہے اور اس طرح بیہقی اور دارقطنی نے اسے روایت کیا ہے۔ اور نسائی نے خصائص علی میں بیان کیا ہے۔ امام بیہقی اپنے سنن میں بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بن الحارث الفقیہ نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں علی بن عمر الحافظ نے خبر دی کہ ہمیں ابو محمد بن صاعد نے خبر دی کہ ہم سے محمد بن زبور نے بیان کیا کہ ہم سے فضیل بن عباس نے عن منصور عن ابراہیم عن مالک بن الحارث یا منصور عن مالک بن حارث عن ابی نصر بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علیؓ سے ملا اور میں نے حج کی تکبیر کہی تھی اور حضرت علیؓ نے حج اور عمرہ کی تکبیر کہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا میں اس طرح کر سکتا ہوں جیسے آپ نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ نے عمرہ سے آغاز کیا ہوتا تو آپ ایسا کر سکتے تھے۔ میں نے کہا اگر میں ایسا کرنے کا ارادہ کروں تو کیسے کروں آپ نے فرمایا پانی کی ایک چھاگل لے کر اسے اپنے پر بہا دو پھر دونوں کی اکٹھے تکبیر کہو پھر دونوں کے دو طواف کرو اور دو دفعہ سعی کرو اور یوم النحر سے پہلے آپ کے لیے حرام حلال نہیں ہوگا منصور کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے یہ بات بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک طواف کر کے لوٹ آتے تھے مگر اب ہم ایسا نہیں کرتے۔ حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ سفیان ثوری اور شعبہ نے اسے منصور سے روایت کیا ہے اور اس میں سعی کا ذکر نہیں کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو نصر مجہول ہے اور اگر یہ بات درست ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مراد طواف قدوم اور طواف زیارت ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ اسے

دوسری اسانید سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور سونوف روایت کیا گیا ہے اور ابن کثیر نے ہمارے حنفی بن ابی داؤد عیسیٰ بن عبد اللہ اور حماد بن ابراہیم پر ہے بوسب کے سب ضعیف ہیں اور جو کچھ انہوں نے روایت کیا ہے اس سے اس بارے میں حجت نہیں پکڑی جاسکتی۔

میں کہتا ہوں کہ صحاح احادیث میں اس کے خلاف منقول ہے اور ہم قبل ازیں صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کر آئے ہیں کہ آپ نے عمرہ کی تکبیر کہی اور اس میں حج کو شامل کیا اور آپ قارن ہو گئے اور آپ نے حج اور عمرہ کے درمیان دونوں کا ایک طواف کیا اور وہ بیان کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے ہی کیا تھا، اور ترمذی اور ابن ماجہ اور بیہقی نے اللہ اور رومی کی حدیث سے عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرہ کو اکٹھا کرے تو وہ دونوں کا ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کرے ترمذی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا اسناد مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور یہی ماجرا امام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پیش آیا کہ آپ نے بھی قربانی کے جانور ساتھ نہ لانے کی وجہ سے عمرہ کی تکبیر کہی اور جب آپ حائضہ ہو گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے آپ کو غسل کرنے اور عمرہ کے ساتھ حج کی تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ پس آپ قارنہ ہو گئیں، پس جب لوگ منی سے واپس آئے تو آپ نے حج کے بعد حضور سے عمرہ کرانے کا مطالبہ کیا، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں خودی خاطر کے لیے انہیں عمرہ کروایا جیسا کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور امام ابو عبد اللہ شافعی بیان کرتے ہیں کہ مسلم بن خالد زنگی نے ابن جریج سے بحوالہ عطاء ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بیت اللہ اور صفا اور مروہ کے درمیان تیرا طواف کرنا، تیرے حج اور عمرہ کے لیے کافی ہے اور اس کا مرسل ہونا واضح ہے جو دلیل کے ساتھ معنأً مسند ہے۔ اسی طرح امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ ابن عیینہ نے ابن ابی نجیح سے عن عطاء عن عائشہ عن النبی ﷺ ہمیں خبر دی، امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات سفیان نے عن عطاء عن عائشہ بیان کیا ہے اور بعض اوقات عطا سے بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اور پھر اس حدیث کا ذکر کیا۔

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی عمر نے اسے سفیان بن عیینہ سے موصول روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے ابن جریج کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ اس نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو وہ رو رہی تھیں آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ لوگ حلال ہو گئے ہیں اور میں حلال نہیں ہوئی اور انہوں نے بیت اللہ کا طواف کر لیا ہے اور میں نے طواف نہیں کیا۔ اور اس حج کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس امر کو آدم کی لڑکیوں پر فرض قرار دیا ہے، پس تم غسل کرو اور حج کی تکبیر کہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پس میں نے ایسے ہی کیا اور جب میں پاک ہو گئی تو آپ نے فرمایا بیت اللہ اور صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرو پھر تو اپنے حج اور عمرہ سے حلال ہو جائے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنے دل میں اپنے عمرہ کے متعلق غلجان پاتی ہوں کہ میں نے طواف نہیں کیا اور حج کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن! میں نے جاکر تنعم سے عمرہ کرواؤ، اور مسلم نے اسی طرح ابن جریج سے حدیث

بیان کی ہے کہ ابو زبیر نے مجھے خبر دی کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ کو کہنے سنا کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے صفا اور مروہ کے درمیان ایک ہی طواف کیا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ نے اصحاب کے نزدیک حضرت نبی کریم ﷺ اور آپ کے جو اصحاب قربانی کے جانور لے گئے تھے انہوں نے حج اور عمرہ کو ملا لیا تھا جیسا کہ پہلے بیان ہونے والی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔

اور امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن محمد نے عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی ہمیں خبر دی کہ آپ نے قارن کے بارے میں کہا کہ وہ دو طواف کرے اور دو دفعہ سعی کرے۔ حضرت امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دو طواف اور دو دڑوں کا ذکر کیا ہے اور اس بارے میں حضرت علی بن ابی حنیفہ کی ایک ضعیف روایت سے حجت پکڑی ہے، جعفر کہتے ہیں ہمارا قول حضرت علی بن ابی حنیفہ سے روایت کیا جاتا ہے اور ہم نے اسے حضرت نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے لیکن ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ ہارون بن عبد اللہ اور محمد بن رافع نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عاصم نے ہم سے معروف یعنی ابن خربوذ المکی سے بیان کیا کہ ابو الطفیل نے ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، آپ رکن کو کھونٹی سے بوسہ دیتے تھے پھر کھونٹی کو چوم لیتے تھے، محمد بن رافع نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ پھر آپ صفا اور مروہ کی طرف چلے گئے اور اپنی اونٹنی پر سات چکر لگائے۔ اور مسلم نے اسے اپنی صحیح میں ابو داؤد طیالسی کی حدیث سے معروف بن خربوذ سے بغیر اس اضافے کے روایت کیا ہے، جسے محمد بن رافع نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اسے عبد اللہ بن موسیٰ نے معروف سے بغیر اضافے کے روایت کیا ہے اور حافظ بیہقی نے اسے ابو سعید بن ابو عمر اور اصم سے عن یحییٰ بن ابی طالب عن یزید بن ابی حکیم عن یزید بن مالک عن ابی الطفیل اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بن الحسن اور ابو زکریا بن ابی اسحاق نے ہمیں خبر دی کہ ابو جعفر محمد بن علی بن اصم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے احمد بن حازم نے بیان کیا کہ ہمیں عبید اللہ بن موسیٰ اور جعفر بن عون نے خبر دی کہ ہمیں ایمن بن نابل نے قدمہ بن عبد اللہ بن عمار سے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو صفا اور مروہ کے درمیان اونٹ پر سعی کرتے دیکھا، آپ نہ اونٹ کو مارتے تھے نہ ہانکتے تھے اور نہ وہ ادھر ادھر جاتا تھا، بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے ایسے ہی بیان کیا ہے۔ اور ایمن کے علاوہ ایک جماعت نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یوم النحر کو جمرہ کو سنگریزے مارتے تھے۔ امام بیہقی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ امام احمد نے اسے اپنے مسند میں وکع، قران بن نمام، ابی قرہ، موسیٰ بن طارف قاضی اہل یمن اور ابی احمد، محمد بن عبد اللہ زہری اور معتمر بن سلیمان سے بحوالہ ایمن بن نابل حبشی ابی عمران کی نزیل عسقلان مولیٰ ابی بکر الصدیق سے روایت کیا ہے جو بخاری کے بڑے ثقہ رجال میں سے ہیں۔ اس نے قدمہ بن عبد اللہ بن عمار الکلابی سے روایت کی ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو وادی کے نشیب سے ناقہ صہباء پر یوم النحر کو جمرہ کو سنگریزے مارتے دیکھا، آپ ناقہ کو نہ مارتے تھے نہ ہانکتے تھے اور نہ وہ ادھر ادھر جاتی تھی اور ترمذی نے بھی اسے اسی طرح احمد بن منیع سے بحوالہ مروان بن معاویہ روایت کیا ہے اور نسائی نے اسے اسحاق بن راہویہ سے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اسے ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے وکع سے روایت کی ہے اور ان دونوں نے ایمن بن نابل سے بحوالہ قدمہ روایت کی ہے۔ جیسا کہ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔

حلال ہونے والوں کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ آپ مروہ کے پاس اپنے آخری چکر میں پہنچے تو فرمایا کہ اگر مجھے اپنے اس معاملے کے متعلق پہلے علم ہوتا تو میں اسے اختیار نہ کرتا اور قربانی کا جانور نہ لاتا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور اس میں ان لوگوں کے خیال پر دلالت پائی جاتی ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان چودہ چکر ہیں، ہر آمد و رفت کو ایک چکر شمار کیا جائے گا۔ یہ بات اکابر شافعیہ نے بیان کی ہے اور یہ حدیث ان کے رد میں ہے۔ کیونکہ ان کے قول کے مطابق آخری چکر صفا کے پاس ہوتا ہے نہ کہ مروہ کے پاس، اسی لیے احمد نے اپنی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ جب آپ ساتویں چکر میں مروہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا اے لوگو! اگر مجھے اپنے اس معاملے کے متعلق پہلے علم ہوتا تو میں اسے اختیار نہ کرتا اور قربانی کا جانور نہ لاتا اور اسے عمرہ بنا دیتا اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ حلال ہو جائے اور اسے عمرہ بنا لے۔ پس سب لوگ حلال ہو گئے۔ اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ سب لوگ حلال ہو گئے اور حضرت نبی کریم ﷺ اور جن کے پاس قربانی کے جانور تھے ان کے سوا سب نے بال کٹائے۔

باب ۶۶

حج کو فتح کر کے عمرہ بنانے کا جواز صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے یا ہمیشہ کے لیے

قربانی کے جانور نہ لانے والوں کے متعلق حضور ﷺ کا یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ حج کو فتح کر کے عمرہ بنا لیں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک خلق ہے ان کا یہاں ذکر کرنا موجب طوالت ہو گا اور اس کے بیان کا مقام کتاب الاحکام الکبیر میں آئے گا ان شاء اللہ۔ اور علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اور امام مالک، ابو حنیفہ اور شافعی کہتے ہیں کہ یہ امر خصائص صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہے۔ پھر دوسروں کے لیے فتح کا جواز منسوخ ہو گیا ہے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے قول سے تمسک کیا ہے کہ حج کو فتح کر کے عمرہ بنا لینے کا حکم صرف محمد ﷺ کے اصحاب کے لیے تھا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور امام احمد نے اسے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے گیارہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔ پس یہ روایت اس سے کیا نسبت رکھتی ہے۔ اور آپ غیر صحابہ کے لیے بھی جواز فتح کے قائل ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہر اس شخص کے لیے جو قربانی کا جانور نہ لایا ہو، وجوب فتح کے قائل ہیں بلکہ آپ کے نزدیک جب وہ بیت اللہ کا طواف کر لے گا تو وہ شرعاً حلال ہو جائے گا اور اگر وہ قربانی کا جانور نہ لایا ہو تو وہ محض اس سے ہی حلال ہو جائے گا اور جو قربانی کا جانور لایا ہو وہ قرآن کی صورت میں قربانی دے گا اور جو قربانی کا جانور نہ لایا ہو وہ تمتع کرے گا۔ واللہ اعلم

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے تمار بن زید نے عن الملک بن جریج عن جابر عن طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب ۴۰؎ رضی اللہ عنہم صحیح کو تکبیر کہتے ہوئے آئے اور اس کے ساتھ اور کوئی چیز ملی ہوئی نہ تھی، پس جب آپ ہمارے پاس آئے تو آپ نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے اسے عمرہ بنا لیا۔ اور یہ کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس جائیں، پس یہ بات مشہور ہو گئی، عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے کوئی آدمی کسی طرف جاتا تو اس کے عضو متاسل سے منی ٹپک رہی ہوتی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی ہتھیلی سے بیان کیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور خدا کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں۔ اور اگر مجھے اپنے اس معاملے کا پہلے سے علم ہوتا تو میں اسے اختیار نہ کرتا اور قربانی کا جانور نہ لاتا۔ اور اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں حلال ہو جاتا۔ اس موقع پر سراقہ بن عشم نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ اجازت ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے ہے۔

امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ قتیبہ نے ہم سے بیان کیا لیث یعنی ابن سعد نے ابو زبیر سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج مفرد کی تکبیر کہتے ہوئے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ کی تکبیر کہتی ہوئی آئیں اور جب ہم سرف کے مقام پر پہنچے تو آپ حائضہ ہو گئیں اور ہم نے آ کر کعبہ اور صفا اور مروہ کا طواف کیا اور رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ حلال ہو جائے، راوی بیان کرتا ہے ہم نے کہا کیا حلال ہوا ہے آپ نے فرمایا سب کچھ حلال ہوا ہے۔ پس ہم نے عورتوں کے ساتھ صحبت کی اور خوشبو لگائی اور کپڑے پہنے اور ہمارے اور عرفہ کے درمیان صرف چار راتیں تھیں۔

ان دونوں حدیثوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ حضور ﷺ حجۃ اوداع کے سال ۴؎ رذوالحجہ کی صبح کو اتوار کے روز چاشت کے وقت دن کے بلند ہونے پر مکہ آئے تھے اس لیے اس سال بلا اختلاف کیم ذوالحجہ جمعرات کے روز تھی اور عرفہ کا دن جمعہ کے روز تھا۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مصرح حدیث سے ثابت ہے جو ابھی بیان ہوگی، پس جب حضور ﷺ مینے کی چار تاریخ کو اتوار کے دن آئے تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے آپ نے بیت اللہ کے طواف سے آغاز کیا پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور جب مروہ کے پاس آپ کا طواف ختم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ لازماً اپنے احرام سے حلال ہو جائے پس لامحالہ یہ بات ان پر واجب ہو گئی اور وہ حلال ہو گئے اور ان میں سے بعض اس وجہ سے متاسف تھے کہ آپ قربانی کا جانور لانے کی وجہ سے اپنے احرام سے حلال نہیں ہوئے اور وہ آپ کی موافقت اور آپ کے نمونہ کی اقتداء کو پسند کرتے تھے، پس جب آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا اگر مجھے اپنے اس معاملے کا پہلے علم ہوتا تو میں اسے اختیار نہ کرتا اور قربانی کا جانور نہ لاتا اور اسے عمرہ بنا لیتا، یعنی اگر مجھے علم ہوتا کہ یہ بات آپ لوگوں پر گزرے گی تو میں قربانی کا جانور لانا ترک کر دیتا اور تمہاری طرح میں بھی حلال ہو جاتا، یہاں سے تمتع کی افضلیت پر واضح دلالت ہوتی ہے جیسا کہ امام احمد نے اس سے یہ نظریہ اخذ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس میں کچھ شبہ نہیں کہ رسول اللہ ﷺ قارن تھے لیکن تمتع افضل ہے کیونکہ آپ نے اس پر

تاسف کیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ تمتح پر اس لیے تاسف نہیں ہوئے کہ وہ قربانی لانے والے کے قرآن سے افضل ہوتا ہے بلکہ آپ اس لیے متاسف ہوئے تاکہ آپ کے اصحاب کو آپ کا اسرام پر قائم رہنا اور انہیں حلال ہو جانے کا حکم دینا گراں نہ گزرے۔ واللہ اعلم

اور جب امام احمد نے اس راز پر غور کیا تو ایک دوسری روایت میں بیان کیا کہ اس شخص کا تمتع افضل ہے جو قربانی کا جانور نہیں لایا کیونکہ حضور ﷺ نے حکم دیا تھا کہ آپ کے اصحاب میں سے جو قربانی کا جانور نہیں لایا وہ تمتع کرے۔ اور قرآن اس شخص کا افضل ہے جو قربانی کا جانور لایا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے لیے حجتہ الوداع میں پسند کیا اور آپ کو اس کے ادا کرنے کا حکم دیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم

باب ۲۷

ہدی نہ لانے والوں کے لیے فسخ کا حکم

پھر حضور ﷺ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے سے فراغت کے بعد چل پڑے اور آپ نے ان لوگوں کو فسخ کرنے کا حکم دیا جو قربانی کے جانور نہیں لائے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے یہاں تک کہ آپ مکہ کے مشرق میں کشادہ نالے میں اتر پڑے اور اتوار کا بقیہ دن اور سوموار منگل اور بدھ وہاں پر قیام کیا حتیٰ کہ جمعرات کی صبح کی نماز پڑھی آپ وہاں صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھاتے رہے اور ان تمام ایام میں مکہ کی طرف واپس نہیں آئے۔

امام بخاری باب من لم يقرب الكعبة و لم يطف حتى يخرج الى عرفه ويرجع بعد الطواف الاول میں بیان کرتے کہ محمد بن ابی بکر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے کریب نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ مکہ آئے اور آپ نے سات چکر لگائے اور صفا اور مروہ کے سعی کی اور کعبہ کے طواف کے بعد اس کے قریب نہ آئے یہاں تک کہ عرفہ سے واپس آگئے بخاری اس کی روایت میں منفرد ہیں۔



حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حلال ہونا

اور جس وقت رسول اللہ ﷺ مکہ سے باہر تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آتے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انصور رضی اللہ عنہا نے آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بعد یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا اور جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ ﷺ کی ازواج اور ان لوگوں کی طرح جو قربانی کے جانور نہیں لے گئے تھے حلال پایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سرمہ لگایا اور نئے رنگ دار کپڑے زیب تن کیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کو اس کا کس نے حکم دیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا میرے باپ نے پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بگڑ کر جلدی سے رسول اللہ ﷺ سے پاس گئے اور آپ کو بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حلال ہو گئی ہیں اور انہوں نے نئے رنگ دار کپڑے زیب تن کیے ہیں اور سرمہ لگایا ہے اور یا رسول اللہ ﷺ میرا خیال ہے کہ آپ نے انہیں اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا تو نے درست کہا ہے تو نے درست کہا ہے تو نے درست کہا ہے پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب آپ نے حج کو واجب کیا تو کس کی تکبیر کہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا حضرت نبی کریم ﷺ والی تکبیر کہی تھی آپ نے فرمایا میرے پاس قربانی کا جانور ہے پس تم حلال نہ ہونا۔ اور یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ قربانی کے جو جانور لائے تھے اور جو جانور رسول کریم ﷺ مدینہ سے لائے تھے اور راستے میں خریدے تھے وہ ایک سواوت تھے اور حضرت رسول کریم ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام قربانیوں میں شریک ہو گئے اور صحیح مسلم میں یہ سب کچھ پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ بیان اس روایت کی تردید کرتا ہے جسے حافظ ابوالقاسم طبرانی نے عکرمہ کی حدیث سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم ﷺ کو جحفہ میں ملے۔ واللہ اعلم اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے لیکن وہ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے اس لیے حضرت نبی کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ عمرہ کے طواف و سعی کے بعد حلال ہو جائیں پس انہوں نے حج کو فسخ کر کے عمرہ بنا لیا اور متمتع ہو گئے اور وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران اس کا فتویٰ دیا کرتے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حج کو عمرہ سے الگ کر دیں گے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف سے اپنا فتویٰ ترک کر دیا۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ ہمیں سفیان نے عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ سے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے اور گھومتے اور اپنا منہ اِدھر اُدھر کرتے دیکھا اور آپ کی دونوں انگلیاں آپ کے کان میں تھیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے سرخ خیمے میں تھے جو میرے خیال میں چمڑے کا تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے آگے آگے نیزہ لے کر نکلے اور اسے گاڑ دیا تو رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی

عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے مکہ میں سنا کہ بلاء میں آپ کے آگے سے کئے 'عورتیں اور گدھے گزرتے تھے اور آپ پر سرخ حلقہ تھا گویا میں آپ کی دونوں پنڈلیوں کی چمک کو دیکھ رہا ہوں سفیان کہتے ہیں کہ ہم اسے یسعی چادر خیال کرتے تھے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ کعب نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے ہم سے عن عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ بیان کیا وہ کہتے ہیں میں کشادہ نالے میں رسول کریم ﷺ کے پاس آیا تو آپ اپنے سرخ خیمے میں تھے پس حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے وضو کا بقیہ پانی لے کر باہر آئے تو کئی چھڑکنے والے اور کئی حاصل کرنے والے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور میں مثلاً جنو با آپ کے منہ کا تیغ کرتا تھا راوی بیان کرتا ہے پھر آپ کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور رسول کریم ﷺ سرخ جبہ یا سرخ حلقہ پہنے باہر نکلے گویا میں آپ کی دونوں پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں پس آپ نے اپنے نیزے کے پاس ہمیں ظہر اور عصر دو رکعت پڑھائی اور عورتیں کتے اور گدھے گزرتے تھے جنہیں روکا نہیں جاتا تھا۔ پھر آپ مدینہ آنے تک مسلسل دو دو رکعت پڑھتے رہے۔ اور ایک دفعہ راوی نے بیان کیا کہ آپ نے ظہر کی دو رکعتیں اور عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔ اور بخاری اور مسلم نے اسے صحیحین میں سفیان ثوری کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ اور حجاج نے الحکم سے بیان کیا کہ میں نے ابو جحیفہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ دو پہر کے وقت بطحاء کی طرف گئے اور وضو کیا اور ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں اور آپ کے آگے نیزہ تھا۔ اور عون نے اپنے باپ سے بحوالہ ابو جحیفہ اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ہمارے پیچھے سے گدھے اور عورتیں گزرتی تھیں۔ حجاج حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ پھر لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے چہروں پر پھیرنے لگے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر خوشبودار تھا اور صحیحین نے اسے شعبہ کی حدیث سے تمامہ روایت کیا ہے۔



یوم منی

اور جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ نے اتوار سوموار منگل دار اور بدھ دار کو کشادہ نالے میں قیام کیا اور قربانی کے جانور لانے والوں کے سوا سب لوگ حلال ہو گئے اور انہی ایام میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن سے مسلمانوں اور اموال کے ساتھ آئے اور آپ طواف کعبہ کے بعد اس کی طرف واپس نہیں گئے اور جب جمعرات کی صبح ہوئی تو آپ نے کشادہ نالے میں صبح کی نماز پڑھی اور وہ یوم الترویہ تھا اور اسے یوم منی بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ اس میں اس کی طرف جاتے تھے اور یہ روایت بھی لی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس دن سے پہلے خطبہ دیا۔ اور میں نے بعض حواشی میں دیکھا ہے کہ اس سے پہلے دن کو زینت کا دن کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بدن کو بڑائی وغیرہ سے مزین کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

حافظ تہمتی بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں احمد بن محمد بن جعفر جلودی نے بتایا کہ ہم سے محمد بن اسماعیل بن مهران نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے ابو قرہ نے عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یوم الترویہ کو خطاب فرماتے تو لوگوں سے خطاب کر کے انہیں ان کے مناسک کے متعلق بتاتے پس آپ زوال سے قبل منیٰ آنے کے لیے سوار ہوئے۔ اور بعض کا قول ہے کہ آپ زوال کے بعد سوار ہوئے اور جو لوگ کشادہ نالے میں حج کے لیے حلال ہو گئے تھے جب وہ منیٰ کی طرف آنے لگے تو انہوں نے احرام باندھ لیے اور ان کی اونٹیاں منیٰ کی طرف تیزی سے چلنے لگیں۔

عبد الملک عطا سے بحوالہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آئے اور حلال ہو گئے اور جب الترویہ کا دن آیا تو ہم نے مکہ کو اپنی پشت کے پیچھے رکھا اور حج کا تلبیہ کہا بخاری نے اسے تعلق مجزوم بیان کیا ہے اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ محمد بن حاتم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بحوالہ ابن جریج بیان کیا کہ مجھے ابو زبیر نے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حلال ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم منیٰ کی طرف جائیں تو احرام باندھ لیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے کشادہ نالے سے تکبیر کہی اور عید بن جریج نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ جب لوگوں نے چاند دیکھ کر تکبیر کہی تو میں نے آپ کو مکہ میں دیکھا اور آپ نے یوم الترویہ تک تکبیر نہیں کہی آپ نے جواب دیا میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو دیکھا ہے آپ اس وقت تکبیر کہتے تھے۔ جب آپ کی اونٹنی تیز ہو جاتی تھی۔ بخاری نے اسے ایک طویل حدیث کے سلسلہ میں روایت کیا ہے بخاری بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو منیٰ سے گزر کر حج کا تلبیہ کہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یوم الترویہ کو ظہر کی نماز ادا کر کے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر تلبیہ کہتے تھے میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایسا اس وقت کرتے تھے جب عمرہ کر کے حج کرتے تھے اور عمرہ سے حلال ہو جاتے

تھے اور جب الترویہ کا دن آتا تو اس وقت تلمیہ کہتے جب آپ کی اونٹنی منیٰ کی طرف جاتی ہے تو تیزی سے چلتی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور آپ کی اونٹنی تیزی سے چل پڑی لیکن یوم الترویہ کو رسول اللہ ﷺ نے کشادہ نالے میں ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ بلکہ آپ نے اس دن اسے منیٰ میں پڑھا اور یہ وہ بات ہے جس میں کسی قسم کا نزاع نہیں پایا جاتا۔

امام بخاری باب این یصل الظهر یوم الترویہ میں بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے اسحاق ازرق نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے عبد العزیز بن رفیع سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ مجھے کسی ایسی بات کے بارے میں بتائیں جسے آپ نے رسول اللہ ﷺ سے حاصل کیا ہو۔ آپ نے یوم الترویہ کو ظہر اور عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ انہوں نے فرمایا منیٰ میں، میں نے کہا آپ نے ذوالحجہ کی بارہویں تاریخ کو ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ انہوں نے فرمایا کشادہ نالے میں، پھر فرمایا جس طرح تمہارے امیر کرتے ہیں اسی طرح کرو۔ اور ابن ماجہ کے سوا بقیہ جماعت نے اسے کئی طرق سے اسحاق بن یوسف ازرق سے بحوالہ سفیان ثوری کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے جو ازرق کی حدیث کی نسبت جو ثوری سے مروی ہے عجیب سمجھی جاتی ہے پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ علی نے ہمیں خبر دی کہ اس نے ابو بکر بن عیاش سے سنا کہ ہم سے عبد العزیز بن رفیع نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملا اور مجھ سے اسماعیل بن ابان نے بیان کیا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بحوالہ عبد العزیز بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ یوم الترویہ کو میں منیٰ کی طرف گیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملا۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا آج کے دن رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ آپ نے فرمایا دیکھو جہاں تمہارے امیر نماز پڑھتے ہیں وہاں نماز پڑھو، احمد بیان کرتے ہیں کہ اسود بن عامر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابو کدینہ عن اعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے پانچوں نمازیں منیٰ میں پڑھیں۔ اور اسی طرح احمد بیان کرتے ہیں کہ اسود بن عامر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابو حمیة بن یحییٰ بن لیثی نے عن اعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم الترویہ کو ظہر کی نماز منیٰ میں پڑھی اور یوم عرفہ کی صبح کی نماز بھی وہیں پڑھی۔

اور ابوداؤد نے اسے عن زہیر بن حرب عن احوص عن جواب عن عمار بن رزیق عن سلیمان بن مہران الاعمش روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم الترویہ کی ظہر اور یوم عرفہ کی فجر منیٰ میں پڑھی۔ اور ترمذی نے عن الأشجع عن عبد اللہ بن الأشجع عن الاعمش سے مفہوماً روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کو شعبہ نے ان احادیث میں شمار نہیں کیا جو اس نے الحكم سے بحوالہ مقسم سنی ہیں اور ترمذی بیان کرتے ہیں کہ ابوسعید الأشجع نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عبد اللہ بن الأشجع نے عن اسماعیل بن مسلم عن عطاء بن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں منیٰ میں ظہر، عصر، مغرب، عشا اور فجر کی نمازیں پڑھائیں اور پھر آپ عرفات کی طرف چلے گئے پھر کہتے ہیں کہ اسماعیل بن مسلم کے بارے میں کلام کیا گیا ہے اور باب میں عبد اللہ بن زبیر اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی گئی ہے۔

اور امام احمد ایک ایسے آدمی سے حس نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تھا، بیان کرتے ہیں کہ آپ یوم الترویہ کو منیٰ کی طرف گئے اور آپ کے پہلو میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے جن کے ہاتھ میں کبوتری تھی جس پر کپڑا پڑا تھا اور وہ اس کے ذریعے رسول اللہ ﷺ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں۔ اور حضرت امام شافعی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کشادہ ٹالے سے منیٰ جانے کے لیے زوال کے بعد سوار ہوئے، لیکن آپ نے ظہر کی نماز منیٰ میں ادا کی اور اس حدیث سے اس کے لیے استدلال کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

اور قبل ازیں جعفر بن محمد نے جو حدیث اپنے باپ سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ اور جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور تھے ان کے سوا سب لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے بال کنوائے اور جب الترویہ کا دن آیا تو وہ منیٰ کی طرف گئے اور حج کی تکبیر کہی اور رسول اللہ ﷺ سوار ہوئے اور آپ نے منیٰ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں پھر کچھ دیر آپ ٹھہرے رہے تا آنکہ سورج طلوع ہو گیا اور آپ نے اپنا بالوں والا خیمہ لگانے کا حکم دیا جو نمبرہ میں آپ کے لیے نصب کر دیا گیا اور رسول اللہ ﷺ چل پڑے اور قریش کو یقین تھا کہ آپ مشعر الحرام کے پاس کھڑے ہوں گے جیسا کہ قریش جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ ﷺ اس مقام سے آگے گزر کر عرفہ آگئے تو آپ نے دیکھا کہ نمبرہ میں آپ کے لیے خیمہ نصب ہے پس آپ وہاں اتر پڑے اور جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے قصواء کے لانے کا حکم دیا اور آپ کے لیے اس پر کجاوہ رکھا گیا۔ پس آپ وادی کے نشیب میں آئے اور لوگوں سے خطاب فرمایا کہ:

تمہارے خون اور تمہارے اموال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس ماہ میں اور اس شہر میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے۔ آگاہ رہو، جاہلیت کی باتوں کی ہر چیز میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے اور جاہلیت کے خون ساقط ہیں اور میں اپنے خونوں میں سے سب سے پہلے ابن ربیعہ بن الحارث کے خون کو ساقط کرتا ہوں جو بنو سعد میں دایہ تلاش کرتا پھرتا تھا اور ہذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اور جاہلیت کی سود بھی ساقط ہیں اور اپنے سودوں میں سے سب سے پہلے میں عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے سود کو ساقط کرتا ہوں وہ سب کا سب ساقط ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت سے حاصل کیا ہے اور کلام الہی سے ان کی فروج کو حلال کیا ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تم جسے پسند نہیں کرتے وہ تمہارا بستر پامال نہ کرے پس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی ضرب لگاؤ جو سخت دکھ دہ نہ ہو اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم معروف طریق کے مطابق ان کی خوراک اور لباس کا خیال رکھو۔ اور میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے۔ اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور تم سے میرے بارے میں سوال ہو گا پس تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے اور فرض رسالت ادا کر دیا ہے اور خیر خواہی کی ہے پس آپ نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کر اور لوگوں کی طرف اشارہ کر کے تین بار فرمایا اے اللہ! گواہ رہ، اے اللہ! گواہ رہ، اے اللہ! گواہ رہ۔

اور ابو عبد الرحمن نسائی بیان کرتے ہیں کہ علی بن حجر نے ہمیں عن مغیرہ عن موسیٰ بن زیاد بن حذیم بن عمرو السعدی عن ابیہ عن جدہ خبر دی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کو اپنے خطبہ میں فرماتے سنا کہ:

آگاہ رہو، تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہیں، جس طرح تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ اور ابوداؤد باب الخطبة علی المنبر بعرفة میں بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ہناد نے ابن ابی زائدہ سے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے عن زید بن اسلم عن رجل من بنی ضمرۃ عن ابیہ اوعمہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو عرفہ میں منبر پر دیکھا۔ اور یہ اسناد ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک مبہم آدمی ہے۔ پھر حضرت جابر کی طویل حدیث میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی اونٹنی قسواء پر خطبہ دیا تھا۔ پھر ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ مسدد نے ہم سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن داؤد نے ہم سے عن سلمہ بن نبط عن رجل من الحکمی عن ابیہ نبط بیان کیا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو عرفہ میں ایک سرخ اونٹ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے دیکھا، اس میں بھی اس طرح ایک مبہم آدمی ہے مگر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کی شاہد ہے۔ پھر ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ ہناد بن السری اور عثمان بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے وکیع نے بحوالہ عبد المجید بن ابی عمرو بیان کیا وہ کہتا ہے کہ مجھ سے العداء بن خالد بن ہوذہ نے بیان کیا اور ہناد نے عبد المجید سے بیان کیا کہ مجھ سے خالد بن العداء ہوذہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو عرفہ کے روز اونٹ پر دونوں رکابوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے دیکھا۔ ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ اسے ابن العلاء نے وکیع سے روایت کیا ہے جیسا کہ ہناد نے کہا ہے۔ اور عباس بن عبد العظیم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے عبد المجید ابو عمرو سے اسے معنا العداء بن خالد سے بیان کیا کہ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرفات میں رسول اللہ ﷺ کو خطبہ دیتے سنا کہ جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے اور جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ احرام میں شلوار پہن لے۔ اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر نے اپنے باپ عباد سے بیان کیا کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کی بات کا جبکہ آپ عرفہ میں تھے لوگوں میں بلند آواز سے اعلان کرتا تھا، وہ ربیعہ بن امیہ بن خلف تھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اعلان کرو۔ اے لوگو! رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ماہ حرام ہے آپ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے اموال تمہارے اس ماہ کی حرمت کی طرح تم پر حرام قرار دیئے ہیں۔ پھر آپ فرماتے اعلان کرو۔ اے لوگو! رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے اور اس نے ساری حدیث کو بیان کیا ہے۔

اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے لیث بن ابی سلیم نے شہر بن حوشب سے بحوالہ عمرو بن خارجه بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عتاب بن اُسید نے رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا اور آپ عرفہ میں ایک کام کے لیے کھڑے تھے پس میں نے آپ کو پیغام پہنچایا اور آپ کی ناقہ کے نیچے کھڑا ہو گیا اور اس کا لعاب میرے سر پر گر رہا تھا، میں نے آپ کو فرماتے سنا اے لوگو! اللہ نے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے اور وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں اور بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں اور جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب ہو یا اپنے موالی کے سوا کسی اور سے دوستی کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی قیمت اور بدلہ قبول نہ فرمائے گا۔ اور ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اسے قتادہ کی حدیث سے عن شہر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجه روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس

میں قتادہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

اور ہم تقریب اس نطبہ کا ذکر کریں گے جو رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد یوم النحر کو دیا اور اس میں جو حکم و مواظبات تفصیل اور آداب نبویہ کا بیان ہوا تھا انہیں بھی بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

امام بخاری بسبب التلبیہ و التکبیر اذا غدا من منیٰ الی عرفہ میں بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ ہمیں مالک نے محمد بن ابی بکر ثقفی سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جبکہ وہ دونوں منیٰ سے عرفہ جارہے تھے پوچھا کہ آج کے روز آپ لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم میں سے بلند آواز سے ذکر کرنے والا ذکر کرتا تھا تو اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا تھا اور ہم میں سے تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تھا تو کوئی اس پر اعتراض نہ کرتا تھا۔ اور مسلم نے اسے مالک اور موسیٰ بن عقبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور ان دونوں نے محمد بن ابی بکر بن عوف بن رباح ثقفی جازی سے بحوالہ انس روایت کی ہے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسلمہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے مالک نے ابن شہاب سے بحوالہ سالم بن عبداللہ بیان کیا کہ عبدالملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ وہ حج کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرے پس جب عرفہ کا دن آیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سورج ڈھلے آگے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے اپنے خیمے کے پاس آواز دے کر کہا یہ شخص کہاں ہے پس وہ آپ کے پاس آیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا چلئے اس نے کہا اب آپ نے فرمایا ”ہاں“ اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں غسل کر لوں پس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اترے یہاں تک کہ باہر چلے گئے اور میرے اور میرے باپ کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی میں نے کہا اگر آپ آج کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو خطبے کو چھوٹا کیجیے اور جلد و قوف کیجیے اس نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے درست فرمایا ہے۔ اور اسی طرح بخاری نے اسے القعنسی سے بحوالہ مالک روایت کیا ہے اور نسائی نے اسے اشہب اور ابن وہب کی حدیث سے بحوالہ مالک روایت کیا ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کے روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ لیث نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے عقیل نے ابن شہاب سے بحوالہ سالم بیان کیا ہے کہ حجاج جس سال حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں آیا اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ اس موقف میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اگر تو سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو یوم عرفہ کو نماز جلدی پڑھ لے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اس نے درست کہا ہے۔ وہ ظہر و عصر کو سنت کے طور پر جمع کرتے تھے۔ میں نے سالم سے کہا کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا تم تو صرف سنت کے خواہاں ہو۔

اور ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ ہم سے احمد بن حنبل نے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب نے بیان کیا کہ ہم سے ابی عوف نے ابن اسحاق سے عن نافع عن ابن عمر بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ یوم عرفہ کی صبح کو فجر کی نماز منیٰ میں پڑھ کر چل پڑے اور نمرہ میں اترے اور نمرہ امام کی منزل ہے جہاں وہ عرفہ میں اترتا ہے اور جب ظہر کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ ﷺ دوپہر کو چل پڑے اور ظہر و عصر کو جمع کیا۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں متقدم الذکر خطبہ کو بیان کرنے کے بعد ذکر کیا ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہ پڑھا۔ اس کا متنفا یہ ہے کہ آپ نے پہلے خطبہ دیا پھر نماز کھڑی ہو گئی اور آپ دوسرے خطبہ کے درپے نہ ہوئے۔

اور امام شافعی نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم بن محمد وغیرہ نے ہمیں حجۃ الوداع کے بارے میں عن ہعمر بن محمد عن ابی عن جابر خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عرفہ میں موقف کے پاس گئے اور لوگوں سے پہلا خطاب کیا پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر رسول کریم ﷺ دوسرے خطبے میں لگ گئے۔ پس آپ خطبہ سے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان سے فارغ ہو گئے پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو آپ نے ظہر پڑھائی پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر پڑھائی، یہی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ اس کی روایت میں متفرد ہیں۔ مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ سوار ہو کر موقف کے پاس آئے اور آپ نے اپنی ناقہ قسواء کا پیٹ چٹانوں کی طرف کر دیا۔ اور جبل مشاقہ کو اپنے آگے کر لیا اور رو بہ قبلہ ہو گئے اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سلیمان نے ہم سے بحوالہ ابن وہب بیان کیا کہ مجھے عمرو بن الحارث نے عن بکیر عن کریب عن میمونہ خبر دی کہ لوگوں نے رسول کریم ﷺ کے روزوں کے متعلق شک کیا تو میں نے آپ کی طرف دودھ دوہنے کا برتن بھیجا اور آپ اس وقت موقف میں کھڑے تھے۔ پس آپ نے لوگوں کے دیکھتے دیکھتے اس سے پیا۔ اور مسلم نے اسے ہارون بن سعید ابلی سے بحوالہ ابن وہب روایت کیا ہے اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن یوسف نے ہمیں خبر دی کہ مالک نے ہمیں نصر مولیٰ عمر بن عبد اللہ عن عمیر مولیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہما عن ام الفضل بنت الحارث خبر دی کہ لوگوں نے عرفہ کے روز ام الفضل کے پاس رسول اللہ ﷺ کے روزے کے بارے میں شک کیا، بعض نے کہا کہ آپ روزہ دار ہیں اور بعض نے کہا آپ روز دار نہیں، پس میں نے آپ کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا اور آپ اپنے انٹ پر کھڑے تھے پس آپ نے اسے پی لیا اور مسلم نے اسے مالک کی حدیث سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور دونوں نے اسے دیگر طرق سے بھی ابی نصر سے روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں، ام الفضل ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت الحارث کی ہمشیرہ ہیں اور ان دونوں کا واقعہ ایک ہی ہے۔ واللہ اعلم

اور ارسال کا اسناد ان کی طرف صحیح ہے کیونکہ انہوں نے اسے اپنی طرف سے بیان کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ واقعہ بعد کا ہو یا کئی ارسال ہوں ان کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی۔ واللہ اعلم

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل نے ہم سے بیان کیا کہ ایوب نے ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اسے سعید بن جبیر سے سنا ہے یا اپنے بیٹوں سے جنہوں نے اس سے روایت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عرفہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، تو وہ انار کھا رہے تھے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ ﷺ نے روزہ افطار کیا اور ام الفضل نے آپ کے پاس دودھ بھیجا تو آپ نے اسے پی لیا۔ اور احمد بیان کرتے ہیں کہ کعب نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے النؤتہ کے غلام صالح سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ انہوں نے عرفہ کے روز رسول کریم ﷺ کے روزے کے بارے میں شک کیا، پس ام الفضل نے رسول اللہ ﷺ کے پاس دودھ بھیجا تو آپ نے اسے پی لیا اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ

عبدالرزاق اور ابو بکر نے ہم سے بیان کیا کہ ان جرتج نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں کہ سطاء نے بیان کیا کہ عرفہ کے روز عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فضل بن عباس کو کھانے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں عبداللہ نے کہا روزہ نہ رکھو عرفہ کے روز دودھ کا برتن رسول اللہ ﷺ کے قریب کیا گیا جس میں دودھ تھا تو آپ نے اس سے پی لیا۔ پس روزہ نہ رکھیے۔ بے شک لوگ تمہاری پیروی کرنے والے ہیں۔ اور ابن کبیر اور روح کہتے ہیں کہ بے شک لوگ تمہاری پیروی کریں گے۔

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن حرب نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے عن ابوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ عرفہ میں ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھڑا تھا کہ اچانک وہ اپنی سواری سے گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی یا اس نے اس کی گردن توڑ دی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے پانی اور پیری کے پتوں سے غسل دو اور دو پکڑوں کا کفن دو اور اسے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانپو اور نہ اس پر خوشبو ملو بے شک قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ اور مسلم نے اسے ابو الربیع الزہرانی سے بحوالہ حماد بن زید روایت کیا ہے۔ اور نسائی بیان کرتے ہیں کہ زید بن ابراہیم یعنی ابن راہویہ نے ہمیں خبر دی کہ کعب نے ہمیں بتایا کہ سفیان ثوری نے ہمیں بکیر بن عطاء سے بحوالہ عبدالرحمن بن میسر الدلیلی خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرفہ میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ نجد کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے حج کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (حج، عرفہ ہے) پس جو شخص طلوع فجر سے قبل عرفہ کی رات کو جو جمع کی رات ہے پالے تو اس کا حج مکمل ہو گیا۔ اور بقیہ اصحاب سنن نے بھی اسے سفیان ثوری کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور نسائی اور شعبہ نے بکیر بن عطاء سے اس میں اضافہ کیا ہے اور نسائی بیان کرتے ہیں کہ قبیبہ نے ہمیں خبر دی کہ سفیان نے ہمیں عمرو بن دینار سے خبر دی کہ عمرو بن عبداللہ بن صفوان نے مجھے بتایا کہ زید بن شیبان بیان کرتے ہیں کہ ہم عرفہ میں موقف سے بہت دور جگہ پر کھڑے تھے کہ ابن مرہب الانصاری ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے میں تمہارے پاس رسول اللہ ﷺ کا ایلچی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے مشاعر پر قائم ہو جاؤ بے شک تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر ہو۔ اور ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے اسے سفیان بن عیینہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اور ہم اسے صرف ابن عیینہ کی حدیث سے بحوالہ عمرو بن دینار جانتے ہیں اور ابن مرہب کا نام زید بن مرہب انصاری ہے اور اس کی یہ ایک حدیث ہی معروف ہے اور ترمذی بیان کرتے ہیں کہ اس باب میں حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت جبیر بن مطعم اور الشریذ بن سوید رضی اللہ عنہم کی روایات بھی ہیں۔ اور مسلم کی روایت سے جو عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر مروی ہے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں اور عرفہ تمام کا تمام موقف ہے اور امام مالک نے اپنے موطاء میں یہ اضافہ کیا ہے کہ عرفہ کے نشیب سے الگ رہو۔



عرفہ میں آپ کی دعائیں

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضور ﷺ نے عرفہ کے روز افطار کیا، جس سے معلوم ہوا کہ وہاں روزہ رکھنے سے افطار کرنا افضل ہے کیونکہ اس سے دعا میں تقویت ملتی ہے، جو وہاں کا اہم مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی سواری پر کھڑے رہے۔ اور ابو داؤد طیالسی نے اپنے مسند میں عن حوشب بن عقیل عن مہدی الجہری عن عکرمہ عن ابو ہریرہ عن رسول اللہ ﷺ، روایت کی ہے کہ آپ نے عرفہ کے روز عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے حوشب بن عقیل نے بیان کیا کہ مجھ سے مہدی الحارثی نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام عکرمہ نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر گیا اور میں نے ان سے عرفات میں عرفہ کے روز روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفات میں عرفہ کے روزہ سے منع فرمایا ہے۔ اور عبد الرحمن مرہ نے مہدی العبیدی سے روایت کی ہے۔ اور اسی طرح احمد نے اسے وکیع سے عن حوشب عن مہدی العبیدی روایت کیا ہے اور اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور ابو داؤد نے اسے عن سلیمان بن حرب عن حوشب بھی روایت کیا ہے اور نسائی نے اسے عن سلیمان بن معبد عن سلیمان بن حرب اور عن القاسم بن ابی مہدی اور ابن ماجہ نے عن ابی بکر ابن ابی شیبہ اور علی بن محمد روایت کیا ہے۔ اور ان دونوں نے وکیع سے بحوالہ حوشب روایت کی ہے۔

اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ حافظ اور ابو سعید بن ابی عمر نے ہمیں خبر دی کہ ابو العباس محمد بن یعقوب نے ہم سے بیان کیا کہ ابو اسامہ کلبی نے ہم سے بیان کیا کہ حسن بن ربیع نے ہم سے بیان کیا کہ حارث بن عبید نے ہم سے عن حوشب بن عقیل عن مہدی الجہری عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفہ کے روز عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حارث بن عبید نے بھی ایسے ہی بیان کیا ہے۔ اور عکرمہ سے بحوالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محفوظ ہے اور ابو حاتم محمد بن حبان البستی نے اپنی صحیح میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ سے یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کیا آپ نے یہ روزہ نہیں رکھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا ہے آپ نے بھی یہ روزہ نہیں رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا ہے آپ نے بھی یہ روزہ نہیں رکھا اور میں بھی یہ روزہ نہیں رکھتا۔ اس کے رکھنے کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں۔

امام مالک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام زیاد بن ابی زیاد سے بحوالہ ابی طلحہ بن عبید اللہ بن کریز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یوم عرفہ کی افضل دعا جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بیان کیا ہے اس سب سے افضل لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔

تنبیہی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے اور امام مالک سے اسے دوسرے اسناد سے موصول بیان کیا گیا ہے اور اس کا اسناد ضعیف ہے۔

اور امام احمد اور ترمذی نے عمرو بن شعیب کی حدیث سے اس کے باپ اور دادا سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کے روز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یوم عرفہ کی افضل دعا اور میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے بہتر لا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے اور اسی طرح امام احمد نے عمرو بن شعیب اس کے باپ اور دادا سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کے روز رسول اللہ ﷺ کی اکثر دعائیں تھیں کہ:

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اور ابو عبد اللہ بن مندہ بیان کرتے ہیں کہ احمد بن اسحاق بن ایوب نیشاپوری نے ہمیں خبر دی کہ احمد بن داؤد بن جابر حمسی نے ہم سے بیان کیا کہ احمد بن ابراہیم موصلی نے ہم سے بیان کیا کہ فرج بن فضالہ نے ہم سے عن یحییٰ بن سعید بن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عرفہ کی شام کو میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی دعا لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تھی۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یزید یعنی ابن عبد ربہ الجرجسی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے بقیہ بن الولید نے بیان کیا کہ مجھ سے جبیر بن عمرو القرشی نے عن ابی سعید انصاری عن ابی یحییٰ بن موی آل الزبیر بن العوام عن الزبیر بن العوام بیان کیا کہ میں نے عرفہ میں رسول اللہ ﷺ کو یہ آیت پڑھتے سنا شہد اللہ انہ لا اِلهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَ اُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اے میرے رب میں اس کے گواہوں میں سے ہوں۔

اور حافظ ابو القاسم طبرانی اپنے مناسک میں بیان کرتے ہیں کہ حسن بن شمیٰ بن معاذ عنبری نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عفان بن مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے قیس بن ربیع نے اغرب بن الصباح سے عن خلیفہ عن علی بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے عرفہ کی شام کو جو کچھ کہا اس سے بہتر لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔

اور ترمذی الدعوات میں بیان کرتے ہیں کہ محمد بن حاتم المؤدب نے ہم سے بیان کیا کہ ثابت بن علی نے ہم سے بیان کیا کہ بنی اسد کے قیس بن ربیع نے ہم سے اغرب بن الصباح سے عن خلیفہ بن الحصین عن علی رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفہ کے روز موقف میں زیادہ تر یہ دعا کی:

اللهم لك الحمد كالذي نقول و خیر مما نقول اللهم لك صلوتی و نسكی و محیای و

مماتی رب ترانی، اعوذ بك من عذاب القبر و وسوسة الصدر و شتات الامر، اللهم انی

اعوذ بك من شر ما تهب به الريح.

پھر کہتے ہیں کہ یہ اس طریق سے غریب ہے اور اس کا اسناد قوی نہیں اور حافظ تبیہی نے اسے موسیٰ بن عبیدہ کے طریق سے اس کے

بھائی عبداللہ بن عبیدہ سے بحوالہ حضرت علیؓ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عرفہ کے روز میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی اکثر دعائیں تھی کہ میں کہوں کہ۔

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر اللهم اجعل
فی بصری نورا و فی سمعی نورا و فی قلبی نورا اللهم اشراح لی صدری و یسر لی امری اللهم
انسی اعوذ بک من وسواس الصدر و شتات الامر و شرفتنۃ القبر و شرما یلج فی اللیل و شرما
یلج فی النهار و شرما تهب به الریاح و شربوانق الدھر۔

پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ بن عبیدہ اس کی روایت میں متفرد ہے اور اس کے بھائی عبداللہ نے حضرت علیؓ کا
زمانہ نہیں پایا۔

اور طبرانی اپنے مناسک میں بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن عثمان نصری نے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن کبیر نے ہم سے بیان کیا
کہ یحییٰ بن صالح ایللی نے عن اسماعیل بن امیہ عن عطا بن ابی رباح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے
حجۃ الوداع میں جو دعائیں کی ان میں یہ دعا بھی تھی:

اللهم انک تسمع کلامی و تعلم سری و علانیتی و لا ینحی علیک شی من
امری انا البائس الفقیر المستغیث الی استجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسألک
مسألة المسکین و ابتهل الیک ابتھال الذلیل و ادعوک دعاء الخائف الضریر من خضعت
لک رقبتہ و فاضت لک عبرتہ و ذل لک جسده و رغم لک انفه اللهم لا تجعلنی بدعائک
رب شقیاء و کن لی رؤفا رحیما یاخیر المسئولین و یاخیر المعطین۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہشیم نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالملک نے ہم کو خبر دی کہ عطاء نے ہم سے بیان کیا کہ اسامہ بن
زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرفات میں میں رسول اللہ ﷺ کا ردیف تھا پس آپ نے دعا کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے اور
آپ کی ناقہ آپ پر غالب آگئی اور اس کی مہارگر پڑی تو آپ نے ایک ہاتھ میں اس کی مہار پکڑ لی اور اپنا دوسرا ہاتھ اٹھائے
رکھا۔ اور اسی طرح نسائی نے اسے یعقوب بن ابراہیم سے بحوالہ ہشیم روایت کیا ہے اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حافظ
ابوعبداللہ نے ہمیں خبر دی کہ ابوعبداللہ محمد بن یعقوب نے ہم سے بیان کیا کہ علی بن الحسن نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالجید بن
عبدالعزیز نے ہم سے بیان کیا کہ ابن جریج نے ہم سے عن حسین بن عبداللہ ہاشمی عن عمرہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو عرفہ میں دعا کرتے دیکھا آپ کے دونوں ہاتھ کھانا مانگنے والے مسکین کی طرح آپ کے سینے سے لگے ہوئے
تھے۔ اور ابوداؤد طیالسی اپنے مسند میں بیان کرتے ہیں کہ عبدالقاهر بن السری نے ہم سے بیان کیا کہ ابن کثانہ بن عباس بن
مرداس نے ہم سے اپنے باپ اور دادا عباس بن مرداس سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لیے
رحمت اور مغفرت کی دعا کی اور خوب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے والوں کے سوا

سب کی سفرت کر دوں گا۔ اب رہے ان کے وہ گناہ جو مجھ سے اور ان سے تسق رکھتے ہیں وہ بھی میں نے بخش دیئے ہیں تو آپ نے کہا اے میرے رب! آپ اس مظلوم تو اس کے ظلم سے بہتر بدلہ دینے کی قدرت رکھتے ہیں اور اس ظالم کو بخش دیجیے پس اللہ تعالیٰ نے اس شام کو اس کا جواب نہ دیا اور جب مزدلفہ کی صبح ہوئی تو آپ نے دوبارہ یہی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جواب دیا کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے تو رسول اللہ ﷺ مسکرا پڑے تو آپ کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ اس گھڑی میں مسکرائے ہیں جس میں آپ مسکرایا نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا میں خدا کے دشمن اہلبیس کی وجہ سے مسکرایا ہوں اسے جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی ہے تو وہ ہلاکت و تباہی کی دعا کرتا ہوا گر پڑا اور اپنے سر پر مٹی ڈالتے لگا۔ اور ابوداؤد جستانی نے اسے اپنے سنن میں سیسی بن ابراہیم البرکی اور ابوداؤد طیالسی سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے عبدالقاہر بن السری سے عن ابن کنانہ بن عباس بن مرداس عن ابیہ عن جدہ مختصر روایت کی ہے اور ابن ماجہ نے اسے ایوب بن محمد ہاشمی بن عبدالقاہر بن السری سے عن عبید اللہ بن کنانہ بن عباس عن ابیہ عن جدہ طوالت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ابن جریر نے اسے اپنی تفسیر میں عن اسماعیل بن سیف العجلی عن عبدالقاہر بن السری عن ابن کنانہ جسے ابولبابہ کہتے ہیں عن ابیہ عن جدہ العباس بن مرداس روایت کیا ہے اور حافظ ابوالقاسم طبرانی بیان کرتے ہیں کہ اسحاق بن ابراہیم الدربری نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ معمر نے ہمیں اس شخص سے خبر دی جس نے قوادہ کو بیان کرتے سنا تھا کہ جلاس بن عمرو نے ہم سے بحوالہ عبادہ بن الصامت بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفہ کے روز فرمایا: اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے آج کے دن تم پر احسان فرمایا ہے اور تمہیں آپس کی برائیوں کے سوا بخش دیا ہے اور اس نے تمہارے محسن کی وجہ سے تمہارے خطا کار کو بخش دیا ہے اور تمہارے محسن نے جو مانگا ہے اس نے اسے دیا ہے۔ پس اللہ کا نام لے کر چلے جاؤ۔ پس جب وہ جمع ہوئے تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے صالحین کو بخش دیا ہے اور تمہارے صالحین کو تمہارے طاغیوں کے لیے سفارشی بنایا ہے۔ رحمت نازل ہوگی اور ان پر چھا جائے گی پھر رحمت زمین میں پھیل جائے گی اور ہر اس تائب پر جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنے والا ہے نازل ہوگی اور اہلبیس اور اس کے لشکر پہاڑوں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے پس جب رحمت نازل ہوگی تو اس کے لشکر ہلاکت اور تباہی کی دعا کریں گے۔ میں نے انہیں مدتوں تک ذلیل کر دیا ہے مغفرت کا خوف ان پر چھا گیا ہے پس وہ متفرق ہو کر ہلاکت اور تباہی کی دعا کر رہے ہیں۔



اس موقف میں رسول اللہ ﷺ پر نازل ہونے والی وحی کا بیان

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ جعفر بن عون نے ہم سے بیان کیا کہ ابو العیسیٰ نے ہم سے قیس بن مسلم سے بحوالہ طارق بن شہاب بیان کیا کہ ایک یہودی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین آپ اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہیں اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے اس نے کہا اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بخدا جس روز اور جس گھڑی یہ آیت رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں یہ عرفہ کی شام کو جمعہ کے روز نازل ہوئی تھی۔

اور بخاری نے اسے حسن بن الصباح سے بحوالہ جعفر بن عون روایت کیا ہے اور اسی طرح اسے مسلم ترمذی اور نسائی نے کئی طرق سے قیس بن مسلم سے روایت کیا ہے۔

عرفات سے مشعر الحرام کی طرف آپ کی واپسی کا بیان:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ آپ مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور جب قرص آفتاب غائب ہو گئی تو آہستہ آہستہ زردی بھی ختم ہو گئی پس آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور رسول اللہ ﷺ چل پڑے اور آپ نے اپنی ناقہ قصواء کی زمام کھینچ لی یہاں تک کہ اس کا سر کجاوے کے اس حصے کو چھونے لگا جس پر آپ تھک کر اپنا پاؤں رکھتے تھے۔ نیز آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کہہ رہے تھے اے لوگو! پرسکون رہو پرسکون رہو۔ اور جب کبھی آپ کسی پہاڑ کے پاس آتے تو آپ لگام کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیتے تاکہ وہ چڑھائی چڑھ جائے یہاں تک کہ آپ مزدلفہ آگئے اور وہاں پر آپ نے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی اور ان کے درمیان کوئی تسبیح نہ کی اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور امام بخاری باب السیر اذا دفع من عرفہ میں بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ ہمیں مالک نے ہشام بن عروہ سے بحوالہ اس کے باپ کے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول کریم ﷺ کوچ کے وقت جیتہ الوداع میں کیسے چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا تیز چال چلتے تھے اور جب میدان پاتے تو اونٹنی کو تیز تر ہانکتے تھے۔

اور امام احمد اور بقیہ جماعت نے ترمذی کے سوا اسے متعدد طرق سے ہشام بن عروہ سے اس کے باپ سے بحوالہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یعقوب نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے ہم سے عن ابن اسحاق

عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ عرفہ کی شام کو میں رسول اللہ ﷺ کا ردیف تھا، پس جب سورج غروب ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے نوح کیا اور جب آپ نے اپنے پیچھے لوگوں کی بھیڑ کی آواز سنی تو فرمایا اے لوگو! آہستگی اختیار کرو اور پرسکون رہو۔ اونٹوں کو تیز دوڑانا نیکی نہیں، راوی بیان کرتا ہے کہ جب لوگ آپ پر بھیڑ کرتے تو اونٹنی کو معنی چال چلاتے اور جب کچھ فرارنی پاتے تو نص چال چلاتے، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ آگئے اور وہاں آپ نے مغرب اور عشا کو جمع کیا۔ پھر امام احمد اسے محمد بن اسحاق کے طریق سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم بن عقبہ نے مجھ سے کریب سے بحوالہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کیا اور اس کی مثل حدیث بیان کی اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے عن قیس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ عرفہ سے لوٹے تو میں آپ کا ردیف تھا آپ اپنی اونٹنی کی لگام کھینچنے لگے حتیٰ کہ کجاوے کے اگلے حصے کو اس کے کانوں کی جڑیں چھونے لگیں اور آپ فرمانے لگے اے لوگو! سکینت اور وقار اختیار کرو۔ اونٹوں کا تیز چلانا نیکی نہیں۔ اور اسی طرح اس نے عفان سے بحوالہ حماد بن سلمہ روایت کیا ہے اور نسائی نے اسے حماد بن سلمہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے عن زبیر بن حرب عن زید بن ہارون عن عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطاء عن ابن عباس عن اسامہ روایت کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ مسلسل وقار سے چلتے رہے یہاں تک کہ بھیڑ کے پاس آگئے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ احمد بن الحجاج نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی فدیک نے ابن ابی ذئب سے عن شعبہ عن ابن عباس عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ وہ عرفہ کے روز رسول اللہ ﷺ کے ردیف تھے یہاں تک کہ آپ گھاٹی میں داخل ہو گئے پھر آپ نے پانی گرایا اور وضو کیا اور سوار ہوئے اور نماز نہ پڑھی۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الصمد نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ہمام نے عن قتادہ عن عروہ عن شععی عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ انہوں نے اسے بتایا کہ جب رسول اللہ ﷺ عرفات سے لوٹے تو میں آپ کا ردیف تھا اور آپ کی اونٹنی نے چلتے ہوئے پاؤں نہیں اٹھایا کہ آپ بھیڑ کے پاس پہنچ گئے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سفیان نے ہم سے عن ابراہیم بن عقبہ عن کریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں عرفہ سے اپنے پیچھے بٹھایا پس جب آپ گھاٹی کے پاس آئے تو آپ نے پیشاب کیا اور انہوں نے پانی گرانے کی بات نہیں کی، پس میں نے آپ پر پانی ڈالا اور آپ نے ہلکا سا وضو کیا تو میں نے نماز پڑھنے کے متعلق بات کی تو آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے۔ راوی بیان کرتا ہے پھر آپ مزدلفہ آئے اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر وہ اپنے خیموں میں فروکش ہو گئے۔ پھر آپ نے عشا کی نماز پڑھی اسی طرح امام احمد نے اسے عن کریب عن ابن عباس عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے اور اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور نسائی نے اسے عن الحسین بن حرب عن سفیان بن عیینہ عن ابراہیم بن عقبہ اور محمد بن حرمہ روایت کیا ہے اور ان دونوں نے عن کریب عن ابن عباس عن اسامہ رضی اللہ عنہما روایت کی ہے۔ ہمارے شیخ

ابوالحجان المزنی اپنی کتاب الاطراف میں بیان کرتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ کریب نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ مالک نے ہمیں عن موسیٰ بن عقبہ عن کریب عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما خبر دی کہ انہوں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفہ سے کوچ کیا اور گھائی میں اترے اور پیشاب کیا پھر وضو کیا اور مکمل وضو نہ کیا تو میں نے آپ سے نماز کے متعلق کہا تو آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے پس آپ مزدلفہ آئے اور مکمل وضو کیا پھر نماز کھڑی ہو گئی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہر آدمی نے اپنے فروکش ہونے کی جگہ پر اپنا اونٹ بٹھا دیا پھر نماز کھڑی ہو گئی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھی۔

اور اسی طرح بخاری نے اسے القعنی سے روایت کیا ہے اور مسلم نے یحییٰ بن یحییٰ سے اور نسائی نے قتیبہ سے عن مالک عن موسیٰ بن عقبہ روایت کیا ہے اور دونوں نے اسے یحییٰ بن سعید انصاری کی حدیث سے موسیٰ بن عقبہ سے روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے ابراہیم بن عقبہ اور محمد بن عقبہ سے بحوالہ کریب ان دونوں کے بھائی موسیٰ بن عقبہ سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اسی طرح امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ قتیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ اسماعیل بن جعفر نے ہم سے عن محمد بن ابی حرمہ عن کریب عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ وہ جان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے بیٹھا پس جب آپ مزدلفہ سے ورے بائیں گھائی پر پہنچے تو آپ نے اونٹنی کو بٹھا دیا۔ اور پیشاب کیا پھر آپ آئے تو میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا تو آپ نے ہلکا سا وضو کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نماز؟ آپ نے فرمایا نماز آگے ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ سوار ہو گئے اور مزدلفہ آ کر نماز پڑھی۔ پھر جمع ہونے کی صبح کو فضل رسول اللہ ﷺ کے رفیق بن گئے کریب بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے بحوالہ فضل بتایا کہ رسول اللہ ﷺ مسلسل تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ جمرہ کے پاس پہنچ گئے اور مسلم نے اسے قتیبہ یحییٰ بن یحییٰ بن ایوب اور علی بن حجر سے روایت کیا ہے اور ان چاروں نے اسے اسماعیل بن جعفر سے روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ وکیع نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن ذر نے مجاہد سے بحوالہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں عرفہ سے اپنے پیچھے بٹھایا راوی بیان کرتا ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارا دوست ہمیں بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے عرفہ سے کوچ کیا تو آپ کھڑے ہوئے اور اپنی اونٹنی کے سر کو کھینچا یہاں تک کہ اس کا سر کجاوے کے اگلے حصے کو چھونے لگا اور آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ سکون و وقار اختیار کرو۔ یہاں تک کہ آپ جمع ہونے کی جگہ پر آ گئے پھر آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا تو لوگ کہنے لگے کہ ہمارا دوست ہمیں بتائے گا کہ رسول اللہ ﷺ نے کیا کیا۔ پس فضل نے کہا کہ آپ گزشتہ کل کی طرح مسلسل سکون و وقار سے چلتے رہے یہاں تک کہ آپ وادی محسر میں آ گئے اور اس میں داخل ہو گئے حتیٰ کہ وہ زمین میں تیزی سے چلنے لگی۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ سعید بن ابی مریم نے ہم سے بیان کیا کہ ابراہیم بن سوید نے ہم سے بیان کیا کہ مجھ سے المطلب کے غلام عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا کہ مجھے والہ کوفی کے غلام سعید بن جبیر نے بتایا کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ عرفہ کے روز رسول اللہ ﷺ نے کوچ

کیا، پس آپ نے اپنی بیچھے شہید ڈانٹے اور دونوں کو مارنے کی آوازیں سنیں تو آپ نے اپنے کورسے ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے لوگو! کون دو قار اختیار کرو۔ نیکی تیز چلانے میں نہیں ہے۔ بخاری اس طریق سے اس کے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔ اور قبل ازیں امام احمد، مسلم اور نسائی کی روایت عطاء بن ابی رباح کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بحوالہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان ہو چکی ہے۔ واللہ اعلم

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اسامیل بن عمر نے ہم سے بیان کیا کہ مسعودی نے ہم سے عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ عرفات سے واپس لوٹے تو لوگوں نے سواریوں کو تیز چلانا شروع کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے منادی کو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ اے لوگو! گھوڑوں اور اونٹوں کے تیز چلانے میں نیکی نہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے کسی کو چلتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ جمع ہونے کی جگہ پر آ گئے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ حسین اور ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ اسرائیل نے عبدالعزیز بن رفیع سے ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتا ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا کہ جس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ عرفات اور جمع ہونے کی جگہ میں پانی گرانے کے سوانہیں اترے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یزید بن ہارون نے ہم سے بیان کیا کہ ہمیں عبد الملک نے بحوالہ انس بن سیرین بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عرفات میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، پس جس وقت وہ چلے میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ امام بھی چل پڑا، پس انہوں نے اس کے ساتھ ظہر اور عصر پڑھی، پھر وہ کھڑے ہو گئے اور میں اور میرے اصحاب بھی کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ امام واپس آ گیا اور ہم بھی اس کے پاس واپس آ گئے۔ یہاں تک کہ ہم اس جنگ مقام پر پہنچ گئے جو دو میدانوں کے درے ہے، پس آپ نے سواری کو بٹھا اور ہم نے بھی سواریوں کو بٹھا دیا اور ہم نے خیال کیا کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کے اس غلام نے جو آپ کی اونٹنی کو پکڑے ہوئے تھا، کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے بلکہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے قضائے حاجت کی اور آپ بھی قضائے حاجت کو پسند کرتے تھے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ جویریہ نے ہم سے بحوالہ نافع بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مغرب اور عشاء کو جماعت کے ساتھ جمع کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس گھاٹی سے اتر کر تھے جسے رسول اللہ ﷺ نے اختیار کیا تھا، پس وہ اس میں داخل ہو جاتے اور کم ٹھہرتے اور وضو کرتے اور جب تک جمع ہو جانے کی جگہ پر نہ آ جاتے، نماز نہ پڑھتے۔ اس طریق سے بخاری اس کی روایت میں متفرد ہیں اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ آدم بن ابی ذئب نے ہم سے زہری سے عن سالم بن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مغرب اور عشاء کو لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ جمع کیا۔ اور دونوں میں سے ہر ایک کی اقامت کہی اور نہ دونوں کے درمیان اور نہ دونوں کے بعد کوئی تسبیح کی۔

اور مسلم نے اسے یحییٰ بن یحییٰ سے عن مالک عن زہری عن سالم بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھا۔ پھر امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ حرمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ابن وہب نے مجھے بتایا کہ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے بتایا کہ ان کے باپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ

نے مغرب اور عشاء کو لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ جمع کیا اور ان دونوں کے درمیان کوئی سجدہ نہ کیا اور آپ نے مغرب کی تین رکعتیں اور عشاء کی دو رکعتیں پڑھیں۔ اور حضرت عبداللہ اپنی وفات تک اسی طرح لوگوں کی نمازیں جمع کیا کرتے تھے۔ پھر مسلم نے شعبہ کی حدیث سے عن الحکم و سلمہ بن کہیل عن سعید بن جبیر روایت کی ہے کہ انہوں نے مغرب کی نماز لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ پڑھی اور عشاء کی ایک اقامت کے ساتھ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی تھی۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اسی طرح کیا تھا پھر مسلم نے ثوری کے طریق سے اسے عن سلمہ عن سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ آپ نے مغرب کی تین رکعتیں اور عشاء کی دو رکعتیں ایک اقامت کے ساتھ پڑھیں۔ پھر امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن جبیر نے بیان کیا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بحوالہ ابن اسحاق بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ واپس آئے یہاں تک کہ ہم جمع ہونے کی جگہ پہنچ گئے تو رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ پر ہمیں اسی طرح نماز پڑھائی تھی۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ خالد بن مخلد نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان بن ہلال نے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید نے مجھ سے بیان کیا کہ عدی بن ثابت نے مجھ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن یزید حطمی نے مجھ سے بیان کیا کہ ابویزید انصاری نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حجة الوداع میں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور اسی طرح امام بخاری نے اسے مغازی میں القعنی سے بحوالہ مالک اور مسلم نے سلیمان بن بلال اور لیث بن سعد سے روایت کیا ہے اور ان تینوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے بحوالہ عدی بن ثابت روایت کی ہے اور اسی طرح نسائی نے اسے عن الفلاس عن یحییٰ القطان عن شعبہ عن عدی بن ثابت روایت کیا ہے پھر امام بخاری باب من اذن و اقام لكل واحد منہما میں بیان کیا ہے کہ خالد بن عمرو نے ہم سے بیان کیا کہ زہب بن حرب نے ہم سے بیان کیا کہ ابو اسحاق نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے عبدالرحمن بن یزید کو کہتے سنا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور ہم عشاء کی اذان کے وقت یا اس کے قریب مزدلفہ آئے پس آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے اذان و اقامت کہی پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں پھر آپ نے اپنا شام کا کھانا منگوایا اور کھایا۔ پھر ایک آدمی کو حکم دیا تو اس نے اذان و اقامت کہی عمرو بیان کرتے ہیں کہ مجھے صرف زہیر کے شک کے متعلق علم ہے پھر آپ نے عشاء کی دو رکعتیں پڑھیں اور جب فجر نمودار ہوگئی تو فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت اس جگہ آج کے دن صرف یہی نماز پڑھا کرتے تھے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دو نمازیں ہیں جنہیں اپنے وقت سے ہٹ کر پڑھا جاتا ہے مغرب کی نماز مزدلفہ میں لوگوں کے آنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور فجر اس وقت پڑھی جاتی ہے جب فجر

۱ اصل کتاب میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے دونوں کے درمیان کوئی سجدہ نہ کیا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے دو نمازیں جمع کی تھیں اس لیے درمیانی سنتیں ترک کر دیں اور اگر گزشتہ روایات کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے دونوں نمازوں کے درمیان کوئی تسبیح نہ کی جیسا کہ ایک روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے نہ دونوں نمازوں کے درمیان اور نہ ان کے بعد کوئی تسبیح کی۔ (مترجم)

روشن ہو جاتی ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اور راوی کا یہ قول کہ سب فجر روشن ہو جاتی ہے اس دوسری حدیث سے زیادہ واضح ہے جسے بخاری نے عن حفص بن عمر بن غیاث عن ابیہ عن اعمش عن مہارہ عن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دو نمازوں کے سوا کبھی بے وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا آپ نے مغرب اور عشا کو جمع کیا اور فجر کی نماز کو اس کے وقت سے قبل پڑھا۔ اور مسلم نے اسے معاً یہ اور جزیر کی حدیث سے بحوالہ اعمش روایت کیا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ لیٹ گئے۔ یہاں تک کہ فجر نمودار ہو گئی اور آپ نے اذان و اقامت کے ساتھ صبح روشن ہونے پر فجر پڑھی اور اس نماز میں آپ کے ساتھ عروہ بن مضرس بن اوس بن حارثہ بن لام الطائی بھی شامل ہوئی۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہشیم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی خالد اور زکریا نے شععی سے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن مضرس نے بتایا کہ میں حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ اس وقت جمع ہونے کے مقام پر تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں آپ کے پاس طے کے دو پہاڑوں سے آیا ہوں اور میں نے خود کو تھکا دیا ہے اور اپنی اونٹنی کو کمزور کر دیا ہے۔ اور تم بخدا میں ہر پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں کیا میرا حج ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص ہماری اس نماز یعنی فجر کی نماز میں جمع ہونے کی جگہ پر شامل ہوا ہو اور ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہو یہاں تک کہ اس سے واپس لوٹ جائے اور وہ اس سے پہلے راستہ یا دن کو عرفات سے واپس لوٹ آیا ہو، پس اس کا حج مکمل ہے اور اس نے اپنی میل کچیل کو دور کر لیا ہے۔ اور امام احمد نے اسی طرح اسے اور چار اہل سنن نے کئی طرق سے شععی سے عروہ بن مضرس سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔



شبِ مزدلفہ

اور رسول اللہ ﷺ نے رات کو لوگوں کے مزدلفہ سے منیٰ کی طرف بھیڑ کرنے سے قبل اپنے اہل کا ایک گروہ اپنے آگے بھیجا۔ امام بخاری باب من قدم ضعفة اہله باللیل فیقفون بالمزدلفہ و یدعون و یقدم اذا غاب القمر میں بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن بکیر نے ہم سے بیان کیا کہ لیث نے ہم سے یونس سے بحوالہ ابن شہاب بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے اہل کے کمزور لوگوں کو آگے بھیجا کرتے تھے اور وہ رات کو مشعر الحرام کے پاس ٹھہرتے تھے اور حسبِ خواہش اللہ کو یاد کرتے تھے۔ امام کے وقوف اور کوچ سے قبل کوچ کر جاتے تھے۔ پس ان میں سے کچھ لوگ نماز فجر کے لیے منیٰ آ جاتے تھے اور کچھ اس کے بعد آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو جمرہ کو سنگریزے مارتے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں انہیں رخصت دی ہے، سلیمان بن حرب نے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن زید نے ہم سے عن ایوب عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجا جو رات کو اکٹھے ہوئے تھے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے ہم سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن ابی یزید نے ہم سے بیان کیا کہ اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں رسول اللہ ﷺ نے مزدلفہ کی شب اپنے کمزور اہل میں آگے بھیجا تھا۔ اور مسلم نے ابن جریج کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ عطاء نے مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنے ثقل کے ساتھ سحر کو جمع ہونے والوں کے ساتھ بھیجا۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سفیان ثوری نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے سلمہ بن کہیل نے حسن عری سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی عبدالمطلب کے اغیلہ کو ہماری دیکھ بھال کے لیے ہم سے آگے بھیجا اور وہ ہماری رانوں پر تھپڑ مارنے لگا اور کہنے لگا جب تک سورج طلوع نہ ہو میرے بیٹو جمرہ کو سنگریزے نہ مارنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں خیال نہیں کرتا کہ کوئی آدمی جب تک سورج نہ چڑھے، جمرہ کو سنگریزے مارتا ہو۔ اور اسی طرح احمد نے اسے عبدالرحمن مہدی سے بحوالہ سفیان ثوری روایت کیا ہے۔ اور ابوداؤد نے اسے محمد بن کثیر سے بحوالہ ثوری اور نسائی نے محمد بن عبد اللہ بن یزید سے عن سفیان بن عیینہ عن سفیان ثوری روایت کیا ہے۔ اور ابوداؤد نے اسے محمد بن کثیر سے بحوالہ ثوری اور نسائی نے محمد بن عبد اللہ بن یزید سے عن سفیان بن عیینہ عن سفیان ثوری روایت کیا ہے۔ اور ابن ماجہ نے اسے ابوبکر بن ابی شیبہ اور علی بن محمد سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے وکیع سے بحوالہ مسعر اور سفیان ثوری روایت کی ہے اور ان دونوں نے اسے سلمہ بن کہیل سے روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن آدم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابوالاحوص نے عن اعمش عن الحکم عن ابن عیینہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ قربانی کی شب رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس سے گزرے اور ہم پر شب کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، پس آپ ہماری رانوں پر مارنے لگے

اور فرمانے لگے اے میرے بیٹو! ایسے لڑو اور جب تک سورج نہ چڑھے حجرہ کو سنگریزے نہ مارنا، پھر امام احمد نے اسے مسعود کی حدیث سے عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اہل کے کمرہ لوگوں کو مزدلفہ سے رات کو آگے بھیج دیا اور انہیں وصیت کی کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو وہ حجرہ عقبہ کو سنگریزے نہ ماریں۔ اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ ولید بن عقبہ نے ہم سے بیان کیا کہ حمزہ الزیات بن حبیب نے عطاء سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اہل کے کمرہ لوگوں کو جھپٹے میں آگے بھیج دیا کرتے تھے اور انہیں حکم دیتے تھے کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو وہ حجرہ کو سنگریزے نہ ماریں۔ اور اسی طرح نسائی نے اسے محمود بن غیلان سے عن بشر بن السری عن سفیان عن حبیب روایت کیا ہے۔ اور طبرانی کہتے ہیں کہ وہ ابن ابی ثابت ہے جس نے عطاء سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے پس حمزہ الزیات اپنی کفالت سے خارج ہو گئے اور حدیث کا اسناد عمدہ ہے۔ واللہ اعلم

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ مسدد نے ہم سے عن یحییٰ عن ابن جریج بیان کیا کہ مجھ سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے غلام عبداللہ نے بحوالہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کیا کہ وہ جمعہ کی شب کو مزدلفہ کے قریب اتریں اور نماز پڑھنے لگیں۔ آپ نے کچھ دیر نماز پڑھی پھر فرمانے لگیں۔ اے میرے بیٹو! کیا چاند غروب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، پھر آپ نے کچھ دیر نماز پڑھی، پھر فرمایا کیا چاند غروب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں! تو آپ نے فرمایا: کوچ کر جاؤ، پس ہم نے کوچ کیا اور چلتے بنے یہاں تک کہ آپ نے حجرہ کو سنگریزے مارے اور واپس آ گئیں اور صبح کی نماز اپنی منزل پر پڑھی، میں نے آپ سے کہا، میرے خیال میں ہم نے تو جھپٹے میں ہی یہ کام کر لیا ہے، تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹو! رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے اور مسلم نے اسے ابن جریج کی حدیث سے روایت کیا ہے، بے شک حضرت اسماء دختر صدیق رضی اللہ عنہا نے طلوع آفتاب سے قبل رمی جمار کیا ہے۔ جیسا کہ اس جگہ توفیقی طور پر بیان کیا گیا ہے، پس حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے مقدم ہے کیونکہ آپ کی حدیث کا اسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے اسناد سے صحیح ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ بات کہی جائے کہ بچوں کا حال عورتوں کی نسبت زیادہ خفیف اور چست ہوتا ہے اس لیے آپ نے بچوں کو حکم دیا کہ وہ طلوع آفتاب سے قبل رمی نہ کریں۔ اور عورتوں کو طلوع آفتاب سے قبل رمی کی اجازت دے دی کیونکہ ان کا حال زیادہ ثقیل اور پردے کے لحاظ سے زیادہ جامع ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

اگرچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ کام توفیقی طور پر نہیں کیا مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے فعل سے مقدم ہے۔ لیکن پہلی حدیث کو ابو داؤد کا قول تقویت دیتا ہے کہ محمد بن خلاد بابلی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ نے بحوالہ ابن جریج بیان کیا کہ عطاء نے مجھے خبر دی کہ مجھے خبر نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے حوالہ سے بتایا کہ انہوں نے رات کو رمی جمار کیا تھا، میں نے کہا ہم نے رات کو رمی جمار کیا تھا، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم یہ کام حضرت نبی کریم ﷺ کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے فلح بن حمید نے عن قاسم عن محمد عن عائشہ بیان کیا،

آپ فرماتی ہیں کہ ہم مزدلفہ میں اترے تو حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم ﷺ سے لوگوں کی بھیڑ سے قبل جانے کی اجازت طلب کی اور آپ ایک ست رو عورت تھیں تو آپ نے انہیں اجازت دے دی تو وہ لوگوں کی بھیڑ سے قبل کوچ کر گئیں اور ہم صبح تک ٹھہرے رہے پھر ہم آپ کے کوچ کے ساتھ کوچ کر گئے۔ پس اگر میں بھی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی طرح رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کرتی تو مجھے آپ کی خوشی سے یہ بات زیادہ پسند ہوتی۔ اور مسلم نے اسے القعنسی سے بحوالہ ابرح بن حمید روایت کیا ہے۔ اور بخاری اور مسلم نے صحیحین میں اسے سفیان ثوری کی حدیث عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ روایت کیا ہے اور ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ ہارون بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے فدیک نے ضحاک یعنی ابن عثمان سے عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ بیان کیا وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قربانی کی شب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا تو انہوں نے فجر سے قبل رمی جمار کیا پھر چلی گئیں اور واپس آ گئیں اور یہ وہ دن تھا جب بقول ابوداؤد آپ ان کے پاس تھے ابوداؤد اس کی روایت میں منفرد ہیں اور یہ اسناد جید اور قوی ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔

مزدلفہ میں آپ کے تلبیہ کا بیان:

مسلم بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابوالاحوص نے ہم سے عن حصین بن کثیر بن مدرک عن عبدالرحمن بن یزید بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم جمع ہونے کی جگہ پر تھے کہ میں نے سورہ بقرہ کے اس حصہ کو سنا جو آپ پر نازل ہوا آپ اس مقام پر کہہ رہے تھے:

لبیک اللہم لبیک.



آپ کے مشعر الحرام میں وقوف کرنے اور طلوع آفتاب سے قبل مزدلفہ سے کوچ کرنے

اور وادی محسر میں تیز چلنے کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر الہی کرو۔“

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جب صبح روشن ہوگئی تو آپ نے اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، پھر قصواء پر سوار ہو کر مشعر الحرام کے پاس آئے اور رو قبلہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تہلیل اور توحید بیان کی اور آپ مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح بہت روشن ہوگئی اور طلوع آفتاب سے قبل آپ نے کوچ کیا اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ججاج بن منہال نے ہم سے بیان کیا کہ شعبہ نے ہم سے بحوالہ ابن اسحاق بیان کیا کہ میں نے عمرو بن میمون کو کہتے سنا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، آپ نے جمع ہونے کی جگہ پر صبح کی نماز پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ مشرکین سورج طلوع ہونے پر لوٹا کرتے تھے اور کہتے تھے اے شہر روشن ہو جا، اور رسول اللہ ﷺ طلوع آفتاب سے قبل لوٹے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن رجا نے ہم سے بیان کیا کہ اسرائیل نے ہم سے ابو اسحاق سے بحوالہ عبد الرحمن بن یزید بیان کیا کہ میں عبد اللہ کے ساتھ مکہ گیا، پھر ہم جمع ہونے کے مقام پر آئے تو آپ نے دو نمازیں پڑھیں، ہر نماز کو اذان و اقامت کے ساتھ پڑھا اور ان دونوں کے درمیان شام کا کھانا کھایا پھر فجر طلوع ہونے پر فجر کی نماز پڑھی، کوئی کہتا فجر طلوع ہو چکی ہے اور کوئی کہتا ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، پھر راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ دو نمازیں اس دور کے مقام میں اپنے وقت سے پھیر دی گئی ہیں، پس لوگ جب تک قیام نہ کریں، جمع ہونے کے مقام پر نہ آئیں اور فجر کی نماز اس وقت پڑھا کریں، پھر آپ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ صبح روشن ہوگئی۔ پھر راوی بیان کرتا ہے کہ اگر امیر المؤمنین اب لوٹ آتے تو سنت کو پالیتے، مجھے معلوم نہیں کہ اس کا قول یہ تھا کہ آپ جلدی کرتے تھے یا اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا ہے۔ پس آپ مسلسل تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے یوم النحر کو حجرہ عقبہ پر مری کی۔

اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں خبر دی کہ ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب شیبانی نے ہمیں خبر دی کہ یحییٰ بن محمد بن یحییٰ نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن المبارک نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الوارث بن سعید نے ہم سے عن ابن جریج عن محمد بن قیس بن مخرمہ عن المسور بن مخرمہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفہ میں ہم سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مشرکین اور بت پرست اس جگہ سے غروب آفتاب کے نزدیک کوچ کیا کرتے تھے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سورج اس طرح ہوتا تھا جیسے مردوں کے سروں پر ان کے عمامے ہوتے ہیں، ہماری ہدایت ان کی ہدایت کے مخالف ہے اور وہ مشعر الحرام سے

طلوع آفتاب کے نزدیک کوچ کیا کرتے تھے اور سورج پہاڑوں کی چوٹیوں پر یوں ہوتا تھا جیسے مردوں کے عمائے ان کے سروں پر ہوتے ہیں ہماری ہدایت ان کی ہدایت کے مخالف ہے حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن اویس نے اسے عن ابن جریج عن محمد بن قیس بن مخرمہ مسل روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو خالد سلیمان بن حیان نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے اعمش سے عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سنا کہ رسول اللہ ﷺ طلوع آفتاب سے قبل مزدلفہ سے واپس لوٹے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ زہیر بن حرب نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا کہ ہم سے میرے باپ نے یونس ایلی سے عن زہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس بیان کیا کہ عرفہ سے مزدلفہ تک حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سوار ہوئے پھر مزدلفہ سے منیٰ تک فضل آپ کے پیچھے سوار ہوئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ دونوں کا قول ہے کہ رسول کریم ﷺ مسلسل تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ پر رمی کی۔ اور ابن جریج نے اسے عطاء سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے اور مسلم نے لیث بن سعد کی حدیث سے عن ابی زبیر عن ابی معبد عن ابن عباس عن الفضل بن عباس روایت کی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ردیف تھے کہ آپ نے عرفہ کی شام کو اور جمع ہونے کی صبح کو لوگوں کو کوچ کے وقت فرمایا کہ سکون و وقار اختیار کرو اور آپ اپنی اونٹنی کی مہار کھینچے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ محسر میں داخل ہو گئے جو منیٰ میں ہے آپ نے فرمایا تم وہ سنگریزے لے لو جن سے جمرہ پر رمی کی جانی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسلسل تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے رمی جمار کیا۔

اور امام بیہقی باب الايضاح فی وادی محسر میں بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں بتایا کہ مجھے ابو عمرو المقری اور ابو بکر وراق نے بتایا کہ حسن بن سفیان نے ہمیں خبر دی کہ ہشام بن عمار اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ حاتم بن اسماعیل نے ہم سے بیان کیا کہ جعفر بن محمد نے ہم سے اپنے باپ سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم ﷺ کے حج کے متعلق بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ محسر میں آئے تو آپ نے سواری کو تھوڑا سا تیز کیا۔ مسلم نے اسے صحیح میں ابو بکر بن شیبہ سے روایت کیا ہے۔ پھر بیہقی نے سفیان ثوری کی حدیث سے ابو الزبیر سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ واپس لوٹے اور آپ پر سکون تھے اور آپ نے انہیں پر سکون رہنے کا حکم دیا اور وادی محسر میں تیز چلے اور انہیں سنگریزوں کے ساتھ رمی جمار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو شاید میں اس سال کے بعد آپ کو نہ دیکھ سکوں پھر بیہقی نے ثوری کی حدیث سے عن عبد الرحمن بن الحارث عن زید بن علی عن ابیہ عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمع ہونے کی جگہ سے واپس لوٹے یہاں تک کہ محسر میں آگئے پس آپ نے اپنی ناقہ کو ڈانٹا یہاں تک کہ وادی سے گزر کر کھڑے ہو گئے پھر فضل کو پیچھے بٹھایا اور جمرہ کے پاس آ کر اسے سنگریزے مارے اس طرح انہوں نے اسے مختصر روایت کیا ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو احمد محمد بن عبد اللہ زبیری نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن الحارث بن عیاش بن ابی ربیعہ نے ہم سے عن زید بن علی عن ابیہ عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ

یہ موقف اور سارے کا سارا عرفہ موقف ہے اور جب سورج غروب ہو گیا تو آپ لوٹ آئے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اپنے اونٹ کو تیز چلانے لگے اور لوگ دائیں بائیں چلنے لگے اور آپ ان کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے اور فرماتے تھے اے لوگو! پرسکون اور پر وقار رہو پھر آپ نے جمع ہونے کے مقام پر آ کر انہیں مغرب اور عشاء کی دو نمازیں پڑھائیں پھر رات بسر کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر آپ قرح آئے اور قرح پر کھڑے ہوئے اور فرمایا یہ موقف اور جمع ہونے کی جگہ ساری کی ساری موقف ہے پھر چل کر محسر آئے اور وہاں کھڑے ہو گئے اور اپنے سواری کے جانور کو ڈانٹا تو وہ تیزی سے چلنے لگا یہاں تک کہ وادی سے گزر گیا پھر آپ نے اسے روکا پھر فضل کو اپنے پیچھے بٹھایا اور چل پڑے یہاں تک کہ حجرہ کے پاس آئے اور اسے رمی کیا پھر قربان گاہ میں آئے اور فرمایا یہ قربان گاہ اور سارے کا سارا منی قربان گاہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ شعم کی ایک نوجوان لڑکی نے آپ سے دریافت کیا میرا باپ پیر فرتوت ہے اور اس پر حج فرض ہو چکا ہے کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اپنے باپ کی طرف سے حج کرنا ہی بیان کرتا ہے کہ آپ نے فضل کی گردن موڑی تو عباس نے آپ سے کہا یا رسول اللہ ﷺ! آپ اپنے عزا کی گردن کیوں موڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میں ایک نوجوان مرد اور نوجوان عورت کو دیکھتا ہوں تو میں ان دونوں کے حلقہ شیطان کے بارے میں مطمئن نہیں ہوتا۔ راوی بیان کرتا ہے پھر آپ کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ ﷺ میں نے قربانی کرنے سے قبل سرمند اوایا ہے فرمایا قربانی کرو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر ایک اور آدمی نے آپ کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ ﷺ میں سرمند آنے سے قبل واپس لوٹ آیا ہوں آپ نے فرمایا سرمند اوایا بال کثاؤ کوئی حرج نہیں پھر آپ نے آ کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر مزم کے پاس آئے اور فرمایا اے بنی عبدالمطلب پانی پلاؤ اور اگر لوگوں نے تم پر پانی پلانے کی وجہ سے بھیڑ نہ کی ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ذول نکالتا اور ابوداؤد نے اسے عن احمد بن حنبل عن یحییٰ بن آدم روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ نیز کہ ہم اسے علی کی حدیث سے صرف اس طریق سے ہی جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کے صحیح طرق سے بھی شواہد موجود ہیں جو صحاح وغیرہ میں مروی ہیں۔ اور ان میں شعمی عورت کا واقعہ بھی ہے جو صحیحین میں فضل کے طریق سے مروی ہے اور قبل ازیں حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔ اور عنقریب اس سے ہمیں جو میسر ہو گا اسے بیان کریں گے اور بیہقی نے اسناد کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ آپ نے وادی محسر میں تیز چلنے سے انکار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کام توبدوں نے کیا تھا۔ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ مثبت نانی سے مقدم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ سے اس بات کو ثابت کرنا محل نظر ہے۔ واللہ اعلم

اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے اسے رسول اللہ ﷺ سے صحیح بیان کیا ہے۔ اور شیخین نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اسے صحیح بیان کیا ہے کہ یہ دونوں حضرات بھی ایسا کیا کرتے تھے پس بیہقی نے حاکم سے عن النجاد وغیرہ عن ابی علی محمد بن معاذ بن المستمل المعروف بدران عن القعنسی عن ابیہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن المسور بن مخرمہ روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما تیز چلاتے اور فرمایا کرتے تھے۔

”ہم آپ کی طرف مضطرب تنگ کے ساتھ دوڑتے ہیں جن کا دین نصاریٰ کے دین کے مخالف ہے۔“

یوم النحر کو آپ کے صرف جمرہ عقبی پر رمی کرنے کا بیان، آپ نے کیسے رمی کی؟ کب کی؟ کس جگہ سے کی اور کتنی کی؟ اور رمی کے وقت آپ کے تلبیہ چھوڑنے کا بیان

قبل ازیں حضرت اسامہ، فضل، اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی حدیث بیان ہو چکی ہے کہ حضور ﷺ مسلسل تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ پر رمی کی۔ اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عثمان نے ہمیں خبر دی کہ ابو طاہر بن خزیمہ نے ہمیں بتایا کہ میرے دادا یعنی امام الامام محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے ہمیں بتایا کہ علی بن حجر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے شریک نے عن عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عبد اللہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ مسلسل تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو پہلا سنگریزہ مارا اور وہی ابن خزیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن حفص شیبانی نے ہم سے بیان کیا کہ حفص بن غیاث نے ہم سے بیان کیا کہ جعفر بن محمد نے ہم سے اپنے باپ سے عن علی بن الحسین عن ابن عباس عن الفضل بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عرفات سے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ لوٹا اور آپ مسلسل تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی کیا اور آپ ہر سنگریزے کے ساتھ تلبیہ کہتے تھے پھر آپ نے آخری سنگریزے کے ساتھ تلبیہ کہنا چھوڑ دیا۔ امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک دور از فہم اضافہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور فضل کی مشہور روایات میں نہیں ہے اگرچہ ابن خزیمہ نے اسے اختیار کیا ہے۔

اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابان بن صالح نے جمرہ عکرمہ بیان کیا کہ میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ واپس لوٹا اور میں مسلسل انہیں تلبیہ کہتے سنتا رہا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جمرہ عقبہ کو رمی کیا، پس جب آپ نے اسے سنگریزہ مارا تو تلبیہ کہنے سے رُک گئے، میں نے کہا یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے باپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو تلبیہ کہتے دیکھا ہے حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبی کو رمی کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور قبل ازیں لیث کی حدیث عن ابی الزبیر عن ابی معبد عن ابن عباس عن اخیہ الفضل بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وادی محسر میں ان سنگریزوں کے اٹھانے کا حکم دیا، جن سے رمی جمار کیا جاتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور ابو العالیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے فضل نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم النحر کی صبح کو مجھے فرمایا آؤ اور میرے لیے سنگریزے چنؤ، تو میں نے آپ کے لیے ٹھیکری کی طرح کے سنگریزے چنے پس آپ نے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھ کر فرمایا کہ اس طرح کے سنگریزے چنؤ، اس طرح کے سنگریزے چنؤ اور غلو سے اجتناب کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ صرف غلو فی الدین کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ


کہ آپ وادی محسر میں آگئے اور آپ نے سواری کو کچھ تیز کیا، پھر اس درمیانی راستے پر چلے جو جمرہ کبریٰ کو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ جمرہ تک پہنچ گئے اور اسے سات سنگریزے مارے اور ہر سنگریزے کے ساتھ تکبیر کہتے رہے۔ آپ نے وادی کے نشیب سے رمی کی اور اتنی ہی تعداد میں زوال کے بعد رمی کی اور یہ حدیث جسے بخاری نے معلق قرار دیا ہے، مسلم نے اسے ابن جریج کی حدیث سے سہارا دیا ہے۔ ابوالزبیر نے مجھے بتایا کہ اس نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم النحر کو چاشت کے وقت جمرہ کو رمی کیا اور اس کے بعد جب سورج ڈھل گیا تو رمی کی۔

اور صحیحین میں اعمش کی حدیث سے ابراہیم سے بحوالہ عبدالرحمن بن یزید روایت کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وادی کے نشیب سے رمی کی، تو میں نے عرض کیا اے ابوعبدالرحمن لوگ تو وادی کے بالائی حصے میں رمی کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور شعبہ کی حدیث سے عن الحكم عن ابراهيم عن عبدالرحمن عن عبداللہ بن مسعود اس کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ جمرہ کبریٰ کے پاس آئے اور بیت اللہ کو اپنے بائیں اور منیٰ کو اپنے دائیں پہلو میں رکھا اور سات سنگریزے مارے اور فرمایا کہ اسی طرح وہ ذات بھی رمی کرتی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔

پھر امام بخاری باب من رمی الجمار بسبع یکمیر مع کل حصاة میں بیان کرتے ہیں کہ یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت نبی کریم ﷺ سے بیان کی ہے اور یہ بات صرف حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو جعفر بن محمد کے طریق سے ان کے باپ سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مروی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے جمرہ کے پاس آ کر اسے سات سنگریزے مارے، ان میں سے ہر سنگریزے، ٹھیکرے کے سنگریزے کی صرح تھا، اور بخاری نے اس وضاحت میں اعمش کی حدیث سے عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن یزید عن عبداللہ بن مسعود روایت کی ہے کہ آپ نے وادی کے نشیب سے جمرہ کو رمی کیا اور آپ ہر سنگریزے کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ پھر آپ نے اس جگہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، وہ بھی اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ اور مسلم نے ابن جریج کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ابوالزبیر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ٹھیکری کی مانند، جمرہ کو سات سنگریزے مارتے دیکھا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن زکریا نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے حجاج نے عن الحكم عن ابی القاسم یعنی مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم النحر کو سوار ہونے کی حالت میں جمرہ کو رمی کیا۔ اور ترمذی نے اسے احمد بن منیع سے بحوالہ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور ابن ماجہ نے اسے ابوبکر بن ابی شیبہ سے عن ابی خالد الاحمر عن الحجاج بن الارطاة روایت کیا ہے۔ اور احمد ابوداؤد ابن ماجہ اور بیہقی نے اسے یزید بن زیاد کی حدیث سے عن سلیمان بن عمرو بن الاحوص اور اس کی والدہ ام جندب از دیہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وادی کے نشیب سے سوار ہو کر اور ہر سنگریزے کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے رمی جمار کرتے دیکھا، اور ایک آدمی آپ کو پیچھے سے چھپائے ہوئے تھا، میں نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے کہا یہ فضل بن عباس ہے، پس لوگوں نے اثر دھام کیا تو رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا اے لوگو! تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور جب تم ہجرہ کو رمی کرو تو اسے ٹھیکری کی مانند نگریرے مارو یہ الفاظ ابوداؤد کے ہیں اور انہی کی ایک روایت میں ہے کہ ام جندب کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو جمرہ عقبی کے پاس سوار ہونے کی حالت میں دیکھا، نیز میں نے آپ کی انگلیوں کے درمیان ایک پتھر دیکھا پس آپ نے رمی کی اور لوگوں نے بھی رمی کی۔ اور آپ جمرہ کے پاس کھڑے نہ ہوئے اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ام جندب نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یوم النحر کو جمرہ عقبہ کے پاس خنجر پر سوار دیکھا اور پھر انہوں نے پوری حدیث کو بیان کیا ہے اور اس جگہ خنجر کا ذکر بہت ہی دور از فہم بات ہے۔ اور مسلم نے اپنی صحیح میں ابن جریج کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ابوالزیر نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یوم النحر کو اپنی اونٹنی پر جمرہ کو رمی کرتے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے اپنے مناسک سیکھ لو مجھے معلوم نہیں کہ شاید میں اپنے اس حج کے بعد حج کر سکوں اور اسی طرح مسلم نے زید بن ابی امیہ کی حدیث سے عن یحییٰ بن الحصین عن جدتہ ام الحصین روایت کی ہے کہ میں نے انہیں کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع کا حج کیا اور میں نے آپ کو جمرہ عقبی کو رمی کرتے وقت دیکھا اور یوم النحر کو آپ اپنی اونٹنی پر واپس لوٹ گئے اور آپ فرما رہے تھے اپنے مناسک سیکھ لو مجھے معلوم نہیں کہ شاید میں اپنے اس حج کے بعد حج کر سکوں۔ اور ایک روایت میں وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع کا حج کیا اور میں نے حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو دیکھا ان میں سے ایک اپنی ناقہ کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور دوسرا آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنا کپڑا اتانے ہوئے تھا یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبی کو رمی کیا۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو احمد محمد بن عبد اللہ زہری نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ایمن بن نائل نے بیان کیا کہ ہم سے قدامہ بن عبد اللہ کلابی نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یوم النحر کو اپنی ناقہ صہباء پر وادی کے نشیب سے جمرہ کو رمی کرتے دیکھا۔ آپ نہ اونٹنی کو مارتے تھے نہ ہانکتے تھے اور نہ ادھر ادھر لے جاتے تھے اور اسی طرح احمد نے اسے کعب معتمر بن سلیمان اور ابی قرۃ موسیٰ بن طارق زبیدی سے روایت کیا ہے اور ان تینوں نے ایمن بن نائل سے روایت کی ہے اور ترمذی نے اسے احمد بن منبج سے عن مردان بن معاویہ عن ایمن بن نائل روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ نوح بن میمون نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عبد اللہ یعنی العمری نے نافع سے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر یوم النحر کو اپنی سواری پر سوار ہو کر جمرہ عقبہ کو رمی کرتے تھے اور بقیہ جمروں پر بھی آپ پیدل چل کر جایا کرتے تھے اور ان کا خیال ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ ان کے پاس پیدل آیا جایا کرتے تھے اور ابوداؤد نے اسے القطنی سے بحوالہ عبد اللہ العمری روایت کیا ہے۔



آپ کے قربانی کرنے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ قربان گاہ کی طرف واپس آ گئے اور اپنے ہاتھ سے تریسٹھ قربانی کے جانور ذبح کیے اور بقیہ جانور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے قربانی کے جانور میں شریک کیا۔ پھر آپ نے ہراونٹ سے ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا اور انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکایا اور پھر دونوں نے ان کا گوشت کھایا اور شور بہ پیا اور عنقریب ہم اس حدیث پر گفتگو کریں گے۔

اور امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ عبدالرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ معمر نے ہمیں حمید اعرج سے عن محمد بن ابراہیم تمیمی عن عبدالرحمن بن معاذ عن رجل من اصحاب النبی خبردی، وہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں خطبہ دیا اور انہیں ان کی منازل پر اتارا اور فرمایا کہ مہاجرین اس جگہ پر اتریں آپ نے قبلہ کی دائیں جانب اشارہ کیا اور انصار اس جگہ اتریں اور آپ نے قبلہ کی بائیں جانب اشارہ کیا۔ پھر لوگ ان کے ارد گرد اتریں اور راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے ان کو ان کے مناسک سکھائے۔ اور اہل منیٰ کے کان کھل گئے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو اپنی فرودگاہوں پر سنا، راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ جرہ کو ٹھیکری کی طرح کے سنگریزے مارو اور اسی طرح ابو داؤد نے اسے احمد بن حنبل سے اس قول تک روایت کیا ہے کہ لوگ ان کے ارد گرد اتر پڑیں، اور امام احمد نے اسے عبدالصمد بن عبدالوارث سے اور اس کے باپ سے روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد نے اسے مسدد سے بحوالہ عبدالوارث روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ نے اسے ابن المبارک کی حدیث سے عن عبدالوارث عن حمید بن قیس الاعرج عن محمد بن ابراہیم التیمی عن عبدالرحمن بن معاذ التیمی روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم منیٰ میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے خطاب کیا پس ہمارے کان کھل گئے، حتیٰ کہ جو بات آپ فرماتے تھے ہم اسے سنتے تھے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے قربانی کے جانور میں شریک کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے قربانی کے جانور لائے تھے اور جو جانور حضرت نبی کریم ﷺ لائے تھے وہ ایک سواونٹ تھے اور رسول کریم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے تریسٹھ اونٹوں کو ذبح کیا۔ اور ابن حبان نے بیان کیا ہے کہ یہ قربانی آپ کی عمر کے مطابق تھی، کیونکہ آپ تریسٹھ سال کے تھے، اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن آدم نے ہم سے بیان کیا کہ زہیر نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حج میں سواونٹوں کی قربانی دی جن میں سے تریسٹھ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور بقیہ کے ذبح کرنے کا آپ نے حکم دیا پس وہ ذبح کیے گئے اور آپ نے ہراونٹ سے ایک ٹکڑا لیا جنہیں ایک ہنڈیا میں اکٹھا کر دیا گیا، پس آپ نے ان سے کھایا اور ان کا شور بہ پیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے حدیبیہ کے روز ستر اونٹ ذبح کیے جن میں ابو جہل کا اونٹ بھی شامل تھا، پس

جب اونٹوں کو بیت اللہ سے روک دیا گیا تو اس نے ایسا اشتیاق ظاہر کیا جیسے اونٹ اپنی اولاد کا مشتاق ہوتا ہے۔ اور ابن ماجہ نے اس کا کچھ حصہ ابو بکر بن ابی شیبہ اور علی بن محمد سے عن کعب بن سفیان ثوری عن ابن ابی لیلیٰ روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یعقوب نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے مجھ سے بحوالہ محمد بن اسحاق بیان کیا کہ مجھ سے ایک آدمی نے عن عبد اللہ بن نجیح عن مجاہد بن جبر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں ایک سواونٹ کی قربانی دی جن میں سے تمیں^۱ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور بقیہ کو آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا۔ نیز فرمایا ان کے گوشت چمڑے اور بڑے حصے کو لوگوں میں تقسیم کر دو اور قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دو اور ہمارے لیے ہراونٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا لاؤ اور انہیں ایک ہی ہنڈیا میں ڈال دو تاکہ ہم ان کا گوشت کھائیں اور شور بہیں تو آپ نے ایسے ہی کیا اور صحیحین میں مجاہد کی حدیث سے ابن ابی لیلیٰ سے بحوالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے اونٹوں پر کھڑا ہو جاؤں اور ان کے گوشت چمڑے اور بڑے حصے کو صدقہ کر دوں اور ان میں سے قصاب کو کچھ نہ دوں۔ اور فرمایا ہم اس کو اسپچ پاس سے دیں گے۔ اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن حاتم نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عبد اللہ بن المبارک نے حرمہ بن عمران سے بحوالہ عبد اللہ بن الحارث ازدی بیان کیا کہ میں نے عرفہ بن الحارث کندی کو بیان کرتے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ اونٹوں کے پاس آئے اور فرمایا ابو حسن کو میرے پاس بلاؤ، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا یا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رچھے کے نچلے حصے کو پکڑو اور رسول اللہ ﷺ نے اس کے اوپر کے حصے کو پکڑا، پھر دونوں نے اونٹوں کو برچھا مارا، پس جب آپ فارغ ہوئے تو اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھالیا، ابو داؤد اس کی روایت میں متفرد ہیں اور اس کے اسناد اور متن میں غرابت پائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ احمد بن الحجاج نے ہم سے بیان کیا کہ عبد اللہ نے ہمیں خبر دی کہ حجاج بن ارطاة نے ہمیں عن الحکم، یعنی مقسم، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے جمرہ عقبہ کو رمی کیا، پھر قربانی کی پھر سرمنڈایا اور ابن حزم نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی اور منیٰ میں گائے کی قربانی دی اور خود آپ نے دو چستکبرے دبنے ذبح کیے۔

آپ کے سرمنڈانے کا بیان:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ معمر نے ہمیں زہری سے، سالم سے، بحوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے حج میں سرمنڈایا۔ اور نسائی نے اسے اسحاق بن ابراہیم، ابن راہویہ سے بحوالہ عبد الرزاق روایت کیا

۱ بے شمار روایات میں ذکر ہے کہ حجۃ الوداع میں تریٹھ اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور بقیہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا، لیکن اس روایت میں ہے کہ آپ نے تیس جانوروں کو ذبح کیا۔ یا تو راوی سے بیان میں غلطی ہو گئی ہے یا کتابت کی غلطی سے تیس چھپ گیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو دیگر روایات کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا جائے گا۔ مترجم

ہے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابوالیمان نے ہم سے بیان کیا کہ شعیب نے ہم سے بیان کیا کہ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے حج میں سرمنڈایا۔ اور مسلم نے اسے موسیٰ بن عقبہ کی حدیث سے بحوالہ نافع روایت کیا ہے۔

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن اسماء نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے جویریہ بن اسماء نے بحوالہ نافع بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کی ایک جماعت نے سرمنڈایا اور بعض نے بال کٹائے۔ اور مسلم نے اسے لیث کی حدیث سے نافع سے روایت کیا ہے اور یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک یا دو بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سرمنڈانے والوں پر رحم فرمائے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اور بال کٹانے والوں پر بھی رحم فرمائے تو آپ نے فرمایا بال کٹانے والوں پر بھی رحم فرمائے اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے وکیع اور ابوداؤد طیالسی نے یحییٰ بن الحصین سے بحوالہ اس کی دادی کے بیان کیا کہ اس نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ کو سرمنڈانے والوں کے لیے تین بار اور بال کٹانے والوں کے لیے ایک بار دعا کرتے سنا اور وکیع نے ”حجۃ الوداع میں“ کے الفاظ نہیں کہے اور اسی طرح اس حدیث کو مسلم نے مالک اور عبداللہ کی حدیث سے عن نافع عن ابن عمر وعمارہ عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما والخطاب بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے۔ اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن یحییٰ نے ہم سے بیان کیا کہ حفص بن غیاث نے ہم سے عن ہشام بن سیرین عن انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ منیٰ آئے اور جمرہ کے پاس آ کر اسے دیکھا۔ پھر منیٰ میں اپنی فرودگاہ پر آئے اور قربانی کی پھر نائی سے اپنی دائیں جانب اور پھر بائیں جانب کے بالوں کو مونڈنے کے لیے کہا پھر آپ انہیں لوگوں کو دینے لگے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی دائیں جانب کے بال منڈوا کر انہیں لوگوں میں ایک ایک دو دو بال کر کے تقسیم کر دیا اور اپنی بائیں جانب کے بال ابوطلحہ کو دے دیئے۔ اور انہی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دائیں جانب کے بال ابوطلحہ کو دے دیئے اور بائیں جانب کے بال انہیں دیئے اور انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن حرب نے ہم سے بیان کیا کہ سلیمان بن مغیرہ نے ہم سے بحوالہ انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ نائی آپ کا سر مونڈ رہا تھا اور آپ کو آپ کے اصحاب نے گھیرا ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کا ایک ایک بال ان کے ہاتھ میں گرے۔ احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں۔



باب ۳۵

پھر آپ نے جمرہ عقبہ کوری کرنے اور اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور بیت اللہ کے طواف سے قبل آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو لگائی۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ بن المدینی نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان بن عیینہ نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد نے ہم سے بیان کیا جو اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے فرماتے سنا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے سنا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے احرام باندھا تو میں نے اپنے ان دو ہاتھوں سے آپ کو خوشبو لگائی اور جب طواف سے قبل آپ حلال ہوئے تو حلال ہونے پر بھی میں نے آپ کو خوشبو لگائی۔ اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیا اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ یعقوب الدوری اور احمد بن منیع نے ہم سے بیان کیا کہ ہشیم نے ہم سے بیان کیا کہ منصور نے ہمیں عبد الرحمن بن القاسم سے اس کے باپ سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خبر دی آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کو احرام باندھنے سے قبل اور یوم النحر کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے قبل ایسی خوشبو لگاتی تھی جس میں کستوری شامل ہوتی تھی۔ اور نسائی نے سفیان بن عیینہ کی حدیث سے عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو احرام باندھتے وقت اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے قبل جمرہ عقبہ کوری کرنے کے بعد خوشبو لگائی۔ اور امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے ہمیں عمرو بن دینار سے بحوالہ سالم خبر دی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حلال و محرم ہوتے وقت خوشبو لگائی اور عبدالرزاق نے اسے عن معمر عن زہری عن سالم عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا ہے۔

اور صحیحین میں ابن جریج کی حدیث سے بیان ہوا ہے کہ مجھے عمرو بن عبد اللہ بن عروہ نے بتایا کہ اس نے عروہ اور قاسم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے سنا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں حل و احرام کے لیے رسول اللہ ﷺ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خوشبو لگائی۔ اور مسلم نے اسے ضحاک بن عثمان کی حدیث سے عن ابی الرحال عن امہ عمرہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا ہے اور سفیان ثوری سلمہ بن کہیل سے عن حسن عوفی بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب تم جمرہ کوری کر چکو تو تم پر عورتوں کے سوا ہر حرام چیز حلال ہے یہاں تک کہ تم بیت اللہ کا طواف کر لو ایک شخص نے کہا اے ابوالعباس خوشبو کے متعلق کیا خیال ہے تو آپ نے اسے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے آپ اپنے سر کو کستوری سے لتھیڑتے تھے کیا وہ خوشبو ہے یا نہیں اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید نے عن عبد اللہ بن زمر عن امہ وابیہ زینب بنت ام سلمہ عن ام سلمہ مجھ سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ جس شب رسول اللہ ﷺ چکر لگاتے تھے وہ قربانی کی رات تھی اور آپ میرے ہاں تھے کہ وہ بن زمرہ اور آل ابی امیہ کا ایک آدمی قمیص پہنے ہوئے آئے رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا تم دونوں واپس لوٹ آئے

ہونا انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا جب تم بمرہ کورنی کر پکوا اور اگر تمہارے پاس قربانی کا جانور ہے تو اسے ذبح کر پکو تو تمہیں اللہ نے اس دن میں رحمت عطا کی ہے اور عورتوں کے سوا تم پر ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ تم بیت اللہ کا طواف کرو۔ اور اسی طرح ابو داؤد نے اسے احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے ابن عدی سے بحوالہ ابن اسحاق روایت کیا ہے اور تہمتی نے اسے عن الحاکم عن ابی بکر بن ابی اسحاق عن ابی الہنتی العسری عن یحییٰ بن معین روایت کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ ام قیس بنت محسن نے مجھ سے بیان کیا کہ عکاشہ بن محسن بنی اسد کی ایک جماعت کے ساتھ میرے ہاں سے یوم النحر کی شام کو قیصین پہن کر نکلے پھر عشاء کو ہمارے پاس لوٹ آئے اور وہ اپنی قیصوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھے ام قیس نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اسے وہ بات بتائی جو رسول اللہ ﷺ نے وہب بن زمعہ اور اس کے ساتھی کو فرمائی تھی اور یہ حدیث بہت غریب ہے میں کسی عالم کو نہیں جانتا جس نے یہ بات کہی ہو۔

بیت العتیق کی طرف آپ کے لوٹنے کا بیان:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پھر رسول اللہ ﷺ سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف آئے اور مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی اور بنی عبدالمطلب کے پاس آئے جو زمزم پر ساقی گری کر رہے تھے آپ نے فرمایا اے بنی عبدالمطلب ڈول نکالو اگر لوگوں نے تمہارے پانی پلانے کی جگہ پر تم پر بھیڑ نہ کی ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول نکالتا پس انہوں نے آپ کو ڈول پکڑایا تو آپ نے اس سے پانی پیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس عبارت میں اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ حضور ﷺ زوال سے قبل سوار ہو کر مکہ کی طرف آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا پھر فراغت کے بعد وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی۔ اور امام مسلم اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ محمد بن رافع نے ہمیں بتایا کہ عبدالرزاق نے ہمیں خبر دی کہ عبید اللہ بن عمر نے نافع سے بحوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ یوم النحر کو واپس آئے پھر منیٰ واپس جا کر ظہر کی نماز پڑھی اور یہ بات حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے خلاف ہے اور یہ دونوں مسلم کی روایات ہیں پس اگر ہم ان دونوں کی تعلیل کریں تو یہ کہنا ممکن ہے کہ حضور ﷺ نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی پھر منیٰ کی طرف واپس گئے تو لوگوں کو اپنا منتظر پایا تو آپ نے انہیں نماز پڑھا دی۔ واللہ اعلم اور ظہر کے وقت منیٰ کی طرف آپ کا واپس جانا ممکن ہے کیونکہ اس وقت گرمی کا موسم تھا اگرچہ اس دن کے شروع میں آپ سے بہت سے افعال صادر ہو چکے تھے اور اس میں آپ نے فجر کے بہت روشن ہو جانے پر مزدلفہ سے کوچ کیا تھا لیکن وہ طلوع آفتاب سے پہلے ہوا تھا پھر آپ منیٰ آئے اور حجرہ عقبہ کو سات سنگریزے مارنے سے آغاز کیا پھر آ کر اپنے ہاتھ سے تریسٹھ اونٹ ذبح کیے اور سو میں سے بقیہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا پھر ہر اونٹ سے ایک ایک ٹکڑا لے کر ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا یہاں تک کہ وہ بھن گیا تو آپ نے اس گوشت سے کھایا اور اس کا شور بہ پایا اور اس دوران میں آپ نے اپنا سر منڈایا اور خوشبو لگائی اور جب آپ ان تمام امور سے فارغ ہو گئے تو سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف گئے۔ اور آپ نے اس دن ایک عظیم خطبہ دیا مجھے معلوم نہیں کہ یہ خطبہ آپ کے بیت اللہ کی طرف جانے سے قبل یا آپ کے وہاں سے منیٰ کی طرف واپس آنے کے بعد ہوا تھا۔ واللہ اعلم

مقصود یہ ہے کہ آپ سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف گئے اور سوار ہونے کی حالت میں اس کے ساتھ چکر لگائے اور آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہیں لگائے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے ثابت ہے۔ پھر آپ نے آب زمزم اور کعبہ کا نبیذ جو آب زمزم سے تیار کیا گیا تھا پیا اور یہ سب باتیں اس شخص کے قول کو تقویت دیتی ہیں جس نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی تھی جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہما نے اسے روایت کیا ہے اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ظہر کے آخری وقت میں منیٰ کی طرف لوٹ آئے ہوں اور اپنے اصحاب کو منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھائی ہو اور اس بات نے ابن حزم کو اشتباہ میں ڈال دیا ہے اور وہ سمجھ نہیں سکے کہ اس بارے میں کیا کہیں اور وہ اس بارے میں صحیح روایات کے تعارض کی وجہ سے معذور ہیں۔ واللہ اعلم

اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ علی بن بجر اور عبد اللہ بن سعید المعنی نے ہم سے بیان کیا کہ ابو خالد الاحمر نے ہم سے عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دن کے آخر میں جب آپ نے ظہر پڑھی، لوٹے پھر منیٰ کی طرف واپس چلے گئے اور وہاں ایام تشریق کی راتیں ٹھہرے رہے اور جب سورج ڈھل جاتا تو رومی جمار کرتے اور ہر جمرہ کو سات سنگریزے مارتے اور ہر سنگریزے کے ساتھ تکبیر کہتے ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اس امر پر متفق ہیں کہ حضور ﷺ نے یوم النحر کو ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی اور یہ دونوں اس بات کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہیں اور اسی طرح ابن حزم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کچھ چیز نہیں۔ بلاشبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ناصحہ نہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی بلکہ کھلبلا ہے۔ اگرچہ محفوظ فی الروایۃ 'یہاں تک کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی' کے الفاظ ہیں مگر روایت یہ ہے کہ جس وقت آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور یہ مشابہ روایت ہے اور بلاشبہ اس امر کی یہ دلیل ہے کہ حضور ﷺ نے بیت اللہ کی طرف روانہ ہونے سے قبل منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھی اور محتمل ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔ اس صورت میں یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے مخالف ہے کیونکہ اس کا مقتضایہ ہے کہ آپ نے سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف آنے سے قبل منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی حدیث کا مقتضایہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھنے سے قبل بیت اللہ کی طرف آئے اور ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابو الزبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے طواف زیارت کو رات تک مؤخر کر دیا۔ اور اسے بخاری نے معلق قرار دیا ہے۔ اور لوگوں نے اسے یحییٰ بن سعید عبد الرحمن بن مہدی اور خرج بن میمون کی حدیث سے عن سفیان ثوری عن ابی الزبیر عن عائشہ و ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم النحر کو رات تک طواف مؤخر کر دیا۔ اور سنن اربعہ کے مؤلفین نے اسے سفیان کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عبد اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے ہم سے عن ابی الزبیر عن عائشہ و ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے رات کو طواف زیارت کیا۔ پس اگر اسے اس بات پر محمول کیا جائے کہ آپ نے اسے زوال کے بعد تک مؤخر کر دیا، گویا وہ کہتا ہے کہ عشاء تک مؤخر کر دیا تو یہ درست ہے اور اگر اسے غروب آفتاب

کے بعد کے وقت پر محمد دل کیا ہائے تو یہ بہت بعید ہے اور صحیح مشہور احادیث میں جو بیان ہوا ہے اس کے مخالف ہے کیونکہ وہ بیان یہ ہے کہ حضور ﷺ نے یوم النحر کو دن کے وقت طواف کیا اور زمزم کے نوش سے پانی پیا اور وہ طواف جس میں آپ رات کو بیت اللہ کی طرف گئے وہ طواف وداع تھا اور بعض راوی اسے طواف زیارت بیان کرتے ہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ یا وہ محض طواف زیارت ہے جو طواف وداع سے قبل اور فرض طواف صدر کے بعد ہوا۔ اور ایک حدیث آئی ہے جسے ہم اس کے مقام پر عنقریب ذکر کریں گے کہ رسول اللہ ﷺ منیٰ کی راتوں میں سے ہر رات کو بیت اللہ کی زیارت کرتے تھے اور یہ بھی اسی طرح بعید ہے۔ واللہ اعلم

اور حافظ بیہقی نے عمرو بن قیس کی حدیث سے عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو اجازت دی تو انہوں نے یوم النحر کو دوپہر کے وقت بیت اللہ کی زیارت کی اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کے ساتھ رات کو زیارت کی اور یہ حدیث بھی اسی طرح غریب ہے اور طاؤس اور عروہ کا یہ قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم النحر کو رات تک طواف مؤخر کر دیا۔ اور روایات سے جو بات صحیح طور پر ثابت ہے اور جمہور جس کے قائل ہیں وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے یوم النحر کو دن کے وقت طواف کیا اور زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ زوال سے قبل تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ زوال کے بعد ہوا ہو۔ واللہ اعلم

حاصل الکلام یہ ہے کہ آپ جب مکہ آئے تو آپ نے سوار ہونے کی حالت میں بیت اللہ کے سات چکر لگائے پھر زمزم کے پاس آئے تو بنو عبدالمطلب وہاں سے پانی لے کر لوگوں کو پلا رہے تھے آپ نے اس سے ایک ڈول لیا اور اس پانی پیا اور اپنے اوپر ڈالا جیسا کہ مسلم نے بیان کیا ہے کہ محمد بن منہال الضریر نے ابن خیردی کہ یزید بن زریع نے ہم سے بیان کیا کہ حمید الطویل نے بحوالہ بکر بن عبید اللہ مزی نے ہم سے بیان کیا کہ اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جبکہ وہ کعبہ کے پاس اُن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے پس ہم آپ کے پاس ایک برتن لائے جس میں نیبذ تھا تو آپ نے اسے پیا۔ اور آپ نے اپنا بقیہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پلا دیا اور فرمایا تم نے بہت اچھا کیا ہے اسی طرح کیا کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ جس کام کا رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے اسے بدل دیں۔

اور بکر کی ایک روایت میں ہے کہ ایک بدو نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے عم زاد دودھ اور شہد پلاتے ہیں اور آپ لوگ نیبذ پلاتے ہیں کیا آپ کسی ضرورت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں یا بخل کی وجہ سے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے یہ حدیث بتائی۔

اور احمد بیان کرتے ہیں کہ روح نے ہم سے بیان کیا کہ حماد نے ہم سے عن حمید بن بکر عن عبد اللہ بیان کیا کہ ایک بدو نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا آل معاویہ کی کیا بات ہے وہ پانی اور دودھ پلاتے ہیں اور فلاں کی آل دودھ پلاتی ہے اور آپ لوگ نیبذ پلاتے ہیں۔ کیا آپ بخل کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں؟ یا کسی ضرورت کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہ ہمیں

کوئی بخل ہے نہ ضرورت، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس آئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما آپ کے ردیف تھے تو آپ نے ہم سے پانی طلب کیا تو ہم نے آپ کو حوض کا نبیذ پلایا تو آپ نے اسے پی کر فرمایا تم نے بہت اچھا کیا ہے اسی طرح کیا کرو اور احمد نے اسے روح اور محمد بن بکر سے عن ابن جریج عن حسین بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس اور داؤد بن علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے۔ اور بخاری نے اسحاق بن سلیمان سے عن خالد بن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حوض کے پاس آ کر پانی طلب کیا تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے فضل اپنی والدہ کے پاس جا کر ان سے رسول اللہ ﷺ کے لیے مشروب لاؤ۔ آپ نے فرمایا مجھے پلاؤ، عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! یہ اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پلاؤ، پس آپ نے اس سے پیا، پھر آپ زمزم کے پاس آئے اور وہ پلا رہے تھے اور زمزم پر کام کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کام کرو تم اچھا کام کر رہے ہو، پھر فرمایا اگر تم بھیڑ نہ کرو تو میں ڈول نکالوں حتیٰ کہ اپنے کندھے پر رسی ڈال دوں۔ اور بخاری کے ہاں عاصم کی حدیث سے بحوالہ شعبی مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو آب زمزم پلایا اور آپ نے کھڑے ہو کر پیا، عاصم کہتے ہیں کہ عکرمہ نے قسم کھا کر کہا کہ آپ اس وقت اونٹ پر تھے اور ایک روایت میں ہے کہ انہی ناقہ پر تھے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہشیم نے ہم سے بیان کیا کہ یزید بن ابی زیاد نے عکرمہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا اور اپنی کھونٹی کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا، راوی بیان کرتا ہے کہ آپ حوض کے پاس آئے اور فرمایا مجھے پلاؤ، تو لوگوں نے کہا اس میں لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں، ہم گھر سے آپ کے لیے پانی لاتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، جس سے لوگ پیتے ہیں مجھے بھی اسی سے پلاؤ۔ اور ابوداؤد نے مسدد سے عن خالد الطحان عن یزید بن ابی زیاد عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکہ تشریف لائے اور ہم پانی طلب کر رہے تھے، پس آپ نے اپنی اونٹنی پر طواف کیا۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ روح اور عفان نے ہم سے بیان کیا کہ حماد نے قیس سے ہمارے پاس بیان کیا۔ اور عفان اپنی حدیث میں بیان کرتا ہے کہ قیس نے مجاہد سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہمیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ زمزم کی طرف آئے تو ہم نے آپ کے لیے ڈول نکالا، تو آپ نے پانی پیا، پھر اس میں کلی کی۔ پھر ہم نے اسے زمزم میں ڈال دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم زمزم پر بھیڑ نہ کرتے تو میں اپنے ہاتھوں سے ڈول نکالتا۔ احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں اور اس کا اسناد مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔



باب ۳۶

صفا اور مروہ کے درمیان قارن کا طواف

پھر آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوبارہ طواف نہیں کیا بلکہ اپنے پہلے طواف پر ہی اکتفا کیا جیسا کہ مسلم نے اپنی صحیح میں ابن جریج کے طریق سے روایت کی ہے کہ ابو الزبیر نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے صفا اور مروہ کے درمیان ایک ہی طواف کیا، میں کہتا ہوں اس جگہ پر آپ کے اصحاب سے وہ لوگ مراد ہیں جو قربانی کے جانور لائے تھے اور قارن تھے جیسا کہ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اور آپ حج کو عمرہ کے ساتھ شامل کر کے قارنہ ہو گئی تھیں، کہ تیرے حج و عمرہ کے لیے تیرا بیت اللہ اور صفا اور مروہ کے درمیان طواف کر لینا کافی ہے۔ اور امام احمد کے اصحاب کے نزدیک حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب کا قول عام قارئین اور متمتعین کے لیے ہے اس لیے امام احمد نے بیان کیا ہے کہ متمتع کے لیے اس کے حج و عمرہ کے لیے ایک طواف کافی ہے خواہ ان دونوں کے درمیان تحلل ہو جائے اور بظاہر عموم حدیث کے مطابق اس قول کا ماخذ غریب ہے۔ واللہ اعلم

اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب کا متمتع کے بارے میں وہی قول ہے جو مالکیہ اور شافعیہ کا ہے اس پر دو طواف اور دو دفعہ سعی کرنا واجب ہے، حتیٰ کہ قارن کے بارے میں حنفیہ نے اس کا پیچھا کیا ہے اور وہ ان کے مذہب کے افراد میں سے ہے کہ وہ دو طواف کرے اور دو دفعہ سعی کرے اور انہوں نے اسے موقوف بیان کیا ہے اور ان سے اسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بھی روایت کیا ہے۔ اور ہم قبل ازیں طواف کے موقع پر اسے مکمل بیان کر چکے ہیں اور واضح کر چکے ہیں کہ اس کی اسانید ضعیف ہیں اور صحیح احادیث کے مخالف ہیں۔ واللہ اعلم



باب ۳۷

منیٰ میں ظہر کی نماز

پھر حضور ﷺ مکہ میں ظہر پڑھنے کے بعد منیٰ کی طرف واپس آگئے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ نے واپس آ کر منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ ان دونوں کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ مکہ اور منیٰ دونوں میں اس کا وقوع ہوا۔ واللہ اعلم

اور ابن حزم نے اس مقام پر توقف کیا ہے اور قطعیت کے ساتھ اس بارے میں کچھ بیان نہیں کیا۔ اور آپ اس بارے میں صحیح احادیث کے تعارض کی وجہ سے معذور ہیں۔ واللہ اعلم

۱۰۔ اور محمد بن اسحاق، عبدالرحمن بن القاسم سے ابن کے باپ سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دن کے آخر میں جس وقت آپ نے ظہر کی نماز پڑھی واپس آگئے پھر منیٰ کی طرف لوٹ گئے اور وہاں پر ایام تشریق کی راتوں کو ٹھہرے رہے اور جب سورج ڈھل جاتا تو بھڑکتے پری کرتے اور ہر جمرہ کو سات سنگریزے مارتے اور ہر سنگریزے کے ساتھ تکبیر کہتے۔ اور ابوداؤد نے اسے منفرد روایت کیا ہے۔ اور یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حضور ﷺ یوم النحر کو زوال کے بعد مکہ گئے۔ اور یہ امر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے قطعاً منافی ہے اور اس کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے منافی ہونے میں اعتراض ہے۔ واللہ اعلم



یوم النحر کا خطبہ

اور اس روز رسول اللہ ﷺ نے ایک عظیم خطبہ دیا جسے احادیث نے متواتر بیان کیا ہے اور ہم اس میں سے اللہ جو میسر کرے گا بیان کریں گے۔ امام بخاری باب الخطبۃ ایام منیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید نے ہم سے بیان کیا کہ فضیل بن عزیوان نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے عکرمہ نے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم النحر کو لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا:

اے لوگو! یہ کون سا دن ہے انہوں نے جواب دیا حرمت والادن ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے جواب دیا حرمت والا شہر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ حرمت والا مہینہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے خون تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اس ماہ میں اس شہر میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے، راوی بیان کرتا ہے آپ نے اس بات کو کئی بار دہرایا، پھر اپنا سراٹھایا اور فرمایا اے اللہ! کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ اے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بلاشبہ یہ آپ کی امت کو وصیت ہے پس جو آدمی موجود ہے وہ غیر موجود ہے وصیت پہنچا دے میرے بعد پلٹ کر کفار نہ بن جانا، تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اور ترمذی نے اسے الفلاس سے بحوالہ یحییٰ القطان روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔

اور اسی طرح امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عامر نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے قرہ نے بحوالہ محمد بن سیرین بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اپنے باپ سے اور ایک ایسے آدمی نے جو میرے نزدیک عبد الرحمن حمید بن عبد الرحمن سے بہتر ہے، اس نے ابو بکرہ سے مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم النحر کو ہم سے خطاب کیا اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں؟ ہم نے کہا بے شک یہ یوم النحر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، پس آپ خاموش ہو گئے حتیٰ کہ ہم خیال کرنے لگے کہ آپ اسے کسی اور نام سے موسوم کریں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں کہا بے شک یہ ذوالحجہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، پس آپ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اسے کسی اور نام سے موسوم کریں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ شہر حرام نہیں؟ ہم نے کہا بے شک یہ شہر حرام ہی ہے، آپ نے فرمایا: تمہارے خون اور تمہارے اموال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح اس ماہ میں اس شہر میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے اور یہ حرمت تمہارے رب سے ملنے کے دن تک قائم رہے گی، آگاہ رہو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اور حاضر آدمی

غائب تک پہنچا دے بہت سے آدمی من تک بات پہنچائی جاتی ہے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوئے ہیں۔ پس میرے بعد پلٹ کر کفار نہ بن جانا جو ایک دوسرے قتل کرتے ہیں۔

اور بخاری اور مسلم نے اسے کئی طرق سے محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے عبد اللہ بن عون کی حدیث سے عن ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکرہ عن ابیہ روایت کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ پھر آپ دو چنگبرے مینڈھوں کی طرف پلٹے اور انہیں ذبح کیا اور بکریوں کے ایک ریورڈ کو ہمارے درمیان تقسیم کیا۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل نے ہم سے بیان کیا کہ ایوب نے ہمیں محمد بن سیرین سے بحوالہ ابو بکرہ بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے حج میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس دن سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں زمانہ اپنی ہیئت پر گھوم رہا ہے سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے جن میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں تین پے در پے آتے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم اور رجب مضر وہ ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے پھر فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں پس آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اسے کسی اور نام سے موسوم کریں گے آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں؟ ہم نے کہا بے شک پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں پس آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اسے کسی اور نام سے موسوم کریں گے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں؟ ہم نے کہا بے شک پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں پس آپ خاموش ہو گئے ہم نے خیال کیا کہ آپ اسے کسی اور نام سے موسوم کریں گے آپ نے فرمایا کیا یہ شہر حرام نہیں؟ ہم نے کہا بے شک آپ نے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے اموال اور میرا خیال ہے آپ نے فرمایا اور تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہیں جس طرح ہس ماہ میں اس شہر میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا آگاہ رہو میرے بعد گمراہ نہ ہونا تم ایک دوسرے قتل کرو گے۔ آگاہ رہو کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے آگاہ رہو حاضر آدمی غائب تک یہ پیغام پہنچا دے اور شاید جسے پیغام پہنچایا جائے وہ بعض سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو اسی طرح مسند امام احمد میں محمد بن سیرین سے بحوالہ ابو بکرہ بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد نے اسے مسدود سے اور نسائی نے عمرو بن زرارہ سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے اسے اسماعیل یعنی ابن علیہ عن ایوب عن ابن سیرین عن ابی بکرہ سے روایت کیا ہے اور یہ منقطع روایت ہے۔ کیونکہ صحیح کے دونوں مؤلفین نے اسے کئی اور طریق سے عن ایوب وغیرہ عن محمد بن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکرہ عن ابیہ روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ محمد بن اشعثی نے ہم سے بیان کیا کہ یزید بن ہارون نے ہم سے بیان کیا کہ عاصم بن محمد بن زید نے ہمیں اپنے باپ سے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہے انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا حرمت والا شہر ہے آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا حرمت والا مہینہ ہے آپ نے فرمایا بے شک

اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں اس طرح حرام کی ہیں جس طرح اس شہر میں اس ماہ میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔

اور بخاری نے اپنی صحیح میں اسے متفرق مقامات پر روایت کیا ہے۔ اور ترمذی کے سوا بقیہ جماعت نے کئی طرق سے محمد بن زید بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بحوالہ ان کے دادا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن الغاز کہتے ہیں کہ نافع نے مجھے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بتایا کہ رسول اللہ ﷺ اس حج میں یوم النحر کو جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: یہ حج اکبر کا دن ہے اور حضرت نبی کریم ﷺ کہنے لگے اے اللہ! گواہ رہ، اور لوگوں کو الوداع کیا تو وہ کہنے لگے یہ جتہ الوداع ہے۔ اور ابوداؤد نے اس حدیث کو مؤمل بن فضل سے بحوالہ ولید بن مسلم اسناد کیا ہے۔ اور ابن ماجہ نے اسے ہشام بن عمار سے بحوالہ صدقہ بن خالد روایت کیا ہے اور ان دونوں نے اسے ہشام بن الغاز بن ربیعہ الجرشئی ابی العباس دمشقی سے روایت کیا ہے اور جمرات کے پاس رسول اللہ ﷺ کے کھڑے ہونے میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ آپ یوم النحر کو طواف سے پہلے جمرہ کو رمی کرنے کے بعد کھڑے ہوئے ہوں اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ طواف کرنے اور منیٰ کی طرف واپس جانے اور رمی جمار کرنے کے بعد کھڑے ہوئے ہوں، لیکن پہلے احتمال کو وہ روایت قوت دیتی ہے جسے نسائی نے بیان کیا ہے کہ عمرو بن ہشام حرانی نے ہمیں بتایا کہ محمد بن سلمہ نے ہم سے عن ابی عبد الرحمن عن زید بن ابی انیسہ عن یحییٰ بن حصین الاحمسی عن جدتہ ام حصین بیان کیا وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے حج کے سال حج کیا اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ پر کپڑا اتانے ہوئے دیکھا اور آپ احرام باندھے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی کیا پھر لوگوں سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور بہت سی باتوں کا ذکر کیا۔ اور مسلم نے اسے زید بن انیسہ کی حدیث سے عن یحییٰ بن حصین عن جدتہ ام الحصین روایت کیا ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جتہ الوداع کیا اور میں نے حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا ان میں سے ایک رسول اللہ ﷺ کی ناقہ کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور دوسرا آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے کپڑا اتانے ہوئے تھا یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی کیا وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بہت سی باتیں بیان فرمائیں پھر میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم پر تکلف غلام امیر بنا دیا جائے۔ میرا خیال ہے۔ کہ اس نے سیاہ فام کہا ہے جو تمہیں کتاب اللہ کی طرف لے جائے تو اس کی سمع و اطاعت کرو اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عبید اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ اعمش نے ابوصالح یعنی ذکوان السمان سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم النحر کو ہم سے خطاب کیا اور فرمایا کون سادن سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا یہ دن آپ نے فرمایا کون سامہینہ سب سے زیادہ حرمت والا ہے انہوں نے کہا ہمارا یہ مہینہ آپ نے فرمایا کون سا شہر سب سے زیادہ حرمت والا ہے انہوں نے کہا ہمارا یہ شہر آپ نے فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال تم پر اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس شہر اور اس ماہ میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ کیا میں نے پیغام بچپنا دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ نے فرمایا اے اللہ! گواہ رہ احمد اس طریق سے اس کی روایت میں متفرد ہیں اور یہ صحیحین کی شرط

کے مطابق ہے اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے اسے ابی معاویہ سے بحوالہ اعمش روایت کیا ہے اور یوم عرفہ کے خطبہ کے بارے میں قبل ازین انصر بن محمد کی حدیث ان کے باپ سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان ہو چکی ہے۔ واللہ اعلم

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ علی بن بحر نے ہم سے بیان کیا کہ عیسیٰ بن یونس نے ہم سے عن اعمش عن ابی صالح عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں فرمایا اور پھر اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور ابن ماجہ نے بھی اسے ہشام بن عمار سے بحوالہ عیسیٰ بن یونس روایت کیا ہے۔ اور اس کا اسناد صحیحین کی شرط کے مطابق ہے۔ واللہ اعلم

اور حافظ ابو بکر البزار بیان کرتے ہیں کہ ابو ہشام نے ہم سے بیان کیا کہ حفص نے ہم سے اعمش سے عن ابی صالح عن ابی ہریرہ و ابی سعید بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ میں فرمایا یہ کون سادن ہے؟ انہوں نے کہا حرمت والادن ہے آپ نے فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس شہر اور اس ماہ میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے پھر البزار بیان کرتے ہیں کہ ابو معاویہ نے اسے اعمش سے عن ابی صالح عن ابی ہریرہ و ابی سعید جمع کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ احمد نے اس کی جو روایت عن محمد بن عبید لنافسی عن اعمش عن ابی صالح عن جابر بن عبد اللہ بیان کی ہے وہ پہلے بیان ہو چکی ہے اور شاید ابو صالح کے نزدیک وہ قبوں سے مروی ہو۔ واللہ اعلم

اور ہلال بن یساف، سلمہ بن قیس اشجعی نے روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں صرف چار باتیں بیان فرمائیں: ”کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اور جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو اور زنا اور چوری نہ کرو۔“

راوی بیان کرتا ہے کہ جب میں نے ان باتوں کو رسول اللہ ﷺ سے سنا تو مجھ سے زیادہ کوئی ان کا حریص نہ تھا۔ اور احمد اور نسائی نے اسے منصور کی حدیث سے بحوالہ ہلال بن یساف روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح اسے سفیان بن عیینہ اور ثوری نے بحوالہ منصور روایت کیا ہے اور ابن حزم حجۃ الوداع کے بارے میں کہتے ہیں کہ احمد بن عمر بن انس نے ہم سے بیان کیا کہ ابو ذر عبد اللہ بن احمد ہروی انصاری نے ہم سے بیان کیا کہ احمد بن عبدان الحافظ نے ہم سے ابواز میں بیان کیا کہ سہل بن موسیٰ بن شیر ناد نے ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ بن عمرو بن عاصم نے ہم سے بیان کیا کہ ابو العوام نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن جعادہ نے زیاد بن علاقہ سے بحوالہ اسامہ بن شریک ہم سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع میں خطبہ فرماتے دیکھا کہ اپنی ماں اپنے باپ اپنی ہمشیرہ اور اپنے بھائی کی خدمت کر پھر اپنے اقرباء کا خیال رکھ کر پھر اپنی ماں کو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! بنو ربیع نے ہم کو ضامن بنایا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی آدمی دوسرے پر ظلم نہ کرے پھر ایک آدمی نے آپ سے پوچھا وہ رمی جہار کرنا بھول گیا ہے۔ فرمایا رمی کرو کوئی حرج نہیں، پھر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ ﷺ میں طواف کرنا بھول گیا ہوں فرمایا طواف کرو کوئی حرج نہیں، پھر ایک آدمی نے آپ کے پاس آیا جس نے قربانی کرنے سے قبل سرمٹا دیا تھا آپ نے فرمایا قربانی کرو کوئی حرج نہیں۔ اس روز آپ سے کسی نے جو سوال بھی پوچھا آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے گناہ کو ختم کر دیا ہے سوائے اس شخص کے جس نے مسلمان آدمی سے قرض لیا اور وہ مر گیا، پس یہ گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا نازل فرمائی ہے۔ اور امام احمد اور اہل

سنن نے اس طریق سے اس عبارت کا لفظ معترض روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ کباح نے ہم سے بیان کیا کہ شعبہ نے جو خالد بن علی بن مدرک نبھ سے بیان کیا کہ میں نے زرعہ کو اپنے دادا جریر کو مسرت نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے سنا کہ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا اے جریر! لوگوں کو خاموش ہونے کے متعلق کہو پھر اپنے خطبہ میں فرمایا: میرے بعد پلٹ کر کفار نہ بن جانا، تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔

پھر امام احمد نے غندر اور ابن مہدی سے روایت کیا ہے اور دونوں نے اسے شعبہ سے روایت کیا ہے اور صحیحین کے مؤلفین نے اسے شعبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابن نمیر نے ہم سے بیان کیا کہ اسماعیل نے ہم سے بحوالہ قیس بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جریر نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش ہونے کے متعلق کہو پھر اس موقع پر فرمایا مجھے معلوم نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پلٹ کر کفار بن جاؤ گے اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔

اور نسائی نے اسے عبد اللہ بن نمیر کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور امام نسائی بیان کرتے ہیں کہ ہناد بن السری نے ہم سے عن ابی الاحوص عن ابی غرقدة عن سلیمان بن عمرو عن ابیہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع میں تین بار بیان کرتے دیکھا۔ اے لوگو! یہ کون سا دن ہے انہوں نے کباح اکبر کا دن ہے آپ نے فرمایا بے شک تمہارے خون تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں آپس میں اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس شہر میں تمہارا یہ دن حرمت والا ہے اور کوئی ظالم اپنے والد پر ظلم نہیں کرے گا۔ آگاہ رہو! شیطان تمہارے اس شہر میں اپنی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن تم اپنے کچھ اعمال کو حقیر سمجھ کر عنقریب اس کی اطاعت کرو گے اور وہ خوش ہو جائے گا۔ آگاہ رہو کہ جاہلیت کے تمام سو تمہارے اس المال کے سوا ساقط کیے جاتے ہیں نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور اس نے پوری حدیث کو بیان کیا ہے۔

اور ابوداؤد باب من قال مختطب یوم النحر میں بیان کرتے ہیں کہ بارون بن عبد اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہشام بن عبد الملک نے ہم سے بیان کیا کہ عکرمہ ابن عمار نے ہم سے بیان کیا کہ الہرماں بن زیاد باہلی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منیٰ میں یوم النحر کو اپنی ناقہ عضباء پر خطبہ دیتے دیکھا۔ اور احمد اور نسائی نے اسے ایک دوسرے طریق سے عکرمہ بن عمار سے بحوالہ الہرماں روایت کیا ہے۔ ابو مروثی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منیٰ میں یوم النحر کو اپنی ناقہ عضباء پر خطبہ دیتے دیکھا۔ احمد کے الفاظ المسند کی غلاشیات میں سے ہیں۔ پھر ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ مؤمل بن فضل الحرانی نے ہم سے بیان کیا کہ ولید نے ہم سے بیان کیا کہ ابن جابر نے ہم سے بیان کیا کہ سلیم بن عامر نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابو امامہ کو بیان کرتے سنا کہ میں نے یوم النحر کو منیٰ میں رسول اللہ ﷺ کا خطبہ سنا۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن نے معاویہ بن صالح سے بحوالہ سلیم بن عامر کلاعی ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابو امامہ کو بیان کرتے سنا اور آپ اس روز الجداء پر سوار تھے اور اپنے دونوں پاؤں رکاب میں رکھے ہوئے گردن بلند کیے ہوئے تھے، تاکہ لوگ بات سن لیں۔ آپ نے بلند آواز سے فرمایا کیا تم سنتے ہو؟ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمیں کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنی پانچوں نمازیں پڑھو اور اپنے مہینے کے روزے رکھو اور جب تمہیں حکم دیا جائے تو اطاعت

کہ وہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے پوچھا اے ابوامامہ آپ ان دنوں کیسے تھے انہوں نے جواب دیا میں اس وقت تیس سال کا تھا میں اونٹ کو رسول اللہ ﷺ کے آگے کرنے کے لیے دھکیل کر ہٹا دیتا تھا۔

اور اسی طرح احمد نے اسے زید بن الحباب سے بحوالہ معاویہ بن صالح روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے موسیٰ بن عبدالرحمن کوفی سے بحوالہ زید بن الحباب روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابوالمغیرہ نے ہم سے بیان کیا کہ اسماعیل بن عباس نے ہم سے بیان کیا کہ شریح بن مسلم خولانی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابوامامہ بابلی کو بیان کرتے سنا کہ میں نے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ ﷺ کو اپنے خطبے میں بیان کرتے سنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دیا ہے پس وارث کے لیے وصیت نہیں اور بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اور جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف یا اپنے موالی کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب ہو اس پر قیامت کے روز تک اللہ کی مسلسل لعنت ہو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے خرچ نہ کرے۔ آپ سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ کھانا بھی خرچ نہ کرے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا بہترین مال ہے پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عاریضی ہوئی چیز ادا کی جائے گی اور تحفہ واپس نہ کیا جائے گا اور قرض چکا یا جائے گا اور ذمہ دار قرض ادا کرے گا۔

اور سنن اربعہ کے مؤلفین نے اسے اسماعیل بن عیاش کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ پھر ابوداؤد رحمہ اللہ باب منیٰ مختص یوم النحر میں بیان کرتے ہیں کہ عبدالوہاب بن عبدالرحیم دمشقی نے ہم سے بیان کیا کہ مروان نے ہم سے بحوالہ ہلال بن عامر مزی بن بیان کیا کہ رافع بن عمر مزی بنی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو چاشت کے بلند ہو جانے کے وقت منیٰ میں شہباء خنجر پر لوگوں سے خطاب کرتے دیکھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ سے بیان کر رہے تھے اور لوگ کھڑے اور بیٹھے تھے۔ اور نسائی نے اسے رحیم سے بحوالہ مروان الزہری روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو معاویہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہلال بن عامر مزی نے اپنے باپ کے حوالے سے ہم سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منیٰ میں خنجر پر سرخ چادر اوڑھے خطبہ دیتے دیکھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اہل بدر میں سے ایک آدمی آپ سے بیان کر رہا تھا، راوی بیان کرتا ہے کہ میں آیا اور میں نے اپنے ہاتھ کو آپ کے پاؤں اور تسمے کے درمیان داخل کیا اور میں اس کی ٹھنڈک سے تعجب کرنے لگا عبید بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ بنی فزارہ کے ایک شیخ نے ہلال بن عامر مزی سے اس کے باپ کے حوالے سے ہم سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو شہباء خنجر پر دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی طرف سے بات بیان کر رہے تھے۔

اور ابوداؤد نے اسے ابو معاویہ کی حدیث سے بحوالہ ہلال بن عامر روایت کیا ہے۔ پھر ابوداؤد ماہذ کر الامام فی خطبہ بمنیٰ بیان کرتے ہیں کہ مسدد نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالوارث نے ہم سے عن حمید الاعرج عن محمد بن ابراہیم التیمی عن عبدالرحمن بن معاذ التیمی بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں ہم سے خطاب کیا اور ہمارے کان کھل گئے حتیٰ کہ ہم اپنی فرودگا ہوں میں آپ کی بات کو سنتے تھے پس آپ انہیں ان کے مناسک سکھانے لگے یہاں تک کہ آپ ہمارے ہنچ گئے اور دو انگلیاں رکھیں پھر فرمایا کہ ٹھیکری کے سنگریزے پھر آپ نے مہاجرین کو حکم دیا تو وہ مسجد کے اگلے حصے میں اتر گئے اور انصار کو حکم دیا تو وہ مسجد کے پیچھے اتر

گئے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ اترے۔ اور احمد نے اسے عبدالصمد بن عبدالوارث سے اس کے باپ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ اور نسائی نے اسے ابن المبارک کی حدیث سے بحوالہ عبدالوارث روایت کیا ہے۔ اور امام احمد نے اس کی روایت کو عن عبدالرزاق عن معمر بن محمد بن ابراہیم التیمی عن عبدالرحمن بن معاذ عن رجل من الصحابة پہلے بیان کر دیا ہے۔ واللہ اعلم اور صحیحین میں ابن جریر کی حدیث سے عن زہری عن عیسیٰ بن طلحہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب یوم النحر کو خطبہ دے رہے تھے تو ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر کہا میں خیال کرتا تھا کہ اس فعل سے پہلے اس طرح ہوگا پھر دوسرے آدمی نے کہا میں خیال کرتا تھا کہ اس فعل سے پہلے اس طرح ہوگا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کر دو کوئی حرج نہیں۔ اور بخاری اور مسلم نے اسے مالک کی حدیث سے روایت کیا ہے اور مسلم اور یونس نے زہری سے اضافہ کیا ہے اور اس کے بہت سے الفاظ ہیں جن کے استقصاء کا یہ موقع نہیں، ان کا مقام کتاب الاحکام ہے۔ اور صحیحین کے الفاظ میں ہے کہ اس روز رسول اللہ ﷺ سے جس مقدم یا مؤخر چیز کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا، کر لو کوئی حرج نہیں۔

باب ۳۹

ایام منیٰ میں رمی جمار

پھر رسول کریم ﷺ منیٰ میں اس جگہ اترے جہاں حج کل مسجد ہے کہتے ہیں کہ آپ نے مہاجرین کو اس کی دائیں جانب اور انصار کو اس کی بائیں جانب اتارا اور ان کے بعد لوگ ان کے ارد گرد اترے۔

اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں خبر دی کہ علی بن محمد بن عقبہ شیبانی نے کوفہ میں ہمیں بتایا کہ ابراہیم بن اسحاق الزہری نے ہم سے بیان کیا کہ عبید اللہ بن موسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ اسرائیل نے ہمیں عن ابراہیم بن مہاجر عن یوسف بن ماہک عن ام مسیکہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ سے گزارش کی گئی کہ کیا ہم منیٰ میں آپ کے لیے خیمہ نہ لگا دیں جو آپ کو سایہ دے۔ آپ نے فرمایا پہلے لوگوں کے لیے بھی منیٰ بیٹھنے کی جگہ نہیں اور اس اسناد میں کوئی اعتراض نہیں۔ اور اس طریق سے یہ نہ مسند میں اور نہ ہی چھ کتب میں بیان ہوئی ہے۔ اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن خلاد بابلی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ نے بحوالہ ابن جریر یا ابو حزیر بیان کیا۔ یحییٰ کو شک ہوا ہے۔ کہ اس نے عبدالرحمن بن فروخ کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کرتے سنا کہ ہم لوگوں کے اموال سے باہم لین دین کرتے ہیں اور ہم میں سے ایک آدمی مکہ آتا ہے اور مال کے پاس رات گزارتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں رات گزارنی اور سایہ کیا۔ ابو داؤد اس کی روایت میں منفرد ہیں پھر ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابن نمیر اور ابوسلمہ ہم سے نافع سے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پانی پلانے کے لیے منیٰ کی راتیں مکہ گزارنے کے لیے رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم نے اسے عبداللہ بن نمیر کی حدیث سے روایت

کیا ہے اور بخاری اور ابوصخرہ نے انس بن عیاض کا اضافہ کیا ہے۔ اور مسلم اور ابواسامہ نے حماد بن اسامہ کا اضافہ کیا ہے اور بخاری نے اسے ابواسامہ اور عقبہ بن خالد سے معلق قرار دیا ہے اور ان سب نے اسے عبید اللہ بن عمر سے بیان کیا ہے۔

اور آپ منیٰ میں اپنے اصحاب کو دو رکعت نماز پڑھایا کرتے تھے جیسا کہ آپ سے صحیحین میں ابن مسعود اور حارثہ بن وہب کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے علماء کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس قصر کا سبب قربانی ہے جیسا کہ مائیکوں کے ایک گروہ وغیرہ کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں اہل مکہ سے فرمایا کہ تم اپنی نماز پوری کرو، ہم تو مسافر لوگ ہیں، اس نے غلط کہا ہے یہ بات رسول اللہ ﷺ نے صرف فتح کے سال فرمائی تھی، جبکہ آپ کشادہ نالے میں فروکش تھے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم

اور آپ منیٰ کے ایام میں ہر روز زوال کے بعد تینوں جمرات پر رمی کرتے تھے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ پیدل جا کر رمی کرتے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ ہر جمرہ کو سات سنگریزے مارتے تھے اور ہر سنگریزے کے ساتھ تکبیر کہتے تھے اور پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور تیسرے جمرے کے پاس کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ علی بن حجر اور عبد اللہ بن سعید نے ہم سے اس کا مفہوم بیان کیا، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ابو خالد احمر نے ہم سے عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دن کے آخر میں جب آپ نے ظہر کی پڑھی لوئے، پھر منیٰ کو واپس چلے گئے اور ایام تشریق کو دوپہں ٹھہرے رہے۔ جب آفتاب ڈھل جاتا تو آپ رمی جمار کرتے اور ہر جمرہ کو سات سنگریزے مارتے اور ہر سنگریزے کے ساتھ تکبیر کہتے اور پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کھڑے ہو کر طویل قیام کرتے اور عاجزی سے دعا کرتے اور تیسرے جمرے کو رمی کرتے تو اس کے پاس کھڑے نہ ہوتے ابو داؤد اس کی روایت میں منفرد ہیں۔

اور بخاری نے ایک اور طریق سے عن یونس بن یزید عن زہری عن سالم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ آپ قرسی جمرہ کو سات سنگریزے مارتے تھے اور ہر سنگریزے کے بعد تکبیر کہتے تھے پھر آگے بڑھتے اور نرم زمین پر پاؤں رکھتے اور رو بقلہ ہو کر طویل قیام کرتے اور دعا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے پھر درمیانی جمرے کو رمی کرتے پھر بائیں جانب ہو کر نرم زمین میں رو بقلہ ہو کر کھڑے ہو جاتے اور دعا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے اور طویل قیام کرتے پھر جمرہ عقبہ کو وادی کے نشیب سے رمی کرتے اور اس کے پاس کھڑے نہ ہوتے پھر واپس آ جاتے اور فرماتے میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اور ویرہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما عقبہ کے پاس سورہ بقرہ کے پڑھنے کے برابر کھڑے ہوئے۔ اور ابو جاز بیان کرتا ہے کہ میں نے سورہ یوسف کے پڑھنے کے بعد آپ کے قیام کو کھنکھویوں سے دیکھا، ان دونوں کو یہی ہقی نے بیان کیا ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے ہم سے عن عبد اللہ بن ابی بکر عن ابیہ عن ابی القداح عن ابیہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے چرواہوں کو رخصت دی کہ وہ ایک دن رمی کریں اور ایک دن دعا کریں۔ اور احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر نے ہم سے بیان کیا کہ روح نے ہم سے بیان کیا کہ ابن جریج نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن ابی بکر بن محمد بن عمر نے عن ابیہ عن

ابی القدر جرج بن عاصم بن عدی عن ایہ مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جرواہوں کو رخصت دی کہ وہ باری باری آ کر یوم النحر کو رمی کریں پھر رات اور دن دعا کریں پھر دوسرے دن رمی کریں۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے مالک نے عن عبد اللہ بن ابی بکر عن ابی القدر جرج بن عاصم بن عدی عن ایہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹوں کے چرواہوں کو منیٰ میں رات گزارنے کی رخصت دی حتیٰ کہ وہ یوم النحر کو رمی کرتے پھر یوم النحر کو رمی کرتے پھر دوسرے دن یا دوسرے دن کے بعد دو دن کے لیے رمی کرتے پھر بارہ ذوالحجہ کے دن رمی کرتے اور اسی طرح انہوں نے اسے عبد الرزاق سے بحوالہ مالک روایت کیا ہے۔ اور سنن اربعہ کے مؤلفین نے اسے مالک کی حدیث سے اور سفیان بن مالک کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ مالک کی روایت صحیح ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۴۰

ان احادیث کے بیان میں جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ایام تشریق کے دوسرے دن منیٰ میں خطبہ دیا

ابوداؤد باب ای یوم منیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ محمد بن العلاء نے ہم سے بیان کیا کہ ابن المبارک نے عن ابراہیم بن نافع عن ابن ابی کحیح عن ابیہ عن رجلیں من بنی بکر ہمیں بتایا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو ایام التشریق کے درمیانے دن خطبہ دیتے دیکھا اور ہم آپ کی اونٹنی کے پاس تھے یہ خطبہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں دیا۔ ابوداؤد اس کی روایت میں متفقہ ہیں پھر ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن بشار نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عاصم نے ہم سے بیان کیا کہ ربیعہ بن عبد الرحمن بن حصین نے ہم سے بیان کیا کہ میری دادی سراء بنت نیہا نے۔ جو جاہلیت میں بت خانہ کی مالک تھی۔ مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم الرووس کو ہم سے خطاب کیا اور فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کیا ایام التشریق کا درمیانی دن نہیں ابوداؤد اس کی روایت میں منفرد ہیں ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح ابی حرہ رقاشی کے چچا نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ایام التشریق کے درمیانے دن خطبہ دیا۔ اور اس حدیث کو امام احمد نے متصل مطول بیان کیا ہے عثمان بیان کرتے ہیں کہ عثمان نے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن سلمہ نے ہم سے بیان کیا کہ علی بن زید نے ہمیں ابی حرہ رقاشی سے اس کے چچا کے حوالہ سے خبر دی کہ میں ایام تشریق کے درمیانے روز میں رسول اللہ ﷺ کی ناقہ کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور لوگوں کو آپ سے ہنارہا تھا آپ نے فرمایا: اے لوگو! کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس ماہ اور کس دن اور کس شہر میں ہو؟ انہوں نے کہا حرمت والے دن اور ماہ اور شہر میں آپ نے فرمایا بے شک تمہارے خون تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس ماہ اور شہر میں اس دن کی حرمت ہے یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو گے پھر فرمایا: میری بات سنو تم زندہ رہو گے آگاہ رہو ظلم نہ

۱ ابوداؤد کی تصحیح کے مطابق ابو حمزہ ہے۔

کرنا، ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کسی مسلمان کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں، آگاہ رہو جاہلیت کا ہر خون، مال اور بڑائی، قیامت تک میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے ہے اور سب سے پہلے ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب کا خون ساقط کیا جاتا ہے جو بنی سعد میں دایہ تلاش کر رہے تھے کہ بذیل نے انہیں قتل کر دیا، آگاہ رہو جاہلیت کا ہر سود ساقط کر دیا گیا ہے اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت بنی المطلب کا سود ساقط کیا جاتا ہے تمہارے لیے تمہارے اس المال ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب الہی میں جس وقت سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے بارہ مہینے ہیں جن میں سے چار ماہ حرمت والے ہیں، یہ قائم رہنے والا دین ہے پس تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ آگاہ رہو میرے بعد پلٹ کر کفار نہ بن جانا، تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ آگاہ رہو بے شک شیطان اس بات سے کہ نمازی اس کی پرستش کریں مایوس ہو چکا ہے لیکن وہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اکسائے گا، اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو وہ تمہارے پاس قیدی ہیں وہ اپنے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتیں اور بے شک ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا بھی ان پر حق ہے کہ تمہارے سوا کوئی تمہارا بستر یا مال نہ کرے اور جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ انہیں تمہارے گھر آنے کی اجازت نہ دیں، پس اگر تم کو ان کی نافرمانی کا خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں بستروں میں چھوڑ دو اور انہیں ایسی ضرب لگاؤ جو سخت دکھ نہ ہو اور معروف طریق کے مطابق ان کی خوراک اور لباس تمہارے ذمے ہے، اور تم نے انہیں اللہ کی ودیعت سے حاصل کیا ہے اور کلام الہی سے ان کی فروج کو حلال کیا ہے، آگاہ رہو کہ جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اسے اس کو ادا کر دے جس سے اسے اس پر ائین بنایا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر فرمایا حاضر آدمی غائب تک پیغام پہنچا دے بے شک بہت سے لوگ جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں حمید بیان کرتے ہیں جب حسن کو یہ کلام پہنچا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم انہوں نے ان لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے جو اس سے نیک بخت ہو گئے۔

اور ابوداؤد نے اپنے سنن کے کتاب النکاح میں موسیٰ بن اسماعیل سے عن حماد بن سلمہ عن علی بن زید بن جدعان عن ابی حرہ رقاشی۔ اس کا نام حنیفہ ہے۔ کے چچا سے نافرمانی کے بارے میں کچھ باتیں روایت کی ہیں۔ ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے یوم الرووس کو خطبہ دیا۔ اہل مکہ بلا اختلاف یوم الرووس سے یوم النحر کا دوسرا دن مراد لیتے ہیں، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ایام التشریق کا درمیانہ دن ہے، پس یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اوسط سے مراد اشرف ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ ابن حزم کا یہ اختیار کردہ مسلک بعید ہے۔ واللہ اعلم

اور حافظ ابوبکر البزار بیان کرتے ہیں کہ ولید بن عمرو بن مسکین نے ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورۃ منیٰ میں رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی اور وہ حجۃ الوداع کے ایام التشریق کا درمیانہ دن تھا ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ پس آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ حجۃ الوداع ہے اور آپ نے اپنی ناقہ قصواء کے لانے کا حکم دیا اور آپ کے لیے اس پر کجاہ ڈال دیا گیا، پھر آپ سوار ہوئے اور لوگوں کے لیے عقبہ میں کھڑے ہوئے اور جس قدر اللہ نے چاہا اتنے مسلمان آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے، پس آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگو! جاہلیت کا ہر خون ساقط ہے اور میں سب سے پہلے ربیعہ بن حارث کے خون کو ساقط کرتا ہوں جو بنو لیث

میں ذابہ تلاش کر رہا تھا کہ بذیل نے اسے قتل کر دیا۔ اور باہلیت کا ہر سرد ماقظہ ہڈ چکا ہے اور سب سے پہلے میں حضرت عباس بن عبدالمطلب کے سو کو سا قظہ کرنا ہوں اے لوگو! جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے زمانہ اپنی ہیئت پر گھوم رہا ہے اور خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے جن میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں رجب، مہض، جو جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے اور ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم (یہ قائم رہتے والادین ہے پس ان میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ ہے ان سے کفار کو گمراہ کیا جاتا ہے جو اسے ایک سال حلال اور ایک سال حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی حرام کردہ گنتی سے موافقت کر لیں۔

وہ ایک سال صفر کر لیتے اور ایک سال محرم کو حرام کر لیتے اور ایک سال صفر کو حرام کر لیتے اور ایک سال محرم کو حلال کر لیتے۔ اسے نسئی کہتے ہیں اے لوگو! جس کے پاس امانت ہو وہ اسے اس کو ادا کر دے جس نے اسے اس پر امین بنایا ہے۔ اے لوگو! شیطان آخری زمانے تک تمہارے ملک میں اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا ہے اور وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوش ہو جائے گا پس تم اپنے دین کے بارے میں اس سے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے بارے میں محتاط رہو۔ اے لوگو! بے شک عورتیں تمہارے پاس قیدی ہیں جنہیں تم نے اللہ کی ودیعت سے حاصل کیا ہے اور کلام الہی سے ان کے فروج کو حلال کیا ہے تمہارا ان پر حق ہے اور ان کا بھی تم پر حق ہے تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے غیر کو تمہارا بستر پامال نہ کرنے دیں اور معروف امور میں تمہاری نافرمانی نہ کریں پس اگر وہ ایسا کریں تو تمہیں ان کے خلاف کوئی جت حاصل نہیں اور معروف طریق کے مطابق ان کی خوراک اور لباس تمہارے ذمے ہے۔ اور اگر تم ان کو مارو تو ایسی ضرب لگاؤ جو زیادہ تکلیف دہ نہ ہو اور کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں اے لوگو! میں تم میں ایک پیڑ چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہ ہو گے وہ اللہ کی کتاب ہے اس پر عمل کرو۔ اے لوگو! یہ کون سا دن ہے انہوں نے کہا حرمت والا دن ہے۔ فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا حرمت والا شہر ہے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے انہوں نے کہا حرمت والا مہینہ ہے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں اس ماہ اور اس شہر میں اس دن کی حرمت کی طرح حرام قرار دی ہیں۔ آگاہ رہو تمہارا حاضر غائب تک پیغام پہنچا دے۔ نہ میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے۔ تم آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ گواہ رہ۔

شہنائے منیٰ میں سے ہر شرب آپ کے بیت اللہ کے زیارت کرنے کی حدیث:

امام بخاری ابو حسان سے بحوالہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایام منیٰ میں بیت اللہ کی زیارت کرتے تھے۔ آپ نے اسی طرح اسے ترمیض کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابوالحسن بن عبدان نے ہمیں اس کے متعلق بتایا کہ احمد بن عبید الصفر نے ہمیں خبر دی کہ عمری نے ہم سے بیان کیا کہ ابن عمر نے ہمیں بتایا کہ معاذ بن ہشام نے ہماری طرف خط بھیجا وہ بیان کرتے ہیں میں نے اسے اپنے باپ سے سنا ہے اور انہوں نے اسے پڑھا نہیں وہ بیان کرتے ہیں اس میں عن قتادہ عن ابی حسان عن ابن عباس روایت تھی کہ رسول اللہ ﷺ جب منیٰ میں رہے ہر شرب بیت اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے وہ بیان کرتے ہیں میں نے کسی کو اس پر موافقت کرتے نہیں دیکھا امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ثوری نے الجامع میں طاؤس سے بحوالہ ابن عباس روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ منیٰ کی ہر شرب کو بیت اللہ کی زیارت کو لونا کرتے تھے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔

وادی محصب میں آپ کا نزول

ذوالحجہ کے چھٹے دن کے متعلق بعض کا قول ہے کہ اسے یوم زینت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں بدن جلال وغیرہ سے زینت پاتا ہے اور ساتویں دن کو سیرابی کا دن کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ پانی سے سیرابی حاصل کرتے ہیں اور وقوف کی حالت میں اور اس کے بعد اس سے ضرورت کا پانی لے جاتے ہیں اور آٹھویں دن کو یوم منیٰ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں وہ کشادہ نالے سے منیٰ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ اور نویں دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ وہاں وقوف کرتے ہیں۔ اور دسویں دن کو یوم النحر، یوم الاضحیٰ اور یوم حج اکبر کہتے ہیں اور اس کے ساتھ کے دن کو ٹھہرنے کا دن کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں وہ ٹھہرتے ہیں اور اسے یوم الرؤوس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ قربانیوں کے سر کھاتے ہیں اور وہ ایام تشریق کا پہلا دن ہوتا ہے اور ایام تشریق کے دوسرے دن کو چلنے کا پہلا دن کہتے ہیں کیونکہ اس میں چلنا جائز ہوتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ اسی کو یوم الرؤوس کہا جاتا ہے اور ایام تشریق کے تیسرے دن کو چلنے کا آخری دن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

”پس جو دو دن میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔“

اور جب چلنے کا آخری دن ہوا جو ایام تشریق کا تیسرا دن ہے اور وہ منگوار کا دن تھا تو رسول اللہ ﷺ سوار ہوئے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ تھے پس آپ ان کو لے کر منیٰ سے چلے اور محصب میں اترے یہ مکہ اور منیٰ کے درمیان ایک وادی ہے اور وہاں آپ نے نماز پڑھی جیسا کہ بخاری نے بیان کیا ہے کہ محمد بن اُمّی نے ہم سے بیان کیا کہ اسحاق بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان ثوری نے بحوالہ عبدالعزیز بن رفیع ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ مجھے ایسی چیز کے متعلق بتائیں جسے آپ رسول اللہ ﷺ سے بھول گئے تھے آپ نے یوم الترویہ کو ظہر کی نماز کہاں پڑھی آپ نے فرمایا منیٰ میں میں نے پوچھا آپ نے یوم النفر کو عصر کی نماز کہاں پڑھی آپ نے فرمایا کشادہ نالے میں جس طرح تمہارے امراء کرتے ہیں اسی طرح کرو۔ اور یہ روایت بھی کی گئی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کشادہ نالے میں پڑھی اور وہ محصب ہے۔ واللہ اعلم

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبدالمتعال بن طالب نے ہم سے بیان کیا کہ ابن وہب نے ہم سے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن الحارث نے بتایا کہ قتادہ نے اس سے بیان کیا کہ انس بن مالک نے اس کو نبی کریم ﷺ کی جانب سے بتایا کہ آپ نے ظہر عصر اور عشاء کی نماز پڑھی اور محصب میں کچھ نیند کی پھر سوار ہو کر بیت اللہ آئے اور اس کا طواف کیا میں کہتا ہوں یعنی طواف وداع کیا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عبد الوہاب نے ہم سے بیان کیا کہ خالد بن الحارث نے ہم سے بیان کیا کہ عبداللہ سے محصب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو عبید اللہ نے بحوالہ نافع ہم سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت عمر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وہاں اترے تھے۔ اور نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما محصب میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

میرے خیال میں ظہر اور عصر کی نماز۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مغرب کی خالد بیان کرتے ہیں کہ میں عشاء کے بارے میں شک نہیں کرتا، پھر آپ کچھ دیر سو جاتے اور وہ اسے حضرت نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ نوح بن مہمون نے ہم سے بیان کیا کہ عبد اللہ نے ہمیں نافع سے بحوالہ حضرت ابن عمر خردی کہ رسول اللہ ﷺ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے محصب میں نزول فرمایا۔ میں نے اسے اسی طرح امام احمد کی مسند میں عبد اللہ العمری کی حدیث سے بحوالہ نافع دیکھا ہے۔ اور ترمذی نے اس حدیث کو اسحاق بن منصور سے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اسے محمد بن یحییٰ سے روایت کیا ہے اور دونوں نے عبد الرزاق سے عن عبد اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر روایت کی ہے وہ لہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کشادہ نالے میں اترا کرتے تھے۔ اور ترمذی بیان کرتے ہیں کہ باب میں حضرت عائشہ ابورافع اور ابن عباس کی احادیث بھی ہیں اور حضرت ابن عمر کی حدیث غریب ہے ہم اسے صرف عبد الرزاق کی حدیث سے جانتے ہیں جو عبید اللہ بن عمر سے مروی ہے۔ اور مسلم نے اسے عن محمد بن مہران الرازی عن عبد الرزاق عن معمر بن ایوب عن نافع عن ابن عمر روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کشادہ نالے میں اترا کرتے تھے۔ اسی طرح مسلم نے اسے معمر بن جویریہ کی حدیث سے نافع سے بحوالہ ابن عمر روایت کیا ہے کہ آپ محصب میں اترا کرتے تھے اور یوم النفر کو ظہر کی نماز سنگریزوں میں بڑھا کرتے تھے نافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعد خلفاء نے بھی سنگریزے بچھائے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یونس نے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن سلمہ نے ہم سے عن ایوب وحید عن بکر بن عبد اللہ عن ابن عمر بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز بظہاء میں پڑھی، پھر کچھ نیند کی، پھر مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا اور اسی طرح احمد نے اسے عن عفان بن حماد عن حمید عن بکر عن ابن عمر روایت کیا ہے اور اس کے آخر میں اضافہ کیا ہے کہ حضرت ابن عمر بھی یہی کرتے تھے۔ اور ابو داؤد نے بھی اسے اسی طرح احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ الحمیدی نے ہم سے بیان کیا کہ الولید نے ہم سے بیان کیا کہ اوزاعی نے ہم سے بیان کیا کہ زہری نے ابو سلمہ سے بحوالہ ابو ہریرہ مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں یوم النحر کی صبح کو فرمایا کہ کل ہم بنی کنانہ کی بلند جگہ پر اترنے والے ہیں جہاں انہوں نے کفر پر قائم رہنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اس سے مراد محصب ہے۔

اور مسلم نے اسے زہیر بن حرب سے عن الولید بن مسلم عن الاوزاعی روایت کیا ہے اور اس نے بھی اس کی مانند برابر ذکر کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ عمر نے ہمیں زہری سے عن علی بن الحسین عن عمرو بن عثمان عن اسامہ بن زید خردی کہ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے حج میں کل کہاں اتریں گے۔ آپ نے فرمایا: کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے۔ پھر فرمایا کل ہم انشاء اللہ بنی کنانہ کی بلند جگہ یعنی محصب میں اتریں گے، جہاں قریش نے کفر پر قائم رہنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اور یہ واقعہ یوں ہے کہ بنی کنانہ نے قریش کو بنی ہاشم کے بارے میں قسم دی کہ وہ نہ ان سے نکاح کریں نہ خرید و فروخت کریں اور نہ انہیں پناہ دیں تا آنکہ وہ رسول اللہ ﷺ کو ان کے سپرد کریں، پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا: ”نہ مسلمان کا فرکارث ہوگا نہ کافر مسلم کا وارث ہوگا۔“

زہری بیان کرتے ہیں کہ خیف وادی کو کہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم نے اسے عبدالرزاق کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے قبیلہ کو ذلیل کرنے کے لیے محب میں اترنے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ کفار قریش نے جب بنی ہاشم اور بنی المطلب کے بائیکاٹ کرنے کی دستاویز لکھی تو اس نے ان کی مدد کی تاکہ وہ رسول اللہ ﷺ کو ان کے سپرد کر دیں۔ جیسا کہ ہم پہلے اس کے مقام پر اس کا ذکر کر چکے ہیں اور اسی طرح آپ فتح مکہ کے سال بھی وہاں اترے۔ اس لحاظ سے آپ کا یہ نزول مرغوب سنت بن جاتا ہے اور یہ ایک عالم کا قول ہے۔

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے ہمیں عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ خبر دی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس مقام پر رسول اللہ ﷺ اس لیے اترے تھے کہ آپ کے خروج کے لیے کشادہ نالہ وسیع ہو جائے۔ اور مسلم نے اسے ہشام کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد نے اسے احمد بن حنبل سے عن یحییٰ بن سعید عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ روایت کیا ہے رسول اللہ ﷺ محب صرف اس لیے اترے کہ وہ آپ کے خروج کے لیے وسیع ہو جائے اور یہ سنت نہیں جو چاہے وہاں اترے اور جو چاہے نہ اترے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے ہم سے بیان کیا کہ عمرو بن عطاء نے بحوالہ ابن عباس بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ محب میں اترنا کوئی چیز نہیں یہ صرف ایک منزل ہے جہاں رسول اللہ ﷺ اترے تھے۔ اور مسلم نے اسے عن ابی بکر بن ابی شیبہ وغیرہ عن سفیان بن عیینہ سے روایت کیا ہے اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ احمد بن حنبل اور عثمان بن ابی شیبہ اور مسدد المعنی نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے ہم سے بیان کیا کہ صالح بن کیسان بحوالہ سلیمان بن یسار نے ہم سے بیان کیا کہ ابو رافع نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے وہاں اترنے کا حکم نہیں دیا لیکن اس میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا اور آپ وہاں اترے مسدد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ حضرت نبی کریم ﷺ کے ثقل تھے۔ اور عثمان کہتے ہیں کہ کشادہ نالہ مراد ہے۔ اور مسلم نے اسے قتیبہ ابو بکر زہیر بن حرب سے بحوالہ سفیان بن عیینہ روایت کیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ تمام لوگ اس امر پر متفق ہیں کہ جب حضرت نبی کریم ﷺ منیٰ سے چلے تو محب میں اترے۔ لیکن ان میں اختلاف یہ ہے کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں اترنے کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ اتفاقاً وہاں اتر گئے تھے تاکہ آپ کے خروج کے لیے وسعت ہو جائے۔ اور ان میں سے بعض کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں اترنے کا ارادہ کیا تھا اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آخر میں بیت اللہ کی زیارت کریں اور وہ اس سے قبل ہر جانب سے پلٹ جاتے تھے جیسا کہ حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ آخر میں بیت اللہ کی زیارت کریں۔ یعنی طواف وداع کریں۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ آپ اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف وداع کریں پس آپ زوال کے بعد قریب منیٰ سے چلے پس یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ آپ اس دن کے بقیہ حصے میں بیت اللہ میں آئیں اور اس کا طواف کریں اور مدینہ کی جانب سے مکہ کے باہر کی طرف کوچ کر جائیں، کیونکہ اس جم غفیر کے لیے یہ بات مشکل تھی، پس آپ کو مکہ سے قبل شب باش ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور آپ کی شب باشی کے لیے محب سے زیادہ مناسب جگہ کوئی نہ تھی جہاں قریش نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف بنی کنانہ سے معاہدہ کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش کی بات کو پورا نہ ہونے دیا بلکہ انہیں ذلیل کیا اور انہیں

نا کام و نامراد واپس کر دیا اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اپنے نبی کی مدد کی اور اپنے بول کو بالا کیا۔ اور دینِ تویم کو آپ کے لیے مکمل کیا اور صراطِ مستقیم کو آپ کے ذریعے واضح کیا۔ پس آپ نے لوگوں کو حج کروایا اور ان کے لیے شرائع و شعائر کو واضح کیا اور مناسک کی تکمیل کے بعد پہل پڑے اور اس جگہ پر اترے جہاں قریش نے ظم و زیادتی اور بایکاٹ کی قسمیں کھائی تھیں؛ پس آپ نے وہاں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھیں اور تھوڑی سی نیند کی۔ اور آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے بھائی عبدالرحمان کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ انہیں تعظیم سے عمرہ کرائیں اور وہ عمرہ سے فارغ ہو کر آپ کے پاس آجائیں؛ پس جب آپ نے اپنا عمرہ ادا کر لیا اور واپس آ گئیں تو آپ نے مسلمانوں میں بیت العتیق کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ جیسا کہ ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ وہب بن بقیصہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے خالد نے عن اُح فح عن القاسم عن عائشہ بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے تعظیم سے عمرہ کا احرام باندھا اور میں نے آ کر اپنا عمرہ ادا کیا اور رسول اللہ ﷺ نے کشادہ نالے میں میرا انتظار کیا یہاں تک کہ میں فارغ ہو گئی اور آپ نے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیت اللہ آئے اور اس کا طواف کیا پھر باہر نکل گئے اور صحیحین میں اسے اُح فح بن حمید کی حدیث سے روایت کیا گیا ہے۔ پھر ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن بشار نے ہم سے بیان کیا کہ ابوبکر حنفی نے ہم سے بیان کیا کہ اُح فح نے قاسم سے اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا؛ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ روانگی کے آخری روز روانہ ہوئی اور آپ محصب میں اترے۔ ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ ابن بشار نے ذکر کیا کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعظیم کی طرف بھیجا؛ آپ فرماتی ہیں پھر میں سحر کے وقت آئی تو آپ نے صحابہ میں کوچ کا اعلان کر دیا؛ پس آپ نے کوچ کیا اور صبح کی نماز سے قبل بیت اللہ کے پاس سے گزرے اور جب آپ نکلے تو آپ نے اس کا طواف کیا؛ پھر مدینہ کی طرف لوٹ گئے اور بخاری نے اسے محمد بن بشار سے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ بات ظاہر ہے کہ آپ نے اس روز صبح کی نماز اپنے اصحاب کو کعبہ کے پاس پڑھائی اور اپنی نماز میں یہ پوری سورت پڑھی ﴿وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مُّسْتَوْرٍ فِي رَقٍ مُّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ اس لیے کہ بخاری نے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اسماعیل نے ہم سے بیان کیا کہ مالک نے عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروہ بن الزبیر عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ مجھ سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں شکایت کی کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا: لوگوں کے پیچھے طواف کر لے؛ تو سوار ہے؛ پس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ ﷺ اس وقت بیت اللہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ والطور و کتاب مسطور پڑھ رہے تھے۔ اور ترمذی کے سوا بقیہ جماعت نے اسے مالک کی حدیث سے اسی قسم کے اسناد سے بحوالہ ام سلمہ روایت کیا ہے اور بخاری نے اسے ہشام بن عروہ کی حدیث سے اسی قسم کے اسناد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛ آپ اس وقت مکہ میں تھے اور آپ نے خروج کا ارادہ کیا اور حضرت ام سلمہ نے ابھی طواف نہیں کیا تھا اور خروج کا ارادہ کر رہی تھیں؛ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا: جب صبح کی نماز کھڑی ہو جائے تو تم اپنے اونٹ پر طواف کر لینا اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اور امام احمد نے روایت کی ہے کہ ابو معاویہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہشام بن عروہ نے ہم سے اپنے باپ سے عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ میں یوم

آخر توح کی نماز میں آپ نے ساتھ جائیں اور یہ اسناد صحیحین کی شرط کے مطابق ہے لیکن اس طریق سے اسے کسی نے ان الفاظ کے ساتھ روایت نہیں کیا اور شاید یوم آخر کا قول راوی کی غلطی ہے یا کھٹنے والے کی وہ یوم آخر تھا اور اس کی تا سید بخاری کی روایت ہوتی ہے۔ جسے ہم نے بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

حاصل کلام یہ کہ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بیت اللہ کے سات پھر لگائے اور ملتزم میں اس رکن کے درمیان جس میں حجر اسود ہے اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے جسم کو کعبہ کے ساتھ لگایا۔ اور ثوری نے الشیخی بن الصباح سے عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنا چہرہ اور سینہ ملتزم سے لگائے دیکھا۔ الشیخی ضعیف ہے۔

باب ۴۲

پھر آپ مکہ کے نچلے حصے سے باہر نکل گئے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکہ کے بالائی حصے سے داخل ہوئے اور نچلے حصے سے باہر نکل گئے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بطحاء کی لالائی گھاٹی سے داخل ہوئے اور چلی گھاٹی سے باہر نکل گئے۔ اور ان الفاظ میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ آپ کداء سے داخل ہوئے اور کدی سے باہر چلے گئے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن فضیل نے ہم سے بیان کیا کہ حجاج بن عبد اللہ نے ابو بکر سے بحوالہ حضرت جابر بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ غروب آفتاب کے وقت مکہ سے نکلے اور نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ آپ سرف پہنچ گئے جو مکہ سے نو میل کے فاصلے پر ہے۔ اور یہ حدیث بہت غریب ہے۔ اور ارجح ہے کہ بارے میں اعتراض پایا جاتا ہے اور شاید یہ جزیۃ الوداع کے علاوہ کی اور موقع کی بات ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ نے نماز صبح کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ نے غروب آفتاب تک اسے کیوں مؤخر کیا یہ حدیث بہت غریب ہے سوائے اس کے کہ ابن حزم نے جو ادعا کیا ہے وہ صحیح ہو کہ حضور ﷺ بیت اللہ کا طواف وداع کرنے کے بعد مکہ سے محصب کی طرف لوٹ آئے مگر انہوں نے اس پر کوئی دلیل بیان نہیں کی۔ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول بیان کیا ہے۔ جب وہ تمعیم سے اپنے عمرہ سے واپس آئیں تو آپ کو صعۃ میں ملیں اور وہ اہل مکہ کے پاس آنے کے لیے اترنے کی جگہ ہے اور آپ چڑھائی چڑھ رہے تھے ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ سے آ رہی تھیں اور آپ نیچے جا رہے تھے۔ کیونکہ آپ عمرہ کے لیے آئی تھیں اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتظار کیا یہاں تک کہ آپ آ گئیں۔ پھر آپ طواف وداع کے لیے چلے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مکہ سے واپسی پر محصب کی طرف جاتے ہوئے ملے۔ اور امام بخاری باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة میں بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ حماد بن زید نے ہم سے عن ایوب عن نافع عن ابن عمر بیان کیا کہ آپ جب آتے تو ذی طوی میں رات گزارتے اور صبح کو داخل ہوتے اور جب واپس لوٹتے تو ذی طوی سے گزرتے اور وہاں رات گزارتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایسا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اسے جزم کے صیغہ کے ساتھ مطلق بیان کیا ہے اور انہوں نے اور مسلم نے اسے حماد بن زید کی حدیث سے قوت دی ہے

لیکن اس میں واپسی پر ذی سونی پر رات گزارنے کا ذکر نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھ کچھ آب زمزم لے گئے حافظ ابو یسی ترمذی بیان کرتے ہیں کہ ابو کریم نے ہم سے بیان کیا کہ غلام بن یزید الجعفی نے ہم سے بیان کیا کہ زہیر بن معاویہ نے ہم سے عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ بیان کیا کہ آب زمزم لاتی تھیں اور بناتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ بھی اسے لایا کرتے تھے یہ حدیث حسن فریب ہے اور امام اسے اسی طریق سے جانتے ہیں اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ محمد بن مقاتل نے ہم سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن المبارک نے ہمیں بتایا کہ موسیٰ بن عقبہ نے ہم سے عن سالم عن نافع عن عبد اللہ بن عمر بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب جنگ یا حج یا عمرہ سے واپس آتے تو تین بار تکبیر کہنے سے آغاز کرتے پھر کہتے:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدير، انبون تائبون عابدون، ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ و نصر عبدہ، و هزم الاحزاب وحده۔ اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ ولله الحمد والمنه۔

باب ۴۳

اس حدیث کے بیان میں جو اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر جحفہ کے قریب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پر خطبہ کیا جسے غدیر خم کہتے ہیں اور آپ نے اس خطبہ میں حضرت علی بن ابی طالب کی فضیلت بیان کی اور ارض یمین میں آپ کے بعض ساتھیوں نے اس کا دلانہ بات کے باعث جو آپ سے صادر ہوئی اور جسے بعض نے ظلم، تنگی اور غیظ خیال کیا، اس سے آپ کا دامن پاک کیا۔

اس لیے جب آپ مناسک کے بیان سے فارغ ہوئے اور مدینہ کی طرف واپس لوٹے تو آپ نے راستے میں اس بات کو واضح کیا اور اس سال ۱۸ ذوالحجہ کو اتوار کے روز غدیر خم میں درخت کے نیچے ایک عظیم الشان خطبہ دیا اور اس میں کچھ باتوں کو واضح کیا اور حضرت علی کی فضیلت و امانت اور عدالت و قربت کو بیان کیا جس سے آپ نے اس رنجش کو دور کر دیا جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی تھی اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور قوت سے اس بارے میں وارد ہونے والی احادیث کو بیان کریں گے اور ان میں سے صحیح و ضعیف کو واضح کریں گے۔ اور اس حدیث کے واقعہ پر ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے جو مفسر اور مؤرخ ہیں بڑی توجہ دی ہے اور اس کے متعلق دو جلدیں لکھی ہیں جن میں اس حدیث کے طرق و الفاظ بیان کئے ہیں اور فاسد و پاکیزہ اور صحیح و سقیم کو بیان کیا ہے۔ اکثر محدثین کی عادت ہے کہ وہ صحیح و ضعیف کی تمیز کیے بغیر جو کچھ بھی انہیں اس باب میں ملتا ہے بیان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حافظ کبیر ابوالقاسم بن عسا کرنے اس خطبہ میں بہت سی احادیث بیان کی ہیں اور اس بارے میں ہمارے عظیم علماء سے جو خاص روایات بیان کی گئی ہیں ہم ان کا ذکر کریں گے جو شیعہ حضرات کے لیے دیکھنے کی چیز ہے اور ان کا کوئی متمسک اور دلیل نہیں ہے جسے ہم عنقریب واضح کریں گے اور اس کے متعلق آگاہ کریں گے پس ہم اللہ کی مدد سے بیان کرتے ہیں۔

محمد بن اسحاق حجۃ الوداع کے سلسلہ میں بیان کرتا ہے کہ یحییٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی رزہ نے مجھ سے بحوالہ یزید بن صلح بن رکانہ بیان لیا وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علیؑ منہ میں رسول اللہ ﷺ سے ملنے آئے تو آپ جلدی سے رسول اللہ ﷺ نے پاس آئے اور آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کو اپنی فوج پر اپنا نائب مقرر کیا پس اس آدمی نے فوج کے ہر آدمی کو کتھان کے اس کپڑے کا حلقہ پہنا دیا جو حضرت علیؑ کے پاس تھا پس جب آپ کی فوج قریب آئی تو حضرت علیؑ اس سے ملاقات کرنے باہر آئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حلقے زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا برابر ہو یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں نے فوج کو حلقہ پہنادیئے ہیں تاکہ جب وہ لوگوں میں آئیں تو خوبصورت معلوم ہوں۔ آپ نے فرمایا: تیرا برابر ہو رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچنے سے پہلے انہیں اتار دو راوی بیان کرتا ہے کہ فوج کے ساتھ جو سلوک ہوا اس نے اس کی شکایت کی ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ عبید اللہ بن عبدالرحمان بن معمر بن خرم نے سلیمان بن محمد بن کعب بن عجرہ سے اس کی پھوپھی زینب بنت کعب سے جو ابوسعید خدری کے ہاں تھی۔ بحوالہ ابوسعید مجھ سے بیان کیا کہ لوگوں نے حضرت علیؑ کی شکایت کی تو رسول اللہ ﷺ نے ہم میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ اے لوگو! حضرت علیؑ کی شکایت نہ کرو، قسم بخدا وہ اللہ کی ذات کے بارے میں یاراہ خدا میں بہت سخت ہیں، کجا یہ کہ ان کی شکایت کی جائے اور امام احمد نے اسے محمد بن اسحاق کی حدیث سے روایت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں یاراہ خدا میں بہت سخت ہیں۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ فضل بن دکین نے ہم سے بیان کیا کہ ابوعیینہ نے ہم سے عن الحکم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن بریدہ بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کے ساتھ یمن پر حملہ کیا۔ اور میں نے ان سے بدسلوکی محسوس کی اور جب میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو میں نے حضرت علیؑ کی عیب گوئی کی اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے بریدہ کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”جسے میں محبوب ہوں، علیؑ بھی اسے محبوب ہے۔“ اسی طرح نسائی نے اسے عن ابی داؤد الحمرانی عن ابی نعیم الفضل بن دکین عن عبدالملک بن ابی عیینہ اس قسم کی اسناد سے روایت کیا ہے اور یہ اسناد جید اور قوی ہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔

اور نسائی نے اپنے سنن میں عن محمد بن الحنفی عن یحییٰ بن حماد عن ابی معاویہ عن اعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی الطفیل عن زید بن ارقم روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع سے واپس لوٹے اور غدیر خم پر اترے تو آپ نے سائبان لگانے کا حکم دیا جو کھڑے کر دیئے گئے۔ پھر فرمایا: یوں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بتلایا گیا ہے اور میں نے جواب دیا ہے۔ میں تم میں دو گرانقدر چیزیں کتاب اللہ اور اپنی اولاد اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں پس دیکھو تم ان دونوں کے بارے میں میری کیسے نیابت کرتے ہو۔ اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر آ جائیں گی پھر فرمایا: اللہ میرا مولیٰ ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علیؑ کو ہاتھ پکڑ کر فرمایا جسے میں محبوب ہوں یہ اس کا ولی ہے۔ اے اللہ جو اس سے محبت کرنے اس سے محبت کر اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ۔ میں نے زید سے کہا میں نے اسے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے اس نے کہا سائبانوں تلے جو آدمی تھے ان میں سے ہر ایک نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے

سنا ہے۔ ساسی اس طریق سے اسے روایت کرتے ہیں مفرد ہیں ہمارے شیخ ابو عبد اللہ ذہبی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ علی بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ ابوالحسین نے بیان کیا کہ حماد بن سلمہ نے من علی بن زید بن جدعان عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب ہمیں بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے حج میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آئے تو آپ راستے میں اتر پڑے اور حکم دیا کہ لوگوں کو جمع ہونے کا اعلان کر دیا جائے پس آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا بیشک فرمایا کیا میں ہر مومن کو اس کی جان سے زیادہ عزیز نہیں انہوں نے جواب دیا بے شک تو فرمایا جسے میں محبوب ہوں یہ اس کا ولی ہے اے اللہ جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ۔ اور اسی طرح اسے عبدالرزاق نے عن معمر بن علی بن زید بن جدعان عن عدی بن ثابت عن البراء روایت کیا ہے۔ اور ابو یعلیٰ موصلی اور حسن بن سفیان بیان کرتے ہیں کہ ہد بن سلمہ نے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن سلمہ نے عن علی بن زید و ابی ہارون عن عدی بن ثابت عن البراء ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اور جب ہم غدیر خم پر آئے تو دو درختوں کے نیچے رسول اللہ ﷺ کے لیے جھاڑو دیا گیا اور لوگوں میں جمع ہونے کے لیے اعلان کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا اور فرمایا: کیا میں ہر آدمی کو اس کی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا بیشک آپ نے فرمایا: جسے میں محبوب ہوں یقیناً یہ اسے محبوب ہے اے اللہ! جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا: آپ کو مبارک ہو آپ صبح و مساء ہر مومن کے محبوب ہو گئے ہیں اور ابن جریر نے اسے عن ابی زرعہ عن موسیٰ بن اسماعیل عن حماد بن سلمہ عن علی بن زید و ابی ہارون العبدری اور یہ دونوں ضعیف ہیں۔ عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب روایت کیا ہے۔ اور ابن جریر نے اس حدیث کو موسیٰ بن عثمان حضرمی سے جو بہت ضعیف ہے عن ابی اسحاق سعید بن البراء و زید بن ارقم روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابن نمیر نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الملک نے ہم سے ابی عبد الرحیم کندی سے بحوالہ ذاذان ابی عمرو بیان کیا کہ میں نے رجبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں سے جنہوں نے غدیر خم کے روز رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تھا اپیل کرتے سنا اور وہ وہی بات کہہ رہے تھے جو آپ نے کہی تھی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ بارہ آدمیوں نے اٹھ کر گواہی دی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جسے میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے۔ احمد اس کی روایت میں مفرد ہے۔ اور یہ ابو عبد الرحیم معروف نہیں ہے۔ اور امام احمد کے صاحبزادے عبد اللہ اپنے باپ کے مسند میں علی بن حکم الاودی کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ شریک نے ہمیں عن ابی اسحاق عن سعید بن وہب عن زید بن شیخ خبردی کہ حضرت علی نے رجبہ میں ان لوگوں سے اپیل کی جنہوں نے غدیر خم میں رسول اللہ ﷺ کو وہ بات فرماتے سنا جو آپ نے فرمائی وہ کھڑا ہو جائے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ سعید کی طرف سے چھ اور زید کی طرف سے چھ آدمیوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ انہوں نے غدیر خم کے روز رسول اللہ ﷺ کو حضرت علی سے کہتے سنا، کیا اللہ مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں انہوں نے جواب دیا بیشک آپ نے فرمایا جسے میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے۔ اے اللہ جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے

عداوت رکھ' عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ علی بن حکیم نے مجھ سے بیان کیا کہ شریک نے ابو اسحاق سے بحوالہ عمر و ہمیں ابو اسحاق کی حدیث جیسے معاملے کی خبر دی یعنی سعید اور زید سے اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ "جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر اور جو اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے"۔ عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ علی نے ہم سے بیان کیا کہ شریک نے ہم سے عن امش عن حسیب بن ابی ثابت عن ابی الطفیل، عن زید بن ارقم، عن ابی سلمیٰ بن عبدالرحمن اس طرح بیان کیا ہے۔

اور نسائی، کتاب خصائص علی میں بیان کرتے ہیں کہ حسین بن حرب نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ عن امش عن ابی اسحاق عن سعید بن وہب نے بیان کیا کہ حضرت علی نے رجبہ میں کہا کہ میں اس آدمی سے خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں، جس نے غدیر خم کے روز رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ بیشک اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے اور جس کا میں ولی ہوں یہ اس کا ولی ہے، اے اللہ جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ اور جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر۔"۔ اسی طرح شعبہ نے اسے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے اور یہ اسناد جدید ہے اور اسی طرح نسائی نے اسے اسرائیل کی حدیث سے عن ابی اسحاق عن عمرو ذی امر روایت کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت علی نے رجبہ میں لوگوں سے اپیل کی تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ انہوں نے غدیر خم کے روز رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جسے میں محبوب ہوں بیشک علی بھی اسے محبوب ہے، اے اللہ جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ اور جو اس سے پیار کرے اس سے پیار کر اور جو اس سے بغض رکھے اس سے بغض رکھ اور جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر۔ اور ابن جریر نے اسے عن احمد بن منصور عن عبدالرزاق عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن زید بن وہب و عبد خیر عن علی روایت کیا ہے اور ابن جریر نے اسے عن احمد بن منصور عن عبید اللہ بن موسیٰ، جو ثقہ شیعہ ہے، عن خطر بن خلیفہ عن ابی اسحاق عن زید بن وہب و زید بن شیح و عمرو ذی امر بھی روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے کوفہ میں لوگوں سے اپیل کی اور پھر اس نے پوری حدیث کو بیان کیا۔

اور عبد اللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمرو قریری نے مجھ سے بیان کیا کہ یونس بن ارقم نے ہم سے بیان کیا کہ یزید بن ابی زیاد نے ہم سے بحوالہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ بیان کیا کہ میں نے رجبہ میں حضرت علی کو لوگوں سے اپیل کرتے دیکھا، آپ نے فرمایا میں اس شخص کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے غدیر خم کے روز رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جسے میں محبوب ہوں، علی بھی اسے محبوب ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر گواہی دی، عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ بارہ بدری کھڑے ہوئے گویا میں ان میں سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے غدیر خم کے روز رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں اور کیا میری بیویاں ان کی مائیں نہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بیشک ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا جسے میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے، اے اللہ جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ۔ یہ اسناد ضعیف غریب ہے۔ اور عبد اللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ احمد بن عمیر و کعبی نے ہم سے بیان کیا کہ زید بن الحباب نے ہم سے بیان کیا کہ ولید بن عقبہ بن ضرار القیس نے ہم سے بیان کیا کہ سماک نے ہمیں عبید بن الولید سے خبر دی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کے پاس گیا آپ نے مجھ کو بتایا کہ انہوں نے حضرت علی کو رجبہ میں دیکھا آپ نے کہا

میں اس آدمی سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس نے رسول اللہ ﷺ کو سنا ہے اور غدیر خم کے روز دیکھا ہے وہ کھڑا ہو جائے اور وہی آدمی کھڑا ہو جس نے آپ کو دیکھا ہے تو بارہ آدمی کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا اور سنا ہے۔ آپ حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑے فرمایا ہے تھے اے اللہ! جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھو، جو اس سے عداوت کرے اس سے عداوت کر۔ اور جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کرو اور جو اسے بے یار و مددگار چھوڑے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ تو تین آدمی کھڑے نہ ہوئے آپ نے ان پر بددعا کی تو انہیں آپ کی بددعا لگ گئی۔

اور اسی طرح انہوں نے عبدالاعلیٰ بن عامر تغلمی سے بحوالہ عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ بھی روایت کی ہے۔ اور ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ احمد بن منصور نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عامر العقدی نے ہم سے بیان کیا کہ کثیر بن زید نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن عمر بن علی نے مجھ سے اپنے باپ سے بحوالہ حضرت علی بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ، خم میں درخت کے پاس آئے اور اس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ ”جسے میں محبوب ہوں بیشک علی بھی اسے محبوب ہے۔“ اور بعض نے اسے عن ابی عامر عن کثیر عن محمد بن عمر بن علی عن علی منقطع روایت کیا ہے اور اسماعیل بن عمر والجبلی جو ضعیف ہے عن مسرع بن طلحہ بن مصرف عن عمیرہ بن سعد بیان کرتا ہے کہ اس نے حضرت علی کو منبر پر رسول اللہ ﷺ کے ان اصحاب سے اپیل کرتے دیکھا جنہوں نے غدیر خم کے روز رسول اللہ ﷺ کو سنا تھا، پس بارہ آدمی کھڑے ہو گئے، جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوسعید اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جسے میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے۔ اے اللہ جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھو اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھو۔ اور عبید اللہ بن موسیٰ نے اسے ہانی بن یعقوب سے روایت کیا ہے جو طلحہ بن مصرف میں اسے روایت کرنے میں ثقہ ہے اور عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ حجاج بن الشاعر نے مجھ سے بیان کیا کہ شباہ نے ہم سے بیان کیا کہ حکیم بن حکیم نے ہم سے بیان کیا کہ ابو مریم اور علی کے ہم نشینوں میں سے ایک آدمی نے بحوالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے غدیر خم کے روز فرمایا جسے میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے، وہ بیان کرتے ہیں بعد میں لوگوں نے یہ اضافہ کر لیا کہ جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھو اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھو۔ اور ابو داؤد نے اس سند سے حدیث الحجج کو روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ حسین بن محمد اور ابو نعیم المعنی نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے قطن نے بحوالہ ابو الطفیل بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو رجبہ میں جمع کیا۔ یعنی مسجد کوفہ کے صحن میں۔ اور فرمایا میں ہر اس آدمی سے خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس نے غدیر خم کے روز رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا، جو سنا جب آپ کھڑے ہوئے تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر لوگوں سے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ نے فرمایا جسے میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے، اے اللہ جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھو اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں باہر نکل گیا گویا میرے دل میں کوئی خلجان ہے، پس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ملا اور میں نے انہیں کہا میں نے حضرت علی کو اس طرح بیان کرتے سنا ہے، آپ نے فرمایا اس کا انکار نہ کرنا میں نے رسول اللہ ﷺ کو انہیں یہ کہتے سنا ہے۔ اسی طرح امام احمد نے اسے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مسند

میں بیان کیا ہے، پوپٹے بیان ہو چکا ہے۔ اور ترمذی نے اسے عن بندار عن خندرقن شعبہ عن سلمہ بن کثیر روایت کیا ہے میں نے ابو اظہیل کو ابی سریحہ یا زید بن ارقم سے شعبہ کو شک ہوا ہے۔ بیان کرتے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جسے میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے اور ابن جریر نے اسے عن احمد بن سائز عن ابی نعیم عن کامل ابی العلاء عن حبیب بن ابی ثابت عن یحییٰ بن جعدہ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عثمان نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عوانہ نے ہم سے عن مغیرہ عن ابی عبید عن میمون ابی عبد اللہ بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سن رہا تھا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک منزل میں اترے جسے خم کہا جاتا تھا پس آپ نے نماز کا حکم دیا اور اسے سخت گرمی میں پڑھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے ہم سے خطاب کیا اور رسول اللہ ﷺ ایک درخت تلے ایک کپڑے کے سائے میں بیٹھ گئے جو آپ کو گرمی سے بچاتا تھا آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے۔ یا کیا تم گواہی نہیں دیتے۔ کہ میں ہر مومن کو اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوں انہوں نے جواب دیا بے شک۔ آپ نے فرمایا جسے میں محبوب ہوں یقیناً علی اسے محبوب ہے اے اللہ جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ پھر امام احمد نے اسے عن غندر عن شعبہ عن میمون بن عبد اللہ عن زید بن ارقم ابی قولہ جسے میں محبوب ہوں علی اسے محبوب ہے روایت کیا ہے۔ میمون بیان کرتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں نے بحوالہ حضرت زید رضی اللہ عنہ بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ۔ یہ اسناد جدید ہے اور اس کے رجال سنن کی شرط کے مطابق ثقہ ہیں۔ اور ترمذی نے اس سند کے ساتھ ریث کے بارے میں حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن آدم نے ہم سے بیان کیا کہ حنش بن حارث بن لقیط اشجعی نے ہم سے بحوالہ رباح بن حارث بیان کیا کہ ایک رجبہ میں ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور انہوں نے کہا اے ہمارے محبوب آپ پر سلام آپ نے فرمایا میں آپ کا محبوب کیسے ہوں جبکہ تم عرب قوم ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے رسول اللہ ﷺ کو غدیر خم کے روز فرماتے سنا جسے میں محبوب ہوں اسے یہ محبوب ہے رباح کا بیان ہے کہ جب وہ چلے گئے تو میں ان کے پیچھے گیا اور میں نے پوچھا یہ کون ہیں تو انہوں نے جواب دیا ہم انصار کا ایک گروہ ہیں ان میں حضرت ابویوب انصاری بھی تھے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ حنش نے بحوالہ رباح بن حارث ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ انصاری لوگوں کو دیکھا کہ وہ رجبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین ہم آپ کے محبت ہیں اور آپ نے اس لفظ کا مفہوم بیان کیا۔ اور یہ حدیث آپ کے افراد میں سے ہے۔ اور ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ احمد بن عثمان ابو الجوزاء نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن خالد بن عثمہ نے ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ بن یعقوب زعمی نے جو صادق ہے ہم سے بیان کیا کہ مہاجر بن مسمار نے بحوالہ عائشہ بنت سعد مجھ سے بیان کیا کہ اس نے اپنے باپ کو بیان کرتے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجفہ کے روز فرماتے سنا۔ اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے لوگو! میں تمہارا ولی ہوں لوگوں نے کہا آپ نے درست فرمایا پس آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا یہ میرا ولی اور میری طرف سے ادائیگی کرنے والا ہے اور بے شک اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے عداوت کرنے والا ہے جو اس سے عداوت کرتا ہے۔

ہمارے شیخ ذہبی کا قول ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے پھر ابن جریر نے اسے یعقوب بن جعفر بن ابی کبیر کی حدیث سے

بحوالہ مہاجر بن مسمار روایت کیا ہے اور پوری حدیث بیان کی ہے اور یہ کہ حضور ﷺ ٹھہر گئے یہاں تک کہ بعد کے لوگ بھی آپ سے مل گئے اور جو پہلے آپ کے تھے آپ نے ان کو واپس جانے کا حکم دیا اور ان کو حدیث پر پتھر دیا۔

اور ابو جعفر بن جریر طبری کتاب غدير خم کی جلد اول میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو عبد اللہ ذہبی نے بیان کیا کہ میں نے اسے ابن جریر کے ایک مکتوبہ نسخہ میں دیکھا ہے۔ محمود بن عوف طائی نے ہم سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن موسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ اسماعیل بن کثیث نے جمیل بن عمارہ سے بحوالہ سالم بن عبد اللہ بن عمر ہم سے بیان ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، لیکن میری کتاب میں یہ موجود نہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے جبکہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے سنا کہ جسے میں محبوب ہوں اسے یہ محبوب ہے اے اللہ! جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ۔ اور حدیث غریب ہے بلکہ منکر ہے اور اس کا اسناد ضعیف ہے۔ اور اس جمیل بن عمارہ کے بارے میں حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق اعتراض پایا جاتا ہے۔

اور مطلب بن زیاد عبد اللہ بن محمد بن عقیل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ ہم غدير خم میں جحفہ مقام پر تھے کہ رسول اللہ ﷺ خیمے سے نکل کر ہمارے پاس آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جسے میں محبوب ہوں، اسے علی محبوب ہے۔ ہمارے شیخ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اور ابن لمیعہ نے اسے عن بکرہ بن سوارہ وغیرہ عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن جابر اسی طرح روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن آدم اور ابن ابی بکیر نے ہم سے بیان کیا کہ اسرائیل نے ابواسحاق سے بحوالہ شعیب بن جنادہ ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن آدم نے جو حجۃ الوداع میں شامل تھے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور میری طرف سے صرف میں یا علی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور ابن بکیر بیان کرتے ہیں کہ میرا فرض صرف میں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح احمد نے اسے ابو احمد زبیری سے بحوالہ اسرائیل بیان کیا ہے۔

امام احمد بیان کرتے ہیں اور زبیری نے اسے ہم سے بیان کیا ہے کہ شریک نے ہم سے ابواسحاق سے بحوالہ شعیب بن جنادہ ایسے ہی بیان کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے ابواسحاق سے پوچھا کہ آپ نے اس سے کس جگہ سنا ہے تو اس نے کہا، اس نے ہمیں ایک مجلس میں جبانۃ السبع میں ہمیں آگاہ کیا۔ اور اسی طرح احمد نے اسے اسود بن امر اور یحییٰ بن آدم سے بحوالہ شریک روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے اسے اسماعیل بن موسیٰ سے بحوالہ شریک روایت کیا ہے۔ اور ابن ماجہ نے ابو بکر بن ابی شیبہ، سید بن سعید اور اسماعیل بن موسیٰ سے روایت کی ہے۔ اور تینوں نے اسے شریک سے روایت کیا ہے اور نسائی نے اسے احمد بن سلیمان سے عن یحییٰ بن آدم عن اسرائیل روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح اور غریب کہا ہے۔ اور سلیمان بن خرم، جو ضعیف ہے۔ نے اسے ابواسحاق سے بحوالہ جش بن جنادہ روایت کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو غدير خم کے روز فرماتے سنا جسے میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے اے اللہ جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ۔ اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ۔ اور پوری حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور حافظ ابو یعلیٰ موصلی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ شریک نے ہمیں ابو یزید الاودی سے بحوالہ اس کے باپ کے خبر دی وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، تو

ایک نوجوان نے آپ کے پاس آ کر کہا میں آپ سے خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ کما آب نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ سے میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے اے اللہ جو اس سے محبت رکھے اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں! اور ابن جریر نے اسے عن ابی کریب عن شاذان عن شریک روایت کیا ہے۔ اور ادریس الاودنی نے اپنے بھائی ابو یزید سے اس کا نام داؤد بن یزید ہے اس کی متابعت کی ہے اور اس طرح ابن جریر نے اسے ادریس اور اوزاعی حدیث سے جنت ان دونوں نے اپنے باپ سے بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے روایت کیا ہے۔

اور جو حدیث حمزہ نے عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شہر بن حوشب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا تو فرمایا جسے میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ غدیر خم کا روز تھا جو شخص ۱۸ ذوالحجہ کو روزہ رکھے اس کے ساٹھ ماہ کے روزے لکھے جاتے ہیں یہ حدیث بہت منکر ہے بلکہ صحیحین میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جو حدیث ثابت ہے اس کی مخالفت کی وجہ سے جھوٹی ہے۔ کیونکہ اس میں بیان ہوا ہے کہ یہ آیت یوم عرفہ کو جمعہ کے روز نازل ہوئی تھی۔ اور رسول اللہ ﷺ اس وقت عرفہ میں کھڑے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح اس کا یہ قول کہ ۱۸ ذوالحجہ کا دن غدیر خم کا دن تھا اور اس کا روزہ ساٹھ ماہ کے روزوں کے برابر ہے درست نہیں کیونکہ صحیح میں اس کا یہ مفہوم ثابت ہو چکا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے دس ماہ کے روزوں کے برابر ہیں پس ایک دن کا روزہ ساٹھ ماہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے یہ باطل ہے اور ہمارے شیخ ابو عبد اللہ ذہبی اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت منکر ہے۔ اور جسون الخلال اور احمد بن عبد اللہ بن احمد النیرانی نے اسے علی بن سعید الرکابی سے بحوالہ ضمیرہ روایت کیا ہے اور جسون اور احمد دونوں صادق ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت عمر بن الخطاب مالک بن حویرث انس بن مالک اور ابو سعید رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیث سے کمزور اسناد کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا پہلا حصہ متواتر ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے فرمایا ہوگا اور اے اللہ جو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھے یہ ایک قوی الاسناد اضافہ ہے اور روزے والی بات درست نہیں اور قسم بخدا یہ آیت بھی غدیر خم سے قبل عرفہ کے روز جو ایام اللہ میں سے ہے نازل ہوئی تھی۔ واللہ اعلم

اور طبرانی بیان کرتے ہیں کہ اصہبانی کے وزیر علی بن اسحاق نے ہم سے بیان کیا کہ علی بن محمد المقدمی نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن عمر المقدمی نے ہم سے بیان کیا کہ علی بن محمد بن یوسف بن شبان بن مالک بن مسمع نے ہم سے بیان کیا کہ سہل بن حنیف بن سہل بن مالک برادر کعب بن مالک نے اپنے باپ سے بحوالہ اپنے دادا کے ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ آئے تو آپ نے منبر پر چڑھ کر خدا کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا۔ اے لوگو! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کبھی دکھ نہیں دیا پس تم ان کی اس بات سے مطلع ہو جاؤ اے لوگو! میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اور اڈلین مہاجرین سے راضی ہوں۔ پس تم ان کی اس بات سے مطلع ہو جاؤ اے لوگو! میرے اصحاب میرے احباب اور رشتہ داروں کے بارے میں مجھ سے یہ بات یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی کسی بے انصافی کے متعلق تم سے مطالبہ نہیں کرے گا، اے لوگو! اپنی زبانوں کو مسلمانوں کے بارے میں بند کر لو۔ اور جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے متعلق اچھی باتیں کرو۔

ہجرت کا گیارہواں سال

یہ سال شروع ہوا تو حجۃ الوداع سے واپسی پر رسول اللہ ﷺ کی سواری مدینہ منظرہ میں ٹھہر گئی اور اس سال بڑے بڑے عظیم واقعات ہوئے جن میں سب سے عظیم واقعہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دارفانی سے اٹھا کر عظیم ابدی کی طرف جنت کے بلند و بالا مقام میں لے گیا جس سے باند تر مقام کوئی نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَلَا حِجْرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ اور یہ واقعہ مکمل طور پر اس پیغام کی ادائیگی کے بعد ہوا جس کے ابلاغ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ اور آپ نے اپنی امت کو نصیحت کی اور ان کی اس بھلائی کی طرف راہ نمائی کی جو آپ انہیں سکھانا چاہتے تھے اور جو بات دنیا و آخرت میں ضرر رساں تھی انہیں انتباہ دانداز کیا۔ اور قبل ازیں ہم وہ بات بیان کر چکے ہیں جسے بخاری اور مسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ جمعہ کے روز نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ عرفہ میں کھڑے تھے۔ اور ہم نے جید طریق سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روپڑے آپ سے پوچھا گیا آپ کس وجہ سے گریہ کننا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کمال کے بعد کی ہی ہوتی ہے۔ گویا آپ کو حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کا احساس ہو گیا تھا اور حضور ﷺ نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا جسے مسلم نے ابن جریج کی حدیث سے عن ابی الزبیر عن جابر روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر نہیں فرمایا مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اور قبل ازیں ہم وہ روایت بھی بیان کر چکے ہیں جسے حافظ ابو بکر البزازی اور حافظ تہمتی نے موسیٰ بن عبیدہ ربذی کی حدیث سے عن صدقہ بن یسار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورۃ ﴿اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ﴾ ایام التشریق کے درمیانے روز نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے سمجھ لیا کہ یہ حجۃ الوداع ہے پس آپ نے اپنی ناقہ قصواء کے لانے کا حکم دیا جسے کجاوہ ڈال کر لایا گیا پھر آپ نے حضور ﷺ کے اس دن کے خطبے کا ذکر کیا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور یہی جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت دیا جب آپ نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی فضیلت، تقدم اور علم دکھانے کے لیے ان سے اس سورت کی تفسیر پوچھی تھی کیونکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو مشائخ بدر کے ساتھ بٹھانے اور مقدم کرنے پر ملامت کی تھی آپ نے فرمایا جس وجہ سے میں ایسا کرتا ہوں تمہیں معلوم ہی ہے پھر آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں ان سے اس سورت ﴿اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا﴾ کی تفسیر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد

لریں اور اس کی حمد کریں اور اس سے بخشش طلب کریں۔ آپ نے فرمایا اے ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کیا کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا یہ رسول اللہ ﷺ کی موت کی طرف اشارہ ہے اور اس میں آپ کو موت کی اطلاع دی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی اس کے متعلق وہی کچھ جانتا ہوں جو آپ جانتے ہیں اور ہم نے اس سورت کی تفسیر میں وہ باتیں بیان کی ہیں جو کئی وجوہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قول پر دلالت کرتی ہیں اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تفسیر کے منافی نہیں۔

اسی طرح امام احمد نے وکیع سے عن ابن ابی ذئب عن صالح مولی التوامد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کے ساتھ حج کیا تو فرمایا: صرف یہی حج ہے پھر وہ جنگی کے غلبے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گی۔ احمد اس طریق سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔

اور ابوداؤد نے اسے ایک اور جدید طریق سے روایت کیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ لوگوں کو اس سال آپ کی وفات کا احساس ہو گیا تھا اور اس واقعہ کے متعلق جو احادیث و آثار مروی ہیں ہم انہیں بیان کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم اس جگہ وفات سے قبل ان باتوں کو بیان کریں گے جنہیں ائمہ محمد بن اسحاق بن یسار ابو جعفر بن جریر اور ابوبکر بیہقی نے بیان کیا ہے یعنی آپ کے حجوں اور غزوات و سرایا اور بادشاہوں کی طرف آپ نے جو مکاتیب اور اپیل بھیجی ان کی تعداد کیا تھی؟ اب ہم مختصر طور پر اسے بیان کریں گے پھر اس کے بعد وفات کا ذکر کریں گے۔

غزوات و سرایا کی تعداد:

صحیحین میں ابواسحاق السبیبی کی حدیث میں حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انیس جنگیں لڑیں اور ہجرت کے بعد حجۃ الوداع کیا اور اس کے بعد کوئی حج نہیں کیا ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک حج آپ نے مکہ میں کیا تھا۔ اور ابواسحاق السبیبی بھی یہی کہتا ہے۔ اور زید بن الحباب عن سفیان ثوری عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین حج کیے دو حج ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد ایک حج جس کے ساتھ عمرہ بھی تھا اور آپ قربانی کے ترسیٹھ جانور لائے تھے اور ایک سو کی تعداد پوری کرنے کے لیے باقی جانور حضرت علی رضی اللہ عنہ ین سے لائے تھے۔ اور قبل ازیں صحیحین میں ہم کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں بیان کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ نے چار عمرے کے عمرۃ الحدیبیہ عمرۃ القضاء عمرۃ الجعرانہ اور وہ عمرہ جو حجۃ الوداع کے ساتھ ہوا۔

اور غزوات کے متعلق امام بخاری نے ابو عاصم نبیل عن یزید بن ابی عبید عن سلمہ بن اکوع روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر سات جنگیں کیں اور آپ جو دستے بھیجتے تھے ان کے ساتھ نو جنگیں کیں کبھی آپ ہم پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اور کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کرتے۔ اور صحیح بخاری میں اسرائیل کی حدیث سے ابواسحاق سے بحوالہ البراء بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پندرہ جنگیں لڑیں۔ اور صحیحین میں شعبہ کی حدیث سے

① پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ چھیاٹھ جانور تھے اور سو کی تعداد پوری کرنے کے لیے باقی جانور حضرت علی رضی اللہ عنہ لائے تھے۔

ابو اسحاق سے بحوالہ البراء بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انیس جنگیں لڑیں اور وہ آپ کے ساتھ ستہ جنگوں میں شریک ہوئے جن میں سے پہلی جنگ العشیر یا العسیر تھی۔

اور مسلم نے احمد بن حنبل سے عن معتمر بن کعب عن الحسن بن ابی بردہ عن ابیہ روایت کی ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر سولہ جنگیں کیں اور مسلم کی ایک روایت میں جو حسین بن واقد کے طریق سے عن عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ بیان ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر انیس جنگیں کیں جن میں سے آٹھ میں آپ نے قتال کیا۔ اور اسی اسناد کے ساتھ ان کی روایت میں ہے کہ آپ نے جو میں سریے بھیجے اور آپ نے بدر احد احزاب المرسیع خیبر مکہ اور حنین کے روز قتال کیا۔ اور صحیح مسلم میں ابو الزبیر کی حدیث سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اکیس جنگیں لڑیں جن میں سے انیس میں آپ کے ساتھ مل کر جنگ کی اور میں بدر واحد میں شامل نہ ہوا مجھے میرے باپ نے منع کر دیا تھا اور جب احد کے روز میرے والد شہید ہو گئے تو جو بھی آپ نے جنگ لڑی میں اس سے پیچھے نہیں رہا۔

اور عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ معمر نے ہمیں زہری سے بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے اٹھارہ جنگیں لڑیں۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے آپ کو چودہ جنگیں فرماتے سنا مجھے معلوم نہیں کہ کیا یہ وہم تھا یا اس کے بعد میں نے آپ سے سنا تھا اور قادم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انیس جنگیں کیں جن میں آپ نے آٹھ میں قتال کیا اور چوبیس دستے بھیجے پس آپ کے تمام غزوات و سرایا کی تعداد تینا تیس ہے۔

اور عروہ بن زبیر زہری موسیٰ بن عقبہ محمد بن اسحاق بن یسار اور اس شان کے کئی ائمہ نے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ۲۲ میں رمضان شریف میں بدر کے روز جنگ کی پھر شوال ۳ میں احد میں جنگ کی پھر ۴ میں خندق اور بنی قریظہ کے روز جنگ کی اور بعض کہتے ہیں کہ ۵ میں جنگ کی اور شعبان ۵ میں بنی مصطلق کے روز مرسیع میں جنگ کی پھر صفر ۷ میں خیبر کے روز جنگ کی اور بعض کا قول ہے کہ ۶ میں کی تحقیق بات یہ ہے کہ جنگ خیبر ۷ کے آغاز اور ۶ کے آخر میں ہوئی پھر آپ نے رمضان ۸ میں اہل مکہ کے ساتھ جنگ کی۔ اور ہوازن سے جنگ کی اور شوال میں اہل طائف کا محاصرہ کیا اور ذوالحجہ کے کچھ دن بھی محاصرہ جاری رہا جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے اور آپ نے ۸ میں لوگوں کو حج کرایا اور حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ مکہ میں آپ کے نائب تھے۔ پھر ۹ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کرایا پھر دس ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو حج کرایا۔

محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بہ نفس نفیس ستائیس غزوات کیے غزوہ ودان جسے غزوہ ابواء کہتے ہیں پھر رضوی کی ایک جانب غزوہ بواط پھر وادی بیح میں غزوہ العشیرہ پھر کرز بن جابر کی طلب پر غزوہ بدر اولیٰ پھر غزوہ بدر عظمیٰ جس میں اللہ تعالیٰ نے صنادید عرب کو مار دیا پھر غزوہ بنی سلیم یہاں تک کہ آپ الکر تک پہنچ گئے۔ پھر ابوسفیان بن حرب کی طلب پر غزوہ سویق پھر غزوہ عطفان جسے غزوہ ذی امر کہتے ہیں پھر غزوہ نجران جو حجاز کی ایک معدن ہے پھر غزوہ احد پھر غزوہ حراء الاسد پھر غزوہ بنی نضیر پھر غزوہ ذات الرقاع پھر غزوہ بدر الآخرہ پھر غزوہ دومتہ الجندل پھر غزوہ بنو المصطلق جو خزاعہ سے تعلق رکھتے ہیں پھر غزوہ الحدیبیہ آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے پس مشرکوں نے آپ کو روک دیا پھر غزوہ خیبر پھر غزوہ التضاء پھر غزوہ فح پھر

نزوہ حنین پھر نزوہ طائف پھر نزوہ تبوک۔

ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ آپ نے ان میں سے نو نزوات میں قتال کیا، یعنی نزوہ بدر، احد، خندق، قریظہ، مصلح، خیبر فتح مکہ، حنین اور طائف ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ تمام امور اپنی اپنی جگہوں پر دلائل و شواہد کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جو دستے اور سرایا بھیجے ان کی تعداد اڑتیس ہے، پھر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور ہم ان سب کو یا ان کی اکثریت کو اپنی اپنی جگہ پر مفصل بیان کر چکے ہیں، اب ہم ابن اسحاق کے بیان کا تلخیص بیان کرتے ہیں۔

حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا دستہ: عیص کی جانب ساحل پر حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کا دستہ، بعض لوگ اس دستے کو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دستے سے مقدم بیان کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ الحرار کی جانب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا دستہ، بجیلہ کی جانب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا دستہ، القرہہ کی جانب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا دستہ، کعب بن اشرف کی جانب حضرت محمد بن مسلمہ کا دستہ، الرجیع کی جانب حضرت مرشد بن ابی مرشد کا دستہ، بیئر معونہ کی جانب المنذر بن عمر رضی اللہ عنہ کا دستہ، ذوالقصر کی جانب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا دستہ، بنی عامر کے جنگل کی طرف حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دستہ، یمن کی جانب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دستہ، الکلدیک کی جانب حضرت غالب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ عنہ کا دستہ، آپ نے بنی الملوح کو نقصان پہنچایا اور رات کو ان پر غارت گری کی اور ان کی ایک جماعت قتل ہو گئی اور آپ ان کے اونٹ ہانک کر لے آئے اور ان کی ایک جماعت اونٹوں کی تلاش میں آئی، پس جب وہ نزدیک آئے تو ان کے درمیان ایک سیلابی وادی حائل ہو گئی اور انہوں نے اپنے اس مارچ میں حارث بن مالک بن البرصاء کو قید کر لیا، بنی سلیم کی جانب ابو العوجا سلمی کا دستہ، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو گزند پہنچا، الغمرہ کی جانب حضرت عکائشہ رضی اللہ عنہ کا دستہ، قطن کی جانب حضرت ابوسلمہ بن اسد کا دستہ، قطن، نجد میں بنی اسد کا ایک پانی ہے، ہوازن کے القراء کی جانب محمد بن مسلمہ کا دستہ، فدک میں بنی مرہ کی جانب حضرت بشیر بن سعد کا دستہ، حنین کی جانب حضرت بشیر بن سعد کا دستہ، ارض بنی سلیم میں الجوم کی طرف حضرت زید بن حارثہ کا دستہ، ارض بنی حنین میں جذام کی طرف حضرت زید بن حارثہ کا دستہ، ابن ہشام بیان کرتے ہیں یہ ارض حسی کے علاقے میں ہے۔ اور اس کا سبب ابن اسحاق وغیرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ قیصر کے ہاں سے واپس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے پہنچایا، جس میں آپ نے اللہ کی طرف دعوت دی تھی تو اس نے اپنی جانب سے آپ کو تحائف و ہدایا دیئے اور جب آپ ارض بنی جذام کی وادی شام میں پہنچے تو الہنید بن عوص اور اس کے بیٹے عوص بن الہنید صلح نے آپ پر حملہ کر دیا، صلح، جذام کا ایک بطن ہے اور جو کچھ آپ کے پاس تھا، ان دونوں نے آپ سے چھین لیا، پس ان کا ایک مسلمان قبیلہ نکلا اور انہوں نے جو کچھ دحیہ سے چھینا گیا تھا، لے کر دحیہ کو واپس کر دیا، پس جب حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا اور آپ سے الہنید اور اس کے بیٹے عوص کا خون طلب کیا، تو آپ نے اسی وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک فوج کے ساتھ ان کی طرف بھیجا، پس وہ اولاج کی جانب ان کی طرف ہو گئے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے الحرہ کی جانب ماقص پر حملہ کیا اور جو مال اور آدمی انہیں ملے ان کو اکٹھا کر لیا۔ اور انہوں نے الہنید اور اس کے بیٹے اور بنی اخف کے دو آدمیوں اور بنی حضیب کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پس جب حضرت

زید بن عدو نے ان کے اموال و اولاد کو اکٹھا کر لیا تو ان کی ایک پارٹی رفاعہ بن زید کے پاس جمع ہوئی۔ اور اس کے پاس رسول اللہ ﷺ کا خط آیا ہوا تھا جس میں آپ نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تھی رفاعہ نے انہیں یہ خط سنا تو ان کی ایک پارٹی نے اس کی بات قبول کر لی، لیکن حضرت زید بن عدو کو اس کا علم نہ تھا، پس وہ سوار ہو کر تین دن میں رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ پہنچ گئے۔ اور آپ کو خط دیا، پس آپ نے اسے لوگوں کے سامنے پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں تین بار کے مقتولین سے کیا کر سکتا ہوں، تو ان میں سے ایک آدمی نے جسے ابو زید بن عمر کہا جاتا تھا عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم جو زندہ ہیں انہیں آزاد کر دیجیے اور جو قتل ہو گیا ہے وہ میرے ان قدموں کے نیچے ہے تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت زید رضی اللہ عنہ میری بات نہیں مانیں گے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی تلوار انہیں نشانی کے طور پر عطا کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے اونٹ پر ان کے ساتھ چل دیئے اور وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج سے ملے اور فیفاء الغائبین میں ان کے ساتھ اولاد و اموال بھی تھے، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ان سے چھینا گیا تھا سب کا سب ان کے سپرد کر دیا اور انہوں نے اس سے کچھ بھی گم نہ کیا۔

اسی طرح حضرت زید بن عدو وادی القرئی میں بنی فزارہ کی طرف بھیجا گیا تو آپ کے اصحاب کی ایک جماعت قتل ہو گئی اور آپ مقتولین کے درمیان زخموں سے چور ہو گئے، پس جب آپ واپس آئے تو آپ نے قسم کھائی کہ جب تک ان کے ساتھ اسی طرح جنگ نہ کر لوں، غسل جنابت نہیں کروں گا۔ اور جب آپ زخموں سے صحت یاب ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے آپ کو دوبارہ فوج دے کر بھیجا تو آپ نے وادی القرئی میں انہیں قتل کیا اور اہم قرفذہ فاطمہ بنت ربیعہ بن بدر کو قید کر لیا۔ اور وہ مالک بن حدیفہ بن بدر کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، پس حضرت زید بن عدو نے قیس بن المسعر کو حکم دیا تو اس نے ام قرفذہ کو قتل کر لیا اور اس کی بیٹی کو باقی رکھا۔ اور ام قرفذہ عزت دار گھرانے کی عورت تھی، اور عزت میں ام قرفذہ کی مثال بیان کی جاتی تھی اور اس کی بیٹی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، پس آپ نے اسے اس سے مانگ لیا تو اس نے اسے آپ کو دے دیا، تو رسول اللہ ﷺ نے اسے اس کے ماموں حزن بن ابی وہب کو دے دیا تو اس سے اس کے ہاں اس کا بیٹا عبدالرحمن پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ خیبر بھیجا گیا، ایک بار تو اس دفعہ جب آپ نے الیسیر بن رزام کو زخمی کیا، وہ عطفان کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اکٹھا کرتا تھا، پس رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ایک دستے کے ساتھ بھیجا، جس میں حضرت عبداللہ بن عدو بھی تھے، پس وہ اس کے پاس آئے اور مسلسل اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جانے کی رغبت دلاتے رہے، پس وہ ان کے ساتھ چل پڑا، اور جب وہ خیبر سے چھ میل کے فاصلے پر القرقرہ مقام پر تھے تو الیسیر اپنی رواگی پر پشیمان ہوا اور عبداللہ بن عدو سمجھ گئے کہ وہ تلوار مارنا چاہتا ہے، پس آپ نے اس کا پاؤں کاٹ دیا اور الیسیر نے آپ کے سر پر دور سے مڑے ہوئے سرے والا عصا مارا اور آپ کے دماغ کو صدمہ پہنچایا، اور مسلمانوں کے تمام آدمی اپنے اپنے یہودی ساتھی پر پل پڑے اور انہیں قتل کر دیا، صرف ایک آدمی بھاگ کر بچا، پس جب حضرت ابن عدو واپس آئے تو رسول اللہ ﷺ نے آپ کے سر پر تھوکا، تو نہ آپ کے زخم میں پیپ پڑی اور نہ اس نے آپ کو تکلیف دی۔

میں لہتا ہوں میرے خیال میں یہ جبر کی طرف آخری دستہ تھا جسے حضور ﷺ نے جبر کی کھجوروں کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب کو خیبر کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے ابورافع یہودی کو قتل کر دیا اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو خالد بن سفیان بن یثیع کی طرف بھیجا گیا تو آپ نے اسے عرفہ میں قتل کر دیا۔ اور ابن اسحاق نے اس جگہ اس کے طویل واقعہ کو بیان کیا ہے اور قبل ازیں ۵ھ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم

اور حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کو شام کے علاقے میں موتہ کی طرف بھیجا گیا اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے یہ سب کے سب شہید ہو گئے اور عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کو تمیم کے بنی العنبر کی طرف بھیجا گیا، تو آپ نے ان پر حملہ کیا اور کئی لوگوں کو قتل کر دیا پھر ان کا وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے قیدیوں کے بارے میں آیا تو آپ نے بعض کو آزاد کر دیا اور بعض کا فدیہ دے دیا۔ اسی طرح حضرت غالب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بنی مرہ کے علاقے میں بھیجا گیا تو وہاں مرد اس بن نہیک جو جہینہ کے الحرقہ میں سے ان کا حلیف تھا قتل ہو گیا، اسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری نے قتل کر دیا، پس جب ان دونوں نے اسے آلیا اور تھیا رسونت لیے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، پس جب یہ دونوں واپس آئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں کو سخت ملامت کی، تو ان دونوں نے یہ عذر پیش کیا کہ اس نے قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو نے ان کا دل کیوں نہیں پھاڑا۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ قیامت کے روز لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں تیرا کون مددگار ہوگا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ مسلسل اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے چاہا کہ میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوں ہوتا۔ اور اس کے متعلق پہلے گفتگو ہو چکی ہے اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بنی عذرہ کے علاقے میں ذات السلاسل کی طرف بھیجا کہ وہ عربوں سے شام کی طرف جانے کے لیے مدد مانگے اور یہ اس لیے کہ العاص بن وائل کی ماں ملی قبیلے سے تھی اس لیے آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ان سے مدد مانگنے کے لیے بھیجا تھا تا کہ آپ ان پر اثر انداز ہوں، پس جب آپ ان کے پانی پر پہنچے جسے سلسل کہا جاتا تھا، تو آپ ان سے خوفزدہ ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ سے کمک طلب کرنے کے لیے آدمی بھیجا، تو حضرت نبی کریم ﷺ نے ایک سریہ بھیجا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور اس کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ تھے، پس جب آپ ان کے پاس پہنچے تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ زبردستی ان سب پر امیر بن گئے اور کہا، تم لوگوں کو میری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ممانعت نہ کی کیونکہ آپ دنیا کے معاملات میں نرم طبیعت آدمی تھے۔ آپ نے ان کی فرمانبرداری اور اطاعت اختیار کر لی اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ ان سب کو نماز پڑھاتے تھے اس لیے جب واپس آئے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کون سا آدمی آپ کو زیادہ محبوب ہے، فرمایا عائشہ انہوں نے عرض کیا مردوں میں سے اس کا باپ، اور حضرت ابی حدرد رضی اللہ عنہ کو وادی احم کی طرف بھیجا گیا اور یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جس میں محلم بن جثامہ کا واقعہ ہوا تھا، جسے ۷ھ میں طوالت کے ساتھ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اسی طرح ابن ابی حدرد کو الغابہ کی طرف بھیجا گیا، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دومۃ الجندل کی طرف بھیجا گیا، محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے عطاء بن رباح سے اس آدمی نے بتایا جس پر میں کوئی تہمت نہیں لگا تا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں

نے اہل بصرہ میں سے ایک آدمی کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عمامہ باندھتے وقت عمامہ پیچھے چھوڑنے کے متعلق پوچھتے سنا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ان شاء اللہ اس بارے میں تمہیں بتاؤں گا، آپ جان لیں کہ میں حضرت نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں سے ہوں آدمی تھا آپ کی مسجد میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت حذیفہ بن الیمانؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ رضی اللہ عنہم اور میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ ایک انصاری نوجوان نے آ کر رسول اللہ ﷺ کو سلام کہا اور بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو ان میں سے اچھے اخلاق والا ہے اس نے کہا مومنین میں سے زیادہ عقل مند کون ہے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے، ایسے لوگ عقلمند ہیں، پھر وہ نوجوان خاموش ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس آگئے اور فرمایا اے گروہ مہاجرین جب تم میں پانچ حصلتیں آجائیں۔ اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ اور وہ یہ کہ کسی قوم میں برائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان میں طاعون اور وہ دردیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو ان کے گزشتہ اسلاف میں موجود نہ تھیں۔ اور جب وہ وزن اور ماپ کو کم کرتے ہیں تو انہیں قحط، خراج کی تنگی اور بادشاہ کا ظلم آ پکڑتا ہے، اور جب وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان پر آسمان سے بارش نہیں ہوتی اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر اعدا دشمن مسلط ہو جاتا ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اسے چھین لیتا ہے، اور جب ان کے ائمہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جھنگ چھیڑ دیتا ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ پھر آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو سر یہ تیار کرنے کا حکم دیا جس پر آپ نے انہیں امیر بنایا اور صبح کو انہوں نے سیاہ کھردرے کپڑے کا عمامہ باندھا تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں اپنے قریب کیا، پھر عمامہ کو کھولا پھر اسے باندھا۔ اور چار انگشت تک اسے ان کے پیچھے چھوڑا، پھر فرمایا اے ابن عوف اس طرح عمامہ باندھو۔ یہ زیادہ اچھا اور کلنی والا ہے، پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ کو جھنڈا دیں تو انہوں نے آپ کو جھنڈا دیا۔ پس آپ نے اللہ کی حمد کی اور اپنے سر پر درود پڑھا، پھر فرمایا اے ابن عوف اس جھنڈے کو پکڑ لو اور سب اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے جنگ کرو زیادتی نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، مثلہ نہ کرو، اور بچے کو قتل نہ کرو۔ یہ اللہ کا عہد اور تم میں اس کے نبی کی سیرت ہے، پس حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا، ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ وہ دومۃ الجندل کی طرف چلے گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح قریباً تین سو سواروں کے ساتھ سمندر کے کنارے کی طرف بھیجے گئے۔ اور حضور ﷺ نے آپ کو کھجوروں کا ایک تھیلا دیا، جس میں عنبر مچھلی کا واقعہ آتا ہے جسے سمندر نے باہر پھینک دیا تھا اور یہ سب لوگ اسے ایک ماہ تک کھاتے رہے یہاں تک کہ فریبہ ہو گئے اور وہ اس کے کچھ ٹکڑے حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس واپس لے کر آئے اور اس سے آپ کو بھی کھلایا اور آپ نے اس سے کھلایا، جیسا کہ پہلے حدیث بیان ہو چکی ہے، ابن ہشام بیان کرتا ہے کہ ابن اسحاق نے اس جگہ ان رستوں کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی آپ نے عمرو بن امیہ ضمیری کو حبیب بن عدی اور اس کے اصحاب کے قتل کے بعد ابی سفیان صحز بن حرب کے قتل کے لیے بھیجا تھا، اور ان کے حالات ہم پہلے بیان کر چکے

ہیں۔ اور عمرو بن العاص کے ساتھ دبا بن صخر بھی تھا اور وہ دونوں ابی سفیان کے قتل پر متفق نہ تھے بلکہ ایک آدمی نے اسے قتل کیا اور سب و اس کے تے سے ہمارا اور سالم بن عمیر نے ایک گریہ کرنا آدمی کو ابی عتک کی طرف بھیجا گیا جو بنی عمرو بن عوف کا ایک آدمی تھا اور اس میں اس وقت نفاق پیدا ہوا جب رسول اللہ ﷺ نے حارث بن سوید بن الصامت کو قتل کیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پس وہ اس کا مرثیہ کہتے ہوئے اور دین میں داخل ہونے کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”میں نے ایک مدت زندگی گزار لی ہے اور میں نے لوگوں کا کوئی گنہ اور جمع ہونے کی جگہ نہیں دیکھی اور جب ان کا آدمی آواز دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر پاس عہد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور اولادِ قبیلہ میں وہ آدمی بھی ہے جو پہاڑوں کو گرا دیتا ہے اور جھکتا نہیں، پس ان کو ایک سوار نے منتشر کر دیا جو ان کے پاس حلال و حرام کو اکٹھے لے کر آیا، پس اگر تم عزت اور حکومت کے بارے میں تصدیق کرتے تو تم تابعداروں کے تابعدار ہوتے۔“

رسول کریم ﷺ نے فرمایا میری طرف سے کون اس خبیث سے بچے گا تو آپ نے اس کے لیے سالم بن عمیر کو مقرر کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اور امامہ مریدیہ نے اس بارے میں یہ اشعار کہے ہیں۔

”تو اللہ تعالیٰ کے دین اور حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی تکذیب کرتا ہے اس کی زندگی کی قسم جس نے تجھے امید دلانی، وہ امید دلانے والا بہت بڑا ہے۔ رات کے آخری حصے میں حقیف نے تجھے نیزہ مارا۔ اے عتک تو اسے کبر سنی کے باوجود وصول کر لے۔ اور عمیر بن عدی حطمی کو بنی امیہ بن زید کی العصماء بڑے مروان کے قتل کے لیے بھیجا گیا، وہ اسلام اور اہل اسلام کی جو کیا کرتی تھی۔ اور جب ابو عتک مذکور قتل ہو گیا تو اس نے منافقانہ طور پر ان بارے میں کہا۔

”بنی مالک، انبیت، عوف اور بنی خزرج کی مذمت کرتے تم نے فہموں کو رشوت دے کر اطاعت کی جو نہ مراد قبیلے سے تھے اور نہ مذبح سے، اور تم سرداروں کے قتل کے بعد اس سے امید رکھتے ہو۔ آگاہ رہو وہ نخوت والا ہے جو دھوکہ دینا چاہتا ہے تاکہ امید کرنے والے کی امید کو قطع کر دے۔“

اور حضرت حسان بنی ہذیل نے اسے جواب دیا:

”بنو اہل اور بنو واقف اور بنی خزرج کے ورے نظم، جب بے وقوفی سے اپنی ہلاکت کو آواز دیتے ہیں تو ان کے سردار اور موتیں آ جاتی ہیں اور وہ ایک بزرگی والے نوجوان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں، جو شریف الاصل ہے، پس اس نے اسے سیاہی مائل خون سے لت پت کر دیا اور وہ سکون سے دور ہے، اور اس نے خراج نہیں دیا۔“

رسول اللہ ﷺ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، کوئی میری خاطر بنت مروان کو پکڑنے والا ہے۔ یہ بات عمیر بن عدی نے سن لی اور جب اس رات کی شام ہوئی تو اس نے رات کو جا کر اسے قتل کر دیا، پھر صبح کو اس نے رسول اللہ ﷺ کو بتایا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ نے فرمایا اے عمیر تو نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا اس کے قتل کے بارے میں مجھ پر کچھ ذمہ داری ہوگی، فرمایا اس کے بارے میں دو بکریاں بھی سینگ نہیں ماریں گی، پس حضرت عمیر نے اپنی قوم کی طرف واپس آ گئے اور وہ اس کے قتل کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، اور اس کے پانچ بیٹے

تھے، حضرت عمیر بن عبدود نے کہا میں نے اسے قتل کیا ہے، پس تم سب میرے متعلق تہیہ کرو اور مجھے مہات نہ دو، اور یہ پہلا دن تھا جس میں بنی نطمہ میں اسلام سر بلند ہوا۔ اور اسلام کی سر بلندی کو دیکھ کر ان میں سے بہت سے لوگ اسلام لے آئے پھر اس نے اس دستے کا ذکر کیا ہے جس نے ثمامہ بن اثال حنفی کو قید کیا تھا، اور اس کے اسلام لانے کے واقعہ کو بیان کیا ہے اور قبل ازیں یہ بات صحیح احادیث میں بیان ہو چکی ہے۔ اور ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ: ”مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کھانا کم کر دیا تھا۔ اور جب مدینہ سے چل کر مکہ میں عمرہ کرنے آیا اور وہ تلبیہ کہہ رہا تھا تو اہل مکہ نے اسے اس سے منع کیا تو اس نے ان کی بات نہ مانی اور انہیں دھمکی دی کہ وہ یمامہ سے ان کا غلہ بند کر دے گا، پس جب وہ یمامہ واپس گیا تو اس نے ان کا غلہ روک دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے خط لکھا، تو اس نے دوبارہ انہیں غلہ بھجوایا اور بنی حنیفہ کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ۔

”اور ہم میں وہ شخص بھی ہے جس نے احرام باندھ کر مکہ میں ابوسفیان کو ذلیل کرنے کے لیے حرمت والے مہینوں میں تلبیہ کہا۔“

اور عاتقہ بن مجرمد لہجی، کو اپنے بھائی وقاص بن مجرر کا بدلہ لینے کے لیے اس روز بھیجا گیا جس روز اس کا بھائی ذو قرد مقام پر قتل ہوا تھا، پس اس نے رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کی تاکہ وہ لوگوں کے نشانات سے فائدہ اٹھائے، پس آپ نے اسے اجازت دے دی اور آپ نے اسے لوگوں کی ایک پارٹی کا امیر بنایا، پس جب وہ واپس لوٹے تو اس نے ان میں سے ایک پارٹی کو پیش روی کی اجازت دے دی اور عبد اللہ بن حذیفہ بنی نطمہ کو ان کا امیر مقرر کیا اور وہ بڑے خوش طبع آدمی تھے، انہوں نے آگ جلا دی اور انہیں اس میں داخل ہونے کا حکم دے دیا، پس جب ان میں سے بعض نے دخول کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، اور جب اس بات کی اطلاع حضرت نبی کریم ﷺ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا: جو تمہیں معصیت الہی کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ اور اس بارے میں حدیث کا ذکر ابن ہشام نے عن الدرد اور دی بن محمد بن عمرو بن علقمہ عن عمرو بن الحکم بن ثوبان عن ابی سعید خدری بنی نطمہ کیا ہے۔ اور کرز بن جابر کو ان لوگوں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا جو مدینہ آئے تھے اور وہ بجیلہ کے قبیلے سے تھے، انہوں نے مدینہ کو مضرت اور و بازوہ پایا، تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کے اونٹوں کے پاس چلے جائیں اور ان کے بول اور دودھ پیئیں، پس جب وہ صحت مند ہو گئے تو اونٹوں کے چرواہا یسار کو قتل کیا، جو رسول اللہ ﷺ کا غلام تھا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کی دونوں آنکھوں میں سلائی پھیر دی، اور دو دھیل اونٹیاں ہانک کر لے گئے، پس آپ نے حضرت کرز بن جابر کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے تعاقب میں بھیجا تو وہ بجیلہ کے ان لوگوں کو غزوہ ذی قرد سے رسول اللہ ﷺ کی واپسی پر لائے، پس آپ کے حکم سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیری گئی۔ اگرچہ حضرت انس بن ہذاف کی مشفق علیہ حدیث میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ عمل یا عرینہ قبیلے کے آٹھ آدمی تھے جو مدینہ آئے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ وہی تھے اور ان کے واقعہ کو قبل ازیں تفصیلاً بیان کیا جا چکا ہے، اور اگر وہ ان کے علاوہ کوئی اور تھے تو ہم نے ان سرچشموں کو بیان کیا ہے جن کا ذکر ابن ہشام نے کیا ہے۔ واللہ اعلم

ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وہ جنگ جو آپ نے دو دفعہ لڑی، ابو عمر وہابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ایک دوسری فوج کے ساتھ بھیجا اور فرمایا اگر تم اکٹھے ہو جاؤ تو امیر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں گے اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا اور اس نے دستوں اور سرایا کی تعداد میں آپ کا ذر نہیں لیا اور اس کی تعداد اتنا نہیں ہوئی چاہیے ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ وہ فلسطین علاقے کی سرحدوں بلقاء اور الداردم کو گھوڑوں سے روندیں پس لوگوں نے تیاری کی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اولین مہاجرین گئے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ یہ آخری دست تھا جسے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا۔

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل نے ہم سے بیان کیا کہ مالک نے ہم سے عبد اللہ بن دینار سے بحوالہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دستہ بھیجا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا تو لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا تو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر تم اس کی امارت پر اعتراض کرتے تو قبل ازیں تم اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کرتے تھے اور قسم بخدا وہ امارت کا اہل ہے اور وہ مجھے سب لوگوں سے محبوب تر ہے اور اس کے بعد بھی وہ مجھے سب لوگوں سے محبوب تر ہوگا اور ترمذی نے اسے مالک کی حدیث سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور کبار مہاجرین اولین اور انصار میں سے بہت سے لوگ ان کی فوج میں شامل تھے جن میں سب سے بڑے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے اور جو کہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے اس نے غلط کہا ہے بے شک رسول اللہ ﷺ سخت بیمار تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج جرف میں خیمہ زن تھی اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا جیسا کہ غفریب بیان ہوگا پس وہ فوج میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ رب العالمین کے رسول کی اجازت سے مسلمانوں کے امام تھے۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ ان کے ساتھ شامل تھے تو شامع نے ان میں سے انہیں مستثنیٰ کر لیا تھا کیونکہ آپ نے انہیں نماز میں جو ارکان اسلام میں سب سے بڑا رکن ہے امامت کے لیے مقرر کر دیا تھا پھر جب حضور ﷺ وفات پا گئے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی رہائی کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لی تو آپ نے انہیں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور حضرت صدیق نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو روانہ کر دیا جیسا کہ اپنے موقع پر اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ ان شاء اللہ



رسول اللہ ﷺ کی وفات کے متعلق منذر آیات و احادیث کا بیان، نیز یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے

اس مرض کا آغاز کیسے ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ پھر فرماتا ہے: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ مَتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ پھر فرماتا ہے: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبَلُّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِنَّا نُرْجِعُونَ﴾ پھر فرماتا ہے: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحِرَ حَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ پھر فرماتا ہے: ﴿وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَصُرُ اللَّهُ شَيْئًا وَ سَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾

اس آیت کو حضرت صدیق نبی ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے روز پڑھا تھا، پس جب لوگوں نے اسے سنا تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا انہوں نے اسے پہلے نہیں سنا تھا، پھر فرماتا ہے:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کی طرف اشارہ ہے جس کی آپ کو اطلاع دی گئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع میں ایام التشریق کے درمیانے دن نازل ہوئی تھی پس رسول اللہ ﷺ کو پتہ چل گیا کہ یہ حج واداع ہے، پس آپ نے لوگوں کو وہ مشہور خطبہ دیا اور اس میں امر و نہی کا ذکر کیا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو رمی جمار کرتے دیکھا، آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا: اپنے مناسک مجھ سے سیکھ لو۔ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال مجھے قرآن کا ایک دور کرایا کرتے تھے اور اس سال انہوں نے مجھے دو دور کرائے ہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری موت قریب آگئی ہے۔ اور صحیح بخاری میں ابوبکر بن عیاش کی حدیث سے عن ابن حصین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر ماہ رمضان میں دس دن اعتکاف بیٹھتے تھے مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ بیس روز اعتکاف بیٹھے اور ہر رمضان میں آپ کو قرآن کا دو دور کرایا جاتا تھا اور جس سال آپ کی وفات ہوئی

آپ کو قرآن کا دو بار دور کرایا گیا۔

محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ ذوالحجہ میں حجۃ الوداع سے واپس آئے اور بقیعہ مہینہ اور محرم اور صفر مدینہ میں رہے اور حضرت امامہ بن زید کو بھیجا اور ابھی لوگ اسی کیفیت میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی اس بیماری کا آغاز ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم کے ارادے سے صفر کی بقیعہ راتوں یا ماہ ربیع الاول کے آغاز میں آپ کو وفات دے دی۔

مرض کا آغاز:

مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی بیماری کا آغاز اس طرح ہوا کہ نصف شب کو آپ بقیعہ الغرقہ کی طرف چلے گئے اور ان کے لیے بخشش طلب کی، پھر اپنے اہل کے پاس واپس آ گئے، جب صبح ہوئی تو اس روز آپ کو درد کی ابتداء ہوئی۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عبد اللہ بن جعفر نے عن عبید بن جبر مولیٰ الحکم عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص عن ابی موسیٰ بن مویبہ مولیٰ رسول اللہ ﷺ مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے نصف شب کو مجھے اٹھایا اور فرمایا اے ابو موسیٰ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس بقیعہ کے مدفونین کے لیے بخشش طلب کروں، تم میرے ساتھ چلو، پس میں آپ کے ساتھ چل پڑا، جب آپ ان کے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے اہل نجران تم پر سلامتی ہو، تم جس حالت میں ہو اور لوگ جس حالت میں ہوں گے۔ وہ اس میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ فتنے شب تاریک کے ٹکڑوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں اور دوسرا فتنہ پہلے سے بدتر ہے۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے موسیٰ! مجھے دنیا کے خزانوں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے اور پھر جنت کی چابیاں دی گئی ہیں، اور مجھے اس کے درمیان اور اپنے رب کی ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے، راوی بیان کرتا ہے، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، دنیا کے خزانوں اور اس میں ہمیشہ رہنے اور جنت کی چابیاں کو لے لیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ، تم بخدا میں نہیں لوں گا، میں نے اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا ہے، پھر آپ نے اہل بقیعہ کے لیے بخشش طلب کی، پھر واپس لوٹ آئے، پھر آپ کو اس درد کا آغاز ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ اصحاب کتب میں سے کسی نے اسے روایت نہیں کیا، اسے صرف احمد نے عن یعقوب بن ابراہیم عن ابیہ عن محمد بن اسحاق روایت کیا ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابوالنضر نے ہم سے بیان کیا کہ الحکم بن فضیل نے ہم سے بیان کیا کہ یعلیٰ بن عطاء نے عبید بن جبر سے بحوالہ ابو موسیٰ بن مویبہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو اہل بقیعہ کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے تین بار ان کے لیے دعا کی، تیسری بار آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ میرے لیے میری سواری پر زین ڈالو، راوی بیان کرتا ہے، آپ سوار ہو گئے، اور میں پیدل چل پڑا، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس پہنچ گئے اور اپنی سواری سے اتر پڑے۔ اور سواری کا جانور ٹھہر گیا، پس آپ کھڑے ہو گئے۔ یا اس نے کہا کہ آپ نے ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا جس حالت میں تم ہو اور لوگ جس حالت میں ہوں گے، وہ اس میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں اور دوسرا فتنہ پہلے سے بدتر ہے، پھر آپ واپس لوٹے اور فرمایا اے ابو موسیٰ، میرے بعد میری امت کے لیے جو کچھ مفتوح ہوگا اس کے درمیان

اور ذلت یا میرے رب کی ملاقات کے درمیان مجھے اختیار دیا گیا کہ راوی بیان کرتا ہے میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہمارے لیے پسند کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مشیت الہی سے اپنی ایڑیوں کے بل پھرے تو بھی میں نے اپنے رب کی ملاقات و پسند کیا ہے اس کے بعد آپ سات یا آٹھ دن زندہ رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔

عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ عمر نے ابن طاؤس سے اس کے باپ کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں رعب سے مدد دیا گیا ہوں اور مجھے خزانے دیئے گئے ہیں اور مجھے اپنی امت کی فتوحات کے دیکھنے کے لیے باقی رہنے اور جلدی کرنے کے درمیان اختیار دیا گیا ہے پس میں نے جلدی کرنے کو پسند کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن مسعود عن عائشہ مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ بقیع سے واپس آئے تو آپ نے مجھے سردرد میں مبتلا پایا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر تو آپ نے فرمایا قسم بخدا اے عائشہ! مجھے بھی سردرد کی شکایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں پھر آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو جائے تو تجھے کوئی ضرر نہ ہوگا، میں تیری نگہبانی کروں گا، تجھے کفن دوں گا، اور تیری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تجھے دفن کروں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا۔ خدا کی قسم میرا آپ کے متعلق خیال ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو تحقیق آپ میرے گھر واپس آ جائیں گے اور اس میں اپنی بعض بیویوں سے صحبت کریں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسکرا پڑے اور آپ کا درد ماند پڑ گیا حالانکہ آپ اپنی بیویوں کے پاس چکر لگا رہے تھے یہاں تک کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر آپ کا درد بڑھ گیا، تو آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ میرے گھر ان کا علاج ہو، تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دو آدمیوں، جن میں سے ایک فضل بن عباس رضی اللہ عنہما تھے اور دوسرا کوئی اور آدمی تھا، کے درمیان اپنے سر پر پٹی باندھے اور اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے اور میرے گھر میں داخل ہو گئے، عبید اللہ بیان کرتے ہیں میں نے یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بتائی تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ دوسرا آدمی کون تھا، وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے اس حدیث کے شواہد موجود ہیں جو منقریب بیان ہوں گے۔

اور تباہی بیان کرتے ہیں کہ حاکم نے ہمیں بتایا کہ اصم نے ہمیں بتایا کہ احمد بن عبد الجبار نے محمد بن اسحاق سے ہمیں بتایا کہ یعقوب بن عتبہ نے عن زہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے بیان کیا آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے تو آپ کا سردرد کر رہا تھا اور مجھے بھی سردرد کی شکایت تھی میں نے کہا ہائے میرا سر آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا بلکہ مجھے بھی سردرد کی شکایت ہے۔ پھر فرمایا اگر تو مجھ سے پہلے مر جائے تو تجھے کچھ ضرر نہ ہوگا، میں تیرے معاملے کو سنبھال لوں گا، تیری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تجھے دفن کروں گا، میں نے کہا خدا کی قسم میرا خیال ہے اگر ایسا ہو تو آپ میرے گھر میں دن کے پچھلے پہر اپنی بعض عورتوں سے خلوت کریں گے، تو رسول اللہ ﷺ مسکرا پڑے پھر آپ کا درد بڑھ گیا اور آپ اپنی بیویوں کے ہاں چکر لگا رہے تھے کہ حضرت میمونہ کے گھر درد نے آپ پر غلبہ پالیا، تو آپ کے گھر والے آپ کے پاس جمع ہو گئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ کو وفات اچھ ہے۔ آؤ ہم آپ کو وہاں لے آئیں پس انہوں نے آپ کو وہاں لے آئے اور آپ کو فاقہ ہو گیا، آپ

نے فرمایا کس نے دوا دی ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خدشہ تھا کہ آپ کو ذات الحجب کی تکلیف ہے آپ نے فرمایا یہ تکلیف شیطان کی طرف سے تھی اور اللہ تعالیٰ اسے مجھ پر مسلط نہیں کرے گا۔ اور گھر کے تمام آدمیوں کو میرے چچا کے ماتم دوائی سے دوپس گھر کے تمام آدمیوں کو دوائی دی گئی حتیٰ کہ حضرت میمون رضی اللہ عنہ کو بھی دوائی دی گئی جو روزے دار تھیں اور یہ سب کچھ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ہوا پھر آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ میرے گھر میں آپ کا علاج ہو تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی پس آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان جس کا آپ نے نام نہیں لیا اپنے قدموں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے باہر نکل گئے۔ عبد اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ دوسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ سعید بن عفیر نے ہم سے بیان کیا کہ لیث نے ہم سے بیان کیا کہ عقیل نے ابن شہاب سے میرے پاس بیان کیا کہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کا درد بڑھ گیا تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ میرے گھر میں آپ کا علاج ہو تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی تو آپ دو آدمیوں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے باہر نکل گئے عبید اللہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ دوسرا آدمی کون تھا جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نام نہیں لیا میں نے کہا نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور رسول اللہ ﷺ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ میرے گھر آئے تو آپ کا درد شدت اختیار کر گیا۔ آپ نے فرمایا مجھ پر ایسے سات مشکیزے ڈالو جن کے ڈاٹ کھلے ہوئے نہ ہوں تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ تب ہم نے آپ کو آپ کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے لگن میں بٹھا دیا پھر ہم آپ پر ان مشکیزوں سے پانی ڈالنے لگے یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے کہ تم نے کام کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں پھر آپ لوگوں کے پاس چلے گئے اور انہیں نماز پڑھائی اور خطبہ دیا۔

اور اسی طرح بخاری نے اپنی صحیح کے دوسرے مقامات پر اس حدیث کو روایت کیا ہے اور مسلم نے زہری کے طرق سے اسے روایت کیا ہے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل نے ہم سے بیان کیا کہ سلیمان بن ہلال نے ہم سے بیان کیا کہ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتایا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے مرض الموت میں پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں ہوں گا میں کل کہاں ہوں گا آپ کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن سے تھی پس آپ کی ازواج نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں پس آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آ گئے حتیٰ کہ انہی کے ہاں آپ کی وفات ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ کی وفات اس روز ہوئی جس روز میرے گھر آپ کی باری ہوتی تھی اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی کہ آپ کا سر میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھا اور آپ کا لعاب دہن میرے لعاب دہن سے مخلوط ہو چکا تھا۔ آپ فرماتی ہیں حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہما آئے تو ان کے پاس مسواک تھی جس سے وہ دانتوں کو مسواک کر رہے تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف دیکھا تو میں نے انہیں کہا اے عبدالرحمن مجھے یہ مسواک دے دیجیے تو انہوں نے مجھے وہ

مساؤک سے دی تو میں نے اسے دانتوں سے کاٹا اور چھایا اور رسول اللہ ﷺ کو دے دی تو آپ نے میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے اس سے مساؤک کی بخاری اس طریق سے اس کے روایت کرنے میں منفر د ہیں۔

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن یوسف نے ہمیں بتایا کہ لیث نے ہم سے بیان کیا کہ ابن المبارک نے عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان ہوئی اور میں حضرت نبی کریم ﷺ کے بعد کسی کے لیے موت کی شدت کو ناپسند نہیں کرتی۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حیان نے ہم سے بیان کیا کہ عبد اللہ نے ہمیں خبر دی کہ یونس نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ عروہ نے مجھے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک مارتے اور اپنے ہاتھ سے اسے پونچھتے پس جب آپ اس درد سے بیمار ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں وہ معوذات پڑھ کر آپ پر پھونک مارتی جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت نبی کریم ﷺ کے ہاتھ سے اسے پونچھتی۔ اور مسلم نے اسے ابن وہب کی حدیث سے یونس بن یزید ایلی سے بحوالہ زہری روایت کیا ہے اور الفلاس اور مسلم نے محمد بن حاتم سے روایت کی ہے۔ اور صحیحین میں ابی عوانہ کی حدیث سے عن فراس عن حمی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بیویاں آپ کے پاس اکٹھی ہو گئیں اور ان میں سے کوئی بیوی پیچھے نہ رہی۔ پس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں جو اپنے باپ کی چال چل رہی تھیں آپ نے فرمایا میری بیٹی خوش آمدید۔ پھر آپ نے انہیں اپنے بائیں طرف بٹھالیا پھر آپ نے ان سے کسی بات کی سرگوشی کی تو آپ رو پڑیں پھر آپ نے ان سے سرگوشی کی تو مسکرا پڑیں۔ میں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے آپ کو راز کے لیے مخصوص کیا ہے اور آپ روتی ہیں پس جب آپ کھڑی ہوئیں تو میں نے کہا مجھے بتائیے رسول اللہ ﷺ نے آپ سے کیا سرگوشی کی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ کے راز کو فاش کرنے کی نہیں پس جب آپ وفات پا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا میرا جو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دے کر آپ سے پونچھتی ہوں کہ آپ مجھے کب بتائیں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اب بتائے دیتی ہوں آپ نے فرمایا پہلی بار آپ نے جو مجھ سے سرگوشی کی اس میں بتایا کہ حضرت جبریل ہر سال مجھے قرآن کا ایک دور کرایا کرتے تھے اور اس سال انہوں نے مجھے دو بار دور کرایا ہے اور میرے خیال میں یہ اس وجہ سے ہے کہ میری موت قریب ہے پس اللہ سے ڈرا اور صبر کر میں تمہارا بہترین سلف ہوں پس میں رو پڑی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کی اور فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ تو عالمین کی عورتوں یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو تو میں مسکرا پڑی۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کئی طرق سے مروی ہے۔

امام بخاری نے عن علی بن عبد اللہ عن یحییٰ بن سعید القطان عن سفیان ثوری عن موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ عنہا عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو ان کے مرض میں دوا دی تو آپ ہمیں اشارہ کرنے لگے کہ مجھے دوانہ دوا ہم نے کہا جس طرح مریض دوا کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں پس جب آپ کو آفاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوانہ دوا ہم نے کہا آپ نے یہ بات ایسے ہی کہی تھی جیسے مریض دوا کو ناپسند کرتا

ہے۔ آپ نے فرمایا گھر کے تمام آدمیوں کو سوائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دوا دی جائے۔ کیونکہ وہ تمہارا رہے ساتھ نہیں تھے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی الزناد نے اسے من ہشام بن ابیہ عن عائشہ عن النبی ﷺ رواہ تینا ہے اور بخاری بیان کرتے ہیں کہ یونس نے زہری سے بیان کیا کہ عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ مرض الموت میں فرمایا کرتے تھے:

”اے عائشہ! میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا ہوں جسے میں نے خیبر میں کھایا تھا اور اس وقت مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس زہر سے میرا اندرون نہ کٹ گیا ہے۔“

بخاری نے اسے معلق بیان کیا ہے۔ اور حافظ سیوطی نے اسے عن الحاکم عن ابی بکر بن محمد بن احمد بن یحییٰ الاشرع عن یوسف بن موسیٰ عن احمد بن صالح عن عنبسہ عن یونس بن یزید ابی علی عن زہری مددی ہے۔ اور بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حاکم نے ہمیں بتایا کہ اصم نے ہمیں خبر دی کہ احمد بن عبد الجبار نے ہمیں عن ابی معاویہ عن اعمش عن عبد اللہ بن مرہ عن ابی الاحوص عن عبد اللہ بن مسعود خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں نو قسمیں کھاؤں کہ رسول اللہ ﷺ شہید ہوئے ہیں تو مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں ایک قسم کھاؤں کہ آپ شہید نہیں ہوئے اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور شہید بنایا ہے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ اسحاق بن بشر نے ہم سے بیان کیا کہ شعیب بن جوالہ ابو حمزہ ہم سے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ نے زہری سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن کعب بن مالک انصاری نے مجھے بتایا اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان تین آدمیوں میں سے ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس درد میں جس میں آپ کی وفات ہوئی رسول اللہ ﷺ کے پاس سے باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا اے ابوالحسن رسول اللہ ﷺ نے کیسے صبح کی۔ آپ نے کہا آپ نے اچھی حالت میں صبح کی تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ خدا کی قسم تو تین دن کے بعد لاٹھی کا غلام ہوگا، اور قسم بخدا میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اس درد سے عنقریب فوت ہو جائیں گے اور میں موت کے وقت بنی عبد المطلب کے چہروں کو پہچان لیتا ہوں، ہماری طرف سے رسول اللہ ﷺ کے پاس جائیے اور آپ سے دریافت کیجیے کہ یہ امر کن لوگوں میں ہوگا؟ اگر وہ ہم میں ہوا تو ہمیں وہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے غیروں میں ہوا تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ پس ہمیں وصیت کیجیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا اور آپ نے ہمیں اس سے روک دیا تو لوگ اسے آپ کے بعد ہمیں نہیں دیں گے۔ اور خدا کی قسم میں رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق دریافت نہیں کروں گا بخاری اس کی روایت میں منفر د ہیں۔

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ قتیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے ہم سے سلیمان احول سے بحوالہ سعید بن جبیر بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جمعرات کو کہا کہ جمعرات کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس آؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ پس انہوں نے باہم کشاکش کی۔ اور نبی کے پاس کشاکش نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے آپ سے بات سمجھنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی حالت یوں معلوم ہو رہی ہے

کہ آپ چھوڑے^۱ جارہے ہیں پس وہ آپ کے پاس سے واپس چلے گئے تو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو۔ پس آپ نے تین باتوں کی وصیت کی۔ فرمایا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور جس طرح میں وفد کی دیکھ بھال کرتا ہوں اسی طرح تم بھی وفد کی دیکھ بھال کرو۔ اور تیسری بات کے بارے میں آپ نے سکوت اختیار کر لیا یا راوی کہتا ہے کہ میں اسے بھول گیا ہوں۔

اور بخاری نے اسے ایک اور مقام پر روایت کیا ہے۔ اور مسلم نے اسے سفیان بن عیینہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ معمر نے ہمیں زہری سے عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما خبر دی کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں کچھ لوگ تھے آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے ان میں سے بعض نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے پس گھروالوں میں اختلاف ہو گیا اور وہ جھگڑ پڑے پس ان میں سے بعض کہتے کہ قریب کرو وہ تمہیں تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔ اور ان میں بعض کچھ اور بات کہتے ہیں جب انہوں نے اختلاف اور بے سوچے سمجھے بولنا زیادہ کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ عبید اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے درمیان اور ان کے لیے یہ تحریر لکھنے کے درمیان ان کا اختلاف اور شور حائل ہو گیا ہے۔ اور مسلم نے اسے محمد بن رافع اور عبد بن حمید سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے عبد الرزاق سے اسی طرح روایت کی ہے۔ اور بخاری نے اسے اپنی صحیح میں کئی مقامات پر معمر اور یونس کی حدیث سے بحوالہ زہری بیان کیا ہے۔

اس حدیث سے شیعہ اور دیگر اہل بدعت کے بعض کم فہم لوگوں کو وہم ہو گیا ہے اور وہ سب کے مدعی ہیں کہ آپ اس تحریر میں وہ بات لکھنا چاہتے تھے جسے وہ اپنی گفتگو میں آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسی کو محکم کا ترک کرنا اور متشابہ سے تمسک کرنا کہتے ہیں اور اہل سنت محکم سے تمسک کرتے ہیں اور متشابہ کو رد کرتے ہیں اور یہی راہنہ فی العلم کا طریقہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی صفت بیان کی ہے۔ اور اس مقام پر بہت سے گمراہوں کے قدم لغزش کھا گئے ہیں اور اہل سنت کا مذہب صرف حق کی اتباع کرنا ہے اور وہ اسی کے ساتھ گردش کرتے ہیں اور جس بات کو رسول اللہ ﷺ لکھنا چاہتے تھے اس کی تصریح احادیث صحیحہ میں بیان ہوئی ہے جس سے آپ کی مراد واضح ہو جاتی ہے۔

① ماسنہ بھجو کے ترجمہ میں اہل تشیع نے جو گل کھلائے ہیں وہ سراسر زیادتی ہے اور ان کا ترجمہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان کو داغدار کرنے والا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا ہے اور جو حضرت نبی کریم ﷺ کے اس قدر جان نثار اور فدائی تھے کہ آپ کے تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے ان کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے آخری لمحات میں یہ کہا کہ آپ نعوذ باللہ بکواس کر رہے ہیں قدر ظلم کی بات ہے نعوذ باللہ منها ماہ الف مرة ہم نے ایسا ترجمہ کیا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان کے اہق ہے۔

امام احمد نے بیان کیا ہے کہ مؤمل نے ہم سے بیان کیا کہ نافع نے ہم سے بجا ابی بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ملیکہ نے بجا ابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا آپ فرماتی ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ کو وہ تکلیف ہوئی جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اور نہ کوئی تمنا کرنے والا اس کی تمنا کرے۔ پھر دوبار فرمایا: اللہ تعالیٰ اور مومنین بھی اس سے انکار کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پس اللہ تعالیٰ اور مومنین نے اس سے انکار کیا۔ احمد اس طریق سے اس کی روایت میں منفرد ہیں۔ اور احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو معاویہ نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالرحمن بن ابی بکر قرشی نے ابن ابی ملیکہ سے بجا ابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، آپ فرماتی ہیں جب رسول اللہ ﷺ کی طبیعت گراں ہو گئی تو آپ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر سے فرمایا کہ میرے پاس شانہ یا تختی لاؤ تاکہ میں حضرت ابو بکر کے لیے تحریر لکھ دوں جس پر کوئی شخص اختلاف نہ کرے، پس جب عبدالرحمن یہ کام کرنے گئے تو آپ نے فرمایا: اے ابو بکر! اللہ تعالیٰ اور مومنین نے تیرے بارے میں اختلاف کرنے سے انکار کیا ہے۔ احمد اس طرح اس روایت کے بیان میں بھی منفرد ہیں۔ اور بخاری نے یحییٰ بن یحییٰ سے عن سلیمان بن بلال عن یحییٰ بن سعید عن القاسم بن محمد بن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا ہے، پس میں دیکھتا ہوں کہ باتیں کرنے والے باتیں کریں یا تمنا کرنے والے تمنا کریں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ انکار کرے گا۔ یا مومنین رد کریں گے یا اللہ تعالیٰ رد کرے گا اور مومنین انکار کریں گے اور صحیح بخاری اور مسلم میں ابراہیم بن سعد کی حدیث سے جو اس کے باپ سے عن جبیر بن مطعم عن ابی مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے، اس نے عرض کیا اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں۔ گویا وہ آپ کی موت کی بات کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تو مجھے موجود نہ پائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آجانا یہ بات ظاہر ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ اس نے حضور ﷺ کو یہ بات اس مرض میں کہی جس میں آپ کی وفات ہوئی۔

اور حضور ﷺ نے جمعرات کے روز اپنی وفات سے پانچ روز قبل ایک عظیم خطبہ دیا جس میں دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو واضح کیا، حالانکہ آپ ان کے متعلق وضاحت سے فرما چکے تھے کہ وہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم کی امامت کریں، جیسا کہ عنقریب واضح ہوگا کہ آپ نے ان سب کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی اور شاید آپ کا یہ خطبہ اس تحریر کے بدلہ میں تھا جو آپ لکھنا چاہتے تھے۔ اور آپ نے اس شاندار خطبہ سے قبل غسل فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ پر ایسے سات مشکیزوں کا پانی ڈالا جن کے ڈاٹ کھولے نہیں گئے تھے۔ اور یہ بات سات سے شفا طلب کرنے کے بارے میں ہے جیسا کہ اس مقام کے علاوہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ حضور ﷺ نے غسل فرمایا پھر باہر نکلے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر ان سے خطاب کیا جیسا کہ قبل ازیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔

اس بارے میں بیان ہونے والی احادیث:

امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حاکم نے ہمیں خبر دی کہ اصم نے ہمیں احمد بن عبد الجبار سے عن یونس بن یحییٰ عن محمد بن اسحاق

کے دروازے کے سوا مسجد کے سب دروازوں کو بند کر دیا جائے اور اسی طرح امام بخاری نے اس حدیث کو ابی عامر العتدی کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ پھر امام احمد نے اسے عن یونس عن فلیح عن سالم بن النضر عن عبید بن حنین و بشر بن سعید عن ابی سعید روایت کیا ہے اور اسی طرح بخاری اور مسلم نے اسے فلیح اور مالک بن انس کی حدیث سے عن سالم بن بشر بن سعید و عبید بن حنین روایت کیا ہے اور ان دونوں نے اسی طرح ابی سعید سے روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابوالولید نے ہم سے بیان کیا کہ ہشام نے ہم سے بیان کیا کہ ابوعوانہ نے ہم سے عن عبد الملک عن ابن ابی المعلی عن ابیہ بیان کیا کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ ایک بندے کو اس کے رب نے اس بات کے درمیان کے وہ جب تک چاہے دنیا میں زندہ رہے اور جو وہ دنیا سے کھانا چاہتا ہے کھائے اور اپنے رب کی ملاقات کے درمیان اختیار دیا تو اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روپڑے اور رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کہنے لگے کیا تم اس بوڑھے سے تعجب نہیں کرتے رسول اللہ ﷺ نے ایک نیک بندے کا ذکر کیا ہے جسے اس کے رب نے دنیا میں باقی رہنے کے درمیان اور اپنے رب کی ملاقات کے درمیان اختیار دیا تھا تو اس نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے قول کو ان سے بہتر جانتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بلکہ ہم اپنے اموال اور بیٹوں کو آپ پر قربان کر دیں گے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے ابن ابی قحافہ سے بڑھ کر اپنی صحبت اور مال سے مجھ سے بھلائی کی ہو اور اگر میں کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو میں ابن ابی قحافہ کو دوست بناتا لیکن محبت اجماع اور ایمان کی دوستی رہے گی۔ یہ بات آپ نے دو بار فرمائی اور تمہارا صاحب اللہ عزوجل کا دوست ہے احمد اس روایت کے بیان میں متفرد ہیں اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ صحیح نام ابو سعید بن المعلی ہے۔ واللہ اعلم

اور حافظ بیہقی نے اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ کے طریق سے روایت کیا ہے کہ زکریا بن عدی نے ہم سے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عمرو الرقی نے ہم سے عن زید بن ابی انیسہ عن عمرو بن مرہ عن عبد اللہ بن حارث بیان کیا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو وفات پانے سے پانچ روز قبل فرماتے سنا کہ تم میں سے میرے بھائی اور دوست بھی ہیں اور میں ہر دوست کی دوستی سے برأت کا اظہار کرتا ہوں اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا اور بلاشبہ میرے رب نے مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دوست بنایا ہے اور تم سے پہلے کچھ لوگ تھے جو اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے پس تم قبور کو سجدہ گاہ نہ بناؤ اور میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ اور مسلم نے اسے اپنی صحیح میں اسی طرح اسحاق بن راہویہ سے روایت کیا ہے اور یہ دن آپ کی وفات سے پانچ روز قبل جمعرات کا دن تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قبل ازیں اس کا ذکر کیا ہے اور ہم نے اس خطبہ کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے طریق سے روایت کیا ہے۔ حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابوالحسن علی بن محمد المقرئی نے ہمیں بتایا کہ حسن بن محمد بن اسحاق نے ہمیں خبر دی کہ یوسف بن یعقوب ابن عوانہ السفر آئینی نے ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر نے ہم سے بیان کیا کہ وہب بن جریر نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے بیان کیا کہ میں نے یعلیٰ بن حکیم کو عمرہ سے بحوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے سنا کہ جس مرض میں رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اس

میں آپ سر پر کپڑے کی دھجی باندھے نکلے اور منبر پر چڑھ کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں سے کسی نے حضرت ابوبکرؓ سے بڑھ کر مجھ سے اپنی جان اور مال سے بھلائی نہیں کی اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو میں حضرت ابوبکرؓ کو دوست بناتا لیکن اسلام دوستی سب سے بہتر ہے مسجد میں حضرت ابوبکرؓ کی کھڑکی کے سوا سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں بخاری نے اسے عن عبد اللہ بن محمد الجعفی عن وہب بن جریر بن حازم عن ابیہ روایت کیا اور حضور ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ مسجد کی طرف کھلنے والی کھڑکیوں میں سے حضرت ابوبکرؓ کی کھڑکی کے سوا سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں اس میں آپ کی خلافت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے تاکہ آپ وہاں سے مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے جایا کریں اور اسی طرح بخاری نے اسے عن عبد الرحمن بن سلیمان بن حنظلہ بن الغلیل عن عکرمہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ جس مرض میں رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی آپ اس میں اپنے سر پر ایک میلی پٹی باندھے ہوئے اور اپنے کندھوں پر ایک چادر لپیٹے ہوئے نکلے اور منبر پر بیٹھ گئے اور پھر اس خطبہ کا ذکر کیا ہے اور اس میں ان وصایا کو بیان کیا ہے جو آپ نے انصار کو کہیں یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی آخری نشست تھی حتیٰ کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ یعنی یہ رسول اللہ ﷺ کا آخری خطبہ تھا جو آپ نے دیا۔ اور بخاری نے ایک اور طریق سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے غریب اسناد اور غریب الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ علی بن احمد بن عبدان نے ہمیں بتایا کہ احمد بن عبید الصفار نے ہمیں خبر دی کہ ابن ابی قحاش، محمد بن عیسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ بن اسماعیل ابو عمران الجہلی نے ہم سے بیان کیا کہ معن بن عیسیٰ القزاز نے عن الحارث بن عبد الملک بن عبد اللہ بن اناس اللیشی عن القاسم بن یزید بن عبد اللہ بن قسیط عن ابیہ عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے تو آپ کو شدید بخار تھا اور آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا فضل میرا ہاتھ پکڑیے میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا یہاں تک کہ آپ منبر پر بیٹھ گئے پھر فرمایا فضل! لوگوں میں منادی کر دو تو میں نے اکٹھے ہونے کا اعلان کر دیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا ابا بعداے لوگو! میرے تم سے پیچھے رہنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم مجھے اس جگہ پر ہرگز نہیں دیکھو گے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے سوا مجھے کوئی کفایت کرنے والا نہیں یہاں تک کہ تم میں اس کی تعیین و تعدیل کر دوں آگاہ رہو میں نے جس شخص کی پشت پر کوڑا مارا ہے وہ میری اس پشت سے قصاص لے لے اور میں نے جس کا مال لیا ہے وہ اس مال سے اسے لے سکتا ہے اور میں نے جس کی بے عزتی کی ہے وہ مجھ سے اس کا قصاص لے لے اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی دشمنی سے ڈرتا ہوں آگاہ رہو دشمنی کرنا میری عادت نہیں اور تم میں سے وہ شخص مجھے زیادہ محبوب ہے کہ اگر اس کا میرے ذمے کوئی حق ہے تو وہ مجھ سے لے لیتا ہے یا میرے لیے جائز قرار دے دیتا ہے۔ پس میں اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے ذمے کسی کی کوئی بے انصافی نہ ہو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر کہا۔ یا رسول اللہ ﷺ میرے تین دراہم آپ کے ذمہ ہیں آپ نے فرمایا میں نہ قائل کی تکذیب کرتا ہوں اور نہ جو میرے ذمے تیرے دراہم ہیں اس پر قسم کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے پاس سے ایک سائل گزرا تو آپ نے مجھے حکم دیا اور میں نے اسے تین دراہم دیئے آپ نے

فرمایا اے فضل! سے تین درابہم دے دو راوی بیان کرتا ہے پھر وہ آپ کے حکم سے بیٹھ گیا پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنی پہلی بات کو دہرایا اور فرمایا اے لوگو! جس کے پاس کوئی خیانت کی چیز ہو وہ اسے واپس کر دے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس تین درابہم ہیں جنہیں میں نے فی سبیل اللہ خیانت سے حاصل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے انہیں خیانت سے کیوں حاصل کیا، اس نے کہا مجھے ان کی ضرورت تھی آپ نے فرمایا فضل اس سے تین درابہم لے لو پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنی پہلی بات دہرائی اور فرمایا جو شخص اپنے دل میں کوئی خلیجان محسوس کرتا ہے وہ کھڑا ہو جائے میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا تو ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ ﷺ! میں منافق جھوٹا اور منحوس ہوں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص تیرا براہو اللہ نے تیری پردہ پوشی کی ہے، کاش تو اپنی پردہ پوشی کرتا رسول کریم ﷺ نے فرمایا اے ابن الخطاب ٹھہریئے دنیا کی رسوائی آخرت کے مقابلہ میں بہت ہیج ہے اے اللہ! اسے صدق و ایمان عطا فرما اور جب وہ چاہے اس سے نحوست کو دور فرما دے پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں عمرؓ کے ساتھ ہوں اور عمرؓ میرے ساتھ ہے اور میرے بعد حق عمرؓ کے ساتھ ہے اور اس حدیث کے متن اور اسناد میں شدید غرابت پائی جاتی ہے۔

آپ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دینا کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائیں:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یعقوب نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے ابن اسحاق سے ہم سے بیان کیا کہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام نے اپنے باپ سے عن عبداللہ بن ہشام عن ابیہ عن عبداللہ بن زمعہ بن الاسود بن المطلب بن اسد مجھ سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ پر تکلیف کا غلبہ ہو گیا تو میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کے پاس موجود تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان دی اور فرمایا مشورہ دیکھیے لوگوں کو کون نماز پڑھائے راوی بیان کرتا ہے میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں موجود ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہیں میں نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ اٹھیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ راوی بیان کرتا ہے آپ کھڑے ہو گئے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی تو رسول اللہ ﷺ نے آپ کی آواز سن لی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز آدی تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ اللہ اور مسلمان اس بات سے انکار کریں گے، اللہ اور مسلمان اس بات سے انکار کریں گے، راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس نماز کے پڑھ لینے کے بعد آئے پس انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور عبداللہ بن زمعہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا اے ابن زمعہ تیرا براہو تو نے یہ کیا کیا، خدا کی قسم جب تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں نماز نہ پڑھاتا راوی کہتا ہے میں نے کہا خدا کی قسم مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم نہیں دیا، لیکن جب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہ دیکھا تو میں نے حاضرین میں سے آپ کو مار پڑھا ہے، ہر ایک نے اس کو مارا، اس طرح ابو داؤد نے اسے ابن اسحاق کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ زہری نے مجھ سے بیان کیا اور پھر اس حدیث کو بیان کیا ہے اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ احمد بن صالح نے ہم سے بیان کیا کہ ابن ابی ندیک نے ہم سے بیان کیا کہ سہلی بن یعقوب نے عن عبدالرحمن بن اسحاق عن ابن شہاب

عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ مجھ سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن زمعہ نے اسے یہ حدیث بتائی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر کی آواز سنی تو ابن زمعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ باہر نکلے یہاں تک کہ آپ نے اپنے بچرے سے اپنے سر نکالا اور پھر فرمایا نہیں، نہیں! ابن ابی قحافہ کے سوا کوئی شخص لوگوں کو نماز نہ پڑھائے آپ نے یہ بات ناراضگی کی حالت میں فرمائی۔

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عمر بن حفص نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے میرے باپ نے بیان کیا کہ اعمش نے بحوالہ ابراہیم ہم سے بیان کیا اسود بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے کہ ہم نے مواظبت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو آپ نے فرمایا: ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، آپ سے گزارش کی گئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غمگین آدمی ہیں جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو نماز پڑھانے کی سنت نہیں پائیں گے، تو آپ نے دوبارہ وہی بات کی تو انہوں نے بھی آپ کو دوبارہ وہی بات کہی تو آپ نے سہ بارہ وہی بات کہی اور فرمایا بلاشبہ تم یوسف کی ساتھی عورتیں ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے دل میں کچھ سکون پایا اور آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارے کر نکلے، گویا میں آپ کے پاؤں کو دیکھ رہی ہوں، جو تکلیف سے گھسٹتے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہونا چاہا تو حضور ﷺ نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں۔ پھر آپ آ کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے، اعمش سے پوچھا گیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ نماز پڑھتے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا ہاں! پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابوداؤد نے شعبہ سے اس کا ایک حصہ روایت کیا ہے اور ابو معاویہ نے بحوالہ اعمش اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب کے کئی مقامات پر اسے روایت کیا ہے۔ اور مسلم نسائی اور ابن ماجہ نے متعدد طرق سے اعمش سے اس کی روایت کی ہے ان میں سے وہ طریق بھی ہے جسے بخاری نے عن قتیبہ و مسلم عن ابی بکر بن ابی شیبہ و یحییٰ بن یحییٰ عن ابی معاویہ روایت کیا ہے، اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ مالک نے ہمیں عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیماری میں فرمایا: ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبد اللہ نے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے بتایا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے بار بار بات کی اور میں بار بار یہ بات اس لیے دہراتی تھی کہ مجھے خدشہ تھا کہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بدشگونئی لیں گے اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ جو شخص بھی آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اس سے بدشگونئی لیں گے۔ پس میں نے چاہا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کسی اور آدمی کی طرف رجوع کر لیں۔

اور صحیح مسلم میں عبد الرزاق کی حدیث سے معمر سے بحوالہ زہری مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حمزہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

نے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے بتایا آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ میرے گھر آئے تو فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما رقیق القلب آدمی ہیں جب وہ قرآن پڑھیں گے تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ کاش آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے سوا کسی اور آدمی کو حکم دیں آپ فرماتی ہیں خدا کی قسم میری یہ ناپسندیدگی اس لیے تھی کہ جو شخص سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اس سے بدشگونی لیں گے آپ فرماتی ہیں میں نے دو یا تین بار آپ سے یہ بات دہرائی تو آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہما لوگوں کو نماز پڑھائے بلاشبہ تم تو یوسف کی ساتھی عورتیں ہو۔ اور صحیحین میں عبد الملک بن عمیر کی حدیث سے عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن ابیہ مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہما کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما رقیق القلب آدمی ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز پڑھانے کی سکت نہیں پائیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہما کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دو بلاشبہ تم تو یوسف کی ساتھی عورتیں ہو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں نماز پڑھائی۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی نے ہم سے بیان کیا کہ زائدہ نے ہمیں موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ عنہما سے بحوالہ عبید اللہ بن عبد اللہ خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور کہا کیا آپ مجھے رسول اللہ ﷺ کی بیماری کے متعلق بتائیں گی؟ آپ نے جواب دیا بے شک رسول اللہ ﷺ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ ﷺ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا لگن میں پانی ڈال کر میرے پاس لاؤ ہم نے ایسے کیا تو آپ نے غسل فرمایا پھر اٹھنے لگے تو آپ بے ہوش ہو گئے جب آپ کو ہوش آیا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ ﷺ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا لگن میں میرے لیے پانی رکھو ہم نے پانی رکھا تو آپ نے غسل فرمایا پھر آپ اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ ﷺ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ فرماتی ہیں لوگ مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ ﷺ کا نماز عشاء کے لیے انتظار کر رہے تھے پس رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی طرف پیغام بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما رقیق القلب آدمی تھے انہوں نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ انہوں نے جواب دیا آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں تو ان ایام میں آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی پھر رسول اللہ ﷺ نے کچھ سکون محسوس کیا تو دو آدمیوں کے درمیان سہارے لے کر ظہر کی نماز کے لیے نکلے پس جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہونا چاہا تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہوں اور ان دو آدمیوں کو حکم دیا کہ آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں بٹھادیں پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کر اور رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور کہا کیا میں آپ کے سامنے وہ بات پیش نہ کروں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے رسول اللہ ﷺ کی بیماری کے متعلق بتائی ہے۔ انہوں نے فرمایا بیان کرو تو میں نے ان کو بات بتائی تو انہوں نے اس سے کسی چیز کا انکار نہ کیا ہاں یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے اس آدمی کا نام بتایا تھا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ

تھا میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں نے اسے احمد بن یونس سے بحوالہ زائدہ روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھنے لگے اور وہ کھڑے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی نماز پڑھنے لگے اور رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے۔

امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس نماز میں مشغول تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز کو آپ کی نماز کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا نیز بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح اسے اسود اور عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور اسی طرح اسے ارقم بن شرحبیل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اور اس سے مراد وہ حدیث ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے کہ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے ابو اسحاق سے عن ارقم بن شرحبیل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نبی کریم ﷺ بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا پھر آپ نے کچھ سکون محسوس کیا تو آپ باہر نکلے اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی آمد کو محسوس کیا تو آپ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو حضرت نبی کریم ﷺ نے آپ کو اشارہ کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور وہاں سے آیت کوڑھنا شروع کیا جہاں تک حضرت ابو بکر پہنچے تھے۔ پھر اسی طرح امام احمد نے اسے وکیع سے عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ارقم عن ابن عباس اس سے بھی طویل تر روایت کیا ہے۔ اور ایک دفعہ وکیع نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم ﷺ کی اقتداء کرتے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی اقتداء کرتے تھے۔

اور ابن ماجہ نے اسے عن علی بن محمد عن وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ارقم بن شرحبیل، عن ابن عباس اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ شابہ بن سوار نے ہم سے بیان کیا کہ شعبہ نے عن نعیم بن ابی ہند عن ابی وائل عن مسروق عن عائشہ ہم سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اس میں آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی اور ترمذی اور نسائی نے اسے شعبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ اور احمد بیان کرتے ہیں کہ بکر بن عیسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے شعبہ بن ججاج کو عن نعیم بن ابی ہند عن ابی وائل عن مسروق عن عائشہ روایت کرتے سنا کہ حضرت ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور رسول اللہ ﷺ صف میں تھے۔

اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو الحسن بن الفضل القطان نے ہمیں خبر دی کہ عبد اللہ بن جعفر نے ہمیں بتایا کہ یعقوب بن سفیان نے ہمیں خبر دی کہ مسلم بن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا کہ شعبہ نے ہم سے عن سلیمان الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی اور یہ اسناد جدید ہے اور انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی اور بیہقی بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح اسے حمید نے انس بن مالک اور یونس سے بحوالہ حسن مرسل روایت کیا ہے پھر انہوں نے اسے بشیم کے طریق سے مدد دی ہے کہ یونس نے ہمیں بحوالہ حسن خبر دی، بشیم بیان کرتے ہیں کہ حمید نے ہمیں بحوالہ انس بن مالک مالک خبر دی کہ حضرت نبی کریم ﷺ باہر نکلے تو حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، پس آپ ان کے پہلو میں بیٹھ گئے اور آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے دونوں پلوؤں کو مخالف سمتوں میں ڈالا ہوا تھا، پس آپ نے ان کی نماز کی اقتداء کی..

امام تہمتی بیان کرتے ہیں کہ ثئی بن احمد بن عبدان نے ہمیں خبر دی کہ احمد بن سعید الدعہار نے ہمیں بتایا کہ سعید بن شریک نے ہم سے بیان کیا کہ ابن ابی مریم نے ہمیں خبر دی کہ جعفر بن محمد نے ہمیں بتایا کہ مجھے سعید نے بتایا کہ اس نے حضرت انس کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کپڑے کو لپیٹ کر جو آخری نماز لوگوں کے ساتھ پڑھی وہ حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی میں کہتا ہوں یہ اسناد جید ہے جو صحیح کی شرط کے مطابق ہے اور انہوں نے اسے بیان نہیں کیا اور یہ تنبیہ اچھی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی آخری نماز تھی جو آپ نے لوگوں کے ساتھ پڑھی۔

اور امام بیہقی نے سلیمان بن بلال اور یحییٰ بن ایوب کے طریق سے حمید سے بحوالہ انس بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کپڑے میں اس کے دونوں پلوؤں کو مخالف سمتوں میں ڈال کر حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی اور جب آپ نے اٹھنا چاہا تو فرمایا کہ اسامہ بن زید کو میرے پاس بلاؤ، پس وہ آئے تو انہوں نے آپ کی پشت کو اپنے سینے کا سہارا دیا اور یہ آخری نماز تھی جو آپ نے پڑھی اس لیے کہ سوموار کے روز چاشت کے وقت آپ کا وفات پانا ثابت ہے۔ اور یہی بات بیہقی نے بیان کی ہے جسے مسلم نے موسیٰ بن عقبہ کے مغازی سے اخذ کیا ہے اس نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح ابوالاسود نے بحوالہ عروہ روایت کی ہے اور یہ ضعیف ہے بلکہ یہ آپ کی آخری نماز ہے جسے آپ نے لوگوں کے ساتھ پڑھا جیسا کہ دوسری روایت میں پہلے اس کی تنبیہ بیان ہو چکی ہے اور حدیث ایک ہی ہے۔ پس مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا پھر یہ جائز نہ ہوگا کہ یہ آپ کے یوم وفات سوموار کی صبح کی نماز ہو کیونکہ آپ نے اس نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا بلکہ اپنے گھر میں پڑھا ہے۔ کیونکہ آپ کو ضعف ہو گیا تھا۔ اور اس کی دلیل امام بخاری کا وہ قول ہے جسے انہوں نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ ابوالیمان نے ہم سے بیان کیا کہ شعیب نے ہمیں زہری سے خبر دی کہ مجھے حضرت انس بن مالک نے بتایا اور آپ حضرت نبی کریم کے تابعدار خادم اور مصاحب تھے کہ جس تکلیف میں رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اس میں حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور جب سوموار کا دن آیا اور وہ لوگ نماز میں صف بستہ تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور آپ کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھ رہے تھے گویا آپ کا چہرہ مصحف کا ورق ہے آپ مسکرا رہے تھے پس ہم نے حضرت نبی کریم ﷺ کی دید کی خوشی سے فتنہ میں پڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اور حضرت ابو بکر اپنی ایزویوں کے بل لوٹ گئے تاکہ صف کو نماز پڑھائیں اور خیال کیا کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے آنے والے ہیں پس آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو پورا کر اور پردہ ڈال دیا اور اسی روز وفات پا گئے۔

اور مسلم نے اسے سفیان بن عیینہ، صبیح بن کيسان اور معمر کی حدیث سے زہری سے بحوالہ انس روایت کیا ہے پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابو معمر نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالوارث نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالعزیز نے بحوالہ انس بن مالک ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تین دن باہر نہیں نکلے پس نماز کھڑی ہو گئی اور حضرت ابو بکر آگے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے نبی آپ پر پردہ لازم ہے تو آپ نے پردہ کو اٹھا دیا اور جب حضرت نبی کریم ﷺ کا چہرہ نمایاں ہوا تو ہم نے حضرت نبی کریم ﷺ کے چہرے کے منظر سے بہتر منظر نہیں دیکھا اور حضرت نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابو بکر کو آگے ہونے کا اشارہ کیا اور پردہ ڈال دیا پھر آپ نے پردہ اٹھانے کی ہمت نہیں پائی حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے۔ اور مسلم نے اسے عبدالصمد بن

عبدالوارث کی حدیث ہے اس کے باپ کے حوالے سے روایت کیا ہے اور یہ اس بات کی واضح تردید ہے کہ آپ نے سوموار کی صبح کی نماز لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھی اور آپ لوگوں سے قطع ہو چلے تھے اور تین روزان کے پاس نہیں گئے اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو آخری نماز لوگوں کے ساتھ پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی جیسا کہ حضرت عائشہ کی مقدمہ الذکر حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے اور یہ جمعرات کا دن ہوگا نہ کہ ہفتہ یا اتوار کا جیسا کہ بیہقی نے اسے موسیٰ بن عقبہ کے مغازی سے بیان کیا۔ جو ضعیف ہے۔ نیز ہم اس کے بعد آپ نے خطبہ کو پہلے بیان کر چکے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں سے جمعہ ہفتہ اور اتوار کا دن منقطع رہے اور یہ پورے تین دن ہیں اور زہری نے ابو بکر بن ابی بھرہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے انہیں سترہ نمازیں پڑھائیں اور دوسروں نے تیس نمازیں بیان کی ہیں۔ واللہ اعلم۔ پھر سوموار کی صبح کو آپ کا چہرہ ان کے لیے نمایاں ہوا اور آپ نے انہیں نگاہ سے الوداع کہا، قریب تھا کہ وہ اس سے فتنہ میں پڑ جاتے۔ پھر یہ ان کے عوام کی آپ سے آخری ملاقات تھی جو بزبان حال کہہ رہے تھے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے۔

میں تو ایک پل کی جدائی کو بھی موت کی طرح دیکھتا تھا، پس اس جدائی کی کیا کیفیت ہوگی جس کی وعدہ گاہ حشر ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ حافظ بیہقی نے اس حدیث کو ان دو طریقوں سے بیان کیا ہے پھر کہا ہے کہ اس کا ما حاصل یہ ہے کہ شاید حضور علیہ السلام پہلی رکعت میں ان سے حجاب میں ہو گئے ہوں، چہرہ دوسری رکعت میں باہر نکل کر حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہو، جیسا کہ عروہ اور موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ہے اور حضرت انس بن مالک نے یہ بات منقحی رہی ہو یا انہوں نے کچھ حدیث بیان کر دی ہو اور کچھ سے خاموشی اختیار کر لی ہو۔ اور اسے انہوں نے بہت بعید بیان کیا ہے۔ کیونکہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے موت تک پردہ اٹھانے کی سکت نہیں پائی اور ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آخری ملاقات تھی، اور صحابی کا قول تابعی کے قول سے مقدم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

حاصل کلام یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز میں صحابہ کی امامت کے لیے مقدم کیا جو اسلام کے عملی ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے، اور شیخ ابوالحسن اشعری بیان کرتے ہیں کہ آپ کا حضرت ابو بکر کو مقدم کرنا دین اسلام کا ایک معلوم بالضرورة امر ہے نیز بیان کرتے ہیں کہ آپ کا حضرت ابو بکر کو مقدم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تمام صحابہ سے زیادہ عالم تھے، کیونکہ صحیح حدیث سے جس کی صحت پر علماء کا اتفاق ہے، ثابت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والا لوگوں کی امامت کرائے، پس اگر وہ علم قرآن میں برابر ہوں تو سنت کو زیادہ جاننے والا امامت کرائے اور اگر وہ سنت کے علم میں برابر ہوں تو عمر کے لحاظ سے جو سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے اور اگر وہ عمر میں برابر ہوں تو ان میں جو اسلام میں مقدم ہو وہ امامت کرائے۔

میں کہتا ہوں یہ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جسے سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، پھر یہ تمام صفات حضرت صدیق رضی اللہ عنہ میں جمع تھیں۔ اور حضور ﷺ کا آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھنا، جیسا کہ قبل ازیں ہم صحیح روایات سے بیان کر چکے ہیں، اس کے منافی نہیں جو صحیح میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی اقتداء کی، کیونکہ یہ کام ایک دوسری نماز میں ہوا ہے

جدا کیا کہ امام شافعی وغیرہ ائمہ رحمہم اللہ عزوجل نے بیان کیا ہے۔

فائدہ:

امام مالک، امام شافعی اور علماء کی ایک جماعت نے، جن میں امام بخاری بھی شامل ہیں حضور ﷺ کے بیٹھ کر نماز پڑھنے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء کرنے سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور ﷺ نے جب اپنے بعض اصحاب کو بیٹھ کر نماز پڑھائی تو آپ کا وہ قول منسوخ ہو گیا جو متفق علیہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کے پہلو پر چوٹ لگی تو لوگوں نے کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور جب واپس لوٹے تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم رومیوں اور ایرانیوں کے سے کام کرو گے وہ اپنے بڑے آدمیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں۔ نیز فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ پس جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو اور جب رکوع کرے تو رکوع کرو اور جب کھڑا ہو تو کھڑے ہو اور جب سجدہ کرنے تو سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو سب بیٹھ کر نماز پڑھو وہ بیان کرتے ہیں پھر حضور ﷺ نے مرض الموت میں بیٹھ کر انہیں امامت کرائی اور وہ کھڑے تھے پس جو کچھ پہلے بیان ہوا ہے یہ اس کے نسخ بردال ہے۔ واللہ اعلم

اس استدلال کے جواب میں بہت سی وجوہ کی بناء پر لوگوں نے مختلف قسم کے راستے اختیار کیے ہیں جن کے ذکر کا مقام کتاب الاحکام الکبیر ہوگا۔ ان شاء اللہ

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ حضور ﷺ کے پہلے حکم کی وجہ سے بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صرف آپ کی جانب سے تبلیغ کے لیے مسلسل کھڑے رہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی امام تھے جیسا کہ قبل ازیں بعض رواۃ نے تصریح کی ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم ﷺ کے شدید ادب کی وجہ سے آپ سے سبقت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی اقتداء کرتے تھے گویا حضور ﷺ امام الامام تھے پس اس لیے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کی وجہ سے نہیں بیٹھے کیونکہ وہ کھڑے تھے اور حضرت صدیق جنی رضی اللہ عنہ اس وجہ سے نہیں بیٹھے کہ وہ امام تھے اور وہ حضرت نبی کریم ﷺ کی حرکات و سکنات اور انتقالات انہیں پہنچا رہے تھے۔ واللہ اعلم

اور بعض لوگوں نے امام کے پیچھے قیام کی حالت میں نماز شروع کرنے کے درمیان اور بیٹھے ہوئے امام کے پیچھے نماز شروع کرنے کے درمیان فرق کیا ہے پہلی صورت میں مقتدی کھڑا رہے گا، خواہ نماز کے دوران امام بیٹھ جائے جیسا کہ اس حال میں ہوا ہے اور دوسری صورت میں متقدم حدیث کے مطابق بیٹھنا واجب ہوگا۔ واللہ اعلم

اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فعل اور متقدم حدیث قیام کرنے اور بیٹھنے کے جواز پر دلیل ہے۔ اگرچہ پہلی حدیث کے مطابق بیٹھنا اور متاخر فعل کے مطابق کھڑا ہونا جائز ہے۔

آپ کا احتضار اور وفات:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو معاویہ نے ہم سے بیان کیا کہ اعمش نے ہم سے عن ابراہیم التیمی عن الحارث بن سوید عن

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ میں حسرت نبی کریم ﷺ کے ہاں گیا تو آپ کو بخار تھا، پس میں نے آپ کو چہرہ اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو شدید بخار ہے آپ نے فرمایا بے شک مجھے اس طرح بخار ہو جاتا ہے یہیما کہ تم میں سے دو آدمیوں کو بخار ہے میں نے عرض کیا آپ کو دو اجر ملیں گے فرمایا ہاں! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روئے زمین کے جس مسلمان کو بھی مرض وغیرہ کی تکلیف ہو اللہ اس کی خطاؤں کو اسی طرح مانتھ کر دے گا جس طرح درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم نے اسے متعدد طرق سے سلیمان بن مہران اور اعمش سے روایت کیا ہے۔

اور حافظ ابو یعلیٰ موصلی اپنے مسند میں بیان کرتے ہیں کہ اسحاق بن ابی اسرائیل نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ معمر بن زید بن اسلم بن رجل عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہم سے بیان کیا، حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ کے جسم پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا خدا کی قسم میں آپ کی شدت بخاری کی وجہ سے آپ پر ہاتھ رکھنے کی سکت نہیں رکھتا، تو حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہم انبیاء کی جماعت کو جس طرح دو گنا اجر ملتا ہے اسی طرح ہماری آزمائش بھی دو گنی ہوتی ہے، ایک نبی کی جوؤں سے آزمائش کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اسے مار دیا۔ اور اگر ایک آدمی سردی سے آزمایا جائے تو وہ چوغہ لے کر اس میں داخل ہو جاتا ہے اور انبیاء جس طرح آسائش سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح آزمائش سے بھی خوش ہوتے ہیں اس میں ایک مبہم آدمی ہے جسے کلیتاً پہچانا نہیں گیا۔ واللہ اعلم

اور بخاری اور مسلم نے سفیان ثوری اور شعبہ بن جراح کی حدیث سے روایت کی ہے اور مسلم اور جریر نے اضافہ کیا ہے اور تینوں نے عن اعمش عن ابی وائل شقیق بن سلمہ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا۔ اور صحیح بخاری میں یزید بن ابیہاد کی حدیث سے عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان وفات پائی، اور میں حضرت نبی کریم ﷺ کے بعد شدت موت کو کسی کے لیے ناپسند نہیں کرتی۔ اور ایک دوسری حدیث میں جسے بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش والے انبیاء ہوتے ہیں پھر صالحین پھر ان سے ملنے جلتے لوگ اور انسان کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اگر اسے اپنے دین میں صلابت ہو تو آزمائش میں اس پر سختی کی جاتی ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یعقوب نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن اسحاق نے ہم سے بیان کیا کہ مجھ سے سعید بن عبید بن السباق نے محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے اس کے باپ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی بیماری سخت ہو گئی تو میں مدینے آیا اور کچھ لوگ بھی میرے ساتھ مدینے آئے اور میں رسول اللہ ﷺ کے ہاں گیا اور آپ خاموش ہو چکے تھے اور گفتگو نہیں کرتے تھے آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے پھر اپنے چہرے پر مارتے، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور ترمذی نے اسے ابی کریب سے عن یونس بن بکر عن ابن اسحاق بیان کیا ہے اور اسے حسن غریب کہا ہے۔

اور امام مالک اپنے موطاء میں اسماعیل بن حکم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے جو آخری بات کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ کا ستیاناس کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ سرزمین عرب میں دو دین باقی نہیں رہیں گے انہوں نے اسے اسی طرح امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے مرسل روایت کیا ہے اور مسلم اور بخاری نے زہری کی حدیث سے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو تکلیف ہوتی آپ اپنے سیاہ کنارے والا جب اپنے چہرے پر ڈال لیتے اور جب بے چین ہوتے تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے۔ راوی بیان کرتا ہے آپ نے اسی حالت میں فرمایا یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا آپ اس سے خوفزدہ تھے۔

اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بن ابی رجا الادیب نے ہمیں خبر دی کہ ابو العباس اصم نے ہمیں بتایا کہ احمد بن عبد الجبار نے ہم سے بیان کیا کہ ابو بکر بن عیاش نے اعمش سے بحوالہ جابر بن عبد اللہ ہم سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی وفات سے تین روز قبل فرماتے سنا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ اور ایک حدیث میں جیسا کہ مسلم نے اسے اعمش کی حدیث سے ابوسفیان بن طلحہ بن نافع سے بحوالہ جابر بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی مرے^۱ اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہوتا ہوں پس اسے میرے بارے میں اچھا ظن رکھنا چاہیے۔ اور بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حاکم نے ہمیں بتایا کہ اصم نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن اسحاق نے ہم سے بیان کیا کہ ابو خثیمہ زہیر بن حرب نے ہم سے بیان کیا کہ جریر نے ہم سے عن سلیمان التیمی عن قتادہ عن انس بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کی عام وصیت یہ تھی کہ نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا یہاں تک کہ آپ کو غرغہ آ گیا اور آپ کی زبان سے واضح الفاظ نہ نکلتے تھے اور نسائی نے اسے اسحاق بن راہویہ سے بحوالہ جریر بن عبد اللہ اور ابن ماجہ نے ابی الاشعث سے معمر بن سلیمان عن ابیہ روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اسباط بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ التیمی نے قتادہ سے بحوالہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کی عام وصیت نماز اور غلاموں کے بارے میں تھی یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ وصیت کرتے کرتے غرغہ آ گیا اور آپ کی زبان سے ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اور نسائی اور ابن ماجہ نے اسے سلیمان بن طرخان التیمی کی حدیث سے قتادہ سے بحوالہ انس روایت کیا ہے۔ اور نسائی کی ایک روایت میں اسے قتادہ سے اس کے ساتھی سے بحوالہ انس روایت کیا گیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ بکر بن عیسیٰ الراسبی نے ہم سے بیان کیا کہ عمر بن الفضل نے ہم سے نعیم بن یزید سے بحوالہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنے پاس ایک طشتری لانے کا حکم دیا تاکہ آپ اس میں وہ تحریر لکھ دیں جس سے آپ کے بعد آپ کی امت گمراہ نہ ہو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مجھے خدشہ ہوا کہ آپ کی

۱ الازہریہ میں ہے: ”تم میں سے مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو۔“

بن زید روایت کیا ہے۔ اور بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں بتایا کہ ابو نصر احمد بن سہل فقہ بخارا نے مجھے بتاوا کہ صالح بن محمد حافظ بغدادی نے ہم سے بیان کیا کہ داؤد نے بحوالہ عمرو بن زبیر النضی ہم سے بیان کیا کہ عیسیٰ بن یونس نے بحوالہ عمرو بن سعید بن ابی حسین ہم سے بیان کیا کہ ابن ابی منلیکہ نے ہمیں خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ابو عمرو ذکوان نے اسے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میری باری کے دن میرے گھر میں میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان وفات پائی اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لعاب دہن کو اکٹھا کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں میرا بھائی ایک مسواک لے کر میرے پاس آیا اور میں رسول اللہ ﷺ کو اپنے سینے سے سہارا دیئے ہوئے تھی اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مجھے معلوم تھا کہ آپ مسواک کو پسند کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، میں آپ کے لیے اسے لے لوں تو آپ نے اپنے سر سے اشارہ فرمایا، ہاں! پس میں نے اسے آپ کے لیے نرم کیا اور آپ نے اسے اپنے منہ پر ملا، آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن پڑا تھا جس میں پانی تھا، آپ اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال کر اسے اپنے منہ پر ملنے لگے، پھر فرمانے لگے لا الہ الا اللہ بے شک موت کی کچھ سختیاں ہیں، پھر آپ نے اپنی بائیں انگلی کھڑی کی اور فرمانے لگے فی الرقیق الاعلیٰ فی الرقیق الاعلیٰ یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ پانی میں پڑ گیا۔ اور بخاری نے اسے محمد سے بحوالہ عیسیٰ بن یونس روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد طیالسی بیان کرتے ہیں کہ شعبہ نے ہم سے بحوالہ سعد بن ابراہیم بیان کیا کہ میں نے عروہ کو بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے سنا کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ حضرت نبی کریم ﷺ اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک انہیں دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار نہ دیا جائے، آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کی آواز بیٹھ گئی اور میں نے آپ کو مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا پڑھتے سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پس ہم نے خیال کیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ اور دونوں نے اسے شعبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب اور عروہ بن زبیر نے مجھے اہل علم لوگوں میں بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے اور یہ صحیح ہے کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے۔ پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں پس جب رسول اللہ ﷺ پر تکلیف وارد ہوئی اور آپ کا سر میری ران پر تھا، تو آپ کو کچھ وقت کے لیے غشی ہو گئی پھر آپ کو ہوش آیا تو آپ گھر کی چھت کی طرف تھمکنی لگا کر دیکھنے لگے اور فرمایا اللہم الرقیق الاعلیٰ تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ نے ہم سے بیان کی تھی اور وہ صحیح ہے کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا، پھر آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گے۔ نیز فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جو آخری کلمہ کہا وہ الرقیق الاعلیٰ تھا۔ بخاری اور مسلم نے اسے کئی طریق سے زہری سے روایت کیا ہے۔

اور سفیان ثوری عن اسماعیل بن ابی خالد عن ابی بردہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بے ہوش ہو گئے اور آپ میری گود میں تھے، پس میں آپ کے چہرے کو پونچھنے لگی اور آپ کی شفا یابی کی دعا کرنے لگی۔ آپ نے

فرمایا شفیایابی کی دعا کہ، بلكا الله سے الرفیق الاعلیٰ الاعلیٰ مع جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کی دعا کہ، انسانی نے اسے سفیان ثوری کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور تہمتی بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ وغیرہ نے ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ابو العباس اصم نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم نے ہم سے بیان کیا کہ انس بن عیاض نے ہشام بن عروہ سے بحوالہ عبد اللہ بن زبیر ہم سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی وفات سے قبل جبکہ آپ ان کے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، کان لگا کر سنا آپ فرما رہے تھے اللهم اغفر لی و ارحمنی و الحفنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملادے، دونوں نے اسے ہشام بن عروہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یعقوب نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے بحوالہ ابن اسحاق ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر نے اپنے باپ عباد کے حوالے سے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان ہوئی اور میری باری میں ہوئی اور میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی اور جو کچھ کمی ہوئی ہے وہ میری سادگی اور نوعمری سے ہوئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے میری گود میں وفات پائی، پھر میں نے آپ کے سر کو تکیہ پر رکھ دیا اور میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر منہ پر طمانچے مارنے لگی۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عبد اللہ بن زبیر نے ہم سے بیان کیا کہ کثیر بن زید نے بحوالہ المطلب بن زید ہم سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی بھی روح قبض ہوتی ہے، پھر وہ ثواب کو دیکھتا ہے، پھر وہ روح اس کی طرف واپس آتی ہے اور اسے اس کی طرف واپس جانے اور خدا تعالیٰ کے پاس جانے کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے، اور میں نے آپ سے یہ بات یاد کر لی، کیونکہ میں آپ کو اپنے سینے کے ساتھ سہارا دیئے ہوئے تھی، جب آپ کی گردن لٹک گئی تو میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ فرماتی ہیں میں نے کہا خدا کی قسم ہرگز آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گے آپ نے فرمایا جنت میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ احمد اس کے بیان میں متفرد ہیں اور انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عفان نے ہم سے بیان کیا کہ ہمام نے ہمیں خبر دی کہ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں بتایا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی اور آپ کا سر میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھا۔ آپ فرماتی ہیں جب آپ کی روح نکلی تو میں نے کبھی اس سے بہتر خوشبو نہیں پائی، اور یہ اسناد صحیحین کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور اصحاب کتب ستہ میں سے کسی نے اسے روایت نہیں کیا۔ اور بیہقی نے اسے ضعیف بن اسحاق کی حدیث سے بحوالہ عفان روایت کیا ہے اور بیہقی بیان کرتے ہیں حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں بتایا کہ ابو العباس اصم نے ہمیں خبر دی کہ احمد بن عبد الجبار نے ہم سے بیان کیا کہ یونس نے عن ابی معشر عن محمد بن قیس عن ابی عروہ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس روز رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی میں نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو تمام کھانے میرے لیے تلخ ہو گئے اور میں نے وضو کیا، اور کستوری کی خوشبو میرے ہاتھ سے نہیں جاتی تھی۔ اور احمد بیان کرتے ہیں کہ عفان اور بہرنے ہم سے بیان کیا کہ سلیمان بن مغیرہ نے ہم سے بیان کیا کہ حمید بن ہلال نے بحوالہ ابی بردہ ہم سے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس

گیا تو آپ ہمارے پاس یمن کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر اور عمدہ کی طرح کی ایک چادر لائیں اور فرمایا کہ ان دو کپڑوں میں رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگی۔ اور نسائی کے ساتھ ایک جماعت نے اسے کئی طرق سے حمید بن بلال سے روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ بہتر ہے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن سلمہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عمران الجونی نے بحوالہ یزید بن ہانوس ہمیں بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ہم نے آپ سے اجازت طلب کی تو آپ نے ہماری طرف ایک تکیہ پھینکا اور پردہ کھینچ لیا، میرے دوست نے کہا اے ام المومنین رضی اللہ عنہا آپ عراق کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ نے فرمایا عراق کیا ہے پس میں نے اپنے دوست کے کندھے پر ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا ٹھہر جا، تو نے اپنے دوست کو اذیت دی ہے، پھر فرمانے لگیں، عراق، حیض ہے تم وہ کہو جو اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں فرمایا ہے، پھر فرمانے لگیں کہ رسول اللہ ﷺ مجھے کپڑا پہناتے تھے پھر میرے سر کو پکڑ لیتے اور میرے اور آپ کے درمیان ایک کپڑا ہوتا تھا اور میں حائضہ ہوتی تھی، پھر فرمانے لگیں کہ رسول اللہ ﷺ جب میرے دروازے سے گزرتے تو مجھے وہ بات کہتے جس سے مجھے اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا۔ ایک روز آپ گزرے تو آپ نے کوئی بات نہ کی، یہ بات آپ نے دوبار یا تین بار دہرائی، میں نے کہا اے لڑکی دروازے پر میرے لیے تکیہ رکھ دو اور میں نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی، تو آپ میرے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا تیرا کیا حال ہے میں نے کہا مجھے درد سر کی شکایت ہے آپ نے فرمایا میرا بھی سرد درد کرتا ہے، پس آپ تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ آپ کو ایک چادر میں اٹھا کر لایا گیا، پس آپ میرے پاس آئے اور عورتوں کی طرف پیغام بھیجے، تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں اور میں ان کے درمیان چکر لگانے کی سکت نہیں رکھتا پس وہ مجھے اجازت دے دیں اور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہر جاؤں اور میں آپ کی تیمارداری کرتی تھی، اور آپ سے پہلے میں نے کسی کی تیمارداری نہیں کی تھی۔ اسی اثناء میں ایک روز آپ کا سر میرے کندھے پر تھا کہ آپ کا سر میرے سر کی طرف جھکا گیا تو میں نے خیال کیا کہ آپ میرے سر سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، پس آپ کے منہ سے ایک ٹھنڈا نقطہ نکلا جو میرے سینے کے گڑھے پر پڑا، جس سے میری کھال لرز گئی، تو مجھے خیال آیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، پس میں نے آپ کو کپڑے سے ڈھانک دیا، پس حضرت عمر اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما نے آکر اجازت طلب کی تو میں نے انہیں اجازت دے کر پردہ کھینچ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا ہائے غشی رسول اللہ ﷺ کو کس قدر شدید غشی ہوئی ہے۔ پھر دونوں کھڑے ہو گئے اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو مغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے ہیں، میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے بلکہ تو وہ آدمی ہے جسے فتنہ روند دے گا، رسول اللہ ﷺ اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر دے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے پردہ اٹھا دیا، آپ نے حضور ﷺ کی طرف دیکھ کر کہا انا لله وانا اليه راجعون۔ رسول اللہ ﷺ فوت ہو چکے ہیں، پھر آپ حضور ﷺ کے سر کی جانب سے آپ کے پاس آئے اور اپنے منہ کو نیچے کر کے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر کہا ہائے نبی، پھر اپنا سر اٹھایا اور اپنے منہ کو نیچے کر کے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر کہا ہائے صبی، پھر اپنا سر اٹھایا اور اپنا منہ نیچے کر کے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا ہائے خلیل، رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے ہیں اور مسجد کی طرف چلے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہہ

رہے تھے جب تک اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کرے رسول اللہ ﷺ فوت نہ ہوں گے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت اہلبی کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ بلاشبہ تو بھی مردہ ہے اور وہ بھی مردہ ہیں اس آیت سے فارغ ہو کر فرمایا ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبِهِ﴾

”محمد (ﷺ) صرف اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے قبل رسول گزر چکے ہیں پس کیا اگر آپ فوت یا قتل ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے۔“ الخ

پھر اس آیت سے فارغ ہو کر فرمایا: ”جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آئے گی اور جو شخص محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا تو محمد ﷺ فوت ہو گئے ہیں۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اے لوگو! یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں جو مسلمانوں کو دام محبت میں پھانسنے والے ہیں پس ان کی بیعت کرو ان کی بیعت کرو۔“

اور ابو داؤد اور ترمذی نے الشماک میں عبدالعزیز عطار مرحوم کی حدیث سے بحوالہ ابو عمران الجونی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں خبر دی کہ ابو بکر بن اسحاق نے ہمیں بتایا کہ احمد بن ابراہیم بن ملحان نے ہمیں بتایا کہ یحییٰ بن بکیر نے ہم سے بیان کیا کہ لیث نے عقیل سے بحوالہ ابن شہاب ہم سے بیان کیا کہ ابوسلمہ نے بحوالہ عبد الرحمن مجھے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی رہائش گاہ سخ سے گھوڑے پر آئے اور اتر کر مسجد میں چلے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جانے لگے لوگوں سے بات نہ کی پس انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جانے کا قصد کیا اور آپ اپنی یمنی چادر میں لپٹے پڑے تھے آپ نے چادر کو آپ کے منہ سے ہٹایا پھر جھک کر آپ کو بوسہ دیا اور رو پڑے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ ﷺ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا جو موت آپ پر فرض کی گئی تھی وہ آچکی ہے زہری بیان کرتے ہیں کہ ابوسلمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے مجھے بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھے سے انکار کیا آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ جائے حضرت عمر نے بیٹھے سے انکار کیا تو آپ نے تشہد پڑھا اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے آپ نے فرمایا: تم میں سے جو شخص محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد ﷺ فوت ہو چکے ہیں اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (محمد ﷺ صرف اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے قبل رسول گزر چکے ہیں پس کیا اگر آپ فوت یا قتل ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے) راوی بیان کرتا ہے خدا کی قسم! یوں معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے پڑھا اور سب لوگوں نے اسے آپ سے سنا پس سب لوگ اس کو پڑھتے سن گئے۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن المسیب نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم جب میں نے اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پڑھتے سنا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور میں کانپنے لگا یہاں تک کہ میری ٹانگیں مجھے اٹھا نہیں رہی تھیں اور میں زمین پر گر پڑا۔

اور جب میں نے آپ کو تلاوت کرتے سنا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے ہیں۔ اور بخاری نے اسے یحییٰ بن لمیر سے روایت کیا ہے۔ اور حافظ بیہقی نے ابن لہیعہ کے طریق سے روایت کی ہے کہ ابوالاسود نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے ذکر میں بحوالہ عمرہ بن زبیر ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرنے لگے اور وہ شخص قتل و قطع سے آپ کے کرنے کا نام لیتا اسے دھمکانے لگے اور کہنے لگے رسول اللہ ﷺ غشی کی حالت میں ہیں کاش آپ اٹھ کر قتل و قطع کریں اور عمرو بن قیس بن زائدہ بن الاصم بن ام مکتوم مسجد کے پچھواڑے میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الآیہ کی آیت پڑھ رہے تھے اور لوگ مسجد میں رو رہے تھے اور دھکم پیل کر رہے تھے اور کچھ نہیں سنتے تھے کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے پاس آ کر کہا اے لوگو! کیا تم میں سے کسی کے پاس رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بارے میں کوئی عہد ہے؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں، آپ نے فرمایا، اے عمر! کیا آپ کے پاس کوئی علم ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! گواہ رہو کہ کوئی شخص گواہی نہیں دیتا کہ آپ نے اسے اپنی وفات کے بارے میں کوئی وصیت کی ہو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ ﷺ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور مسجد کے دروازے پر اترے اور حزین و غمگین آئے اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے اجازت لی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اجازت دی تو آپ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے تو آپ بستر پر وفات پا چکے تھے اور عورتیں آپ کے ارد گرد اپنے چہرے ڈھانکے ہوئے تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا انہوں نے پردہ کر لیا۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور جھک کر اسے بوسہ دیا اور رو پڑے اور فرمانے لگے ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو بات کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں، رسول اللہ ﷺ وفات پا چکے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو، آپ زندہ اور مردہ حالت میں کس قدر اچھے ہیں پھر آپ نے حضور ﷺ کو کپڑے سے ڈھانک دیا اور جلدی سے لوگوں کی گردنوں کو پھاندتے ہوئے مسجد کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ منبر تک پہنچ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر کی ایک جانب کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو آواز دی تو وہ بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تشہد پڑھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جبکہ وہ تمہارے درمیان زندہ تھے خود انہیں ان کی موت کی خبر دی تھی اور تم کو بھی اس سے موت کی خبر دی ہے تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت قرآن میں ہے؟ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ یہ آیت آج کے دن سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ سے فرمایا ہے کہ (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) اور فرمایا ہے (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَئِذَا نْفَسُ ذَانِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو عمر دی اور باقی رکھا یہاں تک کہ آپ نے دین الہی کو قائم کیا اور امر الہی کو غالب کیا اور پیغام الہی کو پہنچایا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی اور انہوں نے آپ کو لوگوں

کو ایک طریقہ پر چھوڑا ہے، پس کوئی ہلاک ہونے والا، لیل اور شفا کے بعد ہی ہلاک ہو گا، پس جس کا اللہ رب ہے تو اللہ ہی ایسوت ہے، اور جو شخص محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا اور آپ کو الہ کا مقام دیتا تھا تو اس کا الہ ہلاک ہو چکا ہے۔ اے لوگو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اپنے دین سے اتھمام کرو اور اپنے رب پر توکل کرو، یقیناً اللہ کا دین قائم ہے اور خدا کا کلام مکمل ہے اور وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا، وہ اس کی مدد کرے گا اور وہ اپنے دین کو عزت دینے والا ہے اور اس کی کتاب ہمارے درمیان ہے جو نور اور شفا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو ہدایت دی ہے اور اس میں اللہ کے حلال و حرام کا بیان ہے اور خدا کی قسم مخلوق الہی میں سے ہم پر جو چڑھائی کرے گا ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے اور خدا تعالیٰ کی شمشیریں سونتی ہوئی ہیں اور ہم نے ابھی انہیں میانوں میں نہیں کیا اور ہم اپنے مخالفین کے ساتھ اسی طرح جہاد کریں گے جیسے ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا، پس جو شخص بغاوت کرے گا اپنے خلاف ہی کرے گا، پھر مہاجرین آپ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی طرف واپس چلے گئے، پھر آپ نے حضور ﷺ کے غسل و تکفین اور آپ کی نماز جنازہ اور تدفین کی حدیث کو بیان کیا، میں کہتا ہوں ہم اسے دلائل و شواہد کے ساتھ مفصل بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ

اور واقدی نے اپنے شیوخ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت نبی کریم ﷺ کی موت کے بارے میں شک ہوا تو بعض نے کہا آپ فوت ہو گئے ہیں اور بعض نے کہا آپ فوت نہیں ہوئے۔ اور حضرت اسماء بنت عمیس نے رسول اللہ ﷺ کے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا اور کہا رسول اللہ ﷺ فوت ہو چکے ہیں اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہرا بھری ہوئی تھی جس سے آپ کی موت کو بیچا نا گیا۔ حافظ تہمتی نے اسے اسی طرح اپنی کتاب دلائل النبوة میں واقدی کے طریق سے بیان کیا ہے جو ضعیف ہے اور اس کے بے نام شیوخ بھی ضعیف ہیں، پھر یہ ہر حال میں منقطع اور صحیح حدیث کے مخالف ہے اور اس میں شدید غرابت پائی جاتی ہے اور وہ مہر کا ابھرنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور واقدی وغیرہ نے وفات کے بارے میں بہت سی احادیث بیان کی ہیں جن میں شدید غرابت اور نکارت پائی جاتی ہے، ہم نے ان کی اکثریت سے ان کے اسناد کے ضعف اور ان کے متون کی نکارت کی وجہ سے اعراض کیا ہے، خصوصاً ان واقعات سے جو بہت سے متاخرین داستان گوؤں وغیرہ نے بیان کیے ہیں جن میں سے لامحالہ بہت سے من گھڑت ہیں، اور کتب مشہورہ میں جو کچھ صحیح اور حسن احادیث میں بیان ہو چکا ہے، وہ ان بے سند باتوں اور اکاذیب سے بے نیاز ہے۔ واللہ اعلم



باب ۶۶:

آپ کی وفات کے بعد اور دفن سے قبل ہونے والے امور مہمہ کا بیان

اسلام اور اہل اسلام پر جو سب سے عظیم و جلیل برکت نازل ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہے اس لیے کہ جب حضور ﷺ کی وفات ہوئی تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو صبح کی نماز پڑھائی اس وقت رسول اللہ ﷺ کو تکلیف کی سختی سے افاقہ ہو چکا تھا اور آپ نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور مسلمانوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز میں صفیں باندھے دیکھا تو اس بات نے آپ کو خوش کیا اور آپ مسکرائے یہاں تک کہ مسلمانوں نے اپنی خوشی کے باعث نماز چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہو کر صف میں شامل ہونے کا قصد کیا تو آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ جس حالت میں ہیں اسی طرح ٹھہرے رہیں اور پردہ ڈال دیا اور یہ حضور ﷺ کی آخری ملاقات تھی۔

پس جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز سے واپس آئے تو آپ کے ہاں گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو درد چھوڑ گیا ہے اور یہ دن دختر خارجہ کا تھا جو آپ کی ایک بیوی تھی اور مدینہ کے مشرق میں سخ مقام پر رہائش پذیر تھی پس آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اور جب اس دن کی دھوپ تیز ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے اور بعض کا قول ہے کہ آپ کی وفات سورج ڈھلے ہوئی۔ واللہ اعلم

پس جب آپ فوت ہو گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں اختلاف کیا بعض کہتے کہ رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے ہیں اور بعض کہتے کہ آپ فوت نہیں ہوئے پس حضرت سالم بن عبید، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے سخ کی طرف گئے اور آپ کو رسول اللہ ﷺ کی وفات کی اطلاع دی اور جس وقت آپ کو اطلاع ملی اسی وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے آگئے اور رسول اللہ ﷺ کے گھر چلے گئے اور آپ کے چہرے سے پردہ اٹھایا اور اسے بوسہ دیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں آپ لوگوں کے پاس گئے اور منبر کی ایک جانب کھڑے ہو کر ان کو خطاب کیا اور ان کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی وفات کو واضح کیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور جدل و اشکال کا ازالہ کیا اور تمام لوگوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور صحابہ کی ایک جماعت نے مسجد میں آپ کی بیعت کی اور بعض انصار کو شبہ ہو گیا اور ان میں سے بعض کے اذہان میں انصار میں سے خلیفہ بنانے کا جواز قائم ہو گیا اور بعض نے ان کے درمیان یہ ثالثی کی کہ ایک امیر مہاجرین میں سے اور ایک امیر انصار میں سے ہو یہاں تک کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر واضح کیا کہ خلافت صرف قریش میں ہوگی تو انہوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ پر متفق ہو گئے جیسا کہ ہم عنقریب اسے واضح کریں گے۔ ان شاء اللہ

سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اسحاق بن عیسیٰ الطباع نے ہم سے بیان کیا کہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابن

شہاب نے بحوالہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعودؓ سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے انہیں بتایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ اپنے گھر واپس آ گئے، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں: میں حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کی جستجو میں تاپس انہوں نے مجھے اپنا منظر پایا اور یہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے آخری حج میں منیٰ کا واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس آ کر کہا کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر بن الخطابؓ فوت ہو گئے تو میں فلاں آدمی کی بیعت کروں گا، حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا میں ان شاء اللہ شام کو لوگوں میں کھڑے ہو کر انہیں ان لوگوں سے متنبہ کروں گا جو ان سے ان کی چیز غصب کرنا چاہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں: میں نے کہا یا امیر المؤمنینؓ، انہوں نے کہا کہ مجھے کیونکہ حج میں بے عقل اور کمینہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جب آپ لوگوں میں کھڑے ہوں گے تو وہی لوگ آپ کی مجلس میں بکثرت ہوں گے، مجھے خدشہ ہے کہ آپ ایک بات کہیں گے اور وہ لوگ اسے لے اڑیں گے، پس نہ وہ اسے یاد رکھیں گے اور نہ اسے اپنی جگہ پر رکھیں گے، بلکہ آپ مدینہ چلیں وہ ہجرت اور سنت کا گھر ہے اور لوگوں کے علماء اور اشراف سے ملیے اور جو کچھ کہنا ہے اسے ڈٹ کر کہیے وہ آپ کی بات کی مدد کریں گے اور اسے اپنی جگہ پر رکھیں گے، حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا اگر میں بخیر و عافیت مدینہ پہنچ گیا تو میں اپنے پہلے مقام میں ہی اس کے بارے میں لوگوں سے بات کروں گا، پس جب ذوالحجہ کے بعد ہم مدینہ آئے تو وہ جمعہ کا دن تھا میں نے ہر چہ بادا بادا جانے میں جلدی کی اور میں نے حضرت سعید بن زیدؓ کو منبر کے دائیں رکن کے پاس دیکھا، آپ مجھ سے سبقت کر گئے، تھیں، پس میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور میرا گھٹنا ان کے گھٹنے سے ٹکرانے لگا، جونہی میں کھڑا ہوا تو حضرت عمر بن الخطابؓ آ گئے اور جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا آج شب آپ اس منبر پر ایسی تقریر کریں گے جو آپ سے پہلے اس پر کسی نے نہ کی ہوگی، راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت سعید بن زیدؓ نے اس بات سے انکار کیا اور کہا میں نہیں خیال کرتا کہ آپ ایسی بات کریں جو کسی نے نہ کہی ہو؟ پس حضرت عمر بن الخطابؓ منبر پر بیٹھ گئے اور جب مؤذن خاموش ہو گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا: اے لوگو! میں ایک بات کرنے والا ہوں جو میرے لیے ہی مقدر کی گئی ہے کہ میں اسے کہوں، مجھے معلوم نہیں شاید وہ میری موت سے پہلے کی بات ہو، پس جو اسے یاد رکھے اور سمجھ لے وہ اسے وہاں تک بیان کرے جہاں تک اس کی اونٹنی پہنچتی ہے اور جو اسے یاد نہ رکھے میں اس کے لیے جائز قرار نہیں دیتا کہ وہ مجھ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور آپ پر کتاب نازل کی ہے اور جو کلام آپ پر نازل ہوا اس میں رجم کی آیت بھی تھی، ہم نے اسے پڑھا، یاد رکھا اور سمجھا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا، مجھے خدشہ ہے کہ اگر لوگوں پر زیادہ زمانہ گزر گیا تو ایک آدمی کہہ دے گا کہ ہم آیت رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے اور وہ اس فریضہ کے ترک کرنے سے گمراہ ہو جائیں گے، جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، پس شادی شدہ مردوں اور عورتوں میں سے جو کوئی زنا کرے اور دلیل قائم ہو جائے یا حمل ہو جائے یا اعتراف ہو جائے تو کتاب اللہ کے مطابق رجم کرنا حق ہے، آگاہ رہو، ہم پڑھا کرتے تھے کہ اپنے آباء سے بے رشتی نہ کرو، تمہارا آباء سے بے رشتی کرنا، کفر ہے۔ آگاہ رہو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے بارے میں اس طرح غلو نہ کرو جیسے عیسیٰ بن مریمؑ کے بارے میں غلو کیا گیا ہے، میں صرف ایک بندہ ہوں پس تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو،

اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر دینا چاہتا ہوں۔ کوئی شخص دھوکہ کھا کر یہ نہ کہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت اچانک ہو کر مکمل ہو گئی تھی آگاہ رہو وہ بیعت ایسی ہی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا لیا اور تم میں آج ایسا کوئی شخص موجود نہیں جس کی طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح گردنیں اٹھتی ہوں اور جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی، آپ ہمارے بہترین آدمیوں میں سے تھے، حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما اور ان دونوں کے ساتھی حضرت فاطمہ بنت رسول ﷺ کے گھر میں بیچھے بیٹھ رہے، اور سب انصار ستیفہ بنی ساعدہ میں بیچھے رہ گئے اور مہاجرین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے، میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا ہمارے ساتھ ہمارے انصار بھائیوں کے پاس چلے، پس ہم ان کی راہنمائی کو چل پڑے یہاں تک کہ ہم دو صالح آدمیوں سے ملے تو انہوں نے ہمیں قوم کی کارگزاری سے مطلع کیا اور کہا اے گروہ مہاجرین آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم اپنے انصار بھائیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ان کے قریب نہ جانا اور اے گروہ مہاجرین اپنا معاملہ خود طے کرو، میں نے کہا خدا کی قسم، ہم ضرور ان کے پاس جائیں گے، پس ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم ستیفہ بنی ساعدہ میں ان کے پاس آئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان ایک آدمی چادر اوڑھے پڑا ہے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، میں نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا درد ہے، پس جب ہم بیٹھ گئے تو ان کے خطیب نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کہا اما بعد! ہم اللہ کے انصار اور اسلام کی فوج ہیں اور اے گروہ مہاجرین! تم ہمارے نبی کا قبیلہ ہو، تم میں سے ایک جلد باز نے کہا ہے کہ تم ہمیں اپنی جڑ سے الگ کرنا چاہتے ہو اور ہمیں حکومت سے بچانا چاہتے ہو، پس جب وہ آدمی خاموش ہو گیا تو میں نے بات کرنا چاہی اور میں نے ایک اچھی تقریر تیار کی ہوئی تھی، میں نے اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کرنا چاہا اور میں کسی حد تک آپ کا لحاظ کرتا تھا اور آپ مجھ سے زیادہ دانا اور باوقار تھے، اور خدا کی قسم اپنی تقریر کی جو مخصوص باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں وہ آپ نے سب بیان کر دیں۔ آپ نے فرمایا اما بعد! آپ لوگوں نے جو اچھی باتیں کہیں آپ ان کے اہل ہیں اور عرب اس امر کے لیے اس قریش قبیلے کے سوا، اور کسی کو نہیں جانتے، آپ نسب اور گھرانے کے لحاظ سے سب عربوں سے برتر ہیں، اور میں نے ان دو آدمیوں میں سے ایک کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، تم ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لو، ایک ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ہیں، اور جو باتیں اس کے سوا ہوئی ہیں میں انہیں ناپسند نہیں کرتا، خدا کی قسم اگر میں آگے بڑھوں تو مجھے قتل کر دیا جائے، اس بارے میں گناہ میرے قریب بھی نہ پھٹکے گا، مجھے جواب دو، میں اس قوم پر امیر ہوں جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہوں۔ ایسی صورت میں میرا دل موت کے وقت مجھے عار دلائے گا، انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، میں ان کا ایک ہشیار آدمی ہوں، اے قریش! ایک امیر ہم سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا، راوی بیان کرتا ہے پس شور بڑھ گیا اور آوازیں بلند ہونے لگیں، حتیٰ کہ ہمیں اختلاف کا خوف ہو گیا، میں نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے آپ کی بیعت کر لی، اور مہاجرین نے بھی آپ کی بیعت کر لی، پھر انصار نے بھی آپ کی بیعت کر لی، اور ہم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو روند دیا۔ اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا، تم نے سعد رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے، میں نے کہا اللہ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں خدا کی قسم، ہم حاضرین نے

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے کسی امر کو نفع مند نہیں پایا، ہمیں خدشہ ہو گیا کہ اگر ہم لوگوں سے الگ ہو گئے اور بیعت نہ ہوئی تو وہ ہمارے بعد بیعت کر لیں گے پس یا تو ہم بادل خواستہ بیعت کریں گے اور باہم ان کی مخالفت کریں گے اور فساد ہوگا اور جو شخص مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی امیر کی بیعت کرے اس کی کوئی بیعت نہیں اور نہ اس کی کوئی بیعت ہے جس کی اس نے بیعت کی ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں قتل ہو جائیں۔

مالک بیان کرتے ہیں کہ ابن شہاب نے بحوالہ عروہ مجھے بتایا کہ وہ دو آدمی جو انہیں ملے تھے وہ عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی تھے۔ اور ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن المسیب نے بتایا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کا ایک ہشیار آدمی ہوں وہ حضرت حباب بن الممذر رضی اللہ عنہ تھے۔

اور اس حدیث کو ایک جماعت نے اپنی کتب میں متعدد طرق سے مالک وغیرہ سے بحوالہ زہری روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ معاویہ نے ہم سے بحوالہ عمرو بیان کیا کہ زائدہ نے ہم سے بیان کیا کہ عاصم نے ہم سے بیان کیا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے مجھ سے عن زائدہ عن عاصم عن زر عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس آ کر کہا اے گروہ انصار کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی امامت کرنے کا حکم دیا ہے پس تم میں سے کس کا دل ابو بکر رضی اللہ عنہ سے متقدم ہونا گورا کرتا ہے؟ انصار نے جواب دیا ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے متقدم ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور نسائی نے اسے اسحاق بن راہویہ اور بناد بن السری سے عن سین بن علی الجعفی عن زائدہ روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور میں اسے زائدہ کی حدیث سے بحوالہ عاصم حفظ رکھتا ہوں۔ اور اسی طرح نسائی نے اسے سلمہ بن نبیط کی حدیث سے عن نعیم بن ابی ہند عن نبیط بن شریط عن سالم بن عبید عن عمر روایت کیا ہے اور ایک اور طریق سے اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے اور محمد بن اسحاق کے طریق سے عن عبد اللہ بن ابی بکر عن زہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن عمر رضی اللہ عنہما بیان ہوا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے گروہ مسلمین اللہ کے نبی کے امر کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو غار میں آپ کے ساتھ دوسرا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سابق اور عمر رسیدہ ہیں پھر میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور انصار کے ایک آدمی نے مجھ سے سبقت کی اور آپ کے ہاتھ پر میرے ہاتھ رکھنے سے پہلے اپنا ہاتھ رکھ دیا پھر میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور لوگوں نے بیعت کر لی۔ اور محمد بن سعد نے عن عارم بن الفضل عن حماد بن زید عن یحییٰ بن سعید عن القاسم بن محمد روایت کی ہے اور اس قسم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اور جس شخص نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اس کا نام بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔

سقیفہ کے روز حضرت صدیق نے جو کچھ بیان کیا حضرت سعد بن عبادہ کا اس کی صحت کا اعتراف کرنا:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عفان نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عوانہ نے داؤد بن عبد اللہ الاودی سے بحوالہ حمید بن عبد الرحمن ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے مدینہ کے گرمائی مقام میں تھے راوی بیان کرتا ہے

آپ آئے تو آپ نے حضور ﷺ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور اسے بوسہ دیا اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ زندہ اور مردہ حالت میں کس قدر اچھے ہیں! رب کعبہ کی محمد ﷺ فوت ہو چکے ہیں اور پھر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ حضور ﷺ فوت ہونے سے پہلے یہاں تک کہ مجھے وہم ہو گیا پس حضرت ابو بکرؓ نے تقریر کی اور جو کچھ انصار کے بارے میں نازل ہوا تھا اس میں سے کوئی بات نہ پھوڑی اور جو کچھ رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق بیان کیا تھا اسے بھی بیان کیا۔ اور فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا اور اے سعد بنی سعد! آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ قریش اس امر کے والی ہیں پس نیک آدمی اپنے نیک آدمی کا اور فاجر آدمی اپنے فاجر آدمی کا پیروکار ہے تو حضرت سعد بنی سعد نے آپ سے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے ہم وزراء ہیں اور آپ لوگ امراء ہیں۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ علی بن عباس نے ہم سے بیان کیا کہ یزید بن سعید بن ذی عوفان العنسی نے عبد الملک بن عمیر نخعی سے بحوالہ رافع الطائی جو غزوہ ذات السلاسل میں حضرت ابو بکرؓ کے رفیق تھے ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے ان باتوں کے متعلق دریافت کیا جو ان کی بیعت کے بارے میں کہی گئی تھیں آپ نے اسے وہ باتیں بتائیں جو انصار نے آپ سے کیں اور آپ نے ان سے کیں اور جو حضرت عمر بن الخطابؓ نے انصار سے کیں اور جو کچھ انہوں نے میری امامت کے متعلق انہیں بتایا کہ اس کا حکم رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیماری میں دیا تھا پس اس وجہ سے انہوں نے میری بیعت کر لی اور میں نے ان کی بیعت کو قبول کر لیا اور مجھے خوف ہوا کہ فتنہ ہوگا اور اس کے بعد ارتداد ہوگا اور یہ اسناد جید اور قوی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے امامت کو اس خوف کی وجہ سے قبول کیا کہ فتنہ ہوگا اور اس کے ترک سے اس کا قبول کر لینا زیادہ فائدہ مند ہے۔

میں کہتا ہوں یہ سوموار کے بقیہ دن میں ہوا اور جب دوسرے دن منگل کی صبح ہوئی تو لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور تمام انصار و مہاجرین کی مکمل بیعت ہو گئی اور یہ رسول اللہ ﷺ کی تجنیز سے پہلے کا واقعہ ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن موسیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہشام نے معمر سے بحوالہ زہری ہم سے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالکؓ نے مجھے بتایا کہ جب حضرت عمرؓ منبر پر بیٹھے تو انہوں نے آپ کا آخری خطبہ سنا اور یہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے دوسرے دن کا واقعہ ہے۔ اور حضرت ابو بکرؓ ناموش تھے اور بات نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے آخری آدمی تک زندہ رہتے۔ محمد ﷺ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان انہیں نور بنایا تھا جس سے تم ہدایت پاتے تھے اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو ہدایت دی اور حضرت ابو بکرؓ رسول اللہ ﷺ کے ساتھی اور دو میں سے دوسرے ہیں اور آپ تمہارے امور کے بارے میں سب مسلمانوں سے زیادہ حقدار ہیں اور انہوں نے آکر آپ کی بیعت کی۔ اور ایک گروہ نے اس سے پہلے سقیفہ بنی ساعدہ میں آپ کی بیعت کر لی تھی اور عوام کی بیعت منبر پر ہوئی۔

زہری بحوالہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں میں نے اس روز حضرت عمر کو حضرت ابو بکرؓ سے کہتے سنا منبر پر چڑھیے

اور آپ مسلسل انہیں یہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ آپ منبر پر چڑھ گئے اور سوا مائناں نے آپ کی بیعت کی۔ اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ زہری نے مجھ سے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ جب سقیفہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی تو دوسرے روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے تقریر کی اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا۔ اے لوگو! گذشتہ کل میں نے آپ سے جو بات کہی تھی، اسے میں نے کتاب اللہ میں نہیں پایا اور نہ وہ رسول اللہ ﷺ کی کوئی وصیت تھی، بلکہ میرا خیال تھا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے آخری آدمی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں اپنی وہ کتاب باقی رکھی ہے جس سے اس نے رسول اللہ ﷺ کو ہدایت دی ہے، پس اگر تم اس سے تمسک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے گا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بہترین آدمی پر متفق کر دیا ہے جو رسول اللہ ﷺ کا ساتھی اور غار میں دو کا دوسرا ہے، پس کھڑے ہو جاؤ اور اس کی بیعت کرو، تو لوگوں نے بیعت سقیفہ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت عامہ کی، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا: اے لوگو! مجھے تمہارا والی بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تمہارا بہترین آدمی نہیں ہوں، پس اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا، صدق، امانت اور جھوٹ، خیانت ہے، اور تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کی علت کو دور کر دوں گا۔ ان شاء اللہ

اور تمہارا طاقتور کمزور ہوگا یہاں تک کہ میں اس سے حق کو وصول کر لوں گا۔ ان شاء اللہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کی مار دیتا ہے اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر مصیبت کو عام کر دیتا ہے، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، میری اطاعت کرو، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت کرنا لازم نہیں، اپنی نمازوں کے لیے تیار رہو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یہ اسناد صحیح ہے۔

اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ مجھے تمہارا والی بنایا گیا ہے حالانکہ میں تمہارا بہترین آدمی نہیں۔ یہ عجز و انکسار کے باب سے ہے۔ بلاشبہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ ان کے افضل اور بہترین آدمی ہیں۔ رضی اللہ عنہم

اور حافظ ابو بکر بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابوالحسن علی بن محمد حافظ اسفراینی نے ہمیں بتایا کہ ابوعلی الحسین بن علی حافظ نے ہم سے بیان کیا کہ ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ اور ابراہیم بن ابی طالب نے ہم سے بیان کیا کہ میدار بن یسار نے ہم سے بیان کیا اور ابو ہشام مخزومی نے ہم سے بیان کیا کہ وہیب نے ہم سے بیان کیا کہ داؤد بن ابی ہند نے ہم سے بیان کیا کہ ابونصرہ نے بحوالہ ابوسعید ہم سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی اور لوگ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے اور ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ انصار کے ایک خطیب نے کھڑے ہو کر کہا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ مہاجرین میں سے تھے اور آپ کا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا اور ہم رسول اللہ ﷺ کے انصار تھے، اور جیسے ہم رسول اللہ ﷺ کے انصار تھے اسی طرح ہم ان کے خلیفہ کے انصار ہوں گے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، تمہارے Spoks Man نے درست کہا ہے اور اگر تم اس کے سوا کوئی اور بات کرو تو ہم تمہاری بیعت نہیں کریں گے۔ راوی بیان کرتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منبر پر چڑھ کر قوم کے سرداروں کو دیکھا، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو

نہ پایا۔ راوی بیان کرتا ہے آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا وہ آئے تو آپ نے کہا رسول اللہ ﷺ کی چھوٹی بیٹی کے بیٹے اور آپ کے حواری کیا آپ مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ کوئی خرابی نہیں ہوگی اور کھڑے ہو کر آپ کی بیعت کرنی یہ بات کہی یا اس کا منہ بوم بیان کیا۔

ابوعلی حافظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسحاق بن خزیمہ کو بیان کرتے سنا کہ مسلم بن حجاج نے میرے پاس آ کر مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے یہ حدیث ایک کاغذ کے پرزے پر لکھ دی اور سنائی، اور یہ حدیث ایک اونٹ بلکہ دس ہزار درہم کی ایک تھیلی کے برابر ہے۔ اور یہ بتی نے اسے حاکم اور محمد بن حامد المقرئ سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے عن ابوالعباس بن محمد بن یعقوب عن الاصم عن جعفر بن محمد بن شاکر عن عفان بن مسلم عن وہیب روایت کی ہے، لیکن اس نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بجائے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے انصار کے خطیب سے بات کی، اور اس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ تمہارا صاحب ہے، تو انہوں نے آپ کی بیعت کی پھر چلے گئے۔ اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے تو آپ نے قوموں کے سرداروں کو تلاش کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ پایا، آپ نے ان کے متعلق لوگوں سے پوچھا، تو انصار کے کچھ آدمی اٹھ کر انہیں لے آئے، پھر اس نے وہ تمام واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا ہے، پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

اور علی بن عاصم نے اسے الجری سے عن ابی نصرۃ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے اور پہلے والا واقعہ بیان کیا ہے اور یہ اسناد ابی نصرۃ عن منذر بن مالک بن قطعہ کی حدیث کی سبب جو بحوالہ ابوسعید سعد بن مالک بن سنان خدری مروی ہے صحیح اور محفوظ ہے اور اس میں ایک بڑے فائدے کی بات ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کی بات ہے، خواہ وہ بیعت رسول اللہ ﷺ کی وفات کے پہلے دن ہوئی ہو یا دوسرے دن ہوئی ہو اور یہی بات درست ہے، کیونکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی وقت بھی علیحدگی اختیار نہیں کی اور نہ آپ کے پیچھے نماز سے رُکے ہیں، جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اپنی تلوار سونتے ہوئے مرتدین سے لڑنے کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ذوالقصد کی طرف گئے جیسا کہ ہم عنقریب اسے بیان کریں گے۔

لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اس سبب سے خفا ہو گئیں کہ آپ کو خیال تھا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی میراث کی حق دار ہیں اور آپ کو اس حدیث کا پتہ نہ تھا جو حضرت صدیق نے آپ کو بتائی کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

”ہم جو ترکہ چھوڑیں اس کا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔“

پس آپ نے اس نص صریح کے باعث حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی دیگر ازواج اور چچا کو آپ کی میراث سے روک دیا، جیسا کہ ہم عنقریب اسے اپنے موقع پر بیان کریں گے، پس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خیر اور فدک کی زمینوں کے صدقہ کی دیکھ بھال کریں تو آپ نے انہیں اس کا جواب نہ دیا کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ جن باتوں کے متولی تھے ان سب کی ذمہ داری آپ پر فرض ہے اور آپ نیک راہ راست پر چلنے والے اور حق کے تابع تھے۔

پس آپ نے حضرت فاطمہ کی ناراضگی مولیٰ۔ اور وہ انسانوں میں سے ایک عورت ہی تھیں جو معصوم نہ تھیں۔ اور وہ آپ سے غصے ہو گئیں اور انہوں نے اپنی وفات تک حضرت صدیق ؓ سے گفتگو نہیں کی اور آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ ان کی کچھ بات کر لیں اور جب آپ نے اپنے باپ ﷺ کی وفات کے تپہ ماہ بعد وفات پائی تو حضرت علی ؓ نے حضرت ابو بکر ؓ کی تجدید بیعت کرنی چاہی جیسا کہ ہم اس بات کو ابھی صحیحین وغیرہ سے بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کی تدفین سے قبل آپ کی بیعت کی۔

اور موسیٰ بن عقبہ نے اپنے مغازی میں سعد بن ابراہیم سے جو بات بیان کی ہے اس سے اس کی صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے باپ عبدالرحمن بن عوف، حضرت عمر ؓ کے ساتھ تھے اور محمد بن مسلمہ نے حضرت زبیر ؓ کی تلوار توڑ دی، پھر حضرت ابو بکر ؓ نے خطبہ دیا اور لوگوں کے پاس معذرت کی اور فرمایا میں شب و روز میں سے کسی وقت امارت کا حریص نہیں ہوا اور نہ میں نے خفیہ اور اعلانیہ اس کے متعلق کبھی درخواست کی ہے، پس مہاجرین نے آپ کی بات کو قبول کر لیا اور حضرت علی اور حضرت زبیر ؓ نے کہا، ہم اس لیے ناراض ہوئے ہیں، کہ ہمیں مشورہ میں پیچھے رکھا گیا ہے اور ہم لوگوں میں سے حضرت ابو بکر ؓ کو اس کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں اور آپ غار کے ساتھی ہیں اور ہم آپ کے حالات اور شرف سے آگاہ ہیں نیز رسول اللہ ﷺ نے آپ کو اپنی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، یہ اسنادِ جدید ہے۔ ولله الحمد و المنہ



کسی شخص کی خلافت کے متعلق کوئی نص^۱ موجود نہیں

اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انصار و مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کا حضرت ابو بکر کی تقدیم پر اجماع تھا اور حضور ﷺ کے اس قول کی دلیل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اور مومنین ابو بکر ہی کو قبول کریں گے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی معین شخص کے لیے خلافت کی نص بیان نہیں فرمائی، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے، جیسا کہ اہل سنت کے ایک گروہ کا خیال ہے اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جیسا کہ روافض کا ایک گروہ کہتا ہے، لیکن آپ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قوی اشارہ کر دیا ہے جسے ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے جیسے کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں اور آئندہ بھی بیان کریں گے، صحیحین میں ہشام بن عروہ کی حدیث سے جو ان کے باپ سے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مروی ہے، لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تو آپ سے دریافت کیا گیا، یا امیر المومنین کیا آپ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو اس نے بھی خلیفہ مقرر کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھا۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو اس نے بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھا، یعنی رسول اللہ ﷺ نے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب آپ نے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے۔

اور سفیان ثوری، عمرو بن قیس سے بحوالہ عمرو بن سفیان بیان کرتے ہیں کہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں پر غلبہ پایا تو فرمایا اے لوگو! رسول اللہ ﷺ نے اس امارت کے متعلق ہمیں کوئی وصیت نہیں کی یہاں تک کہ ہم نے مشورے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا پس آپ نے سیدھا کیا اور سیدھے رہے یہاں تک کہ اپنی راہ پر چل دیئے۔ یا یہ کہا کہ دین خوب مضبوط ہو گیا۔ الخ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ شریک نے ہم سے اسود بن قیس سے بحوالہ عمرو بن سفیان بیان کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ غالب آگئے تو ایک آدمی نے یوم البصرہ کو خطبہ دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس معتدل خطیب نے رسول اللہ ﷺ کو سابق قرار دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دوسرے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تیسرے نمبر پر بیان کیا، پھر ان کے بعد فتنہ نے ہمیں روند دیا اور اللہ اس میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ حافظ نے ہمیں بتایا کہ ابو بکر محمد بن احمد الزکی نے مرو میں ہمیں خبر دی کہ عبد اللہ بن روح المدائنی نے ہم سے بیان کیا کہ شہابہ بن سوار نے ہم سے بیان کیا کہ شعیب بن میمون نے عن حصین بن عبد الرحمن عن شعبی عن ابی وائل ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ ہم پر خلیفہ مقرر نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا، کہ رسول اللہ ﷺ نے خلیفہ مقرر نہیں کیا کہ میں کروں، لیکن اگر ارادہ الہی لوگوں سے بھلائی کا ہو تو وہ عنقریب میرے بعد انہیں اپنے بہترین آدمی پر متفق کر دے گا جیسا کہ اس نے اپنے نبی کے بعد انہیں اپنے بہترین آدمی پر متفق کر دیا تھا۔ یہ اسناد جدید ہے

۱ تیمور یہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر نص بیان فرمائی ہے مگر مصنف کی عبارت اسے برداشت نہیں کرتی۔

لیکن انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔ اور قبل ازیں ہم وہ بات بیان کر چکے ہیں جسے بخاری نے زہری کی حدیث سے عبد اللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہما سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے کہ۔ جب حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکلے تو ایک آنس نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے کس حال میں صبح کی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا 'خدا کے فضل سے آپ نے اچھی حالت میں صبح کی ہے' تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم تو تین بعد از صبح کا غلام ہوگا اور میں بنی ہاشم کے چہروں سے موت کو پہچان لیتا ہوں اور میں رسول اللہ ﷺ کے چہرے پر موت کے آثار دیکھ رہا ہوں پس ہمیں آپ کے پاس لے جاؤ اور ہم آپ سے اس امر کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کن لوگوں میں ہوگا؟ پس اگر وہ ہم میں ہوا تو ہم اسے جان لیں گے اور اگر ہمارے غیروں میں ہوا تو آپ ہمیں اس کے بارے میں حکم دیں گے اور اس کے بارے میں ہمیں وصیت کر دیں گے' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا 'خدا کی قسم! اگر آپ نے ہمیں اس سے روک دیا تو لوگ آپ کے بعد ہمیں اسے کبھی نہیں دیں گے' اور محمد بن اسحاق نے اسے زہری سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں آپ کی وفات کے روز آپ کے پاس آئے۔ اور آخر میں بیان کیا ہے کہ جب اس دن کی دھوپ تیز ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے۔ میں کہتا ہوں یہ سوموار کو آپ کی وفات کے روز ہوا ہوگا' پس معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے امارت کے بارے میں وصیت کیے بغیر وفات پائی۔

اور صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے درمیان اور آپ کے دست و پاؤں لکھنے کے درمیان جو شور حائل ہوا اور قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں ایک تحریر لکھ دیتے ہیں جس کے بعد وہ ہرگز گمراہ نہ ہوں گے' پس جب انہوں نے آپ کے پاس بکثرت شور و اختلاف کیا تو آپ نے فرمایا: میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ' میں جس حالت میں ہوں وہ انہی سے بہتر ہے' جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو۔ اور قبل ازیں ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو قبول کریں گے۔ اور صحیحین میں عبد اللہ بن عون کی حدیث سے ابراہیم التیمی سے بحوالہ اسود مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا 'لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصی مقرر کیا ہے' آپ نے فرمایا کس چیز کا علی کو وصی مقرر کیا ہے؟ آپ نے پیشاب کرنے کے لیے ایک طشت منگوا لیا اور میں آپ کو اپنے سینے سے سہارا دیئے ہوئے تھی' پس آپ جھکے اور فوت ہو گئے اور مجھے پتہ ہی نہ چلا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصی مقرر کیا ہے۔

اور صحیحین میں مالک بن مغول کی حدیث سے بحوالہ طلحہ بن مصرف روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن اوفی سے پوچھا 'کیا رسول اللہ ﷺ نے وصیت کی ہے انہوں نے جواب دیا نہیں' میں نے کہا آپ نے ہمیں وصیت کے متعلق کیا حکم دیا ہے' انہوں نے کہا آپ نے کتاب اللہ کے متعلق وصیت کی ہے' طلحہ بن مصرف اور ہذیل بن شریبل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے وصی پر مسلط ہو گئے ہیں' حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کی کوئی وصیت مل جائے' پس ان کی ناک چھد گئی۔ اور اسی طرح صحیحین میں اعمش کی حدیث سے ابراہیم التیمی عن ابیہ مروی ہے وہ بیان

کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا: جو شخص خیال کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی تحریر ہے جو کتاب اللہ میں موجود نہیں اور ہم اسے پڑھتے ہیں، وہ جھوٹا ہے اور اس صحیفہ میں جو آپ کی تلوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اونٹوں کے دانتوں اور کچھ زخموں کے بارے میں لکھا ہے۔ اور اس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ۔ مدینہ منورہ سے ٹور تک حرم ہے جو شخص اس ایریا میں بدعت ایجاد کرے یا بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے کوئی معاوضہ اور قیمت قبول نہیں کرے گا اور مسلمانوں کی امان ایک ہے جس سے ان کے ادنیٰ آدمی کی شکایت کی جاتی ہے اور جو مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے کوئی معاوضہ اور قیمت قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ حدیث صحیحین وغیرہا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے جو ان کے زعم میں روافض کے فرقہ کار د کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کے بارے میں خلافت کی وصیت کی تھی اگر معاملہ ان کے خیال کے مطابق ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص بھی اسے رد نہ کرتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت فرمانبردار تھے اور اس کے رسول کی زندگی میں اور اس کی وفات کے بعد بھی اس کے خلاف فتویٰ دینے کی نسبت بہت فرمانبردار تھے کہ وہ اس کی نص کے خلاف قدم کو آگے پیچھے کریں، حاشا وکلا و لہما۔ اور جو شخص صحابہ کے متعلق ایسا خیال رکھتا ہے وہ ان سب کی طرف فوراً رسول اللہ ﷺ کی معاندت پر اتفاق اور آپ کے حکم و نص کی مخالفت کو منسوب کرتا ہے اور جو شخص اس مقام تک پہنچ جائے وہ اسلام کے جوئے کو اتار پھینکتا ہے اور بڑے بڑے ائمہ کے اجماع سے کافر ہوجاتا ہے۔ اور اس کے خون کو بہانا، شراب کے بہانے کی نسبت زیادہ جائز ہوتا ہے، پھر اگر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس کون نص ہوتی تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف اپنی امارت و امامت کے لیے جنت کیوں نہ پکڑتے اور اگر انہوں نے اپنے پاس موجودہ نص کو نافذ کرنے کی طاقت نہیں پائی تو وہ عاجز تھے اور عاجز امارت کا اہل نہیں ہوتا، اور اگر وہ طاقت رکھتے تھے اور اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ خائن تھے اور خائن فاسق، امارت سے معزول ہوتا ہے۔ اور اگر انہیں نص کی موجودگی کا علم نہ تھا، تو وہ جاہل تھے، اور اگر انہیں اس کے بعد اس کا علم ہوا ہے تو یہ مجال اور افتراء اور جہل و ضلال ہے اور یہ بات جاہل کمینوں اور فریب خوردہ لوگوں کے اذہان کو اچھی معلوم ہوتی ہے جسے شیطان نے بلا دلیل و برہان ان کو خوبصورت کر کے دکھایا ہے، بلکہ محض تحکم و ہڈیان اور جھوٹ و بہتان سے مزین کر دکھایا ہے، ہم ان کی بکواس و پسپائی اور دیوانگی و کفران سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ہم قرآن و سنت سے تمسخر کرنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اسلام و ایمان پر موت کے خواہان ہیں۔ اور ثبات و ایقان اور میزان کے بھاری کرنے کا پورا حق دینا چاہتے ہیں اور آگ سے نجات اور جنت کو حاصل کرنے میں کامیابی چاہتے ہیں۔ بلاشبہ وہ کریم، منان اور رحیم و رحمان ہے۔

اور قبل ازیں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی صحیحین کی جو حدیث پیش کی ہے اس میں بہت سے جھوٹے اور جاہل داستان سراؤں کے اس دعوے کی تردید پائی جاتی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت سی چیزوں کا وصی مقرر کیا تھا، جنہیں وہ بہت طول دیتے ہیں کہ اے علیؑ ایسا کرنا، اے علیؑ ایسا نہ کرنا، اے علیؑ جس نے ایسا کیا وہ اس طرح ہوگا، یہ باتیں وہ رکب الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں جن کے اکثر معانی کمزور ہیں اور ان میں سے بہت سے الفاظ میں تصحیف پائی جاتی

ہے جو کاغذ کے سیاہ کرنے کے ہم پایہ بھی نہیں۔ واللہ اعلم

اور حافظ بیہقی نے حماد بن عمرو النصبی جو ایک کذاب اور حدیثیں گھڑنے والا ہے۔ کے طریق سے السری بن الخلد سے عن جعفر بن محمد عن ابی عن جدہ عن علی بن ابی طالب عن النبی ﷺ روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: اے علی! میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں اسے یاد رکھنا اور جب تک تو اسے یاد رکھے گا ہمیشہ بھلائی میں رہے گا! اے علی! مومن کی تین علامات ہیں: نماز، زکوٰۃ اور روزے۔ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ اس نے رغائب و آداب کے متعلق طویل حدیث بیان کی ہے اور وہ موضوع حدیث ہے۔ اور میں نے کتاب کے پہلے حصے میں شرط عائد کی ہے کہ میں اس میں اس حدیث کو بیان نہیں کروں گا، جس کے متعلق مجھے علم ہے کہ یہ موضوع ہے۔ پھر اس نے حماد بن عمرو کے طریق سے روایت کی ہے اور یہ حدیث زید بن رفیع سے بحوالہ مکحول شامی مروی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ غزوہ حنین سے واپس آئے تو آپ نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائی اور آپ پر سورۃ نصر نازل ہوئی، بیہقی بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے سامنے فتنہ کے بارے میں ایک طویل حدیث بیان کی، وہ بھی اسی طرح منکر حدیث ہے جس کی کوئی اصل نہیں اور صحیح احادیث میں ہی کفایت پائی جاتی ہے۔

اس جگہ پر ہم حماد بن عمرو ابی اسماعیل النصبی کے حالات بیان کرتے ہیں، اعمش وغیرہ سے مروی ہے اور اس سے ابراہیم بن موسیٰ، محمد بن مہران اور موسیٰ بن ایوب وغیرہ نے روایت کی ہے کہ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا اور حدیثیں وضع کرتا ہے۔ اور عمرو بن علی الفلاس اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث اور بہت ضعیف ہے اور ابو زرہ کہتے ہیں کہ کمزور حدیث ہے اور نسائی اسے متروک کہتے ہیں اور ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں وضع کرتا ہے اور ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی عام حدیثوں میں کوئی ثقہ آدمی اس کی متابعت نہیں کرتا، دارقطنی کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے اور حاکم ابو عبد اللہ کہتے ہیں کہ وہ ثقافت سے موضوع احادیث روایت کرتا ہے اور ایک دفعہ لغزش کھانے والا ہے۔ اور وہ حدیث جس کے متعلق حافظ بیہقی نے بیان کیا ہے کہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حافظ نے ہمیں بتایا کہ حمزہ بن عباس عقی نے ہمیں بغداد میں بتایا کہ عبد اللہ بن روح المدائنی نے ہم سے بیان کیا کہ سلام بن سلیمان المدائنی نے ہم سے بیان کیا کہ سلام بن سلیم الطویل نے عن عبد الملک بن عبد الرحمن عن الحسن المقبری عن الاشعث بن طلق عن مرہ بن سراہیل عن عبد اللہ بن مسعود ہم سے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں اٹکلبار ہو گئیں، پھر آپ نے ہمیں فرمایا: جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے اور آپ نے خود ہمیں اپنی موت کی اطلاع دی، پھر فرمایا تمہیں کشادگی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ تم کو باقی رکھے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں فائدہ دے، اللہ تمہیں توفیق دے، اللہ تم کو راہ راست دکھائے، اللہ تمہیں بچائے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تم کو قبول کرے، میں تمہیں تقویٰ اللہ کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ کو تمہاری وصی بناتا ہوں اور اسے تم پر قائم مقام بناتا ہوں، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح انتباہ کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عباد و بلاد کے بارے میں سرکشی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے اور تمہارے لیے بیان کیا ہے:

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَانْعَابَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

اور فرمایا ہے: ﴿اليس في جهنم مثوى للمتكبرين﴾ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کی وفات کب ہوگی؟ فرمایا موت قریب آگئی ہے اور اللہ اور سدرة المنتہیٰ اور بھر پور جام اور شاندار ہست کی طرف ٹھکانہ ہوگا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو کون غسل دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کے قریبی آدمی اور قریبی بہت سے ملائکہ کے ساتھ غسل دیں گے، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم کس میں آپ کو کفن دیں؟ فرمایا اگر تم چاہو تو میرے ان کپڑوں میں کفن دو یا ہمیں چادروں میں یا مصر کے سفید کپڑوں میں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ رو پڑے اور ہم بھی روئے۔ اور فرمایا ٹھہرو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور تمہیں تمہارے نبی کی طرف سے جزا دے، جب تم مجھے غسل دے چکو اور خوشبو لگا چکو اور کفن دے چکو تو مجھے میری قبر کے کنارے پر رکھ دینا، پھر کچھ وقت کے لیے میرے پاس سے چلے جانا بلاشبہ سب سے پہلے میرے دو دوست اور ہم نشین جبریل اور میکائیل میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر اسرافیل پڑھے گا، پھر ملک الموت ملائکہ کی فوجوں کے ساتھ میرا جنازہ پڑھے گا۔ چاہیے کہ میرے اہل بیت کے مرد مجھ پر جنازہ پڑھنے کا آغاز کریں، پھر ان کی عورتیں پڑھیں، پھر فردا اور جماعت در جماعت میرے پاس آئیں اور کسی رونے والی بلند آواز اور شور سے مجھے اذیت نہ دیں اور میرے اصحاب میں سے جو شخص غائب ہے اسے میرا سلام پہنچا دینا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور جس نے آج سے لے کر قیامت کے روز تک میرے دین میں میری متابعت کی ہے سلام کہہ دیا ہے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ کی قبر میں آپ کو کون داخل کرے گا؟ فرمایا میرے قریبی اہل بیت کے آدمی، اور وہ قریبی بہت سے ملائکہ کے ساتھ ہوں گے، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ پھر یہی بیان کرتے ہیں کہ احمد بن یونس نے سلام الطویل سے اس کی متابعت کی ہے اور سلام الطویل اس کی روایت میں متفرد ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ سلام بن مسلم ہے اور کہتے ہیں کہ ابن سلیم ہے اور اسے ابن سلیمان بھی کہا جاتا ہے، مگر پہلانا زیادہ صحیح ہے یعنی سلام بن مسلم التیمی السعدی الطویل، اور وہ حضرت جعفر صادق، حمید الطویل، زید العمی اور ایک جماعت سے روایت کرتا ہے اور اسی طرح ایک جماعت اس سے روایت کرتی ہے جن میں احمد بن عبد اللہ بن یونس، اسد بن موسیٰ، خلف بن ہشام البزاز علی بن الجحد قبیصہ بن عقبہ شامل ہیں اور علی بن المدائنی، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، بخاری، ابو حاتم، ابو زرعہ، جوزجانی، نسائی اور کئی آدمیوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض ائمہ نے اسے کاذب قرار دیا ہے اور دوسروں نے اسے ترک کر دیا ہے، لیکن اس حدیث کو ایک طویل عبارت کے ساتھ ابو بکر البزاز نے اس سلام کے طریق کے علاوہ کسی اور طریق سے روایت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ محمد بن اسماعیل حمسی نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن محمد محاربی، بحوالہ ابن اصہبانی ہم سے بیان کیا کہ اسے مرہ سے بحوالہ عبد اللہ بتایا گیا، پھر اس نے پوری طوالت کے ساتھ حدیث کو بیان کیا ہے، پھر البزاز بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مرہ سے کئی طریق سے متقارب اسانید کے ساتھ روایت کی گئی ہے، اور عبد الرحمن ابن اصہبانی نے اس حدیث کو مرہ سے نہیں سنا بلکہ اس سے سنا ہے جس نے اسے بحوالہ مرہ خبر دی تھی اور میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے اسے عبد اللہ سے بحوالہ مرہ روایت کیا ہو۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت آپ کی عمر اور آپ کے غسل کی کیفیت اور جنازہ

اور قبر کی جگہ کے بیان میں

بلا اختلاف آپ کی وفات سوموار کو ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی سوموار کو پیدا ہوئے، سوموار کو نبی بنے، سوموار کو مکہ سے مہاجر بن کر نکلے، سوموار کو مدینہ میں داخل ہوئے اور سوموار کو فوت ہوئے، اسے امام احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور سفیان ثوری عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کس روز فوت ہوئے تھے؟ میں نے کہا سوموار کو، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں بھی سوموار کو فوت ہوں گا، پس آپ نے بھی سوموار کو وفات پائی۔ بیہقی نے اسے ثوری کی حدیث سے روایت کیا ہے، اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اسود بن عامر نے ہم سے بیان کیا کہ حریم نے ہم سے بیان کیا کہ ابن اسحاق نے عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سوموار کو فوت ہوئے اور بدھ کی رات کو دفن ہوئے، احمد اس کی روایت میں متقدم ہیں۔ اور عروہ بن زبیر اپنے مغازی میں بیان کرتے ہیں۔ اور موسیٰ بن عقبہ بنحوالہ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر کی طرف اور حضرت حفصہ نے حضرت عمر کی طرف اور حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور وہ اکٹھے نہ ہو سکے حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی، اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے کا سہارا لیے ہوئے تھے، اور وہ آپ کی باری کا دن سوموار تھا، اور یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب ربیع الاول کے چاند کے لیے سورج ڈھل جاتا ہے۔ اور ابو یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابو یثیمہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابن عیینہ نے زہری سے بحوالہ انس ہم سے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوموار کے روز رسول اللہ ﷺ پر آخری نگاہ ڈالی، آپ نے پردہ اٹھایا اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے تھے، پس میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا گویا وہ مصحف کا ورق ہے، پس لوگوں نے ایک طرف ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے انہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور پردہ گرا دیا اور اسی دن کے آخر میں فوت ہو گئے۔ یہ حدیث صحیح میں ہے جو اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ وفات زوال کے بعد ہوئی تھی۔ واللہ اعلم

اور یعقوب بن سفیان نے عبد الحمید بن بکار سے عن محمد بن شعیب عن صفوان عن عمر بن عبد الواحد سے روایت کی ہے، اور ان سب نے اوزاعی سے روایت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سوموار کے روز نصف دن گزرنے سے قبل ہی فوت ہو گئے، اور بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ حافظ نے ہمیں بتایا کہ احمد بن حنبل نے ہمیں خبر دی کہ حسن بن علی المزار نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن عبد الاعلیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ معتمر بن سلیمان نے اپنے باپ سلیمان بن ترخان التمیمی سے کتاب المغازی میں ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ۲۲ صفر کی رات کو بیمار ہوئے، اور آپ کو تکلیف کا آغاز اپنی ایک لونڈی کے پاس ہوا

تھے ریغاً کہا جاتا تھا جو یہودی قیدیوں میں سے تھی اور سب سے پہلے آپ ہفتہ کے روز بیمار ہوئے اور آپ کی وفات سوموار کے روز ہوئی جبکہ ماہ ربیع الاول کی دو راتیں گزر چکی تھیں اور آپ کو مدینہ آنے پورے دس سال ہو چکے تھے۔

واقدی بیان کرتا ہے کہ ابو معشر نے بحوالہ محمد قیس ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بدھ کے روز جبکہ ۱۱ھ کے صفر کی گیارہ راتیں باقی تھیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر میں شدید بیمار ہو گئے اور آپ کے پاس آپ کی سب بیبیاں جمع ہو گئیں اور آپ تیرہ دن بیمار رہے اور سوموار کے روز جبکہ ۲ھ کے ربیع الاول کی دو راتیں گزر چکی تھیں فوت ہو گئے۔ نیز واقدی بیان کرتا ہے کہ مؤرخین کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی بیماری کا آغاز بدھ کے روز ہوا جبکہ صفر کی دو راتیں باقی تھیں اور ۱۲ ربیع الاول کو سوموار کے روز آپ نے وفات پائی اور اسی پر محمد بن سعد نے جو اس کے کاتب ہیں بزم کیا ہے اور یہ اضافہ بھی کیا ہے اور آپ منگل کے روز دفن ہوئے۔

واقدی کا بیان ہے کہ سعید بن عبد اللہ بن ابی الابيض نے بحوالہ المقبری مجھ سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن رافع نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کی بیماری کا آغاز ہوا اور یعقوب بن سفیان بیان کرتا ہے کہ احمد بن یونس نے ہم سے بیان کیا کہ ابو معشر نے بحوالہ محمد بن قیس ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ تیرہ دن بیمار رہے اور جب آپ تکلیف میں کی پاتے تو نماز پڑھاتے اور جب تکلیف بڑھ جاتی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے۔

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ۱۲ ربیع الاول کو اس روز فوت ہوئے جس روز آپ مہاجر بن کر مدینہ آئے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی ہجرت کے دس سال مکمل کیے۔ واقدی کا بیان ہے کہ ہمارے نزدیک یہی ثابت ہے اور اس کے کاتب محمد بن سعد نے اس پر بزم کیا ہے۔ اور یعقوب بن سفیان نے بحوالہ لیث بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سوموار کے روز وفات پائی جبکہ ربیع الاول کی دو راتیں گزر چکی تھیں اور آپ کے مدینہ آنے پر دس سال پورے ہو چکے تھے اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ اور واقدی نے اسے ابو معشر سے بحوالہ محمد بن قیس ایسے ہی بیان کیا ہے اور خلیفہ بن خیاط نے بھی اسے اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور ابو نعیم الفضل بن دکین بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی آمد مدینہ کے گیارہویں سال ربیع الاول کے شروع میں وفات پائی اور ابن عساکر نے بھی اسے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور ہم نے ابھی عروہ اور موسیٰ بن عقبہ اور زہری کے مغازی سے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بھی اس کی مانند ہے۔ واللہ اعلم

اور ابن اسحاق اور واقدی کا قول مشہور ہے اور واقدی نے اسے حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم بن یزید نے عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے بیان کیا اور محمد بن عبد اللہ نے عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے بیان کیا یہ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ۱۲/ربیع الاول کو وفات پائی۔ اور ابن اسحاق نے اسے عبد اللہ بن ابوبکر بن حزم سے اس کے باپ کے حوالے سے اسی طرح روایت کیا ہے اور یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ کو بدھ کی شب کو دفن کیا گیا اور سیف بن عمر نے عن محمد بن عبید اللہ العزمری عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کو ادا کر لیا تو آپ کو حج کر کے مدینہ آ گئے اور وہاں ذوالحجہ کا بقیہ مہینہ اور محرم

اور صفر قیام کیا اور ۱۰ ربیع الاول کو سوموار کے روز وفات پائی اور اسی طرح محمد بن اسحاق سے عن زہری عن عمرو روایت کی گئی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں بھی جو عن عمرہ عن عائشہ مروی ہے اسی طرح بیان ہوا ہے ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے شرح میں کہا ہے کہ ربیع الاول کے کچھ دن گزر چکے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ ربیع الاول کے کچھ دن گزرنے کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔

فائدہ:

ابوالقاسم السہیلی، البرونی میں بیان کرتے ہیں: جس کا مضمون یہ ہے کہ ۱۲/ربیع الاول ۱۱ھ کو سوموار کے روز رسول اللہ ﷺ کی وفات کا وقوع متصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے ۱۱ھ کے حجۃ الوداع میں جمعہ کے روز وقوف کیا، اور کیم ذوالحجہ جمعرات کو تھی، پس اس لحاظ سے کہ مہینوں کو مکمل یا ناقص، یا بعض کو مکمل اور بعض کو ناقص شمار کیا جائے، یہ متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ سوموار کا دن ۱۲/ربیع الاول کو ہو، اور اس قول پر یہ اعتراض مشہور ہو چکا ہے، اور ایک جماعت نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور اس کا جواب صرف ایک ہی طریق سے دینا ممکن ہے۔ اور وہ یہ کہ مطالع میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس طرح ممکن ہے کہ اہل مکہ نے ذوالحجہ کا چاند جمعرات کی شب کو دیکھا ہو، اور اہل مدینہ نے اسے جمعہ کی شب کو دیکھا ہو، اور اس کی تائید حضرت عائشہ وغیرہا کے قول سے ہوتی ہے، کہ ذوالحجہ کی پانچ راتیں باقی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ سے حجۃ الوداع کے لیے نکلے۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے متعین ہو جاتا ہے کہ آپ ہفتہ کے روز نکلے، اور اہل حزم کا خیال درست نہیں کہ آپ جمعرات کے روز نکلے، کیونکہ اس طرح بلا شک و شبہ پانچ سے زیادہ راتیں باقی رہتی ہیں اور جمعہ کے روز آپ کا نکلنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ظہر کی نماز چار رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز دو رکعت پڑھی، پس متعین ہو گیا کہ آپ ہفتہ کے روز نکلے جبکہ ذوالقعدہ کی پانچ راتیں باقی رہتی تھیں۔ اس لحاظ سے اہل مدینہ نے ذوالحجہ کا چاند جمعہ کی رات کو دیکھا اور جب اہل مدینہ کے نزدیک کیم ذوالحجہ جمعہ کو ہو، اور اس کے بعد مہینوں کو پورا شمار کیا جائے تو کیم ربیع الاول جمعرات کو ہوگی اور ۱۲/ربیع الاول کو سوموار ہوگا۔

اور صحیحین میں مالک کی حدیث سے عن ربیعہ عن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ حضور ﷺ نہ دراز قد تھے اور نہ کوتاہ قد تھے نہ بہت سفید تھے نہ گندم گوں نہ چھوٹے نہ گھونگر یا لے بالوں والے تھے اور نہ سیدھے بالوں والے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث فرمایا آپ نے مکہ میں دس سال اور مدینہ میں دس سال قیام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساٹھ سال کی عمر میں وفات دی اور آپ کے سر اور داڑھی میں بیس سفید بال نہ تھے اور اسی طرح اسے ابن وہب نے عن عمرو عن زہری عن انس و عن قرہ بن ربیعہ عن انس روایت کیا ہے اور حافظ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ قرہ نے جو حدیث زہری سے روایت کی ہے وہ غریب ہے اور ربیعہ نے انس سے جو روایت کی ہے اسے اس سے ایک جماعت نے اسی طرح روایت کیا ہے، پھر اس نے سلیمان بن بلال کے طریق سے عن یحییٰ بن سعید و ربیعہ عن انس سے تقویت دی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور اسی طرح ابن البربری اور نافع بن ابی نعیم نے اسے ربیعہ سے بحوالہ انس روایت کیا ہے اور وہ بیان کرتے

ہیں کہ ربیعہ سے بحوالہ انس ساٹھ سال بنی محفوظ ہیں۔ پھر ابن حسا کرنے سے مالک اور اسی سحر ابراہیم بن طہمان عبد اللہ بن عمر سلیمان بن بلال انس بن بلال انس بن عیاش الدراوردی اور محمد بن قیس نے طریق سے بیان کیا ہے اور ان سب نے ربیعہ سے بحوالہ انس روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔

اور یہی بیان کرتے ہیں کہ ابوالحسین بن بشران نے ہمیں بتایا کہ ابو عمرو بن سماک نے ہم سے بیان کیا کہ ضبل بن اسحاق نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عمر عبد اللہ بن عمرو نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الوارث نے ہم سے بیان کیا کہ ابو غالب باہلی نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی، انہوں نے جواب دیا چالیس سال، راوی نے پوچھا پھر کیا ہوا انہوں نے جواب دیا کہ آپ دس سال مکہ میں رہے دس سال مدینہ میں رہے پس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی آپ کے ساٹھ سال پورے ہو چکے تھے اور آپ بڑے طاقتور، حسین و جمیل اور مضبوط تھے۔ اور امام احمد نے اسے عبد الصمد بن عبد الوارث سے اس کے باپ کے حوالے سے روایت کیا ہے، اور مسلم نے عن ابوغسان محمد بن عمرو الرازی ملقب رشح عن حکام بن مسلم عن عثمان بن زائدہ عن زبیر بن عدی عن انس بن مالک روایت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات تریسٹھ سال کی عمر میں ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات بھی تریسٹھ سال کی عمر میں ہوئی، مسلم اس کی روایت میں متفرد ہیں۔

اور قبل ازیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو بیان کیا گیا ہے، یہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ عرب اکثر کسور کو حذف کر دیتے ہیں، اور صحیحین میں لیث بن سعد کی حدیث سے عن عقیل عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان ہوا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات تریسٹھ سال کی عمر میں ہوئی، زہری بیان کرتے ہیں کہ سعید بن المسیب نے مجھے اس کی مانند خبر دی، اور موسیٰ بن عقبہ، عقیل، یونس بن یزید اور ابن جریج نے زہری سے عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ شیبان نے ہم سے عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن عائشہ و ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ مکہ میں دس سال ٹھہرے اور آپ پر قرآن اترتا رہا، اور مدینہ میں بھی دس سال ٹھہرے، اسے مسلم نے روایت نہیں کیا، اور ابوداؤد طیالسی اپنے مسند میں بیان کرتے ہیں کہ شعبہ نے عن ابی اسحاق عن عامر بن سعد عن جریر بن عبد اللہ عن معاویہ بن ابی سفیان، ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی، اور اسی طرح مسلم نے اسے غندر کی حدیث سے بحوالہ شعبہ روایت کیا ہے۔ اور بخاری کو چھوڑ کر یہ اس کے افراد میں سے ہے اور ان میں کچھ لوگ عامر بن سعد سے بحوالہ معاویہ بھی بیان کرتے ہیں، مگر صحیح وہی ہے جسے ہم نے عامر بن سعد سے عن جریر بن معاویہ بیان کیا ہے۔ اور ہم نے عامر بن شراحیل کے طریق سے، عن شععی عن جریر بن عبد اللہ البجلی عن معاویہ روایت کی ہے، اور حافظ ابن عساکر نے قاضی ابو یوسف کے طریق سے یحییٰ بن سعید انصاری سے بحوالہ انس روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور ابن لہیعہ ابو الاسود سے عن عروہ

عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں: آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما نے میرے ہاں ایک دوسرے سے اپنی اپنی پیدائش کا ذکر کیا اور رسول اللہ ﷺ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما سے بڑے تھے پس رسول اللہ ﷺ نے تیرہ ٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما نے بھی آپ کے بعد تیرہ ٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور ثوری نے اعمش سے بحوالہ قاسم بن عبد الرحمن بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے تیرہ ٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور ضہل بیان کرتے ہیں کہ امام احمد نے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید نے بحوالہ سعید بن المسیب ہم سے بیان کیا کہ ۴۳ سال کی عمر میں حضرت نبی کریم ﷺ پر وحی اتری اور مکہ اور مدینہ میں آپ نے دس دس سال قیام کیا اور یہ آپ سے غریب روایت ہے اور آپ کی طرف صحیح منسوب ہے احمد بیان کرتے ہیں کہ ہشیم نے ہم سے بیان کیا کہ داؤد بن ابی ہند نے بحوالہ شععی ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے اور تین سال ٹھہرے رہے پھر جبریل رسالت کے ساتھ آپ کے پاس بھیجے گئے پھر اس کے بعد آپ دس سال ٹھہرے رہے پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور تیرہ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تیرہ سال عمر ثابت ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اسی طرح مجاہد نے شععی سے روایت کی ہے اور اسماعیل بن خالد کی حدیث سے بھی اسے روایت کیا ہے اور صحیحین میں روح بن عبادہ کی حدیث سے عن زکریا بن اسحاق عن عمرو بن دینار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تیرہ سال مکہ میں قیام کیا اور تیرہ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور صحیح بخاری میں اسی طرح روح بن عبادہ کی حدیث سے عن ہشام عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور تیرہ سال مکہ میں قیام کیا پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے دس سال ہجرت کی پھر تیرہ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور اسی طرح امام احمد نے اسے روح بن عبادہ یحییٰ بن سعید اور یزید بن ہارون سے روایت کیا ہے اور ان سب نے عن ہشام بن حسان عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور ابو یعلیٰ موصلی نے بھی اسے اسی طرح عن الحسن بن عمر بن شقیق عن جعفر بن سلیمان عن ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے پھر اس نے اسے کئی طرق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مانند بیان کیا ہے۔

اور مسلم نے اسے حماد بن سلمہ کی حدیث سے ابو حمزہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں تیرہ سال قیام کیا اور آپ پر وحی ہوتی تھی اور مدینہ میں دس سال قیام کیا اور تیرہ سال کی عمر میں وفات پائی اور حافظ ابن عساکر نے مسلم بن جناہ کے طریق سے عن عبد اللہ بن عمر عن کریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تقویت دی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تیرہ سال کی عمر میں وفات پائی اور ابو نضرہ کی حدیث سے عن سعید بن المسیب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور یہی قول زیادہ مشہور ہے اور اکثریت اسی پر قائم ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل نے ہم سے بحوالہ خالد الخداء بیان کیا کہ بنی ہاشم کے غلام عمار نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے پینٹھ برس کی عمر میں وفات پائی اور مسلم نے اسے خالد

الخداء سے روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ حسن بن موسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن سلمہ نے عمار بن ابی عمار سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سال مکہ میں قیام کیا آٹھ یا سات سال آپ روشنی دیکھتے اور آواز سنتے رہے اور آٹھ یا سات سال آپ پر وہی ہوتی رہی اور مدینہ میں اس سال قیام کیا اور مسلم نے اسے حماد بن سلمہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

اور اسی طرح امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عثمان نے ہم سے بیان کیا کہ یزید بن زریع سے نے ہم سے بیان کیا کہ یونس نے بنی ہاشم کے غلام عمار کے حوالے سے ہم سے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ کی عمر کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں نہیں خیال کرتا کہ لوگوں میں تجھ جیسے آدمی سے یہ بات مخفی ہو۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا ہے تو مجھ پر بات مشتبہ ہو گئی ہے اور میں اس بارے میں آپ کے قول کو معلوم کرنا پسند کرتا ہوں آپ نے فرمایا تو حساب کر سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں آپ نے فرمایا۔ چالیس سال کی عمر میں آپ مبعوث ہوئے پندرہ سال خوف و اسن کی حالت میں مکہ میں قیام کیا اور دس سال مدینہ میں مہاجر بن کر قیام کیا۔ اور اسی طرح اسے مسلم نے یزید بن زریع اور شعبہ بن الحجاج کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے عن یونس عن عبید عن عمار عن ابن عباس اسی طرح روایت کی ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابن نمیر نے ہم سے بیان کیا کہ العلاء بن صالح نے ہم سے بیان کیا کہ المنہال بن عمرو نے بحوالہ سعید بن جبیر ہم سے بیان کیا کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دس سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں وہی نازل ہوئی آپ نے فرمایا کون ایسا کہتا ہے؟ مکہ میں آپ پر پندرہ سال اور مدینہ میں آپ پر دس سال وہی نازل ہوئی یہ پینسٹھ سال یا زیادہ ہوئے۔ اور یہ روایت اسناد یا متن کے لحاظ سے احمد کے افراد میں سے ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہشیم نے ہم سے بیان کیا کہ علی بن زید نے یوسف بن مہران سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں اور ترمذی نے کتاب الشمائل میں اور ابو یعلیٰ موصلی اور بیہقی نے قتادہ کی حدیث سے حسن بصری سے بحوالہ دغفل بن حنظلہ شیبانی نسابہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔ پھر امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ دغفل کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کرنا معروف نہیں یہ آپ کے زمانے میں پیادہ تھا اور بیہقی بیان کرتے ہیں کہ یہ عمار اور اس کے تابعین کی روایت کے موافق ہے جو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کی ہے۔

اور ایک جماعت کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تریسٹھ سال روایت کرنا صحیح ہے اور وہ زیادہ ثقہ اور بکثرت ہیں اور ان کی روایت اس صحیح روایت کے موافق ہے جو عن عروہ عن عائشہ مروی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اور حضرت معاویہ کی صحیح روایت کے بھی موافق ہے اور وہ روایت حضرت سعید بن المسیب، عامر شعبی اور ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔

میں کہتا ہوں، عبد اللہ بن عقبہ، قاسم بن عبد الرحمن، حسن بصری، علی بن اُحسین اور ثئی لوکوں کے وہ غریب اقوال جنہیں خلیفہ بن خیاط نے معاذ بن ہشام سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے بحوالہ قتادہ مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے باسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور یعقوب بن سفیان نے اسے عن محمد بن ایشی عن معاذ ابن ہشام عن ابیہ عن قتادہ اسی طرح بیان کیا ہے اور زید اُمی نے اسے یزید سے بحوالہ انس روایت کیا ہے اور اس میں وہ روایت بھی ہے جسے اس نے محمد بن عابد سے عن قاسم بن حمید عن نعمان بن منذر نسائی عن مکحول روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے باسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان سب سے ملتی جلتی وہ روایت ہے جسے امام احمد نے روح عن سعید بن ابی عمرو عن قتادہ عن حسن روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم رسول کریم ﷺ پر مکہ میں آٹھ سال تک اور ہجرت کے بعد دس سال تک نازل ہوا، اگرچہ حسن جمہور کے قول کے قائل ہیں، جو یہ ہے کہ حضور ﷺ پر چالیس سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا، مگر ان کا خیال ہے کہ حضور ﷺ اٹھاون سال زندہ رہے، یہ روایت بہت غریب ہے لیکن ہم نے مسدد کے طریق سے ہشام بن حسان سے بحوالہ حسن روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔

اور خلیفہ بن خیاط بیان کرتا ہے کہ ابو عاصم نے ہم سے عن اشعث عن حسن بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ۴۵ سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور آپ نے مکہ میں دس سال اور مدینہ میں آٹھ سال قیام کیا اور تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی، اور یہ اس بیان کے مطابق بہت ہی غریب ہے۔ واللہ اعلم



آپ کے غسل کا بیان

قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سوموار کا بقیہ دن اور منگل کے دن کا چھ حصہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں مصروف رہے پس جب بیعت کا معاملہ استوار ہو گیا تو ازاں بعد وہ ہر پیش آمدہ مشکل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی تجہیز میں لگ گئے، ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی تو منگل کے روز لوگ رسول اللہ ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے اور قبل ازیں ابن اسحاق کی حدیث سے عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سوموار کے روز فوت ہوئے اور بدھ کی شب کو دفن ہوئے اور ابو بکر بن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ ابو معاویہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابو بردہ نے ہم سے عن علقمہ بن مرثد عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ بیان کیا کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کو غسل دینے کی تیاری کی تو اندر سے ایک پکارنے والے نے انہیں آواز دی کہ رسول اللہ ﷺ کی قمیص نہ اتارنا۔ اور ابن ماجہ نے اسے ابو معاویہ کی حدیث سے بحوالہ ابی بردہ روایت کیا ہے۔ اور ابو بردہ کا نام عمرو بن یزید تمیمی کوئی ہے۔

اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر نے اپنے باپ کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے سنا کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت ﷺ کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے کپڑے اسی طرح اتار دیں جیسے ہم اپنے مردوں کے اتارتے ہیں یا کپڑوں سمیت آپ کو غسل دے دیں؟ جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند نازل کر دی یہاں تک کہ ہر ایک کی ٹھوڑی اس کے سینے پر آ گئی پھر بیت اللہ کی جانب سے ایک بات کرنے والے نے ان سے بات کی انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے: ”کہ رسول اللہ ﷺ کو کپڑوں سمیت غسل دے دو“ پس وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے اور آپ کو قمیص سمیت غسل دے دیا، وہ قمیص کے اوپر پانی ڈالتے اور آپ کو ہاتھ لگائے بغیر قمیص کے ساتھ ملتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں، اگر مجھے اپنے معاملے کا پہلے علم ہوتا تو میں جستجو نہ کرتی، رسول اللہ ﷺ کو آپ کی بیویوں نے غسل دیا ہے۔ اسے ابو داؤد نے ابن اسحاق کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

اور امام احمد نے بیان کیا ہے کہ یعقوب نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے ابن اسحاق سے ہم سے بیان کیا کہ حسین بن عبد اللہ نے عکرمہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے بیان کیا کہ لوگ رسول اللہ ﷺ کو غسل دینے کے لیے اکٹھے ہوئے اور آپ کے گھر میں آپ کی بیویوں آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب اور حضرت علی بن ابی طالب، فضل بن عباس، قثم بن عباس، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اور آپ کے غلام صالح کے سوا اور کوئی آدمی موجود نہ تھا، پس جب وہ غسل دینے کے لیے اکٹھے ہوئے تو لوگوں کے پیچھے سے بنی عوف بن خزرج کے ایک آدمی اوس بن خولی انصاری نے جو بدری تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور کہا اے علی رضی اللہ عنہ! ہم آپ سے اللہ کے نام پر اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا بھی رسول اللہ ﷺ میں کچھ حصہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا اندر آ جاؤ وہ اندر آ گئے اور رسول اللہ ﷺ کے غسل کے موقع پر آوجود ہوئے لیکن انہوں نے آپ کے غسل میں

کوئی حصہ نہیں لیا، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو قمیص سمیت اپنے سینے کے ساتھ سہارا دیا اور حضرت عباس، فضل اور قثم، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ آپ کو لٹے پلٹے لگے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما اور آپ کے غلام صالح پانی ڈالنے لگے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو غسل دینے لگے اور آپ نے رسول اللہ ﷺ کے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو مردہ کے جسم میں دیکھی جاتی ہے اور آپ کہہ رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ زندہ اور مردہ ہونے کی حالت میں کس قدر پاکیزہ ہیں حتیٰ کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے غسل سے فارغ ہو گئے۔ اور آپ کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے آپ کے جسم کو خشک کیا، پھر آپ کے ساتھ وہ کیا جو مردہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، پھر آپ کو تین کپڑوں میں لپیٹا گیا، جن میں سے دو کپڑے سفید تھے اور ایک یعنی چادر تھی، راوی بیان کرتا ہے، پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اہل مکہ کی قبریں کھودا کرتے تھے اور دوسرا حضرت ابو طلحہ ابن سہل انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کی لحد کھودا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے جس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آدمیوں کو بھیجا، تو فرمایا اے اللہ اپنے رسول کے لیے بہتر بات کو انتخاب کر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جو شخص حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ملے اور جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسے مل گئے۔ پس ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد بنائی، احمد اس کی روایت میں منفرد ہیں۔

اور یونس بن کثیر، منذر بن ثعلبہ سے عن الصلت بن العلیاء ابن احمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فضل رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کو غسل دیتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آواز دی گئی کہ اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائیے، یہ حدیث منقطع ہے۔ میں کہتا ہوں، بعض اہل سنن نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ اپنی ران نمایاں نہ کرنا اور نہ کسی زندہ اور مردہ کی ران کو دیکھنا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو حکم دیا ہے اس میں یہ خبر پائی جاتی ہے کہ اس سے آپ کی اپنی ذات مراد ہے۔ واللہ اعلم

حافظ ابو بکر بیہقی بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں بتایا کہ محمد بن یعقوب نے ہمیں خبر دی کہ یحییٰ بن محمد بن یحییٰ نے ہم سے بیان کیا کہ حمزہ نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الواحد بن زیاد نے ہم سے بیان کیا کہ معمر نے ہم سے زہری سے بحوالہ سعید بن المسیب بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو غسل دیا تو میں میت کے ان امور کو دیکھنے لگا جو اس کے لاحق حال ہوتے ہیں تو میں نے کچھ بھی نہ دیکھا، اور آپ زندہ اور مردہ ہونے کی حالت میں پاکیزہ تھے۔ اور ابو داؤد نے اسے المر اسیل میں اور ابن ماجہ نے اسے معمر کی حدیث سے روایت کیا ہے، اور بیہقی نے اپنی روایت میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے دفن کا کام چار آدمیوں حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ ﷺ کے غلام صالح نے سنبھالا، انہوں نے آپ کے لیے لحد بنائی اور اس پر اینٹیں کھڑی کیں، اور اس قسم کی ایک روایت تابعین کی ایک جماعت سے بھی، جن میں عامر الشعمی، محمد بن قیس اور عبد اللہ بن الحارث وغیرہ شامل ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، جس کی تفصیل اس جگہ باعث طوالت ہوگی، اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو عمرو بن کسان نے یزید بن

بلال سے روایات کی ب کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے وصیت کی ہے کہ میرے سوا انہیں کوئی غسل نہ دے اس لیے کہ جو کوئی میرے ان اعضاء کو دیکھے گا جنہیں شرم کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے اس کی آنکھیں جاتی رہیں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما مجھے پردہ کے پیچھے سے پانی پکڑاتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو نہی میں کسی عضو کو پکڑتا ہوں یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تیس آدمی اسے اٹھ پٹتے رہے ہیں یہاں تک کہ میں آپ کے غسل دینے سے فارغ ہو گیا۔ اور حافظ ابو بکر البرزازی نے اس حدیث کو اپنے مسند میں درج کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عبدالرحیم نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالصمد بن العمان نے ہم سے بیان کیا کہ کيسان ابو عمر نے بحوالہ یزید بن بلال ہم سے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے وصیت کی کہ میرے سوا کوئی اور شخص انہیں غسل نہ دے اور جو کوئی میرے ان اعضاء کو دیکھے گا جنہیں شرم کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے اس کی آنکھیں جاتی رہیں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما پردے کے پیچھے سے مجھے پانی پکڑاتے تھے میں کہتا ہوں یہ حدیث بہت ہی غریب ہے اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ محمد بن موسیٰ بن الفضل نے ہمیں بتایا کہ ابو العباس اسم نے ہم سے بیان کیا کہ اسید بن عاصم نے ہم سے بیان کیا کہ حسین بن حفص نے سفیان سے بحوالہ عبدالملک بن جریج ہم سے بیان کیا کہ میں نے محمد بن علی ابو جعفر سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول کریم ﷺ کو تین بار بیری کے پتوں سے غسل دیا گیا اور آپ کو قبائے ایک کنوئیں سے جس کا نام الغرس تھا دوہ حضرت ابن خثیمہ کی ملکیت تھا کے پانی سے غسل دیا گیا اور رسول کریم ﷺ اس کا پانی پیا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے غسل کی ذمہ داری لی اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ آپ کو گود میں لیے ہوئے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی ڈالتے تھے اور حضرت نضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے آرام دو میری رگ جان کٹ گئی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی چیز تیزی سے مجھ پر گر رہی ہے۔

واقعی بیان کرتا ہے کہ عاصم بن عبداللہ الحکمی نے بحوالہ عمر بن عبدالعاصم بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ غرس کا کنواں کیا ہی اچھا ہے یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے اور اس کا پانی بہترین پانیوں میں سے ہے اور رسول اللہ ﷺ اس سے پانی منگوا کر پیتے تھے اور آپ کو غرس کے کنوئیں سے غسل دیا گیا۔ اور سیف بن عمر عن محمد بن عون عن عکرمہ عن ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب وہ قبر سے فارغ ہو گئے اور لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے غسل کی تیاری کرنے لگے اور آپ نے گھر کے وسط میں آپ پر باریک یمانی کپڑوں کا پردہ تان دیا اور پردے میں داخل ہو کر حضرت علی اور حضرت فضل رضی اللہ عنہما کو بلایا پس جب آپ ان دونوں کو پانی دینے کے لیے پانی کی طرف گئے تو آپ نے ابوسفیان بن الحارث کو آواز دی اور اسے اور بنی ہاشم کے کچھ آدمیوں کو پردہ کے پیچھے داخل کیا اور انصار میں سے جن لوگوں نے میرے باپ سے پردے کے اندر جانے کی اپیل کی ان میں اوس بن خولی بھی تھے پھر سیف، ضحاک بن ربیع حنفی سے عن ماہان حنفی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اور پردہ لگانے کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہ حضرت عباس نے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہما حضرت ابوسفیان اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کو داخل کیا اور بنی ہاشم کے آدمی پردے کے پیچھے گھر میں تھے اور بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

ان پر اونگھ طاری کردی اور انہوں نے ایک کبے وانے کو کہے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کو غسل ندو آپ کا ظاہر ہیں اور عباس اہلی اور اہل بیت نے کہا اس نے سچ کہا ہے آپ تو اس ندو حضرت عباس رضی اللہ عنہم نے کہا ہم ایک آواز کی خاطر بس کے متعلق نہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے سنت کو ترک نہیں کریں گے اور ان پر دوبارہ اونگھ طاری ہوگئی اور ان کو ندا آئی کہ آپ کو کپڑوں سمیت غسل دو، اہل بیت نے کہا غسل ندو اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم نے کہا غسل دو آپس وہ آپ کے غسل کی تیاری میں لگ گئے اور آپ کے جسم پر ایک قمیص اور ایک کھلی کرتی تھی پس انہوں نے آپ کو خالص پانی سے غسل دیا اور آپ کے جوڑوں اور سجدوں کے مقامات پر کافور کی خوشبو لگائی اور آپ کی قمیص اور کرتی کو نچوڑا پھر آپ کو اپنے کفن میں لپیٹا گیا اور آپ کو عود اور اگر کی دھونی دی پھر آپ کو اٹھا کر آپ کی چار پائی پر رکھ دیا گیا اور آپ پر کپڑا ڈال دیا پس اس عبارت میں بہت غرابت پائی جاتی ہے۔

آپ کے کفن کا بیان:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مسلم نے ہم سے بیان کیا کہ اوزاعی نے ہم سے بیان کیا کہ زہری نے قاسم سے بحوالہ عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو یمنی کپڑے میں لپیٹا گیا پھر اسے آپ سے ہٹا لیا گیا، قاسم بیان کرتے ہیں کہ اس کپڑے کا بقیہ حصہ ابھی تک ہمارے پاس ہے اور یہ اسناد شیخین کی شرط کے مطابق ہے اور ابوداؤد نے اسے احمد بن حنبل سے اور نسائی نے محمد بن المثنیٰ اور مجاہد بن یونس سے روایت کیا ہے اور سب نے اسے ولید بن مسلم سے روایت کیا ہے اور امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی بیان کرتے ہیں کہ مالک نے ہم سے عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تین سفید سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا جس میں قمیص اور عمامہ نہ تھا اور اسی طرح بخاری نے اسے اسماعیل بن ادریس سے بحوالہ مالک روایت کیا ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سفیان نے عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین سفید سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا اور مسلم نے اسے سفیان بن عیینہ کی حدیث سے بیان کیا ہے اور بخاری نے اسے عن ابی نعیم عن سفیان ثوری روایت کیا ہے اور دونوں نے اسے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے اور ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ قتیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ حفص بن غیاث نے عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو روئی کے تین سفید یمانی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں قمیص اور عمامہ نہ تھا اور ابیہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے قول دو کپڑوں اور یمنی چادر کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چادر لائی گئی لیکن انہوں نے اسے واپس کر دیا اور اس میں آپ کو کفن نہیں دیا گیا اور اسی طرح مسلم نے اسے ابو بکر بن ابی شیبہ سے بحوالہ حفص بن غیاث روایت کیا ہے۔

بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ حافظ نے ہمیں بتایا کہ ابو الفضل محمد بن ابراہیم نے ہمیں خبر دی کہ احمد بن مسلم نے ہم سے بیان کیا کہ ہناد بن السری نے ہم سے بیان کیا کہ ابو معاویہ نے عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو روئی کے تین سفید سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں قمیص اور عمامہ نہ تھا اور حلقہ کے بارے میں لوگوں کو اشتباہ ہو گیا، میں نے یہ حلقہ آپ کے کفن کے لیے خرید تھا اسے چھوڑ دیا گیا اور اسے عبد اللہ بن ابی بکر نے لے لیا اور کہا، میں نے اسے سنبھال لیا ہے تاکہ مجھے اس میں کفن دیا جائے پھر کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ اس حلقہ کو اپنے نبی کے لیے پسند کرتا تو آپ کو

اس میں کفن دیا جاتا ہے انہوں نے اس کو فرخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دی مسلم نے اسے اپنی صحیح میں کجا بن کجا وغیرہ سے بحوالہ ابو معاویہ روایت کیا ہے پھر بیہقی نے اسے عن الخاتم عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن ابی معاویہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی یمنی چادر میں کفن دیا گیا اور اس میں آپ کو لپیٹا گیا پھر اسے آپ سے اتار لیا گیا اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے اس حلہ کو اپنے لیے سنبھال لیا تاکہ جب وہ فوت ہوں تو اس میں انہیں کفن دیا جائے پھر اسے سنبھالنے کے بعد کہنے لگے میں اس چیز کو سنبھالنے کا نہیں جسے اللہ نے اپنے رسول کو اس میں کفن دینے سے روک دیا ہے پس اس کی قیمت کو حضرت عبداللہ نے صدقہ کر دیا اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ معمر نے عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہما ہم سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تین سفید سحلی کپڑوں میں کفن دیا گیا اور نسائی نے اسے اسحاق بن راہویہ سے بحوالہ عبدالرزاق روایت کیا ہے امام احمد بیان کرتے ہیں کہ مسکین بن بکیر نے بحوالہ سعید بن عبدالعزیز ہم سے بیان کیا کہ مکحول کہتے ہیں کہ عروہ نے بحوالہ عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو تین یمنی چادروں میں کفن دیا گیا امام احمد اس کی روایت میں منفرد ہیں اور ابو یعلیٰ موصلی بیان کرتے ہیں کہ سہیل بن حبیب انصاری نے ہم سے بیان کیا کہ مسجد ایوب کے امام عاصم بن ہلال نے ہم سے بیان کیا کہ ایوب نے نافع سے بحوالہ ابن عمر ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو تین سفید سحلی کپڑوں میں کفن دیا گیا اور سفیان عاصم بن عبید اللہ سے عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا اور بعض روایات میں دوسری مائل نیا لے کپڑوں اور ایک یمنی چادر کے الفاظ آئے ہیں۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابن ادریس نے ہم سے بیان کیا کہ یزید نے ہم سے مقسم سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں اور جو قمیص پہنے ہوئے آپ کی وفات ہوئی اور نجرانی حلہ میں کفن دیا گیا۔ حلہ دو کپڑے ہوتے ہیں۔ اور ابو داؤد نے اسے احمد بن حنبل اور عثمان بن ابی شیبہ سے اور ابن ماجہ نے علی بن محمد سے روایت کیا ہے اور ان تینوں نے عبداللہ بن ادریس سے عن یزید بن ابی زیاد عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی طرح روایت کی ہے اور یہ بہت غریب ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے ہم سے عن ابن ابی لیلیٰ عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو دو سفید کپڑوں اور ایک سرخ چادر میں کفن دیا گیا اس طریق سے امام احمد اس کی روایت میں منفرد ہیں۔ اور ابو بکر شافعی بیان کرتے ہیں کہ علی بن حسن نے ہم سے بیان کیا کہ حمید بن الربیع نے ہم سے بیان کیا کہ بکر بن عبدالرحمن نے ہم سے بیان کیا کہ عیسیٰ بن المختار نے عن محمد بن عبدالرحمن جنہیں ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو دو سفید کپڑوں اور ایک سرخ چادر میں کفن دیا گیا۔ اور ابو یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان الشاذلی نے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن ابی الہیثم نے ہم سے بیان کیا کہ عثمان بن عطاء نے اپنے باپ سے عن ابن عباس عن الفضل ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو دو سفید سحلی کپڑوں میں کفن دیا گیا اور محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے اس میں سرخ چادر کا اضافہ کیا ہے۔ اور کئی لوگوں نے اسے عن اسماعیل المؤدب عن یعقوب بن عطاء عن ابیہ عن ابن عباس عن الفضل روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو دو سفید کپڑوں میں

کفن دیا گیا اور ایک روایت میں سوئیہ کے الفاظ آئے ہیں۔ واللہ اعلم اور حافظ ابن عساکر نے ابو طہر الخلس کے طریق سے روایت کی ہے کہ احمد بن اسحاق بیہول نے ہم سے بیان کیا کہ عباد بن یعقوب نے ہم سے بیان کیا کہ شریک نے بحوالہ ابو اسحاق ہم سے بیان کیا کہ میں بنی عبدالمطلب کی ایک مجلس میں گیا اور وہ بہت سے لوگ تھے میں نے ان سے دریافت کیا رسول اللہ ﷺ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا تین کپڑوں میں جن میں قمیص، قباء اور عمامہ نہ تھا، میں نے پوچھا بدر کے روز تم میں کتنے آدمی اسیر ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا عباس، نوفل اور عقیل۔

اور بیہقی نے زہری کے طریق سے زین العابدین علی بن حسین سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں ایک سرخ یعنی چادر تھی۔ اور حافظ ابن عساکر نے اسے اس طریق سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے جس میں اعتراض وارد ہوتا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دو حولی کپڑوں اور ایک یعنی چادر میں کفن دیا۔ اور ابوسعید بن الاعرابی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن ولید نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن کثیر نے ہم سے بیان کیا کہ ہشام نے عن قتادہ عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو دو چادروں اور ایک نجرانی چادر میں کفن دیا گیا اور اسی طرح ابوداؤد طیالسی نے اسے عن بشام و عمران القطان عن قتادہ عن سعید بن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے اور ربیع بن سلیمان نے اسے عن اسد بن موسیٰ روایت کیا ہے نصر بن طریف نے ہم سے بحوالہ قتادہ بیان کیا کہ ابن المسیب نے ہم سے بحوالہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں سے ایک نجرانی چادر تھی اور بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو بیان روایت کیا ہے وہ لوگوں کے لیے اشتباہ کا باعث ہے کہ یعنی چادر کو آپ سے ہٹا لیا گیا تھا۔ واللہ اعلم پھر حافظ بیہقی نے محمد بن اسحاق بن خزیمہ کے طریق سے روایت کی ہے کہ یعقوب بن ابراہیم الدورقی نے عن حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی عن حسن بن صالح عن ہارون بن سعید ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کستوری تھی پس آپ نے وصیت کی کہ مجھے اس کی خوشبو لگائی جائے وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے خوشبو لگانے سے بچی ہوئی تھی اور بیہقی نے اسے ابراہیم بن موسیٰ کے طریق سے عن حمید بن حسن عن ہارون بن ابی وائل عن علی روایت کیا ہے اور اس بات کا ذکر کیا ہے۔

آپ کے جنازہ کی کیفیت:

قبل ازیں وہ حدیث بیان ہو چکی ہے جسے بیہقی نے اشعث بن طلحہ کی حدیث سے اور البزار نے اصہبانی کی حدیث سے حضرت نبی کریم ﷺ کی وصیت کے بارے میں روایت کیا ہے اور ان دونوں نے مرہ سے بحوالہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کی ہے اور وہ وصیت یہ تھی کہ آپ کے گھرانے کے مرد آپ کو غسل دیں۔ نیز فرمایا کہ مجھے میرے انہی کپڑوں میں یا یمانی کپڑوں میں یا مصر کے سفید کپڑوں میں کفن دینا اور یہ کہ جب وہ آپ کو کفن دے چکیں تو آپ کو آپ کی قبر کے کنارے پر رکھ دیں پھر وہاں سے نکل آئیں تاکہ آپ پر ملائکہ جنازہ پڑھ لیں پھر آپ کے گھرانے کے مرد آپ کے پاس جائیں اور آپ کا جنازہ پڑھیں پھر ان

کے بعد لوگ فرداً فرداً پرہیں اس طرح پوری حدیث کو بیان کیا ہے جس کی صحت میں اعتراض ہے جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حسین بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کفرہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو آدمیوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے امام کے بغیر جماعت کی صورت میں آپ کا جنازہ پڑھا یہاں تک کہ فارغ ہو گئے پھر عورتوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر بچوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر غلاموں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے جماعت کی صورت میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور رسول کریم ﷺ کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے کسی نے ان کی امامت نہیں کی۔

واقدی بیان کرتا ہے ابی بنی عیاش بن سہل بن سعد نے اپنے باپ اور دادے سے میرے پاس بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کو کفن میں لپیٹا گیا تو آپ کو اپنی چار پائی پر رکھا گیا پھر آپ کی قبر کے کنارے پر رکھا گیا پھر لوگ جماعت در جماعت آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کا جنازہ پڑھنے میں ان کا کوئی امام نہ تھا واقدی بیان کرتا ہے کہ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم نے مجھ سے بیان کیا کہ مجھے اپنے باپ کی ایک تحریر ملی جس میں یہ لکھا تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ کو کفن دیا گیا اور آپ اپنی چار پائی پر پڑھے تھے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے اتنے آدمی تھے جو گھر میں سما سکتے تھے ان دونوں حضرات نے کہا السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ اور انصار مہاجرین نے بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرح سلام کہا پھر انہوں نے صفیں باندھ لیں اور ان کا کوئی امام نہ تھا اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے جو پہلی صف میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑے تھے کہا اے اللہ! ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کلام ان پر نازل ہوا تھا انہوں نے پہنچا دیا ہے اور اپنی امت کی خیر خواہی کی ہے اور راہ خدا میں جہاد کیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا ہے اور اس کی بات پوری ہوئی ہے اور میں اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لاتا ہوں اے ہمارے معبود ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اس قول کی پیروی کرنے والے ہیں جو اس پر اترے اور ہمیں یکجا کر دے تاکہ وہ ہمیں پہچان لیں اور ہم ان کے ذریعے پہچان لیں بلاشبہ وہ مومنین کے ساتھ رؤف ورحیم ہے ہم آپ پر ایمان لانے کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے اور نہ اس کے ذریعے ہم کبھی کوئی قیمت وصول کریں گے اور لوگ آمین آمین کہتے جاتے تھے اور باہر نکلتے جاتے تھے اور دوسرے داخل ہوتے جاتے تھے یہاں تک کہ مردوں نے نماز جنازہ پڑھ لی پھر عورتوں اور بچوں نے پڑھی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے سوموار کے دن کے زوال سے لے کر منگل کے دن کے زوال تک آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور بعض کا قول ہے کہ وہ تین دن آپ کی نماز جنازہ پڑھتے رہے جیسا کہ اس کی تفصیل عنقریب بیان ہوگی۔ واللہ اعلم

اور یہ بات کہ انہوں نے فرداً فرداً آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کا کوئی امام نہ تھا ایک متفقہ بات ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، لیکن اس کی تعلیل میں اختلاف کیا گیا ہے پس اگر وہ حدیث صحیح ہو جسے ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے تو وہ اس بارے میں نص ہوگی اور اس فرمانبرداری کے باب سے ہوگی جس کا مفہوم سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور کسی کو یہ

حق حاصل نہیں کہ وہ کہے کہ ان کا کوئی امام نہ تھا اس لیے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تکمیل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجبیزی تیاری کی اور بعض علماء کا قول ہے کہ کسی آدمی نے ان کی امامت اس لیے نہیں کی تاکہ ہر شخص خود اپنی طرف سے وہ صلوٰۃ پڑھے جو اس کی طرف سے آپ پڑھی جاتی ہے اور مسلمانوں کی جانب سے بار بار فردا فردا آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے یعنی مردوں، عورتوں، بچوں حتیٰ کہ غلاموں اور لونڈیوں کی طرف سے گویا صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک ایک فرد کی طرف سے نماز جنازہ پڑھی جائے۔

اور سہیلی کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ خود اور اس کے فرشتے آپ پر صلوٰۃ پڑھتے ہیں اور اس نے ہر مومن کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ پر وہ صلوٰۃ پڑھے جو اس کی طرف سے آپ پڑھی جاتی ہے اور موت کے بعد آپ پر صلوٰۃ پڑھنا اسی قبیل سے ہے اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ اس بارے میں فرشتے ہمارے امام ہیں۔ واللہ اعلم اور امام شافعی کے اصحاب میں سے متاخرین نے آپ کی قبر پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے سوا دوسرے لوگوں کی صلوٰۃ کی مشروعیت کے بارے میں اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اپنی قبر میں تروتازہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے اس لیے صلوٰۃ پڑھنا درست ہے اور جیسا کہ سنن وغیرہ کی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ کی حالت آج کے مردہ کی طرح ہے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا جائے گا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد جو سلف ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اگر یہ مشروع ہوتا تو وہ اس کی طرف سبقت کرتے اور اس پر مداومت کرتے۔ واللہ اعلم

آپ کے دفن کا بیان اور آپ کہاں دفن ہوئے؟

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ ابن جریج نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ عبد العزیز بن جریج نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو معلوم نہ تھا کہ وہ آپ کو کہاں دفن کریں یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ نبی جہاں فوت ہو جاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے پس انہوں نے آپ کے بستر کو ہٹا دیا اور آپ کے بستر کے نیچے قبر کھودی اس حدیث میں عبد العزیز بن جریج اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع پایا جاتا ہے کیونکہ عبد العزیز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا، لیکن حافظ ابو یعلیٰ نے اسے حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی حدیث سے بحوالہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ الہروی نے ہم سے بیان کیا ہے کہ ابو معاویہ نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے ابن ابی ملیکہ سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بارے میں اختلاف کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ نبی کو اس کی محبوب ترین جگہ میں موت دی جاتی ہے۔ نیز فرمایا آپ کو وہیں دفن کرو جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ترمذی نے اسے عن ابی کریم عن ابی معاویہ عن عبد الرحمن بن ابی بکر السلیکی عن ابی ملیکہ عن عائشہ روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ نے آپ کے دفن کرنے کے بارے میں اختلاف کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے۔

جسے میں بھول گیا ہوں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس جگہ موت دیتا ہے جس جگہ وہ دفن ہونا پسند کرتا ہے آپ کو آپ کے بستر کی جگہ پر دفن کر دو پھر ترمذی نے منینکی کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث اس طریق کے علاوہ بھی روایت کی گئی ہے۔ اسے حضرت ابن عباس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے بحوالہ حضرت نبی کریم ﷺ روایت کیا ہے اور اموی نے اپنے باپ سے ابن اسحاق سے، جس کو ایک آدمی نے عروہ سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ ابو بکر بن ابی الدنیا بیان کرتے ہیں کہ محمد بن سہیل تمیمی نے مجھ سے بیان کیا کہ ہشام بن عبد الملک طیلسی نے عن حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ہم سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں دو گورکن تھے جب حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہم آپ کو کہاں دفن کریں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جس جگہ آپ کی وفات ہوئی ہے اس جگہ آپ دفن کیا جائے اور ان دو میں سے ایک لحد بنانا تھا اور دوسرا شق کرتا تھا پس لحد بنانے والا آیا اور اس نے حضرت نبی کریم ﷺ کے لیے لحد بنائی اور مالک بن انس نے اسے عن ہشام بن عروہ عن ابیہ منقطع روایت کیا ہے۔ اور ابو یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ جعفر بن مہران نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالاعلیٰ نے بحوالہ محمد بن اسحاق ہم سے بیان کیا کہ حسین بن عبداللہ نے عکرمہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے بیان کیا کہ جب صحابہ نے حضرت نبی کریم ﷺ کے لیے قبر کھودنا چاہی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اہل مکہ کی طرز پر قبر کھودتے تھے اور حضرت ابو طلحہ زید بن اسہل اہل مدینہ کی قبریں کھودتے تھے اور لحد بناتے تھے پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو بلایا اور ایک کو کہا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور دوسرے کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کو کہا اے اللہ! اے اپنے رسول کے لیے انتخاب فرما، راوی بیان کرتا ہے کہ جو شخص حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو ملا اور انہیں لہ آیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد بنائی اور جب وہ منگل کے دن رسول اللہ ﷺ کے ضروری سامان سے فارغ ہوئے اور آپ اپنے گھر میں چار پائی پر پڑے تھے اور مسلمانوں نے آپ کے دفن کے بارے میں اختلاف کیا ایک آدمی نے کہا ہم آپ کو مسجد میں دفن کریں گے دوسرے نے کہا ہم آپ کو آپ کے اصحاب کے ساتھ دفن کریں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ۔ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ کا وہ بستر اٹھا دیا گیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے نیچے آپ کے لیے قبر کھودی پھر لوگوں نے آکر گروہ درگروہ آپ پر نماز جنازہ پڑھی اور جب وہ فارغ ہو گئے تو عورتوں نے آکر پڑھی اور جب عورتیں فارغ ہو گئیں تو بچوں نے آکر پڑھی اور رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ کے وقت کسی نے لوگوں کی امامت نہ کی اور رسول اللہ ﷺ کو بدھ کی رات کو نصف شب کے وقت دفن کر دیا گیا۔ اور اسی طرح ابن ماجہ نے اسے عن نصر بن علی الجبھی عن وہب بن جریر عن ابیہ عن محمد بن اسحاق روایت کیا ہے اور اس کی مانند اس کے اسناد کو بھی بیان کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے بیٹے حضرت فضل اور حضرت تقم رضی اللہ عنہما اور رسول اللہ ﷺ کا غلام آپ کی قبر میں اترے اور اس بن خولی ابو یعلیٰ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا میں آپ سے اللہ کے نام پر اجیل کرتا ہوں کہ ہمارا بھی رسول اللہ ﷺ میں کچھ حصہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کہا اترے اور آپ کے غلام شقران

وہ چادر پکڑے ہوئے تھے جسے رسول اللہ ﷺ ریب تن کیا کرتے تھے پس اس نے اس چادر کو قبر میں دفن کر دیا اور کہا خدا کی قسم آپ کے بعد اسے کوئی ریب تن نہیں کرے گا پس اسے رسول اللہ ﷺ نے ساتھ دفن کر دیا کیا۔ اور احمد نے اسے مختصر امن حسین بن محمد عن جریر بن حازم عن ابن اسحاق روایت کیا ہے اور اس طرح سے یونس بن بکر وغیرہ نے بحوالہ اسحاق روایت کیا ہے۔ اور واقدی نے عن ابی حبیب عن داؤد بن الحصین عن عکرمہ عن ابن عباس عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ ﷺ روایت کی ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو موت دیتا ہے وہ وہیں پر دفن ہوتا ہے۔

اور بیہقی نے عن الحاکم عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار یونس بن بکر عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن الحصین اور محمد بن جعفر بن الزبیر روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے دفن کرنے کے بارے میں اختلاف کیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو لوگوں کے ساتھ یا آپ کے گھر میں کیسے دفن کریں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو موت دیتا ہے وہ وہیں پر دفن ہوتا ہے۔ پس آپ کو آپ کے بستر کی جگہ دفن کی گیا اور آپ کا بستر اٹھا کر اس کے نیچے قبر کھودی گئی۔

واقدی بیان کرتا ہے کہ عبد الحمید بن جعفر نے عن عثمان بن محمد اخشی عن عبد الرحمن بن سعید بن یزید ہم سے بیان کیا کہ جب حضرت نبی کریم ﷺ فوت ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کی قبر کی جگہ کے متعلق اختلاف کیا، ایک آدمی نے کہا آپ کو ”القیح“ میں دفن کیا جائے اور وہ ان کے لیے بکثرت استغفار کرتا تھا، دوسرے آدمی نے کہا آپ کو آپ کے منبر کے پاس دفن کیا جائے، تیسرے نے کہا آپ کو آپ کے مصلىٰ کی جگہ دفن کیا جائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ اس بارے میں میرے پاس علم و خبر ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ نبی جہاں کو موت دیتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ یہ بات یحییٰ بن سعید کی حدیث میں ہے جو قاسم بن محمد سے مروی ہے، اور ابن جریر کی حدیث میں بھی ہے جو ان کے باپ سے مروی ہے اور ان دونوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بحوالہ حضرت نبی کریم ﷺ مرسل روایت کی ہے۔ اور بیہقی نے عن الحاکم عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن یونس بن بکر عن سلمہ بن نبیط بن شریط عن ابیہ عن سالم بن عبید جو اصحاب صفہ میں سے تھے۔ روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے پھر باہر چلے گئے، آپ سے پوچھا گیا، رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں! تو انہیں معلوم ہو گیا کہ جیسا آپ نے کہا ہے ویسے ہی ہوا ہے۔ اور آپ سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم آپ کا جنازہ پڑھیں اور ہم آپ پر کیسے نماز جنازہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا تم گروہ درگروہ آ کر نماز جنازہ پڑھو گے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ جیسے آپ نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا، انہوں نے کہا، کیا آپ دفن ہوں گے اور کہا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جہاں اللہ نے آپ کی روح قبض کی ہے۔ بلاشبہ آپ کی روح پاکیزہ مقام پر قبض کی گئی ہے، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ جیسے آپ نے کہا ہے ویسے ہوگا۔

اور بیہقی نے سفیان بن عیینہ کی حدیث سے یحییٰ بن سعید انصاری سے بحوالہ حضرت سعید بن المسیب روایت کی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے باپ کے سامنے ایک روایا پیش کی اور آپ سب لوگوں سے بڑھ کر تعبیر جانتے تھے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے رؤیا میں دیکھا کہ تین چاند میری گود میں کرے ہیں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اگر تو اپنی رؤیا میں سچی ہے تو تیرے گھر میں روئے زمین کے باشندوں میں سے تین بہترین آدمی دفن ہوں گے، پس جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ! تیرے چاندوں میں سے بہترین چاند ہے۔ اور مالک نے اسے یحییٰ بن سعید سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا منقطع روایت کیا ہے اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میری گھر میں میری باری کے دن اور میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان وفات پائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی گھڑی میں میرا اور آپ کا لعاب دہن اکٹھا کر دیا اور صحیح بخاری میں ابوعمرانہ کی حدیث سے عن ہلال الوراق عن عروہ عن عائشہ روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مرض الموت میں فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر کو نمایاں کیا جاتا مگر آپ اس کے سجدہ گاہ بنانے سے ڈر گئے اور ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ محمود بن غیلان نے ہم سے بیان کیا کہ ہاشم بن القاسم نے ہم سے بیان کیا کہ مبارک بن فضالہ نے ہم سے بیان کیا حمید الطویل نے بحوالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما مجھ سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ فوت ہوئے تو مدینہ کا ایک آدمی لحد بناتا تھا اور دوسرا قبر کھودتا تھا، صحابہ نے کہا ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اور ان دونوں کی طرف آدمی بھیجتے ہیں پس جو شخص ان دونوں میں سے پیچھے رہ گیا ہم اسے چھوڑ دیں گے پس انہوں نے ان دونوں کی طرف آدمی بھیجے تو لحد والا پہلے آ گیا، تو انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ کے لیے لحد بنائی، ابن ماجہ اس کی روایت میں متفرد ہیں اور امام احمد نے اسے ابو النضر ہاشم بن القاسم سے بھی روایت کیا ہے اور اسی طرح ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن شہب نے عبیدہ بن یزید ہم سے بیان کیا کہ عبید بن طفیل نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن ابی ملیکہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابن ابی ملیکہ نے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے بیان کیا کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو صحابہ نے لحد اور شق کے بارے میں اختلاف کیا یہاں تک کہ انہوں نے اس بارے میں باتیں کی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس زندہ اور مردہ ہونے کی حالت میں شور و غل نہ کرو۔ یا اس قسم کی کوئی اور بات کی۔ تو انہوں نے شق اور لحد بنانے والے کی طرف آدمی بھیجے تو لحد بنانے والا آ گیا اور اس نے رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد بنائی پھر آپ کو دفن کر دیا گیا، ابن ماجہ اس کی روایت میں متفرد ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ وکیع نے ہم سے بیان کیا کہ العمری نے عن نافع عن ابن عمر اور عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد بنائی گئی۔ ان دونوں طریقوں سے احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن شعبہ اور ابن جعفر نے ہم سے بیان کیا کہ شعبہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابو حمزہ نے بحوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر میں سرخ چادر رکھی گئی۔ اور مسلم ترمذی اور نسائی نے اسے کئی طرق سے شعبہ سے روایت کیا ہے اور وکیع نے بھی اسے شعبہ سے روایت کیا ہے اور نسائی نے اسے کئی طرق سے شعبہ سے روایت کیا ہے اور وکیع نے بھی اسے شعبہ سے روایت کیا ہے اور وکیع بیان کرتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ سے خاص ہے۔ اسے

ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ اور ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ انصاری نے ہمیں خبر دی کہ اشعث بن عبدالملک الحمزانی نے بحوالہ ابن ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جو چادر زیب تن فرمایا کرتے تھے اسے آپ کے پیچے چھایا گیا۔ راوی بیان کرتا ہے: وہ چادر مدینہ کے علاقے کی تھی اور شمیم بن منصور بحوالہ حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر میں وہ سرخ چادر رکھی گئی جو آپ کو جنگ حنین میں ملی تھی۔ حسن بیان کرتے ہیں اسے اس لیے رکھا گیا کہ مدینہ کی زمین شور ہے۔ اور محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حماد بن خالد خلیط بحوالہ مقبہ بن ابی الصمبہ ہم سے بیان کیا کہ میں نے حسن کو بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میری لحد میں میرے لیے چادر بچھانا بلاشبہ انبیاء کے اجسام پر زمین غالب نہیں آتی۔ اور بیہقی نے مسدّد کی حدیث سے روایت کی ہے کہ عبدالواحد نے ہم سے بیان کیا کہ معمر نے زہری سے بحوالہ حضرت سعید بن المسیب ہم سے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو غسل دیا اور میں مردہ والی آلائش دیکھنے لگا تو میں نے کچھ نہ پایا اور آپ زندہ اور مردہ ہونے کی حالت میں پاکیزہ تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ کو دفن کرنے اور لوگوں سے آپ کو پوشیدہ کرنے کا کام چار آدمیوں، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل رضی اللہ عنہم اور حضرت نبی کریم ﷺ کے غلام صالح رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور آپ کے لیے لحد بنائی گئی اور اس پر اینٹیں نصب کی گئیں اور بیہقی نے ایک آدمی سے بیان کیا ہے کہ اس نے آپ کی لحد پر نو اینٹیں نصب کیں۔ اور واقدی نے ابن ابی بصرہ سے عن عبداللہ بن معبد عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سوموار کے آفتاب ڈھلنے سے لے کر منگل کے آفتاب ڈھلنے پر پڑے رہے اور لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھتے رہے اور آپ کی چار پائی آپ کے قبر کے کنارے پڑی رہی پس جب انہوں نے آپ کو دفن کرنا چاہا تو آپ کے پاؤں کی جانب سے چار پائی کی طرف آئے اور وہاں سے آپ کو قبر میں داخل کیا گیا، اور آپ کی قبر میں حضرت علی، حضرت عباس، حضرت ختم، حضرت فضل اور حضرت شقران رضی اللہ عنہم داخل ہوئے۔ اور بیہقی نے اسماعیل السدی کی حدیث سے عکرمہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت فضل رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کی قبر میں داخل ہوئے اور آپ کی لحد کو انصار کے ایک آدمی نے برابر کیا، اور اسی شخص نے بدر کے روز شہداء کی قبور کی لحدوں کو برابر کیا تھا۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ احد کے روز برابر کیا تھا۔ اور ابن اسحاق نے عن حسین بن عبداللہ عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما جو روایت کی ہے وہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر میں اترنے والے حضرت علی، حضرت فضل، حضرت ختم اور حضرت شقران رضی اللہ عنہم تھے اور پانچویں اوس بن خولی رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے اس چادر کا واقعہ بھی بیان کیا ہے جسے شقران نے قبر میں رکھا تھا۔

اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو ظاہر محمد آبادی نے ہمیں بتایا کہ ابو قلابہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عاصم نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان ثوری نے اسماعیل بن ابی خالد سے بحوالہ شععی ہم سے بیان کیا کہ ابو مرحب نے مجھ سے بیان کیا کہ گویا میں ان چاروں کو حضرت نبی کریم ﷺ کی قبر میں دیکھ رہا ہوں، ان میں سے ایک حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے اور اسی طرح ابو داؤد نے اسے عن محمد بن الصباح عن سفیان عن اسماعیل بن ابی خالد روایت کیا ہے، پھر احمد بن یونس نے اسے عن زہیر عن اسماعیل بن شععی روایت کیا ہے کہ مرحب یا ابو مرحب نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف

نبی ﷺ کو بھی شامل کر لیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ آدمی اپنے اہل کے قریب ہوتا ہے اور یہ حدیث بہت غریب ہے اور اس کا اسناد جید اور قوی ہے اور ہم اسے صرف اس طریق سے جانتے ہیں اور ابو عمر بن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں بیان کیا ہے کہ ابو مرحب کا نام سوید بن قیس ہے۔ اور اس نے ایک دوسرے مرحب کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں ان حالات سے واقف نہیں اور ابن اثیر اسد الغابہ فی اسماء الصحابہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کا راوی ان دونوں میں سے ایک ہو یا وہ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا ہو۔

آپ سے آخری ملاقات کرنے والا آدمی:

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یعقوب نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے بحوالہ ابن اسحاق ہم سے بیان کیا کہ ابو اسحاق بن یسار نے عبد اللہ بن الحارث کے غلام مقسم ابو القاسم سے بحوالہ اس کے آقا عبد اللہ بن الحارث مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرہ کیا، تو آپ اپنی ہمیشہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے اور جب اپنے عمرہ سے فارغ ہوئے تو واپس آئے اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے غسل کا پانی ڈالا۔ تو آپ نے غسل کیا اور جب غسل سے فارغ ہوئے تو اہل عراق کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحسن ہم آپ سے ایک بات پوچھنے آئے ہیں، جس کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا میرا خیال ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تم سے بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے تازہ تازہ ملاقات کی ہے انہوں نے کہا بہت اچھا، انہوں نے کہا ہم اس بارے میں ہی آپ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت قثم بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے سب سے تازہ ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس طریق سے احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں۔ اور یونس بن بکیر نے اسے ہو بہو محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے مگر اس سے قبل اس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنی انگوٹھی لے کر رسول اللہ ﷺ کی قبر میں پھینک دی اور جب لوگ باہر نکل گئے تو میں نے کہا کہ میری انگوٹھی قبر میں گر گئی ہے حالانکہ میں نے اسے جان بوجھ کر پھینکا تھا تاکہ میں رسول اللہ ﷺ کو مس کروں اور میں آپ سے آخری ملاقات کرنے والا ٹھہروں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اسحاق بن یسار نے مقسم سے بحوالہ اس کے آقا عبد اللہ بن الحارث مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرہ کیا اور جو کچھ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کا ذکر کیا اور یہ جو کچھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا ہے اس کا یہ تقاضا نہیں کہ اس نے جو امید کی تھی وہ پوری ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قبر میں اترنے ہی نہیں دیا، بلکہ کسی دوسرے آدمی کو حکم دیا اور اس نے اسے انگوٹھی پکڑادی۔ اور پہلے بیان کی بنا پر جس شخص کو آپ نے انگوٹھی پکڑانے کا حکم دیا اس نے اسے انگوٹھی پکڑادی اور پہلے بیان کی بنا پر جس شخص نے آپ کو انگوٹھی پکڑانے کا حکم دیا وہ حضرت قثم بن عباس رضی اللہ عنہما ہو سکتے ہیں۔

اور واقعہ بیان کرتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی الزناد نے اپنے باپ سے بحوالہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی رسول اللہ ﷺ کی قبر میں پھینک دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے اسے اس لیے

چھینکا ہے کہ تو کہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی قبر میں اتر اترتا ہوں آپ نے اسے اسے انگوٹھی دے دی یا کسی ادی کو حکم دیا تو اس نے اسے انگوٹھی دے دی۔ اور احمد بیان کرتے ہیں کہ بہر اور ابو کاہل نے ہم سے بیان کیا کہ عمار بن سلمہ نے ابو عمران اجونی سے بحوالہ ابو سعید یا ابی غنم ہم سے بیان کیا کہ بہر نے بیان کیا کہ وہ حضرت نبی کریم ﷺ کے جنازہ میں شامل ہوئے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم کیسے نماز جنازہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا گروہ درگروہ داخل ہو جاؤ اور وہ اس دروازہ سے داخل ہو کر آپ کا جنازہ پڑھتے پھر دوسرے دروازے سے باہر آ جاتے۔ راوی بیان کرتا ہے جب آپ کو لحد میں رکھا گیا تو حضرت مغیرہ بن عبد اللہ نے کہا کہ آپ کے پاؤں میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جسے تم نے درست نہیں کیا، انہوں نے کہا تم داخل ہو کر اسے درست کر دو۔ پس وہ داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو داخل کر کے رسول اللہ ﷺ کے قدموں کو چھوا اور کہا کہ مجھ پر شئی ڈالی تو انہوں نے آپ پر شئی ڈالی یہاں تک کہ وہ آپ کی پنڈلیوں کے نصف تک پہنچ گئی پھر آپ باہر نکل آئے۔ اور آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے تمہاری نسبت رسول اللہ ﷺ سے تازہ ملاقات کرنے والا ہوں۔

آپ کب دفن ہوئے؟:

یونس ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد نے جو عبد اللہ بن ابی بکر کی بیوی ہیں، مجھ سے بیان کیا، اور آپ مجھے اس کے پاس لے گئے یہاں تک کہ میں نے اسے عمرہ سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے سنا وہ بیان کرتی ہیں کہ۔ ہمیں رسول اللہ ﷺ کے دفن کا علم اس وقت ہوا جب ہم نے بدھ کی نصف شب کو پیمائش کرنے والوں کی آواز سنی۔ واقعہ بیان کرتا ہے کہ ابن ابی سبرہ نے عن حلیس بن ہشام عن عبد اللہ بن زبیر عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا، آپ فرماتی ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کر رو رہے تھے اور ہم سوئے بھی نہ تھے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ ہمارے گھروں میں پڑے تھے اور ہم آپ کو چار پائی پر دیکھ کر تسلی حاصل کر رہے تھے کہ اچانک ہم نے سحر کے وقت واپس آنے والوں کی آواز سنی، پس ہم اور اہل مسجد چلا اٹھے اور مدینہ ایک ہی آواز سے لرز گیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی، اور جب آپ نے حضرت نبی کریم ﷺ کا نام لیا تو رو پڑے اور لمبے لمبے سانس لینے لگے، اور آپ نے ہمارے غم میں اضافہ کر دیا اور لوگ آپ کی قبر میں داخل ہونے کے لیے الجھنے لگے، جسے بند کر دیا گیا، ہائے اس مصیبت کے کیا کہنے جس کے بعد جو مصیبت بھی ہمیں پہنچی وہ آپ کی مصیبت کے ذکر کرنے سے بیچ ہو جاتی تھی۔

اور امام احمد نے محمد بن اسحاق کی حدیث سے عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سوموار کے دن وفات پائی اور بدھ کی شب کو دفن ہوئے اور اس سے قبل اس قسم کی کئی احادیث بیان ہو چکی ہیں۔ اور اسی حدیث کو سلف و خلف کے کئی ائمہ نے بیان کیا ہے، جن میں سلیمان بن طرخاں تمیمی، جعفر بن محمد الصادق، ابن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ وغیرہم شامل ہیں، اور یعقوب بن سفیان نے عن عبد الحمید بن بکار عن محمد بن شعیب عن الاوزاعی روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سوموار کے روز نصف النہار سے قبل وفات پائی، اور منگل کے دن دفن ہوئے۔ اور اسی طرح امام احمد نے عبد الرزاق سے بحوالہ ابن جریج روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سوموار کے روز چاشت کے وقت وفات پائی اور دوسرے دن چاشت کو دفن ہوئے، اور یعقوب بن سفیان نے بیان کیا کہ میں نے بیان کیا کہ

سعید بن مسعود نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے من جعفر بن محمد بن عبد الرحمن ابیہ اور عن ابن جرج عن ابی جعفر ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سو موار کے روز وفات پائی اور اس روز اور اس رات اور منگل کے روز دن لے آخر تک آپ پر رہے اور یہ قول غریب ہے اور بہرہ سے وہی بات مشہور ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے سو موار کے روز وفات پائی اور بدھ کی شب کو دفن ہوئے۔

اور اس بارے میں غریب اقوال میں سے یہ قول بھی ہے جسے یعقوب بن سفیان نے عن عبد الحمید بن بکر عن محمد بن شعیب عن ابی العیاض عن لکھول روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سو موار کے روز پیدا ہوئے اور سو موار کے روز آپ پر وحی آئی اور سو موار کے روز آپ نے ہجرت کی اور سو موار کے روز آپ نے ساڑھے باٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ دفن ہوئے بغیر تین دن پڑے رہے لوگ گروہ درگروہ آپ کے پاس آ کر نماز پڑھتے اور صف نہ بناتے اور کوئی شخص ان کی امامت نہ کرتا راوی کا یہ قول کہ ”آپ دفن ہوئے بغیر تین دن پڑے رہے“ غریب قول ہے اور صحیح یہ ہے کہ آپ سو موار کا بقیہ دن اور منگل کا پورا دن پڑے رہے اور بدھ کی شب کو دفن ہوئے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ واللہ اعلم

اور اس کے خلاف وہ روایت ہے جسے سیف نے ہشام سے اس کے باپ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سو موار کے دن وفات پائی اور سو موار کے دن آپ کو غسل دیا گیا اور منگل کی شب کو آپ دفن کیے گئے سیف بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس قول کو پورا بیان کیا ہے اور یہ بہت غریب ہے اور واقدی بیان کرتا ہے کہ عبد اللہ بن جعفر نے عن ابن ابی عون عن ابی عتیق عن جابر بن عبد اللہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر پر پانی چھڑکا گیا جسے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے ایک مشکیزے سے چھڑکا کر آپ نے آپ کے سر کے دائیں پہلو سے آغا کر کیا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں تک پہنچ گئے پھر آپ نے پانی کو دیوار پر سے پھینکا مگر وہ دیوار سے گزر نہ سکا اور سعید بن منصور عن الدرر اور دی عن یزید بن عبد اللہ بن ابی یمن عن ام سلمہ روایت کرتے ہیں آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سو موار کے روز وفات پائی اور منگل کے روز دفن ہوئے۔

اور ابن خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ مسلم بن حماد نے اپنے باپ سے عن عبد اللہ بن عمر عن ربیع بن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سو موار کے روز وفات پائی اور منگل کے روز دفن ہوئے واقدی بیان کرتا ہے کہ ابی ابن عیاش بن سہل بن سعید نے اپنے باپ کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سو موار کے روز وفات پائی اور منگل کی شب کو دفن ہوئے اور ابو بکر بن ابی الدنیا بخوالہ محمد بن عبد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ۱۲ ربیع الاول کو سو موار کے روز وفات پائی اور منگل کے روز دفن ہوئے اور عبد اللہ بن محمد بن ابی الدنیا بیان کرتے ہیں کہ حسن بن اسرائیل ابو محمد النہر تووی نے ہم سے بیان کیا کہ عیسیٰ بن یونس نے بخوالہ اسلمعل بن ابی خالد ہم سے بیان کیا کہ میں نے عبد اللہ بن ابی اوفیٰ کو بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے سو موار کے روز وفات پائی اور منگل کے روز دفن ہوئے اور یہی بات حضرت سعد بن المسیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابو جعفر الباقری بیان کرتے ہیں۔

① التیسویہ میں یزید بن عبد اللہ کی بجائے شریک بن عبد اللہ ہے۔

آپ ﷺ کی قبر کا بیان

تو اتر سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں دفن کیا گیا جو آپ کی مسجد کے مشرق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے مخصوص تھا اور جو حجرہ کے سامنے کے مغربی کونے میں ہے پھر بعد ازاں اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بھی دفن کیا گیا۔

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ محمد بن مقاتل نے ہم سے بیان کیا کہ ابو بکر بن عیاش نے بحوالہ سفیان الشمارہم سے بیان کیا کہ اس نے اسے بتایا کہ اس نے حضرت نبی کریم ﷺ کی قبر کو کوہان نما دیکھا ہے بخاری اس کی روایت میں متفرد ہیں اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ احمد بن صالح نے ہم سے بیان کیا کہ ابن ابی فدیق نے ہم سے بیان کیا کہ عمرو بن عثمان بن حانئ نے بحوالہ قاسم مجھے بتایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر آپ سے کہا اے میری ماں! میرے لیے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صاحبزادے کی قبور کو ظاہر کریں تو آپ نے میرے لیے تین قبور کو ظاہر کیا جو نہ اونچی تھیں اور نہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھیں اور سرخ صحن کے نشیب میں بچھی ہوئی تھیں جن کی شکل یہ تھی:

حضرت نبی کریم ﷺ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

ابو داؤد اس کی روایت میں متفرد ہیں اور حاکم اور بیہقی نے اسے ابن ابی فدیق کی حدیث سے عمرو بن عثمان سے بحوالہ قاسم روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو مقدم دیکھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا سر حضرت نبی کریم ﷺ کے دونوں کندھوں کے درمیان ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا سر حضرت نبی کریم ﷺ کے پاؤں کے پاس ہے۔ امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت بتاتی ہے کہ ان کی قبور ہموار ہیں کیونکہ سنگریزے ہموار جگہ پر ہی ٹک سکتے ہیں۔ اور بیہقی کی یہ عجیب بات ہے کیونکہ روایت میں کلبتہ سنگریزوں کا ذکر نہیں پایا جاتا اس لحاظ سے ممکن ہے کہ آپ کی قبر کوہان نما ہو اور اس میں مٹی سے سنگریزے گڑے ہوئے ہوں۔ اور واقدی نے عن الدرد اور دی عن جعفر بن محمد عن ابیہ روایت کی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی قبر ہموار بنائی گئی ہے۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ فروہ بن ابی المغراء نے ہم سے بیان کیا کہ علی بن مسہر نے

عن ہشام بن عروہ عن ابیہ ہم سے بیان کیا کہ جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ان پر دیوار گریزی تو انہوں نے اس کی تعمیر شروع کر دی تو ان کو قدم نظر آئے تو وہ ڈر گئے اور خیال کرنے لگے کہ یہ حضرت نبی کریم ﷺ کے قدم ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا آدمی نہ پایا جو اس بات کو جانتا ہو یہاں تک کہ عروہ نے انہیں کہا کہ خدا کی قسم یہ حضرت نبی کریم ﷺ کے قدم نہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدم ہیں اور ہشام نے اپنے باپ سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو وصیت کی کہ مجھے ان کے ساتھ دفن نہ کرنا مجھے البقیع میں میری ساتھی عورتوں کے ساتھ دفن کرنا میں اس لائق کبھی نہ ہوں گی۔

میں کہتا ہوں ولید بن عبد الملک نے جب ۸۳ھ میں امارت سنبھالی تو اس نے جامع دمشق کی تعمیر شروع کر دی اور مدینہ میں اپنے عمزاد حضرت عمر بن عبد العزیز کو جو اس کے نائب تھے لکھا کہ وہ مسجد مدینہ کی توسیع کریں پس آپ نے اسے مشرق کی جانب تک وسیع کر دیا اور حجرہ نبوی اس میں شامل ہو گیا۔

اور حافظ ابن عساکر نے اپنی سند سے فرافصہ کے غلام زاذان سے روایت کی ہے اسی نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں جبکہ آپ مدینہ کے امیر تھے مسجد نبوی کو تعمیر کیا تھا اور ابن عساکر نے سالم بن عبد اللہ سے وہی بات بیان کی ہے جس کا ذکر بخاری نے کیا ہے اور قبور کی کیفیت الہوداؤد کی طرح بیان کی ہے۔

آپ کی وفات سے مسلمانوں کو جو مصیبت پہنچی:

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن حرب نے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن زید نے ہم سے بیان کیا کہ ثابت بن انس نے ہم سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی بیماری بڑھ گئی اور آپ کو تکلیف ہونے لگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہائے میرے باپ کی تکلیف آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اور جب آپ فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہائے ابا! جس کی دعا کارب نے جواب دیا ہے ہائے ابا جنت الفردوس جس کا ٹھکانا ہے ہائے ابا جس کی موت کی خبر ہم جبریل کو دیں گے۔ اور جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے انس! کیا تمہارے دلوں نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ ﷺ پر مٹی ڈالو؟ امام بخاری اس کی روایت میں متفرد ہیں۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یزید نے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن زید نے ہم سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا اے انس رضی اللہ عنہا کیا تمہارے دلوں نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ ﷺ کو مٹی میں دفن کر دو اور واپس چلے آؤ۔ اسی طرح ابن ماجہ نے اسے حماد بن زید کی حدیث سے مختصر روایت کیا ہے اور حماد نے اس موقع پر بیان کیا کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو رو پڑتے حتیٰ کہ ان کی پسلیاں ہلنے لگ جاتیں اور اس بات کو نوحہ شمار نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ آپ کے حقیقی فضائل کے بیان کے باب میں سے ہے ہم نے یہ بات صرف اس لیے بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور امام احمد اور نسائی نے شعبہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ میں نے قنادہ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے مطرف کو حکیم بن قیس بن عاصم کو اپنے باپ کی جانب سے وہ وصیت بیان کرتے سنا جو اس نے اپنے بیٹوں کو کی اس نے کہا مجھ

پر نوحد نہ کرنا بلاشبہ رسول اللہ ﷺ پر بھی نوحد نہیں کیا گیا اور اسماعیل بن اسحاق قاضی نے اسے النوادر میں عمرو بن میمون سے بحوالہ شعبہ روایت کیا ہے پھر اس نے اسے عن علی بن المدائنی عن المغیرہ بن سلمہ عن الصعق بن حزن عن القاسم عن بن مطیب عن الحسن البصری عن قیس بن عاصم روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نوحد نہ کرنا بلاشبہ رسول اللہ ﷺ پر نوحد نہیں کیا گیا اور میں نے آپ کو نوحد سے منع کرتے سنا ہے۔ پھر اس نے اسے علی بن محمد بن الفضل عن الصعق عن القاسم عن یونس بن عبید عن الحسن عن عاصم روایت کیا ہے۔

اور حافظ ابو بکر المرزبان بیان کرتے ہیں کہ عقبہ بن سنان نے ہم سے بیان کیا کہ عثمان بن عثمان نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن عمرو نے ابی سلمہ سے بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ پر نوحد نہیں ہوا۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عثمان نے ہم سے بیان کیا کہ جعفر بن سلیمان نے ہم سے بیان کیا کہ ثابت نے بحوالہ انس ہم سے بیان کیا کہ جس روز رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور جس روز آپ کی وفات ہوئی مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے ہاتھ نہیں جھاڑے حتیٰ کہ ہمارے دل ہم سے بیگانہ ہو گئے۔ اور اسی طرح ترمذی اور ابن ماجہ نے بشر بن ہلال الصوفی سے بحوالہ جعفر بن سلیمان الضبعی روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس حدیث کو صحیح غریب کہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا اسناد صحیحین کی شرط کے مطابق ہے اور یہ جعفر بن سلیمان کی حدیث کے مقابلہ میں محفوظ ہے اور ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح لوگوں نے اسے اس سے روایت کیا ہے۔ اور الکریمی محمد بن یونس رحمہ اللہ نے اسے اپنی روایت میں غریب قرار دیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ابو الولید ہشام بن عبد الملک طیالسی نے ہم سے بیان کیا کہ جعفر بن سلیمان الضبعی نے ثابت سے بحوالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو مدینہ تاریک ہو گیا یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے اور ہمارا کوئی آدن اپنے ہاتھ کو پھیلاتا تو اسے دیکھ نہ سکتا۔ اور جو نبی ہم آپ کے دفن سے فارغ ہوئے ہمارے دل ہم سے بیگانہ ہو گئے، یہی نے اسے اسی طرح اپنے طریق سے روایت کیا ہے اور اس نے اسے دیگر حفاظ کے طریق سے بھی ابو الولید طیالسی سے روایت کیا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں اور یہ محفوظ ہے۔ واللہ اعلم اور حافظ کبیر ابو القاسم بن عسا کر نے ابو حفص بن شاہین کے طریق سے روایت کی ہے کہ حسین بن احمد بن بسطام نے ابلہ میں ہم سے بیان کیا کہ محمد بن یزید الرواسی نے ہم سے بیان کیا کہ سلمہ بن عاتق نے عن داؤد بن ابی ہند عن ابی نصرہ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا آپ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی اور جس روز آپ کی وفات ہوئی تو مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی اور ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ اسحاق بن منصور نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الوہاب بن عطاء العجلی نے عن ابن عون عن الحسن عن ابی بن کعب ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے تو ہمارا چہرہ ایک ہی تھا اور جب آپ کی وفات ہوئی تو ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح وہ بیان کرتے

ہیں کہ ابراہیم بن منذر حزامی نے ہم سے بیان کیا کہ میرے ماموں محمد بن ابراہیم بن المطلب بن السائب بن ابی وداعہ سہمی نے ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ بن عبد اللہ ابی امیہ مخزومی نے مجھ سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تو کسی کی نگاہ اس کے قدموں کی جگہ سے تجاوز نہ کرتی رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا تو لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کسی کی نگاہ اس کی پیشانی کے مقام سے تجاوز نہ کرتی اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا تو لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کسی کی نگاہ قبلہ کی جگہ سے تجاوز نہ کرتی اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا اور فتنہ پیدا ہو گیا تو لوگ دائیں بائیں متوجہ ہو گئے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالصمد نے ہم سے بیان کیا کہ حماد نے ثابت سے بحوالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا رو پڑیں۔ ان سے دریافت کیا گیا آپ کس وجہ سے حضرت نبی کریم ﷺ پر گریہ کنناں ہیں تو انہوں نے جواب دیا مجھے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ رسول اللہ ﷺ عنقریب وفات پا جائیں گے، لیکن میں تو اس وحی پر روتی ہوں جو ہم سے اٹھالی گئی ہے۔ آپ نے اسی طرح مختصر روایت کیا ہے۔

اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ حافظ نے ہمیں بتایا کہ ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب نے ہمیں خبر دی کہ محمد بن نعیم اور محمد بن النضر جا رو دی نے ہم سے بیان کیا کہ حسن بن علی خولانی نے ہم سے بیان کیا کہ عمرو بن عاصم کلابی نے ہم سے بیان کیا کہ سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے بحوالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی ملاقات کو تشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا انہوں نے آپ کو ایک مشروب پیش کیا پس یا تو آپ روزہ دار تھے یا آپ اسے پینا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے اس مشروب کو واپس کر لیا میں میں رسول اللہ ﷺ کے پاس ہنستا ہوا آیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ہمارے ساتھ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی ملاقات کو چلے، پس جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے آپ سے کہا آپ کس سبب سے گریہ کنناں ہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے انہوں نے کہا میں اس وجہ سے نہیں روتی کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے بلکہ میں اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی منقطع ہو گئی ہے پس انہوں نے ان دونوں حضرات کو بھی رونے پر ابھار دیا۔ اور یہ دونوں بھی رونے لگے اور مسلم نے اسے زہیر بن حرب سے بحوالہ عمرو بن عاصم مفرد روایت کیا ہے۔

اور موسیٰ بن عقبہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے واقعہ اور اس بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خطبہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ سے فارغ ہوئے تو لوگ واپس آ گئے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بیٹھ کر روتی رہیں آپ سے رونے کی وجہ دریافت کی گئی جبکہ اللہ نے اپنے نبی کا اکرام کیا ہے اور اپنی جنت میں اسے داخل کیا ہے اور دنیا کی تکلیف سے آپ کو سکھ دیا ہے تو آپ نے فرمایا: میں تو آسمانی خبروں پر روتی ہوں جو صبح و شام ہمارے پاس تر و تازہ آتی تھیں، وہ منقطع

ہوگئی ہیں اور اٹھالی گئی ہیں، پس میں ان پر روتی ہوں، تو لوگ آپ کی بات سے حیران رہ گئے۔

اور مسلم بن حجاج اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں اور ابواسامہ سے بھی مجھے اطلاع ملی ہے اور جن لوگوں نے اسے ان سے روایت کیا ہے ان میں ابراہیم بن سعید جو ہری بھی ہے، ابواسامہ نے ہم سے بیان کیا کہ یزید بن عبد اللہ نے عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی ﷺ مجھ سے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کسی جماعت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ان کے نبی کو وفات دے دیتا ہے اور اسے ان کے لیے فرط و سلف بنا دیتا ہے جو ان کے لیے گواہی دیتا ہے۔ اور جب کسی جماعت کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں اس حال میں عذاب دیتا ہے کہ ان کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کے دیکھتے دیکھتے انہیں ہلاک کر دیتا ہے، پس جب وہ اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی ہلاکت سے ان کی آنکھ کو ٹھنڈا کرتا ہے، مسلم اس کی روایت میں اسناداً و متناً منفرد ہیں۔

اور حافظ ابو بکر البزار بیان کرتے ہیں کہ یوسف بن موسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الحمید بن عبد العزیز بن ابی داؤد نے عن سفیان عن عبد اللہ بن السائب عن زاذان عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی ﷺ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے چکر لگانے والے ہیں جو میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے رہتے ہیں، نیز وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم بیان کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس میں جو بھلائی کی بات دیکھتا ہوں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جو بری بات دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ پھر البزار بیان کرتے ہیں کہ ہم اس حدیث کے آخری حصے کو صرف اسی طریق سے عبد اللہ سے مروی جانتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے چکر لگانے والے ہیں، جو مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے رہتے ہیں“ اسے نسائی نے متعدد طرق سے سفیان ثوری اور اعمش سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے اسے عبد اللہ بن السائب سے اس کے باپ کے حوالہ سے روایت کیا ہے، اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ حسین بن علی الجعفی نے عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن ابی الاسود الصنعانی عن اوس بن اوس ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے ایام میں سے افضل جمعہ کا روز ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور فوت ہوئے اور اسی دن پھونک ماری جائے گی اور اسی دن بے ہوشی ہوگی، پس اس روز مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، بلاشبہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اسے ابو داؤد نے ہارون بن عبد اللہ اور حسن بن علی سے اور نسائی نے اسحاق بن

① فرطاً آگے پہنچنے والے اجر کو کہتے ہیں جیسا کہ میت کی دعا میں کہتے ہیں اللھم اجعلہ لنا فرطاً اے اللہ اس کو ہمارے لیے آگے پہنچنے والا اجر بنا

منصور سے روایت کیا ہے اور ان تینوں نے اسے حسین بن علی سے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اسے عن ابی بکر بن ابی شیبہ عن حسین بن علی عن جابر عن ابی الاشعث عن شداد بن اوس روایت کیا ہے ہمارے شیخ ابوالحاج المزنی بیان کرتے ہیں کہ یہ ابن ماجہ کا وہم ہے اور صحیح اوس بن اوس ہے جو ثقفی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک طور پر میرے پاس ایک مشہور جید نسخہ میں ہے جیسا کہ اسے احمد ابوداؤد اور نسائی نے اوس بن اوس سے روایت کیا ہے پھر ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن السواد مصری نے ہم سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن وہب نے عن عمرو بن الحارث عن سعید بن ابی بلال عن زید بن ایمن عن عبادہ بن نسی عن ابی الدرداء ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر بکثرت درود پڑھو بے شک وہ مشہور ہے کہ اس میں ملائکہ موجود ہوتے ہیں اور اگر مجھ پر کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے راوی بیان کرتا ہے میں نے پوچھا موت کے بعد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کے افراد میں سے ہے اور اس موقع پر حافظ ابن عساکر آپ کی قبر شریف کی زیارت کے بارے میں مروی حدیث کے بیان کرنے کے لیے ایک باب باندھا ہے اور اس بحث کے استقصاء کا مقام کتاب الاحکام البکیر میں ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

آپ کے تسلی دینے کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث:

ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ ولید بن عمر بن سکین نے ہم سے بیان کیا کہ ابوہام محمد بن زبیر قان ابوہامی نے ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ بن عبیدہ نے ہم سے بیان کیا کہ مصعب بن محمد نے ابوہام محمد بن عبد الرحمان سے بحوالہ حضرت عائشہؓ ہم سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ دروازہ کھولا جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان تھا۔ یا پردہ اٹھایا کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں پس آپ نے ان کے حسن حال کو دیکھ کر اسی امید پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے انہیں جس حال میں دیکھا ہے اس میں وہ آپ کی نیابت کریں گے آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم میں سے کسی مومن کو مصیبت پہنچے تو وہ اپنی مصیبت میں اس مصیبت کے مقابلہ میں جو اسے میرے بغیر پہنچے گی مجھ سے تسلی پائے بلاشبہ میری امت کے کسی آدمی کو میرے بعد میری مصیبت سے سخت مصیبت نہیں پہنچے گی ابن ماجہ اس کی روایت میں متفرد ہیں اور حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد فقیہ نے ہمیں بتایا کہ شافع بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ ابو جعفر بن سلامہ طحاوی نے ہم سے بیان کیا کہ المزنی نے ہم سے بیان کیا کہ شافعی نے عن القاسم بن عبد اللہ بن عمر بن حفص عن جعفر بن محمد عن ابیہ ہم سے بیان کیا کہ قریش کے کچھ آدمی ان کے باپ علی بن حسین کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بے شک تو انہوں نے کہا بحوالہ ابو القاسم ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے تو جبریل نے آپ کے پاس آ کر کہا اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے اعزاز و اکرام کے لیے خاص طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں اس ذات کی طرف سے جو آپ سے بہتر جانتی ہے آپ سے دریافت کروں کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا اے جبریل میں اپنے آپ کو مغموم پاتا ہوں اے جبریل میں اپنے آپ کو مصیبت زدہ پاتا ہوں پھر دوسرے دن جبریل نے آ کر آپ سے یہی بات کہی

تو حضور ﷺ نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا تھا پھر تیسرے دن جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ سے وہی بات کہی جو پہلے دن کہی تھی اور آپ نے بھی وہی جواب دے دیا اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل نامی ایک فرشتہ آیا جو ایک لاکھ فرشتوں پر حکمرانی کرتا تھا اور ان میں سے ہر فرشتہ ایک لاکھ فرشتے پر حکمرانی کرتا تھا اس نے آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور آپ کا حال دریافت کیا پھر جبریل علیہ السلام کہنے لگے یہ ملک الموت ہے جو آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے اور آپ سے قبل اس نے کسی آدمی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ کے بعد کسی آدمی سے اجازت طلب کرے گا، حضور ﷺ نے فرمایا ات اجازت دے دو تو جبریل علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی تو اس نے اندر آ کر آپ کو سلام کہا پھر کہنے لگا اے محمد ﷺ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دیں تو میں روح قبض کر لوں گا اور اگر آپ مجھے اسے چھوڑ دینے کا حکم دیں تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے مالک الموت کیا تو ایسا کرے گا؟ اس نے کہا ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور مجھے آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جبریل کی طرف دیکھا تو جبریل نے آپ سے کہا اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ملک الموت سے فرمایا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر لیں تو اس نے آپ کی روح قبض کر لی پس جب حضرت نبی کریم ﷺ فوت ہو گئے تو تعزیت آگئی اور انہوں نے بیت اللہ کی طرف سے آواز سنی السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کی ذات میں ہر مصیبت کا صبر اور ہر مرنے والے کا خلف اور ہر رکھونے والے کا عوض پایا جاتا ہے پس اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے امید رکھو پس پاگل وہی ہے جو ثواب سے محروم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ خضر علیہ السلام ہیں یہ حدیث مرسل ہے اور اس کے اسناد میں اس القاسم العمری کی وجہ سے ضعف پایا جاتا ہے بلاخبر اسے کئی ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے اور دوسروں نے اسے کلیتہً ترک کر دیا ہے۔ اور الربیع نے اسے عن الشافعی عن القاسم عن جعفر عن ابی عن جدہ روایت کیا ہے اور اس سے تعزیت کے واقعہ کو فقط موصول بیان کیا ہے اور العمری مذکور کے اسناد کے متعلق ہم آگاہ ہیں تاکہ اس سے دھوکا نہ کھایا جائے ہاں حافظ بیہقی نے اسے حاکم سے بحوالہ ابو جعفر بغدادی روایت کیا ہے عبد اللہ بن الحارث یا عبد الرحمن بن المرتعد الصنعائی نے ہم سے بیان کیا کہ ابوالولید مخزومی نے ہم سے بیان کیا کہ انس بن عیاض نے جعفر بن عبد اللہ سے بحوالہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو انہوں نے آہٹ سنی اور کسی شخص کو نہ دیکھا اس نے کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کی ذات میں ہر مصیبت کا صبر اور ہر رکھونے والے کا عوض اور ہر مرنے والے کا خلف پایا جاتا ہے پس اللہ پر بھروسہ کرو اور اسی سے امید رکھو اور محروم وہی ہے جو ثواب سے محروم ہو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

پھر بیہقی بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں اسناد اگرچہ ضعیف ہیں مگر ایک دوسرے سے مؤکد ہوتا ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جعفر کی حدیث کا کوئی اصل ہے۔ واللہ اعلم

اور حافظ ابو عبد اللہ نے ہمیں بتایا کہ ابو بکر احمد بن بالویہ نے ہمیں خبر دی کہ محمد بن بشر بن مطرن نے ہم سے بیان کیا کہ کامل بن طلحہ نے ہم سے بیان کیا کہ عباد بن عبد الصمد نے بحوالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ

فوت ہو گئے تو آپ کے اصحاب آپ کو گھیر کر آپ کے ارد گرد رونے لگے اور اٹھے ہو گئے تو ایک سفید ریش نیم جو بصورت آدمی آیا اور ان کی آمدوں کو پھانڈنے لگا پھر رونے لگا پھر اس نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہا: اللہ کی ذات میں ہر مصیبت کا صبر اور کھونے والے کا عوض اور ہر مرنے والے کا خلف پایا جاتا ہے پس اللہ کی طرف جھکو اور اسی کی طرف رغبت کرو اور مصیبتوں میں اس کی نظر تمہاری طرف ہے پس تم دیکھو بلاشبہ پاگل وہ ہے جس کی اصلاح نہ ہو پھر وہ لوٹ گیا تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں یہ رسول اللہ ﷺ کا بھائی خضر ہے۔

پھر بیہیچہ بیان کرتے ہیں کہ عباد بن عبد الصمد ضعیف ہے اور یہ ایک بار منکر ہے اور حارث بن ابی اسامہ نے بحوالہ محمد بن سعد روایت کی ہے کہ ہشام بن القاسم نے ہمیں بتایا کہ صالح المری نے بحوالہ ابو حازم المدنی ہم سے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو وفات دی تو مہاجرین فوج در فوج داخل ہو کر آپ کا جنازہ پڑھتے اور باہر نکل جاتے پھر اسی طرح انصار نے داخل ہو کر آپ کا جنازہ پڑھا پھر اہل مدینہ نے داخل ہو کر آپ کا جنازہ پڑھا اور جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتیں داخل ہوئیں تو انہوں نے حسب عادت کچھ جزع و فزع کی اور آواز نکالی تو انہوں نے گھر میں ایک حرکت سنی تو خاموش ہو گئیں اچانک ایک کہنے والا کہنے لگا اللہ کی ذات میں ہر مرنے والے کا صبر اور ہر مصیبت کا عوض اور ہر کھونے والے کا خلف پایا جاتا ہے اور درست وہ ہے جسے ثواب درست کر دے اور پاگل وہ ہے جسے ثواب درست نہ کر سکے۔

آپ کی وفات کے روز عارفین اہل کتاب کے بیانات:

ابو بکر بن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن ادریس نے عن اسمعیل بن خالد عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ النجلی ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں یمن میں تھا کہ ہم یمن کے دو آدمیوں ذوکلاع اور ذوعمر سے ملے اور میں انہیں رسول اللہ ﷺ کی باتیں بتانے لگا تو ان دونوں نے مجھے کہا تو جو بات بیان کر رہا ہے اگر وہ سچی ہے تو آپ کا آقا تین دن سے وفات پا چکا ہے راوی بیان کرتا ہے کہ میں بھی اور وہ دونوں بھی آئے اور ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ مدینہ کا ایک قافلہ ہمیں نظر آیا ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں اور لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں۔

راوی بیان کرتا ہے ان دونوں نے مجھے کہا اپنے آقا کو اطلاع کر دینا کہ ہم آئے ہیں اور شاید ہم غنقریب واپس آئیں گے ان شاء اللہ راوی بیان کرتا ہے وہ دونوں یمن کی طرف واپس چلے گئے اور میں نے آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی باتیں بتائیں آپ نے فرمایا تو انہیں کیوں نہیں لایا پھر بعد میں ذوعمر مجھے کہنے لگا اے جریر تجھے مجھ پر بزرگی حاصل ہے اور میں تجھے ایک خبر دینے والا ہوں تم عرب لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہو گے اور جب امیر فوت ہو گیا تو آخر میں تم امارت سنبھال لو گے اور جب وہ امارت تلوار سے حاصل ہو تو تم بادشاہ بن جاتے ہو اور بادشاہوں کی طرح ناراض اور راضی ہوتے ہو اور اسی طرح اسے امام احمد اور بخاری نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایت کیا ہے اور اسی طرح بیہیچہ نے اسے حاکم سے عن عبد اللہ بن جعفر عن یعقوب بن سفیان عن جریر سے

روایت کیا ہے۔ اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ عالم نے ہمیں بتایا کہ علی بن متوکل نے ہمیں خبر دی کہ محمد بن یونس نے ہم سے بیان کیا کہ یعقوب بن اسحاق حضرمی نے ہم سے بیان کیا کہ زائدہ نے زیاد بن علاقہ سے بحوالہ جریر ہم سے بیان کیا کہ یمن میں ایک عالم مجھے ما اور اس نے مجھے کہا اگر تمہارا آقا نبی ہے تو وہ سوموار کے دن فوت ہو گیا ہے۔ بیہقی نے اسے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابوسعید نے ہم سے بیان کیا کہ زائدہ نے ہم سے بیان کیا کہ زیاد بن علاقہ نے بحوالہ جریر ہم سے بیان کیا کہ یمن میں مجھے ایک عالم نے کہا کہ اگر تمہارا آقا نبی ہے تو وہ آج فوت ہو گیا ہے جریر بیان کرتے ہیں آپ نے سوموار کے دن وفات پائی اور بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابوالحسین بن بشران المعدل نے بغداد میں ہمیں بتایا کہ ابو جعفر محمد بن عمرو نے ہمیں خبر دی کہ محمد بن الہیثم نے ہم سے بیان کیا کہ سعید بن ابی کبیر بن عفیر نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالحمید بن کعب بن علقمہ بن کعب بن عدی تنوخی نے عن عمرو بن الحارث عن ناعم بن ابل عن کعب بن عدی مجھ سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں اہل حیرہ کے ایک وفد میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا تو ہم نے اسلام قبول کر لیا پھر ہم حیرہ کی طرف واپس چلے گئے جو نبی ہم وہاں پہنچے ہمیں حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کی خبر ملی تو میرے ساتھی شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے اگر آپ نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے میں نے کہا آپ سے پہلے بھی انبیا فوت ہو چکے ہیں اور میں اپنے اسلام پر قائم رہا پھر میں مدینہ آنے کے لیے نکلا تو میں ایک راہب کے پاس سے گزرا ہم اس کے بغیر کسی امر کا فیصلہ نہ کیا کرتے تھے میں نے اسے کہا میں نے جس بات کا ارادہ کیا ہے اس کے متعلق مجھے بتاؤ اس کے متعلق میرے سینے میں ایک خلیجان پایا جاتا ہے اس نے کہا ایک نام لاؤ میں نے اسے کعب کا نام دیا اس نے کہا اسے اس کتاب میں ڈال دو۔ اس نے ایک کتاب نکالی ہوئی تھی میں نے کعب کا نام اس میں ڈال دیا تو اس نے اس میں غور کیا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت نبی کریم ﷺ کا بیان ہے حساس کہ میں نے اسے دیکھا اور آپ اس وقت فوت ہو رہے ہیں جس وقت آپ نے وفات پائی راوی بیان کرتا ہے میری ایمانی بصیرت بڑھ گئی اور میں نے آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا اور آپ کے پاس قیام کیا تو آپ نے مجھے مقوقس کے پاس بھیجا پس میں اس کے پاس سے واپس آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مجھے بھیجا تو میں آپ کا خط لے کر اس کے پاس گیا جب میں اس کے پاس گیا تو جنگ یرموک ہو رہی تھی اور مجھے اس کا علم نہ تھا اس نے مجھے کہا کیا تجھے علم ہے کہ رومیوں نے عربوں کو قتل کر دیا ہے اور انہیں شکست دی ہے میں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے تمام ادیان پر غلبہ دے گا اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اس نے کہا تمہارے نبی نے تم سے سچ کہا ہے رومی قتل ہو گئے ہیں اور اللہ نے عاد کو بھی قتل کیا تھا پھر اس نے مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے سر کردہ اصحاب کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اور ان کی طرف تحائف بھیجے اور اس نے جن لوگوں کی طرف تحائف بھیجے ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ میرا خیال ہے اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی کیا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جاہلیت میں کپڑے کے کاروبار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شریک تھا اور جب آپ نے فوجی سپاہیوں کے وظیفہ خواروں کا رجسٹر بنایا تو نبی عدی بن کعب میں میرے لیے وظیفہ مقرر کیا یہ اثر غریب ہے اور اس میں عجیب خبر ہے جو صحیح ہے۔

حضرت سہیلؓ نبی اللہؐ کے متعلق آنحضرت ﷺ کی پیش گوئی کا پورا ہونا

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو عرب، مرتد ہو گئے اور یہودی اور نصرانی گردنیں اٹھا کر دیکھنے لگے اور نفاق پیدا ہو گیا اور مسلمان اپنے نبی کی وفات کے باعث سردرات میں پراگندہ بکریوں کی طرح تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر متفق کر دیا، ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ اور دیگر اہل علم نے مجھے بتایا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو اکثر اہل مکہ نے اسلام سے پھر جانے کی ٹھان لی، یہاں تک کہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ ان سے ڈر کر روپوش ہو گئے اور حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حمد و ثنائے الہی کے بعد رسول اللہ ﷺ کی وفات کا ذکر کیا اور فرمایا بلاشبہ اس بات سے اسلام کی قوت میں اضافہ ہوگا اور جس نے ہمیں شک میں ڈالا، ہمیں اسے قتل کر دیں گے تو لوگ واپس ہو گئے اور جس بات کا انہوں نے ارادہ کیا تھا اس سے رُک گئے، پس حضرت عتاب بن اسید ظاہر ہو گئے اور یہی وہ مقام تھا جو رسول اللہ ﷺ کے اس قول کے مراد تھا جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا۔ یعنی جب جنگ بدر میں حضرت سہیل رضی اللہ عنہ قید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے دانت اکھیڑنے کا اشارہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”شاید وہ اس مقام پر کھڑا ہو کہ تو اس کی مذمت نہ کرے۔“

میں کہتا ہوں عنقریب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد عرب کے کثیر قبائل کے مرتد ہونے کے واقعات اور یمامہ کے متنبی مسلمہ بن حبیب اور یمن کے اسود غنسی کے واقعات کے واقعات کا ذکر آئے گا اور لوگوں کے حالات و واقعات بھی بیان ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت ارتداد کی حماقتوں اور عظیم جہالتوں سے جس پر شیطان نے انہیں برا بیخیز کیا تھا کشاکش کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے واپس آ گئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور انہیں ثابت قدم رکھا اور انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر دین حق کی طرف واپس لایا جیسا کہ عنقریب مفصل طور پر بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ

آنحضرت ﷺ کی وفات پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قصیدہ

ابن اسحاق بیان وغیرہ نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قصائد کا ذکر کیا ہے ان میں سب سے بڑا فصیح اور عظیم قصیدہ وہ ہے جسے عبدالملک بن ہشام نے ابوزید انصاری سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ پر روتے ہوئے کہا:

”طیبہ میں رسول اللہ ﷺ کے کچھ نشان اور روشن گھر ہے اور نشانات مٹ جاتے ہیں اور بوسیدہ بھی ہو جاتے ہیں اور

دار الحرم سے نشانات نہیں مٹتے وہاں پر ہادی کا وہ منبر ہے جس پر وہ چڑھا کرتا تھا اور آپ نشانات کو واضح کرنے والے

اور نشانات کو باقی رکھنے والے ہیں اور آپ کی حویلی میں منیٰ اور مسجد ہے اور وہاں ہجرے بمبئی ہیں بن کے وسط میں اللہ کی طرف سے وہ نور اترتا تھا جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی زمانہ گذرنے کے باوجود ان نشانات کے محاسن نہیں مٹے اور ان پر کونگلی نے حمد کیا تو نشانات اس سے تر و تازہ ہو گئے، میں وہاں رسول اللہ ﷺ کے نشانات اور عہد کو پہچانتا ہوں نیز وہاں ایک قبر ہے جس میں آپ کو لحد میں ڈالنے والے نے منیٰ میں چھپا دیا ہے میں وہاں کھڑے ہو کر رسول اللہ ﷺ پر روتا رہا اور آنکھوں نے درد کی اور ان کی طرح جنات کی آنکھیں بھی درد کرتی ہیں وہ رسول اللہ ﷺ کے احسانات یاد دلاتی ہیں اور میں وہاں اپنے آپ کو ان احسانات کا شمار کرنے والا نہیں پاتا تو میرا دل افسوس کرتا ہے وہ دل درد مند ہیں انہیں احمد کی موت نے کمزور کر دیا ہے تو وہ رسول اللہ ﷺ کے احسانات کو شمار کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ کسی بات کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے لیکن میرا دل غمگین ہو گیا ہے انہوں نے اپنے قیام کو لمبا کر دیا اور آنکھیں اس قبر کے کھنڈرات پر جس میں احمد دفن ہیں خوب روئیں اے قبر رسول تجھے برکت دی جائے اور اس ملک کو بھی برکت دی جائے جس میں راست رو صاحب رشد نے ٹھکانا بنایا ہے ہاتھ اس پر مٹی ڈالتے ہیں اور آنکھیں اس پر روتے روتے اندر دھنس گئی ہیں اور انہوں نے حلم و علم اور رحمت کو ختم کے وقت چھپا دیا ہے اور اس پر تر مٹی ڈال دی ہے جسے سہارا نہیں دیا جاتا اور وہ غمگین ہو کر چلے گئے اور ان میں ان کا نبی موجود نہ تھا اور ان کی پشتیں اور بازو کمزور ہو چکے تھے۔ اور وہ اس شخص پر روتے ہیں جس پر زمین و آسمان روتے ہیں اور لوگ بہت غمگین ہیں اور کیا کسی مرنے والے کی مصیبت نے اس مصیبت کی برابری کی ہے جس روز محمد ﷺ فوت ہوئے تھے۔ ان روز وحی نازل کرنے والا ان سے الگ ہو گیا اور وہ ایک نور تھا جو اوپر نیچے جاتا تھا اور وہ رحمن کی اقتداء کرنے والے کی راہنمائی کرتا تھا اور رسوائیوں کے خوف سے بچاتا تھا اور صحیح راہ کی طرف راہنمائی کرتا تھا، وہ ان کا امام تھا جو کوشش کر کے ان کی حق کی طرف راہنمائی کرتا تھا، اور وہ سچ کا معلم تھا جب وہ اس کی اطاعت کریں گے ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور ان کے عذروں کو قبول کرنے والا تھا۔ اور اگر وہ ایچھے کام کریں تو اللہ انہیں بہت بھلائی دینے والا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا جس کو وہ اٹھانہ سکتے تو کون ہے جو اس سخت معاملے میں آسانی پیدا کر سکے، پس ان کا نعمت الہی میں ہونا مطلوب طریق کے راستے کی دلیل ہے۔ ان کا ہدایت سے انحراف کرنا اس پر شاق گزرتا ہے اور وہ ان کی ہدایت و استقامت کا خواہش مند ہے، وہ ان پر مہربان ہے اور وہ اپنے دست رحمت کو ان پر دراز رکھتا ہے اسی دوران میں کہ وہ اس نور میں چل پھر رہے تھے کہ اچانک ان کے نور کے پاس موت کا ایک سیدھا تیر آیا اور وہ قابل تعریف حالت میں اللہ کی طرف واپس چلا گیا اور ہواؤں کی آنکھیں اس پر رُلّاتی اور تعریف کرتی تھیں اور حرم کا علاقہ ان کے غائب ہونے کی وجہ سے جنگل بن گیا ہے، اسے وحی کے زمانے سے ایسا نہیں دیکھا گیا، معمورہ لحد کے سوا وہ سب جنگل ہے، اس میں ایک گم ہونے والا چلا گیا ہے جسے پتھروں کا فرش اور غرق در لاتے ہیں، آپ کی مسجد آپ کے فوت ہونے سے ادا ہے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ خالی ہو گئی ہے اور جمرہ کبریٰ بھی خالی ہو گیا ہے پھر گھر، میدان، حویلیاں اور مرزبوم اجڑ گئے ہیں اے آنکھ!

رسول اللہ ﷺ پر آنسو بہا اور عمر بھر میں تیرے آسوسوں کو خشک ہوتے نہ دیکھوں اور تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو لوگوں پر احسان کرنے والے پر نہیں روئی، جن میں سے کچھ احسانات ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کو ڈھانپ لیا ہے آپ پر خوب رونا اور اس ہستی کے کھوجانے پر شور مچا کر جس کی مثل زمانے میں نہیں پائی جائے گی۔ گذشتہ لوگوں نے محمد ﷺ کی مثل آدمی نہیں کھویا اور نہ قیامت تک آپ جیسا آدمی کھویا جائے گا، آپ بہت عقیف اور عہد کو پورا کرنے والے تھے اور کم بخشش کرنے والے نہ تھے اور جب بخشش کرنے والا بخل سے کام لیتا تو آپ نیا اور پرانا مال بہت خرچ کرتے اور جب گھرانوں کا نسب بیان کیا جاتا تو آپ معزز قبیلے والے تھے اور آپ جسمانی لحاظ سے بھی بطحاء کے سردار تھے اور بڑی محفوظ چوٹی والے تھے اور آپ نے بلند یوں میں عزت کے بلند ستونوں کو مضبوطی سے قائم کیا اور بزرگی والے رب نے آپ کی اچھے کاموں پر تربیت کی، مسلمانوں کی وصایا اس کی ہتھیلی میں ختم ہو گئیں، پس نہ علم بند ہے اور نہ رائے خراب ہے۔ میرے قول پر کوئی عیب لگانے والا نہیں، مگر وہی جو دور کی بات کہنے والا ہے اور میرا عشق آپ کی ثناء سے باز آنے والا نہیں، شاید میں اس کے ذریعے جنت الخلد میں ہمیشہ رہوں، میں مصطفیٰ کا قرب چاہتا ہوں اور میں اس دن کے حصول کے لیے کوشاں ہوں۔“

اور ابو القاسم سہیلی اپنی کتاب الروض کے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب نے رسول

اللہ ﷺ پر روتے ہوئے کہا:

”میں بے خواب رہا اور میری رات گزرتی نہ تھی اور مصیبت والی رات طویل ہوتی ہے اور رونے نے میری مدد کی اور مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کے متعلق یہ رونا تھوڑا ہے اور اس شام کو ہماری مصیبت بڑھ گئی، جب کہا گیا کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے ہیں اور ہمارے علاقے کو جو مصیبت پہنچی، قریب تھا کہ اس کی اطراف ہمارے سمیت جھک جاتیں اور وہ وحی اور تنزیل جسے جبریل صبح و شام ہمارے پاس لاتے تھے اسے ہم نے کھو دیا ہے اور یہ امر اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ لوگوں کی جانیں اس پر قربان ہوں یا قریب ہے کہ قربان ہو جائیں، وہ نبی اپنی وحی اور قول سے ہمارے شکوک کو دور کرتا تھا اور ہمیں ہدایت دیتا تھا اور ہماری ضلالت کا خدشہ نہ تھا جبکہ رسول ہمارا راہنما تھا، اے حضرت فاطمہؓ! اگر آپ بے صبری کریں تو آپ معذور ہیں اور اگر بے صبری نہ کریں تو یہی صحیح راستہ ہے آپ کے باپ کی قبر تمام قبروں کی سردار ہے اور اس میں لوگوں کا سردار رسول دفن ہے۔“ (سہیلیؒ)



اس بات کے بیان میں کہ

رسول کریم ﷺ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم نہ کوئی غلام چھوڑا نہ کوئی لونڈی نہ کوئی بکری چھوڑی نہ اونٹ اور نہ کوئی ایسی چیز چھوڑی جس کا کوئی وارث ہو بلکہ آپ نے ساری زمین کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیا بلاشبہ تمام دنیا آپ کے نزدیک ایسے ہی حقیر تھی جیسے کہ وہ اللہ کے نزدیک حقیر تر ہے اور آپ کی شان کے لائق ہی نہیں تھا کہ آپ اس کے لیے کوشش کرتے یا اسے اپنے بعد میراث چھوڑتے آپ پر اور آپ کے بھائیوں پر جو نبی اور مرسل ہیں جزا سزا کے دن تک ہمیشہ صلوٰۃ و سلام ہو۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ قتیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابو الاحوص نے ابی اسحاق سے بحوالہ عمرو بن الحارث ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم اور نہ کوئی غلام چھوڑا نہ لونڈی ہاں آپ نے اپنا وہ سفید خبثہ جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے اور اپنے ہتھیار چھوڑے اور زمین چھوڑی جسے آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا۔ بخاری، مسلم کے بغیر اس کی روایت میں منفرد ہیں۔ پس انہوں نے اپنی صحیح کے کئی مقامات میں اسے متعدد طرق سے ابو الاحوص سفیان ثوری اور زہیر بن معاویہ سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے اسحاق بن علی کی حدیث سے اور نسائی نے یونس بن ابی اسحاق کی حدیث سے روایت کیا ہے اور ان سب نے عن ابی اسحاق عمرو بن عبد اللہ السبینی عن عمرو بن الحارث بن المصطلق بن ابی ضرار روایت کی ہے جو حضرت جویریہ بنت الحارث ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں۔

اور امام احمد نے بھی اسے روایت کیا ہے ابو معاویہ نے ہم سے بیان کیا کہ اعمش اور ابن نمیر نے عن اعمش عن شقیق عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم اور نہ کوئی بکری چھوڑی نہ اونٹ اور نہ آپ نے کسی چیز کی وصیت کی۔ اور مسلم نے اسے اسی طرح بخاری سے منفرد روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ نے متعدد طرق سے عن سلیمان بن مہران الاعمش عن شقیق بن سلمہ ابی وائل عن مسروق بن الابدع عن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اسحاق بن یوسف نے عن سفیان عن عاصم عن ذر بن حبیش عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم نہ کوئی غلام چھوڑا نہ لونڈی اور نہ کوئی بکری چھوڑی نہ اونٹ اور عبد الرحمن نے عن سفیان عن عاصم عن ذر عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم اور نہ کوئی بکری چھوڑی نہ اونٹ سفیان بیان کرتے ہیں کہ مجھے زیادہ علم یہی ہے اور میں غلام اور لونڈی کے بارے میں شک کرتا ہوں اور اسی طرح ترمذی نے اسے الشمالی میں بندار سے بحوالہ عبد الرحمن بن مہدی روایت کی ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ وکیع نے ہم سے بیان کیا کہ مسعر نے عن عاصم بن ابی السجو عن ذر عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم نہ کوئی غلام چھوڑا نہ لونڈی اور نہ کوئی بکری چھوڑی نہ اونٹ اس طرح

امام احمد نے بغیر کسی شک کے روایت کیا ہے۔

اور بیہقی نے اسے ابو زکریا بن ابی اسحاق المزکی سے بحوالہ ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب روایت کیا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نے ہم سے بیان کیا کہ جعفر بن عون نے ہمیں بتایا کہ مسعر نے عاصم سے بحوالہ ذرہمیں خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم مجھ سے رسول اللہ ﷺ کی میراث کے بارے میں پوچھتے ہو، رسول اللہ ﷺ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم، نہ کوئی غلام چھوڑا نہ لونڈی مسعر کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہ کوئی بکری چھوڑی نہ اونٹ۔ امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ مسعر نے عدی بن ثابت سے بحوالہ علی بن حسین ہمیں بتایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم اور نہ کوئی غلام چھوڑا نہ لونڈی۔

اور صحیحین میں اعمش کی حدیث سے عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک یہودی سے ایک مقررہ مدت تک کھانا خریدا اور لوہے کی زرہ اس کے پاس رہن رکھی۔ اور بخاری کے الفاظ میں جسے انہوں نے عن قبیصہ عن ثوری عن اعمش عن ابراہیم عن اسود عن عائشہ روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے وفات پائی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس درہم میں رہن تھی۔ اور بیہقی نے اسے یزید بن ہارون کی حدیث سے عن ثوری عن اعمش عن اسود عن عائشہ روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے وفات پائی تو آپ کی زرہ جو کے تیس صاع میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ پھر کہتے ہیں بخاری نے اسے محمد بن کثیر سے بحوالہ سفیان روایت کیا ہے، پھر بیہقی بیان کرتے ہیں کہ علی بن احمد بن عبدان نے ہمیں بتایا کہ ابو بکر محمد بن حمویہ العسکری نے ہمیں خبر دی کہ جعفر بن محمد قلانس نے ہم سے بیان کیا کہ آدم نے ہم سے بیان کیا کہ شیبان نے قتادہ سے بحوالہ انس ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو جو کی روٹی اور چربی کی دعوت دی گئی، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے۔ صبح کو آل محمد کے پاس نہ گندم کا صاع ہوتا تھا نہ کھجور کا، اور ان دنوں آپ کے پاس نویویاں تھیں، اور آپ نے مدینہ کے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رہن رکھی اور اس سے طعام لیا اور آپ اسے اپنی موت تک نہ چھڑا سکے۔ اور ابن ماجہ نے اس کا کچھ حصہ شیبان بن عبد الرحمن نخوی کی حدیث سے بحوالہ قتادہ روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الصمد نے ہم سے بیان کیا کہ ثابت نے ہم سے بیان کیا کہ ہلال نے عکرمہ سے بحوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے بیان کیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے احد کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے خوشی ہوتی کہ احد آل محمد کے لیے سونا ہوتا اور میں اسے راہ خدا میں خرچ کرتا اور جس روز میں فوت ہوتا، تو میرے پاس اس سونے سے صرف دو دینار ہوتے، جنہیں میں قرض کے لیے تیار رکھتا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ فوت ہو گئے اور آپ نے نہ کوئی دینار چھوڑا اور نہ کوئی غلام چھوڑا نہ لونڈی، اور آپ نے ایک زرہ چھوڑی جو تیس صاع جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن تھی، اور اس حدیث کے آخری حصہ کو ابن ماجہ نے عن عبد اللہ بن معاذ یہ الجعی عن ثابت بن یزید عن ہلال بن خباب العبیدی الکوفی روایت کیا ہے، اور اس کے پہلے حصہ کا شاہد صحیح میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے موجود ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الحمید ابو سعید اور حفصان نے ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن یزید نے ہم سے بیان کیا کہ بلال بن خباب نے مکرّمہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تو آپ ایک چٹائی پر لیٹے تھے جس کے نشان آپ کے پہلو پر پڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی! کاش آپ اس سے اچھا! ستر بنا لیتے، آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا سروکار میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو ایک گرم دن میں چلا اور اس نے دن کا کچھ وقت درخت کے نیچے سایہ لیا پھر چلا گیا اور درخت کو چھوڑ دیا احمد اس کی روایت میں منفرد ہیں اور اس کا اسناد جدید ہے اور اس کا شاہد ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے ان دو عورتوں کے بارے میں مروی ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں ایلاء کے واقعہ میں مدد کی اور عنقریب یہ حدیث اپنی مثال حدیث کے ساتھ بیان ہوگی جس میں آپ کے زہد ترک دنیا، اعراض دنیا، اور دنیا کو دھتکارنے کا بیان ہوگا۔ اور یہ بات ہمارے اس قول پر دال ہے کہ حضور ﷺ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سفیان نے ہم سے بیان کیا کہ عبد العزیز بن رفیع نے ہم سے بیان کیا کہ میں اور شداد بن معقل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے وہی چھوڑا جو ان دو لڑکوں کے درمیان ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم علی بن محمد بن علی کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اس قسم کی بات کی۔

اور اسی طرح بخاری نے اسے تنبیہ سے بحوالہ سفیان بن عیینہ روایت کیا ہے اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ مالک بن مقول نے بحوالہ طلحہ ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں میں نے عبد اللہ بن ابی اوفیٰ سے پوچھا کہ کیا حضرت نبی کریم ﷺ نے وصیت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں میں نے کہا آپ نے لوگوں پر وصیت کیسے فرض کی ہے یا انہیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے کتاب اللہ کے متعلق وصیت کی ہے اور بخاری اور مسلم اور اہل سنن نے ابوداؤد کے سوا اسے متعدد طرق سے بحوالہ مالک بن مقول روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حسن صحیح غریب ہے اور ہم اسے مالک بن مقول کی حدیث سے ہی جانتے ہیں۔

متنبیہ:

عنقریب ہم بہت سی احادیث کو اس فصل کے بعد ان چیزوں کے متعلق بیان کریں گے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں مختص کر لیا تھا مثلاً آپ کی بیویوں کے مساکن، لونڈیاں، غلام، گھوڑے، اونٹ، بکریاں، ہتھیار، خچر، گدھا، کپڑے، سامان اور انگوٹھی وغیرہ ہم عنقریب اس کے طرق و دلائل سے اسے واضح کریں گے اور شاید حضور ﷺ نے ان سے بہت سی اشیاء وعدہ وفا کی کرتے ہوئے صدقہ کر دی تھیں اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا تھا اور اپنے کچھ سامان کو بنو نضیر خیبر اور فدک کی زمینوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مخصوص کر دی تھیں، مسلمانوں کے مفاد کے لیے رکھا ہوا تھا جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے ان شاء اللہ مگر آپ نے ان میں سے کسی چیز کو قطعاً اپنے پیچھے وارث کے لیے نہیں چھوڑا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔ وبالله المستعان

باب آ

آپ کے فرمان کا بیان: کہ ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا“

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سفیان نے عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا اور ایک دفعہ کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے وارث دینار و درہم کو باہم تقسیم نہ کریں گے اور اپنی بیویوں کے اخراجات اور اپنے عامل کے خرچ کے بعد میں جو کچھ چھوڑوں وہ صدقہ ہوگا۔ اور بخاری و مسلم اور ابوداؤد نے اسے کئی طرق سے عن مالک بن انس عن ابی الازناء عبداللہ بن ذکوان عن عبدالرحمن بن ہرمل الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے وارث باہم دینار تقسیم نہ کریں گے اور میں اپنی بیویوں کے اخراجات اور اپنے عامل کے خرچ کے بعد جو کچھ چھوڑوں وہ صدقہ ہوگا یہ الفاظ بخاری کے ہیں پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسلمہ نے عن مالک بن انس عن ابی ہریرہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو آپ کی بیویوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ آپ سے ان کی میراث کے متعلق دریافت کریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ نے نہیں فرمایا کہ: ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے“۔ اسی طرح مسلم نے اسے یحییٰ بن یحییٰ سے اور ابوداؤد نے انس رضی اللہ عنہ سے اور نسائی نے قتیبہ سے روایت کیا ہے اور ان سب نے اسے مالک سے روایت کیا ہے۔ اگر آپ کے ترکہ پر میراث کا حکم عائد ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وارث عورتوں میں سے ایک تھیں آپ اعتراف کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ چھوڑا صدقہ بنا دیا تھا اور ظاہر ہے کہ بقیہ امہات المؤمنین نے بھی آپ کے بیان سے اتفاق کیا ہے۔ اور وہ اس بات کا تذکرہ کرتی ہوں گی جو آپ نے ان سے اس بارے میں کہی تھی بلاشبہ آپ کی عبارت بتاتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ امر فیصلہ شدہ تھا۔ واللہ اعلم

اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل بن ابان نے ہم سے بیان کیا کہ عبداللہ بن المبارک نے عن یونس عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے“۔ اور امام بخاری باب قول رسول اللہ ﷺ لا نورث ماتر کناہ صدقۃ میں بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ ہشام نے ہم سے بیان کیا کہ معمر نے عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں بتایا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کی میراث سے اپنا اپنا حصہ طلب کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اس وقت وہ دونوں آپ کی فدک کی زمین اور آپ کے خیبر کا حصہ طلب کرتے ہوئے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ۔ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے اور آل محمد صرف اس مال سے کھاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اس کے متعلق جو کام رسول اللہ ﷺ کو کرتے دیکھا ہے میں اسے کروں گا اور

اسے نہیں چھوڑوں گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے قطع تعلق کر لیا اور وفات تک آپ سے بات نہ کی اور اسی طرح امام احمد نے اسے عبدالرزاق سے بحوالہ معمر روایت لیا ہے پھر احمد نے اسے عن یعقوب بن ابراہیم عن ابیہ عن صالح بن کیسان عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس ستر کو مال فتنے سے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا اپنی میراث طلب کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا غضب ناک ہو گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قطع تعلق کر لیا اور یہ قطع تعلق آپ کی وفات تک قائم رہی، راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد چھ ماہ زندہ رہیں اور پوری حدیث کو بیان کیا ہے امام احمد نے ایسے ہی بیان کیا ہے۔

اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح کی کتاب المغازی میں عن ابی بکر عن اللیث عن عقیل عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات کو دفن کر دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہ دی اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں لوگوں میں وجاہت حاصل تھی اور جب وہ فوت ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے چہروں کو نا آشنا پایا، پس آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مصالحت کرنا چاہی اور آپ کی بیعت کے خواہاں ہوئے اور آپ نے ان میںوں میں بیعت نہیں کی تھی۔ پس آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیں مگر آپ کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد کو ناپسند کیا، کیونکہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی سے واقف تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم ان کے پاس اکیلے نہ جانا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ کچھ کریں خدا کی قسم ان کے پاس ضرور جاؤں گا، پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم آپ کی فضیلت کو اور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اسے جانتے ہیں اور جو بھلائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے ہم اس کی وجہ سے آپ پر حسد نہیں کرتے، لیکن آپ لوگوں نے حکومت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے اور ہم رسول اللہ ﷺ کی قرابت داری کی وجہ سے اس حکومت میں اپنا حصہ سمجھتے ہیں پس حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلسل تقریر کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے رسول اللہ ﷺ کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے صلہ رحمی کرنے کی نسبت زیادہ محبوب ہے اور ان اموال کے بارے میں آپ لوگوں کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے تو میں نے ان میں بھلائی کرنے سے کوتاہی نہیں کی اور جو کام رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے میں نے بھی وہی کیا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی تو منبر پر چڑھ گئے اور تشہد پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں اور ان کی بیعت سے تحلف کرنے اور عذر کرنے کا حال بیان کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تشہد پڑھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق کی عظمت بیان کی اور آپ کی فضیلت اور سابقیت کا ذکر کیا اور بیان کیا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حسد نے آمادہ نہیں کیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان کی بیعت کر لی اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امر معروف کی

طرف رجوع کیا تو ان کے قریب ہو گئے۔ اور بخاری نے اسے اسی طرح روایت کیا ہے اور مسلم اور ابوداؤد اور نسائی نے متعدد طرق سے عن زہری عن مروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو بیعت کی یہ بیعت اس صلح کو منسوخ کرنے والی ہے جو دونوں کے درمیان ہوئی اور جس بیعت کا ہم نے سقیفہ کے روز اولاً ذکر کیا ہے یہ اس کی دوسری بیعت ہے جیسا کہ ابن خزیمہ نے اسے بیان کیا ہے اور مسلم بن حجاج نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان چھ ماہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کنارہ کش نہ تھے بلکہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور مشورہ کے لیے آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کے ساتھ سوار ہو کر ذوالقصد کی طرف گئے جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد عصر کی نماز لیا لیل میں پڑھی پھر مسجد سے باہر نکلے تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بچوں کے ساتھ کھیلنے پایا تو انہیں اپنے کندھوں پر اٹھالیا اور کہنے لگے میرا باپ قربان ہو جو حضرت نبی کریم ﷺ کے مشابہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے، لیکن جب یہ دوسری بیعت ہوئی تو بعض راویوں نے خیال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے قبل بیعت نہیں کی پس آپ نے اس خیال کا رد کر دیا اور مثبت ثانی سے مقدم ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم

اب رہی بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر غضب ناک ہونے کی، تو مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں اگر آپ اس وجہ سے ناراض ہوئی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو میراث سے روک دیا تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس معذرت بھی کی تھی جس کا قبول کرنا واجب تھا۔ کیونکہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باپ رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔

اور آپ بھی شارع کی اس نص کے مطیع و متقاد لوگوں میں شامل ہیں جو آپ کے سوال میراث سے قبل آپ پر اسی طرح مخفی تھی جسے وہ رسول اللہ ﷺ کی ازواج پر مخفی تھی یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے موافقت کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں جو بات بتائی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی ہو یہ بات ان کی شان سے بہت بعید ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس حدیث کی روایت پر حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عباس بن عبدالمطلب، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبد اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے موافقت کی ہے جیسا کہ ہم اسے عنقریب بیان کریں گے اور اگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اس کی روایت میں متفرد بھی ہوتے تب بھی تمام روئے زمین کے لوگوں پر آپ کی روایت کو قبول کرنا اور اس بارے میں آپ کی فرمانبرداری کرنا واجب تھا۔

اور اگر آپ کی ناراضگی اس چیز کی وجہ سے تھی جو آپ نے صدیق رضی اللہ عنہ سے مانگی تو وہ زمینیں صدقہ تھیں میراث نہ تھیں کہ آپ کا خاوندان کی دیکھ بھال کرتا حالانکہ آپ نے ان کے پاس عذر بھی کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ ﷺ کے

تالیفہ ہیں تو وہ اس کام کو رسول اللہ ﷺ کیا کرتے تھے کرماپے پر فرض سمجھتے تھے اور جس کام سے رسول اللہ ﷺ محبت کیا کرتے تھے اس سے محبت کرنا فرض سمجھتے تھے ان لیے آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس کام کو کرنے چھوڑوں گا جسے رسول اللہ ﷺ اس بارے میں کہا کرتے تھے راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے قطع تعلق کر لیا اور اپنی وفات تک آپ سے بات نہ کی اس قطع تعلق اور حالت نے روافض کے فرقہ کے لیے ایک بڑے شر اور طویل جیل کا دروازہ کھول دیا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بے مقصد باتوں میں الجھا دیا ہے اور اگر وہ ان باتوں کو حقیقی صورت میں سمجھتے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو پہچان لیتے اور آپ کے اس عذر کو قبول کر لیتے جس کا قبول کرنا ہر آدمی پر فرض ہے لیکن وہ ایک مخذول فرقہ میں جو مشابہ سے شک کرتے اور آنحضرت اسلام یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین اور ان کے بعد آنے والے دیگر اعصار و امصار کے معتبر علماء کے نزدیک فیصلہ شدہ محکم امور کو چھوڑتے ہیں۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت سے موافقت رکھنے والی جماعت:

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن کثیر نے ہم سے بیان کیا کہ لیث نے عقیل سے بحوالہ ابن شہاب ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن اوس بن الحدادی نے مجھے بتایا کہ محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے اپنی اس حدیث کا مجھ سے ذکر کیا تو میں چل کر ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں چلاحتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تو ان کا حاجب یرقان کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ کو حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمان بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم سے کوئی کام ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، تو اس نے انہیں اجازت دے دی، پھر مجھے لگا کیا آپ کو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے بھی کوئی کام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجیے آپ نے فرمایا میں تم سے اس خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان کھڑے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے رسول اللہ ﷺ اپنی ذات مراد لیتے ہیں ان لوگوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے یہ بات کہی ہے، پھر آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا آپ دونوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات کہی ہے ان دونوں نے کہا آپ نے یہ بات کہی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم کو اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے لیے اس فنی میں سے کوئی چیز مخصوص فرمائی ہے جو اس نے آپ کے سوا کسی کو نہیں دی اس نے فرمایا ہے (ما افاء اللہ علی رسولہ... الی قولہ قدیر) پس یہ خالصتاً رسول اللہ ﷺ کے لیے ہے، خدا کی قسم آپ نے تمہیں چھوڑ کر اسے جمع نہیں کیا اور نہ اسے تم پر ترجیح دی ہے آپ نے اسے نہیں دیا ہے۔ اور تم میں تقسیم کر دیا ہے یہاں تک کہ اس سے یہ مال باقی رہ گیا ہے اور رسول اللہ ﷺ اس مال سے اپنے سال کا خرچ اپنے اہل پر خرچ کرتے تھے پھر باقی کے مال کو لے کر اللہ کے مال میں شامل کر دیتے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا، میں آپ سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں، کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! پھر آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، میں تم دونوں سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں کیا تم دونوں بھی اسے جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! پس

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وفات دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کا دوست ہوں اور آپ نے اسے قبضہ میں کر لیا اور رسول اللہ ﷺ کے عمل کے مطابق اس میں مثل کیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وفات دے دی تو میں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے دوست کا دوست ہوں تو میں نے ۱۰ سال اس پر قبضہ کیا اور میں نے اس میں رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عمل کے مطابق عمل کیا پھر آپ دونوں میرے پاس آئے اور آپ دونوں کی بات ایک ہی ہے اور دونوں کا معاملہ اکٹھا ہے یہاں تک کہ آپ میرے پاس اپنے بھتیجے سے آپ کو جو حصہ آتا ہے وہ مانگنے آئے اور یہ میرے پاس اپنی بیوی کا وہ حصہ مانگنے آئے جو اسے اپنے باپ سے آتا ہے میں کہتا ہوں اگر تم دونوں چاہتے ہو تو میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں مگر تم مجھ سے کسی اور فیصلے کے خواہاں ہو اس ذات کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں میں قیام قیامت تک اس کے بارے میں کوئی اور فیصلہ نہ کروں گا پس اگر تم دونوں عاجز ہو تو اسے مجھے دے دو میں تم دونوں کو اس بارے میں کفایت کروں گا۔

بخاری نے اسے اپنی صحیح کے متفرق مقامات میں روایت کیا ہے۔ اور مسلم اور اہل سنن نے کئی طرق سے اسے زہری سے روایت کیا ہے۔ اور صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان اموال کا انتظام سنبھالا تو ان میں رسول اللہ ﷺ کے عمل کے مطابق عمل کیا اور اللہ جانتا ہے کہ آپ راستباز نیک ہدایت یافتہ اور حق کے تابع تھے پھر میں ان کا منتظم بنا تو میں نے رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مطابق عمل کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں راستباز نیک ہدایت یافتہ اور حق کے تابع ہوں۔ پھر تم دونوں میرے پاس آئے تو میں نے وہ اموال تمہیں دے دیئے تاکہ تم دونوں ان میں رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور میرے جیسا عمل کرو میں تم دونوں سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں کیا میں نے ان اموال کو تمہیں دے دیا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں پھر آپ نے دونوں سے فرمایا میں تم دونوں سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں کیا میں نے تمہیں وہ مال دے دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ نے فرمایا کیا اب تم دونوں مجھ سے کوئی اور فیصلہ چاہتے ہو؟ اس خدا کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں ایسا نہیں ہوگا۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سفیان نے عن عمرو بن زہری عن مالک بن انس ہم سے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر کو حضرت عبدالرحمن، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم سے فرماتے سنا میں تم سے اس اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ روایت صحیحین کی شرط کے مطابق ہے۔

میں کہتا ہوں ان دونوں نے نگرانی کی سپردگی کے بعد جو بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ان دونوں کے درمیان نگرانی تقسیم کر دیں اور دونوں میں سے ہر ایک جس قدر زمین کا مستحق ہے اس کی نگرانی کرے گا کاش فیصلہ ہوتا کہ وہ وارث ہے۔ اور ان دونوں نے اپنے سے پیشتر صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بھیجی تھی جن میں حضرت عثمان، حضرت ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان مجموعی نگرانی کے باعث جھگڑا ہوا تھا اور جن صحابہ رضی اللہ عنہم کو انہوں نے اپنے سے پیشتر بھیجا تھا انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجیے یا ایک کو

دوسرے سے راحت پہنچائیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں کے درمیان نگرانی کی تقسیم سے بچتے تھے کیونکہ یہ بھی تقسیم میراث کے مشابہ تھی خواہ ظاہری صورت میں ہی تھی تاکہ آپ حضور ﷺ کے قول کہ 'ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے' کی تکذیبانی کریں پس آپ نے اس کی بات ماننے سے سختی سے انکار کر دیا پھر حضرت علی اور حضرت عباس حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے تک مسلسل ان اموال کی نگرانی کرتے رہے پس حضرت علی رضی اللہ عنہ ان اموال پر غالب آگئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے مشورے سے ان اموال کو چھوڑ دیا جیسا کہ احمد نے اپنے مسند میں روایت کی ہے۔ پس یہ اموال مسلسل علویوں کے ہاتھوں میں رہے۔ اور میں نے اس حدیث اور اس کے الفاظ کا شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مسندوں میں استقصاء کیا ہے اور میں نے خدا کے فضل سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک ضخیم جلد اکٹھی کی ہے جسے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے اور میں نے اسے صحیح نافع فقہ سے خیال کیا ہے۔ نیز میں نے اسے آج کے مصطلح فقہ کے مطابق مرتب کیا ہے۔

اور ہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اولاً قیاس اور آیت کریمہ کے عموم سے حجت پکڑی اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس نص سے جواب دیا جو حضرت نبی کریم ﷺ کے حق کے بارے میں خاص طور پر روکاٹ ہے۔ نیز آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قول کو تسلیم کیا اور یہی بات آپ کے متعلق خیال کی جاسکتی ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عفان نے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن سلمہ نے محمد بن عمرو سے بحوالہ ابوسلمہ ہم سے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا جب آپ وفات پائیں گے تو کون آپ کا وارث ہوگا؟ آپ نے جواب دیا میرے بیوی بچے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے وارث کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ بلاشبہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ لیکن میں ان کی پرورش کروں گا جن کی رسول اللہ ﷺ پرورش کرتے تھے اور جن پر رسول اللہ ﷺ خرچ کرتے تھے ان پر خرچ کروں گا۔ اور امام ترمذی نے اسے اپنی جامع میں عن محمد بن الہشامی عن ابی الولید طیلحی عن محمد بن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ روایت کیا ہے اور اسے موصول حدیث بیان کیا ہے اور ترمذی اسے حسن صحیح غریب کہتے ہیں اور وہ حدیث جس کے متعلق امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن فضیل نے ولید بن جمیع سے بحوالہ ابوالطفیل ہم سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کیا آپ رسول اللہ ﷺ کے وارث ہیں یا آپ کے اہل؟ آپ نے جواب دیا نہیں بلکہ آپ کے اہل وارث ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ ﷺ کا حصہ کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب نبی کو کوئی کھانا کھلاتا ہے پھر اسے وفات دیتا ہے تو وہ اسے اس آدمی کے سپرد کرتا ہے جو اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے۔ پس میں نے چاہا کہ میں اسے مسلمانوں کو واپس کر دوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ اور جو کچھ رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں اسی طرح ابوداؤد نے اسے عثمان بن ابی شیبہ سے بحوالہ محمد بن فضیل روایت کیا ہے اور اس حدیث کے الفاظ میں غرابت اور نکارت پائی جاتی ہے۔ اور شاید

انہوں نے بعض روایہ کے مفہوم کا مطلب بیان کر دیا ہے اور ان میں بعض راوی شیعہ بھی ہیں، پس اس بات کو یاد رکھیے اور اس بارے میں سب سے اچھی بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ۔ آپ اور جو کچھ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اور یہی صحیح بات ہے اور یہی آپ کے متعلق گمان کیا جاسکتا ہے اور یہی بات آپ کی سیادت، علم اور نبی کے مناسب ہے، گویا اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کے خاندان کو اس صدقہ پر نگران بنا دیں، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس کا جواب نہ دیا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور آپ اس وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئیں، اور آپ بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک عورت ہیں، جو مردوں کی طرح غصے ہو جاتی ہیں، اور آپ رسول اللہ ﷺ کی نص کی موجودگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مخالفت کے باوجود معصوم نہیں ہیں۔

اور ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے قبل ان کو راضی کیا اور ان سے نرم سلوک کیا تو وہ آپ سے راضی ہو گئیں۔

حافظ ابو بکر بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب نے ہمیں بتایا کہ محمد بن عبد الوہاب نے ہم سے بیان کیا کہ عبدان بن عثمان العنقی نے نیشاپور میں ہم سے بیان کیا کہ ابو حمزہ نے اسماعیل بن ابی خالد سے بحوالہ شععی ہم سے بیان کیا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں انہیں اجازت دوں انہوں نے جواب دیا ہاں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اجازت دے دی۔ تو آپ اندر جا کر ان کی رضامندی حاصل کرنے لگے اور کہا، خدا کی قسم! میں نے گھریا مال، اہل اور خاندان کو صرف اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اہل بیت کی رضامندی چاہنے کے لیے چھوڑا ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو راضی کیا، تو وہ آپ سے راضی ہو گئیں۔ اور یہ اسناد جدید اور قوی ہے، اور ظاہر ہے کہ عام شععی نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنی ہوگی یا کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سننے والے نے سنی ہوگی۔

اور علمائے اہل سنت نے اس بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی صحت کا اعتراف کیا ہے۔ حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عبد اللہ حافظ نے ہمیں بتایا کہ ابو عبد اللہ الصفار نے ہم سے بیان کیا کہ اسماعیل بن اسحاق قاضی نے ہم سے بیان کیا کہ نصر بن علی نے ہم سے بیان کیا کہ ابن داؤد نے بحوالہ فضیل بن مرزوق ہم سے بیان کیا کہ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فدک کے بارے میں کیا ہے۔



روافض کے استدلال کی تردید

اس مقام پر روافض نے جہالت سے کلام کیا ہے اور جس بات کے متعلق انہیں علم نہیں اس کا تکلف کیا ہے اور جس بات کا انہوں نے علم سے احاطہ نہیں کیا اس کی تکذیب کی ہے حالانکہ ابھی اس کی تاویل ان کے پاس نہیں آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو فضول باتوں میں الجھالیا ہے اور ان میں سے بعض نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کو رد کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ قرآن کے مخالف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ حضرت سلیمان، حضرت داؤد رضی اللہ عنہما کے وارث ہوئے نیز اللہ تعالیٰ حضرت زکریا رضی اللہ عنہ کے متعلق بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا:

﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرْتَضِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾

کہ مجھے اپنی جناب سے مددگار عطا فرما جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا۔

اور اس سے ان کا استدلال کرنا کئی وجوہ سے باطل ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قول ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ سے مراد حکومت و نبوت کی وارث ہے، یعنی ہم حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو ان امور میں حضرت داؤد رضی اللہ عنہ کا قائم مقام بنایا جو وہ ملک میں حکومت کرنے، رعایا کی تدبیر کرنے اور بنی اسرائیل کے درمیان فیصلے کرنے کے بارے میں سرانجام دیتے تھے نیز ہم نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ کی طرح نبی بنایا اور جس طرح اللہ نے ان کے باپ کے لیے نبوت اور حکومت اکٹھی کر دی تھی اسی طرح ان کے بعد ان کے بیٹے کے لیے بھی کر دی اور اس سے مال کی وراثت مراد نہیں ہے کیونکہ حضرت داؤد رضی اللہ عنہ کے جیسا کہ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے، بہت سے بیٹے تھے، کہا جاتا ہے کہ ایک سو بیٹے تھے پس اگر مال کی وراثت مراد ہوتی تو ان میں سے صرف سلیمان کے ذکر پر اکتفاء نہ کی جاتی بلکہ اس سے مراد صرف نبوت اور حکومت کی ہے وراثت کا قیام ہے اس لیے فرمایا ہے کہ ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ نیز فرمایا:

اس آیت اور اس کے بعد کی آیات پر ہم نے اپنی تفسیر کی کتاب میں سیر حاصل بحث کی ہے۔

اب رہا حضرت زکریا رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو آپ انبیاء کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں اور دنیا آپ کے نزدیک نہایت حقیر تھی، کجایہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کرتے کہ وہ آپ کے مال کا وارث ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صرف ایک بڑھئی تھے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے جیسا کہ بخاری نے بیان کیا ہے اور آپ اس سے اپنی خوراک سے زیادہ ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ اللہ سے بیٹے کی دعا کریں کہ وہ آپ کے مال کا وارث ہو، اگر ان کے پاس مال ہو آپ نے صرف صالح بیٹے کی دعا کی ہے جو نبوت اور بنی اسرائیل کے مصالح کے قیام اور ان کو راہ راست پر آمادہ کرنے میں آپ کا وارث ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿كَلِمَاتٍ ذُكِّرُوا بِهَا لَكُمْ عَبْدُكُمْ رَبُّكُمْ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي

وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسَ شَيْبًا وَ لَمْ أَكُنْ بَدْعًا نَكَرَ شَقِيًّا وَ أَنِي حُفَّتِ السَّمَوَاتِي مِنْ وَرَائِي وَ كَتَّابٌ

أَمْرًا نَسِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَ لِيَا يَرْثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

آپ نے دعا کی کہ ایسا ہوگا کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو یعنی نبوت کا جیسا کہ ہم نے تفسیر میں بیان کیا ہے اور قبل ازیں ابوسلمہ کی روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بحوالہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما مروی ہے بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔

دوم: انبیاء میں سے رسول اللہ ﷺ کو بعض ایسے احکام سے مخصوص کیا گیا ہے جن میں وہ آپ سے شراکت نہیں رکھتے اور ہم اس کے لیے سیرت کے آخر میں ایک الگ باب قائم کریں گے۔ ان شاء اللہ اور اگر یہ فیصلہ ہوتا کہ آپ کے سوا دیگر انبیاء کے وارث ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے جن میں ائمہ اربعہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم شامل ہیں اور وہ دیگر انبیاء کے سوا آپ کی اس حکم سے تخصیص کو واضح کرتے ہیں۔

سوم: اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہوگا اور اس کے مقتضایہ کا فیصلہ وہ ہوگا جو خلفاء نے اس کے متعلق کیا ہے اور علماء نے اس کی صحت کا اعتراف کیا ہے خواہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہو یا نہ ہو آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ کا قول ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ کے فیصلے کی خبر ہو یا آپ سے پہلے کے بقیہ انبیاء کے فیصلے کی خبر ہو اور یہ ایک واضح فیصلہ ہے اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی وصیت کا انشاء ہو گویا آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا اس لیے کہ جو کچھ ہم ترکہ چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا اور جواز کے لحاظ سے آپ کی تخصیص نے آپ کے تمام مال کو صدقہ بنا دیا ہے۔ لیکن ایسا احتمال زیادہ واضح ہے اور اسی کو جمہور نے اختیار کیا ہے۔

اور دوسرے احتمال کے مفہوم کو مالک وغیرہ کی وہ حدیث تقویت دیتی ہے جو ابو الزناد سے عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما پہلے بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میرے وارث کوئی دینار باہم تقسیم نہ کریں گے۔ اور اپنی بیویوں کے اخراجات اور اپنے عامل کے خرچ کے بعد میں جو کچھ چھوڑوں گا وہ صدقہ ہوگا۔ اور یہ لفظ صحیحین میں بیان ہوا ہے اور شیعہ فرقہ کے جن جہلانے اس حدیث کی روایت میں تحریف کی ہے یہ لفظ اس کی تردید کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ماتر کناہ صدقہ میں صدقۃ نصب کے ساتھ ہے اور مانا فیہ ہے پس حدیث کے پہلے حصے کے ساتھ کیا کیا جائے گا جس میں آپ نے لانا ورث فرمایا ہے؟ اور اس حدیث کے ساتھ کیا کیا جائے گا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ "ماترکت بعد نفقة نسائی و مؤنة اهلی فہو صدقة" اس قول کا وہی حال ہے۔ جیسے ایک معتزلی سے حکایت بیان کی گئی ہے کہ اس نے اہل سنت کے ایک شیخ کو (و کلم اللہ موسی تکلیما) نصب جلال کے ساتھ سنایا تو شیخ نے اسے کہا تیرا براہو تو اس قول الہی (فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا فَكَلَّمْنَاهُ) کے ساتھ کیا کرنے کا؟ حاصل کلام یہ کہ آپ کے قول ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ پر ہر اس تقدیر کی بنا پر عمل واجب ہوگا جس کا احتمال لفظ اور معنی میں پایا جائے گا۔ بلاشبہ یہ حدیث آیت میراث کے عموم کو مخصوص کرنے والی ہے اور حضور ﷺ کو اس سے خارج کرنے والی ہے۔ خواہ صرف آپ کو اس سے خارج کرے یا آپ کے دیگر انبیاء بھائیوں کو بھی خارج کرے۔

آپ کی ازواج و اولاد

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ نِّسَاءِ إِن تَقِيْنُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَ قُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ النَّبِيِّ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِّنَ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٥٣﴾

اس امر میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ حضور ﷺ نوبیوں یا چھوڑ کر فوت ہوئے۔

حضرت عائشہ بنت حضرت ابوبکر صدیق التیمیہ، حضرت حفصہ بنت حضرت عمر بن الخطاب العدویہ، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت حضرت ابوسفیان بن حرب بن امیہ الامویہ، حضرت زینب بنت جحش الاسدیہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ المخزومیہ، حضرت میمونہ بنت الحارث الہمالیہ، حضرت سودہ بنت زمعہ العامریہ، حضرت جویریہ بنت الحارث بن ابی ضرار المصطلقیہ، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب النضریہ الاسراہیلیہ البہارونیہ رضی اللہ عنہن وارضائہن اور آپ کی دولونڈیاں بھی تھیں، حضرت ماریہ بنت شمعون القبطیہ المصریہ جو انصا کے ضلع سے تھیں جو آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور حضرت ریحانہ بنت شمعون القرظیہ نے اسلام قبول کر لیا پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا اور وہ اپنے اہل کے پاس چلی گئیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ محجب ہیں۔ واللہ اعلم، اور اس پر مفصل و مرتب گفتگو وہاں ہوگی جہاں پہلے اس کا ذکر آئے گا پس سب سے پہلے ہم آئمہ کے مجموعی کلام کو بیان کرتے ہیں۔

حافظ کبیر ابوبکر بیہقی نے سعید بن ابی عروبہ کے طریق سے بحوالہ قتادہ روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ۔ رسول اللہ ﷺ نے پندرہ عورتوں سے نکاح کیا اور ان میں سے تیرہ کو گھولائے اور گیارہ آپ کے پاس اکٹھی رہیں اور نو کو چھوڑ کر آپ فوت ہوئے پھر انہوں نے ان نو کا ذکر کیا ہے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں اور سیف بن عمر نے اسے عن سعید بن قتادہ عن انس روایت کیا ہے اور پہلی صحیح ہے اور سیف بن عمرو التیمی نے اسے عن سعید بن قتادہ عن انس و ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی مانند روایت کیا ہے اور سعید بن عبد اللہ سے عن عبد اللہ بن ابی ملیکہ عن عائشہ اس کی مانند روایت کی گئی ہے آپ فرماتی ہیں کہ جن دو عورتوں کو آپ گھر نہیں لائے وہ یہ ہیں عمرہ بنت یزید الغفاریہ اور الشنباہ، عمرہ سے آپ نے خلوت کی اور اس کا لباس اتار اتار کر اس کے جسم میں برص کے

① ریحانہ بنت شمعون غلط ہے، عنقریب بیان ہوگا کہ آپ زید کی بیٹی ہیں۔

② التیور یہ میں ہے کہ جریر بن کثیر نے اسے قتادہ سے بحوالہ انس روایت کیا ہے۔

③ ابن ہشام میں ہے کہ یہ دونوں اسماء بنت العنمان الکندیہ اور عمرہ بنت یزید الکلابیہ تھیں، پہلی کے ہاں آپ نے سفیدی دیکھی اور اسے مہر دے کر اس کے اہل کی طرف لوٹا دیا اور دوسری نے آپ سے پناہ مانگی۔

داغ دیکھے تو اسے واپس کر دیا اور اسے مہر دیا اور دوسروں پر حرام ہو گئی۔ اور الشبہاء جب آپ کے پاس آئی تو وہ تیار نہ تھی آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی تیاری کا انتظار کرنے لگے اور جب آپ کے صاحب زادے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفات پائی تو الشبہاء کہنے لگی اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کا صاحبزادہ نہ مرتا، تو آپ نے اسے طلاق دے دی اور اسے مہر دیا اور وہ دوسروں پر حرام ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بوعورتیں آپ کے پاس اکٹھی ہوئیں وہ یہ ہیں، حضرت عائشہ، حضرت سودہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت ام شریک رضی اللہ عنہم۔

میں کہتا ہوں صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی گیارہ عورتوں کے پاس چکر لگاتے تھے اور مشہور یہ ہے کہ آپ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہہ کو گھر نہیں لائے جیسا کہ عنقریب اس کی وضاحت آئے گی لیکن ان گیارہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نو مذکورہ عورتوں اور دو لونڈیوں حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہما کے پاس چکر لگایا کرتے تھے اور یعقوب بن سفیان الفسوی نے عن الحجاج بن ابی منیع عن جدہ عبید اللہ بن ابی الزیاء والرضان عن زہری روایت کی ہے اور بخاری نے اپنی صحیح میں اسے اس حجاج سے معلق قرار دیا ہے اور حافظ ابن عساکر نے اس سے ایک حصہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے جس عورت سے نکاح کیا وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی تھیں، بعثت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد نے آپ سے ان کا نکاح کیا اور ایک روایت میں ہے زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ کی عمر ۲۱ سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ۲۵ سال تھی، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب کعبہ کی تعمیر کی گئی اور اقدی نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر ۴۰ سال تھی اور دیگر اہل علم کا قول ہے کہ حضور ﷺ کی عمر اس وقت ۳۰ سال تھی اور حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اس وقت آپ کی عمر ۲۵ سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر ۴۰ سال تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر ۲۸ سال تھی، ابن عساکر نے ان دونوں کی روایت کی ہے اور ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی عمر ۳۷ سال تھی، پس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے، قاسم، جس سے آپ کنیت کرتے تھے، طیب، طاہر، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کو جنم دیا۔ میں کہتا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سوائے ابراہیم کے جو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے، آپ کی تمام اولاد کی ماں تھیں جیسا کہ عنقریب اس کی وضاحت ہوگی، پھر انہوں نے بنات رسول میں سے ہر بیٹی اور جس نے اس سے نکاح کیا، پر گفتگو کی ہے، جس کا ما حاصل یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے العاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس بن عبد مناف نے نکاح کیا۔ اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے ان کی ماں ہالہ بنت خویلد تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان سے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام علی تھا اور ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام امامہ بنت زینب تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا اور ابھی آپ زندہ تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے پھر ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب سے نکاح کیا اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا اور آپ سے ان کے ہاں ایک بیٹا عبید اللہ پیدا ہوا

جس سے پہلے آپ کسیت کرتے تھے پھر آپ نے اپنے بیٹے عمرو سے نیت اختیار کر لی 'حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اس وقت فوت ہوئیں جب رسول اللہ ﷺ بدر میں تھے اور جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فتح کی بشارت لے کر آئے کہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے آپ پر مٹی برابر کر دی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے پس رسول اللہ ﷺ نے ان کا حصہ اور ابر لگایا پھر ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے 'حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بھی رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس وفات پا گئیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کے عمزاد حضرت علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا اور جنگ بدر کے بعد آپ کو گھر لائے اور آپ کے ہاں ان سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جن سے آپ کسیت کرتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو سرزمین عراق میں شہید ہوئے۔ میں کہتا ہوں 'کہا جاتا ہے کہ محسن بھی آپ کے ہاں پیدا ہوا اور اوی بیان کرتا ہے کہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ہاں پیدا ہوئیں اور اس زینب سے ان کے عمزاد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا اور ان سے آپ کے ہاں علی اور عون پیدا ہوئے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس ہی ان کی وفات ہوئی اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا جس سے آپ کے ہاں حضرت زید پیدا ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑ کر فوت ہو گئے تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کیا۔ آپ نے عون بن جعفر رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو وہ بھی آپ کو چھوڑ کر مر گئے اور اس کے بعد ان کے بھائی محمد نے آپ سے نکاح کیا تو وہ بھی آپ کو چھوڑ کر مر گئے۔ اس کے بعد ان دونوں کے بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کیا تو آپ ان کے ہاں فوت ہو گئیں۔ زہری بیان کرتا ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے قبل دو مردوں سے نکاح کیا تھا 'ان میں سے ایک عتیق بن عابد بن محزم تھا جس سے آپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جو محمد بن صفی کی والدہ ہیں اور دوسرا ابوہالہ تمیمی تھا جس سے آپ کے ہاں ہند بن ہند پیدا ہوا اور ابن اسحاق نے اس کا نام بھی بیان کیا ہے 'زہری بیان کرتے ہیں 'پھر عابد کے مرنے کے بعد ابوہالہ النباش بن زرارہ نے آپ سے نکاح کیا 'جو بنی عمرو بن تمیم کا ایک آدمی تھا اور بنی عبدالدار کا حلیف تھا 'اس سے آپ کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی 'پھر وہ آپ کو چھوڑ کر مر گیا 'تو اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے آپ سے نکاح کیا اور رسول اللہ ﷺ سے آپ کے ہاں چار لڑکیاں پیدا ہوئیں 'پھر ان کے بعد قاسم طیب اور طاہر پیدا ہوئے 'پس ابھی وہ دودھ پیتے تھے کہ جوانی کا جوش جاتا رہا۔

میں کہتا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کی زندگی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اسی طرح عبدالرزاق نے عن معمر بن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات بیان کی ہے۔ اور قبل ازیں ہم آپ کی تزویج کا اپنے مقام پر ذکر کر آئے ہیں اور آپ کے کچھ فضائل کو بھی دلائل کے ساتھ بیان کر آئے ہیں۔

① ابن ہشام کی روایت میں عابد بن ہند ہے اور سہیلی کے روض الانف میں عائشہ اور اسے ابوہالہ کہتے ہیں۔

زہری بیان کرتے ہیں پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت عائشہ بنت ابی بکر عبد اللہ بن ابی قحافہ بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن انصر بن کنانہ کے ساتھ نکاح کیا۔ اور آپ نے آپ کے سوا کسی اور باکرہ سے نکاح نہیں کیا۔

میں کہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کے ایک بچے کا اسقاط ہو گیا تھا جس کا نام رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ رکھا تھا، اسی وجہ سے آپ ام عبد اللہ کنیت کرتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھانجے عبد اللہ بن زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے کنیت کرتی تھیں جو آپ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا بیٹا تھا۔ میں کہتا ہوں بعض کا قول ہے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے قبل حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا یہ بات ابن اسحاق وغیرہ نے بیان کی ہے اور اس کے متعلق جو اختلاف پایا جاتا ہے اسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ واللہ اعلم

اور قبل ازیں ہم یہ بھی بیان کر آئے ہیں کہ آپ نے ان دونوں سے ہجرت سے قبل نکاح کیا تھا۔ اور آپ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گھر لانا ہجرت کے بعد تک مؤخر ہو گیا اور ای بیان کرتا ہے کہ آپ نے حضرت حفصہ بنت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا جو آپ سے پہلے حسین بن حذافہ بن قیس بن عدی بن حذافہ بن سہم بن عمرو بن ہصیص بن کعب بن لوئی کے نکاح میں تھیں۔ وہ مومن ہونے کی حالت میں آپ کو چھوڑ کر مر گیا۔ اور آپ نے ام سلمہ بنت عبد بن ابی امیہ بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم سے نکاح کیا اور آپ سے قبل وہ اپنے عمزاد ابوسلمہ عبد اللہ بن عبد الاسد بن بلال بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم کی بیوی تھیں، اور آپ نے سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالک بن حل بن عامر بن لوئی سے نکاح کیا جو پہلے سہیل بن عمرو کے بھائی اسکران بن عمرو بن عبد شمس کی بیوی تھیں جو ارض حبشہ سے آپ کے ساتھ واپس مکہ آنے کے بعد مسلمان ہونے کی حالت میں آپ کو چھوڑ کر مر گیا تھا اور آپ نے ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی سے نکاح کیا جو قبل ازیں عبد اللہ بن جحش بن رباب کے نکاح میں تھیں جو بنی اسد بن خزیمہ میں سے تھا جو سرزمین حبشہ میں نصرانی ہونے کی حالت میں فوت ہو گیا تھا رسول کریم ﷺ نے عمرو بن امیہ الضمری کو سرزمین حبشہ میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تو انہوں نے اسے متنگی کا پیغام دیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس سے آپ کا نکاح کروادیا، صحیح بات یہ ہے کہ عثمان بن ابی العاص نے نکاح کروایا اور آپ کی طرف سے نجاشی نے چار سو دینار مہر اسے دیا اور اسے شریحیل بن حسنہ کے ساتھ بھیج دیا۔ اس سارے واقعہ کو ہم قبل ازیں مفصل طور پر بیان کر چکے ہیں۔ اور آپ نے زینب بنت جحش بن رباب بن اسد بن خزیمہ سے نکاح کیا اور اس کی ماں رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب تھیں اور آپ سے پہلے یہ حضور ﷺ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں اور یہ آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے ملنے والی ہیں اور یہ پہلی عورت ہیں جن کے لیے تابوت بنایا گیا جسے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے بنایا جیسے کہ انہوں نے اسے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا اور آپ نے

زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جو بنی عبدمناف بن ہلال بن عامر بن صعصعہ سے تھیں انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا اور آپ سے پہلے یہ حضرت عبداللہ بن نجش بن رباب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں جو احد کے روز قتل ہو گئے تھے اور حضور ﷺ تھوڑا عرصہ ہی آپ کے پاس ٹھہرے تھے کہ آپ فوت ہو گئیں اور یونس بن مالک ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ حضور سے پہلے آپ اخصیین ابن الحارث بن عبدالمطلب بن عبدمناف یا ان کے بھائی الطفیل بن الحارث^۱ کی بیوی تھیں۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میمونہ بنت الحارث بن حزن بن نجیر بن الہزم بن رؤیبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ سے نکاح کیا راوی بیان کرتا ہے آپ ہی نے اپنے نفس کو بہہ کیا تھا۔

میں کہتا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو پیغام نکاح دیا اور دونوں کے درمیان آپ کا غلام ابورافع سفیر تھا جیسا کہ ہم نے عمرۃ القضا میں اسے تفصیلاً بیان کیا ہے۔

زہری بیان کرتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے پہلے دو مردوں سے شادی کی۔ جن میں سے پہلا ابن عبد یلیل تھا اور سیف بن عمرو نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ آپ عمیر بن عمرو کی بیوی تھیں جو بنی عقدہ بن ثقیف بن عمرو ثقفی کا ایک آدمی تھا جو آپ کو چھوڑ کر مر گیا۔ پھر ابورہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی نے آپ سے شادی کی راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جویریہ بنت الحارث بن ابی ضرار بن الحارث بن عامر بن مالک بن المصطلق کو المرسیع کی جنگ میں خزانہ سے قیدی بنایا اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا اور آپ سے پہلے وہ اپنے عمراد صفوان بن ابی السفری کی بیوی تھیں قتادہ سعید المسیب شععی اور محمد بن اسحاق وغیرہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خزانہ کا یہ بطن رسول اللہ ﷺ کے خلاف ابوسفیان کا حلیف تھا اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حارث بن ابی ضرار اور قریظہ کا معاہدہ تمہارے بارے میں برابر ہے۔

اور سیف بن عمرو اپنی روایت میں سعید بن عبداللہ سے عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اپنے عمراد مالک بن صفوان بن تولب ذالشعر بن ابی السرح بن مالک بن المصطلق کی بیوی تھیں۔ راوی بیان کرتا ہے اور آپ نے صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا کو خیبر کے روز بنی نضیر سے قیدی بنایا جو کنانہ بن ابی الحقیق کی دلہن تھیں اور سیف بن عمرو نے اپنی روایت میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ کنانہ سے قبل حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سلام بن مشکم کے پاس تھیں۔ واللہ اعلم

راوی بیان کرتا ہے کہ یہ تیرہ عورتیں تھیں جنہیں آپ گھر لائے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں

۱ ابن ہشام کی روایت ہے کہ آپ قبل ازس عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف کی بیوی تھیں اور عبیدہ سے قبل آپ اپنے عمراد جم بن عمرو بن الحارث کی بیوی تھیں۔

۲ ابن اسحاق نے ابورہم کے سوا کسی کا ذکر نہیں کیا۔

حضرت نبی کریم ﷺ کی ازواج میں سے ہر بیوی کو بارہ ہزار روپیہ دیا اور حضرت بویریہ اور حضرت سفیہ رضی اللہ عنہما کو چھ ہزار روپیہ دیا اس لیے کہ انہیں قیدی بنایا گیا تھا زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو حجاب میں رکھا اور انہیں حصہ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ قبل ازیں ہم نے اپنے مقام پر حضور ﷺ کے ہر ایک بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کے حالات مفصل طور پر لکھ دیئے ہیں۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بنی بکر بن سلمہ ب کے ظلیان بن عمرو کی بیٹی عالیہ سے بھی نکاح کیا اور اسے گھر لائے اور اسے طلاق دے دی، یہی بیان کرتے ہیں میری کتاب میں اسی طرح لیکن دوسروں کی روایت میں ہے کہ آپ اسے گھر نہیں لائے اور اسے طلاق دے دی اور محمد بن سعد، ہشام بن محمد بن السائب کلبی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بنی ابی بکر بن کلاب کے ایک آدمی نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عالیہ بنت ظلیان بن عمرو بن عوف بن کعب بن عبد بن ابی بکر بن کلاب سے نکاح کیا اور وہ ایک مدت تک آپ کے پاس ٹھہری رہی۔ پھر آپ نے اسے طلاق دے دی اور یعقوب بن سفیان نے عن حجاج بن منتع عن جدہ عن زہری عن عمرو بن عوف بن عوف بن کعب بن عبد بن ابی بکر بن کلاب سے نکاح کیا اور وہ ایک مدت تک آپ کے پاس ٹھہری رہی۔ پھر آپ نے اسے طلاق دے دی اور یعقوب بن سفیان نے پس پردہ سن رہا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کو ام شیبہ کی بہن میں کوئی دلچسپی ہے؟ اور ام شیبہ ضحاک کی بیوی ہے اور یہی بات زہری نے کہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی عمرو بن کلاب کی ایک عورت سے نکاح کیا۔ آپ کو اطلاع ملی کہ اس کے جسم پر برص کی سفیدی کے داغ ہیں تو آپ نے اسے طلاق دے دی اور اسے گھر نہیں لائے۔ میں کہتا ہوں ظاہر ہے کہ یہ وہی عورت ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے قبول کیا تھا۔ واللہ اعلم

راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے بنی الجوان الکندی کی بہن سے نکاح کیا۔^۱ اور وہ بنی فزازہ کے حلیف ہیں پس اس نے آپ سے پناہ مانگی تو آپ نے فرمایا: تو نے ایک عظیم ہستی کی پناہ مانگی ہے اپنے اہل کے پاس چلی جا اور آپ نے اسے طلاق دے دی اور اسے گھر نہیں لائے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ کی ایک لونڈی بھی تھی جسے ماریہ کہا جاتا تھا اس سے آپ کے ہاں ایک لڑکا ابراہیم نام پیدا ہوا اور فوت ہو گیا اور اس نے گہوارے کو بھر دیا۔ اور ریحانہ بنت شمعون نام آپ کی ایک لونڈی تھی جو اہل کتاب میں سے خنافتہ میں سے تھی جو بنی قریظہ کا ایک بطن ہیں رسول اللہ ﷺ نے اسے آزاد کر دیا، مؤرخین کا خیال ہے کہ وہ محتجب ہو گئی تھی۔

اور حافظ ابن عساکر نے اپنی سند سے علی بن مجاہد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خولہ بنت ہذیل بن ہبیرہ تغلیسی سے نکاح کیا جس کی ماں خرتن بنت خلیفہ تھی جو دحیہ بنت خلیفہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی اسے شام سے سوار کرا کر آپ کے پاس لایا گیا تو وہ راستے میں ہی فوت ہو گئی تو آپ نے اس کی خالہ شراف بنت فضالہ بن خلیفہ سے نکاح کیا اسے بھی شام سے سوار کرا کے لایا گیا تو وہ بھی راستے ہی میں فوت ہو گئی اور یونس بن بکر بنحوالہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اسماء بنت کعب

۱ الروض الائف میں سبیلی نے اس کا نام اسماء بنت النعمان بن الجوان الکندیہ لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے اس سے نکاح کیا، لیکن آپ کے اس سے علیحدگی اختیار کر لینے کے بارے میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

ابو نوبیہ سے نکاح کیا، اور وہ آپ سے پہلے افضل بن عباس بن عبدالمطلب سے نکاح میں تھی۔ انہوں نے اسے گھرانے بغیر طلاق دے دی۔ یہی بیان کرتے ہیں کہ ان دو عورتوں کا ذکر برہنہ نے کیا ہے اور ان کا نام نہیں بتایا۔ مگر ابن اسحاق نے مالیکہ کا ذکر نہیں کیا، اور یہی بیان کرتے ہیں کہ حاکم نے ہمیں بتایا کہ اصم نے ہمیں خبر دی کہ امجد بن عبد الجبار نے عن یونس بن بکر عن زکریا بن ابی زائدہ عن شعبی ہمیں بتایا کہ کچھ عورتوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کو بخش دیا تو ان میں سے بعض عورتوں کو آپ گھر لائے اور بعض کو مؤخر کر دیا اور ان کے قریب نہیں گئے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اور انہوں نے بھی آپ کے بعد نکاح نہیں کیا، ان میں سے ام شریک بھی ہیں یہ قول الہی انہی کے متعلق ہے کہ:

﴿ثُرَجِيٍّ مِنْ تَشَاءٍ مِنْهُنَّ وَ ثُوَوِيٍّ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءٍ وَمِنْ ابْتِغَايَتِ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾

اور یہی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ہشام بن عروہ سے ان کے باپ کے حوالے سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ خولہ بنت حکیم بھی ان عورتوں میں شامل تھیں جنہوں نے اپنا آپ رسول اللہ ﷺ کو بخش دیا تھا۔ نیز یہی بیان کرتے ہیں ابو رشید الساعدی کی حدیث میں اس جونیہ کے واقعہ میں جس نے رسول اللہ ﷺ سے پناہ مانگی تھی اور آپ نے اسے اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا تھا، ہم نے روایت کی ہے کہ اس کا نام امیمہ بنت النعمان بن شراحیل تھا، اور امام احمد نے بیان کیا ہے کہ محمد بن عبد اللہ زبیری نے ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن الغنیل نے عن حمزہ بن ابی اسید عن ابیہ وعباس بن سہل عن ابیہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارے پانے سے گزرے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے یہاں تک کہ ہم الشوط نامی باغ کی طرف گئے اور دو باغوں کے درمیان پہنچ کر بیٹھ گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بیٹھ جاؤ“ اور اندر داخل ہو کر آپ جونیہ کو لائے اور وہ امیمہ بنت النعمان بن شراحیل کے گھر میں علیحدہ ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی دایہ بھی تھی، جب رسول اللہ ﷺ اس کے پاس گئے تو آپ نے اسے فرمایا مجھے اپنا آپ بخش دو، اس نے کہا کیا ملکہ بھی رعیت کو اپنا آپ بخشتی ہے۔ نیز کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا تو نے پناہ گاہ کی پناہ مانگی ہے پھر آپ نے ہمارے پاس آ کر فرمایا اے ابو اسید اسے دو قمیصیں پہنا دو اور اس کے اہل کے پاس پہنچا دو۔ اور ابو احمد کے سوا دوسرے لوگوں نے بنی الجون کی عورت کا نام امینہ بتایا ہے اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن الغنیل نے حمزہ بن ابی اسید سے بحوالہ ابی اسید ہم سے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چلتے چلتے الشوط نامی باغ میں گئے یہاں تک کہ ہم دو باغوں تک پہنچ گئے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا: ”اس جگہ بیٹھ جاؤ“ پس آپ اندر گئے اور جونیہ کو بھی لایا گیا اور اسے امیمہ بنت النعمان بن شراحیل کے گھر میں ایک جگہ اتارا گیا اور اس کے ساتھ اس کی دایہ بھی تھی، جب رسول اللہ ﷺ اس کے پاس گئے تو فرمایا مجھے اپنا آپ بخش دو، اس نے کہا کیا ملکہ رعیت کو اپنا آپ بخشتی ہے؟ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے اسے سکون دینے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے جھکایا تو اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا تو نے پناہ گاہ کی پناہ مانگی ہے پھر آپ نے ہمارے پاس آ کر فرمایا اے ابو اسید اسے دو قمیصیں پہنا دو اور اس کے اہل کے پاس پہنچا دو۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حسین بن ولید نے عن عبد الرحمن بن الغنیل عن عباس بن سہل بن سعد عن ابیہ والی سعید بیان

کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا اور بب سے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے اس بات کو ناپسند کیا تو آپ نے ابواسید کو حکم دیا کہ اسے دو کپڑے اور سامان دے دو پھر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ ابراہیم الوزیر نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالرحمن بن حمزہ نے اپنے باپ اور عباس بن سہیل بن سعد اور اس کے باپ سے اس حدیث کو ہم سے بیان کیا۔

اسحاب کتب میں سے امام بخاری ان روایات کے بیان کرنے میں منفرد ہیں اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ الحمیدی نے ہم سے بیان کیا کہ ولید نے ہم سے بیان کیا کہ اوزاعی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی کس بیوی نے آپ سے پناہ مانگی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عروہ نے مجھے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتایا کہ جب الجون کی دختر کو حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ نے فرمایا تو نے ایک تنظیم ہستی کی پناہ مانگی ہے اپنے اہل کے پاس چلی جا۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حجاج بن ابی منتعب نے اسے اپنے دادا سے بحوالہ زہری روایت کیا ہے کہ عروہ نے انہیں بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو یہ حدیث بتائی تھی بخاری مسلم کو چھوڑ کر اس کی روایت میں منفرد ہیں۔

امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ ابن مندہ کی کتاب المعرفة میں میں نے دیکھا ہے کہ جس عورت نے آپ سے پناہ مانگی اس کا نام امیمہ بنت العمان بن شراحیل تھا اور بعض کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت ضحاک تھا اور صحیح یہی ہے کہ اس کا نام امیمہ تھا۔ واللہ اعلم اور ان کا خیال ہے کہ کلابیہ کا نام عمرہ تھا اور یہی وہ عورت تھی جس کے باپ نے اس کی یہ صفت بیان کی تھی کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی، تو رسول اللہ ﷺ نے اسے چھوڑ دیا۔ اور محمد ابن سعد نے محمد بن عبداللہ سے بحوالہ زہری بیان کیا ہے کہ فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان نے آپ سے پناہ مانگی تھی اور آپ نے اسے طلاق دے دی تھی اور وہ بیگنیاں اٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ میں بد بخت ہوں راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے ذوالقعدہ ۸ھ میں اس سے نکاح کیا اور وہ ۶۰ھ میں فوت ہوئی اور یونس نے بحوالہ ابن اسحاق ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے آپ نے نکاح کیا اور انہیں گھر نہیں لائے ان میں ایک اسماء بنت کعب الجونیہ اور دوسری عمر بنت یزید الکلابیہ تھی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ اسماء بنت العمان بن الجون بیان کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے آپ سے پناہ مانگی اور آپ برافروختہ ہو کر اس کے پاس سے چلے آئے تو اشعث نے آپ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ آپ اس بات سے غمگین نہ ہوں میرے پاس اس سے خوبصورت لڑکی ہے اور اس نے اپنی بہن قتیلہ کا آپ سے نکاح کر دیا اور ابن اسحاق کے سوا دوسرے مؤرخین کہتے ہیں کہ یہ ربیع ۹ھ کا واقعہ ہے اور سعید بن عروبہ بحوالہ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چند عورتوں سے نکاح کیا اور انہوں نے ان میں ام شریک انصاریہ بخاریہ کا بھی ذکر کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں انصاری عورتوں سے نکاح کرنا پسند کرتا ہوں گھر میں ان کی غیرت کو پسند نہیں کرتا۔ اور آپ ام شریک کو گھر نہیں لائے راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے نبی حرام پھر بنی

سلیم کی اسماء بنت الصلت سے بھی نکاح کیا اور اسے بھی گھر نہیں لائے اور آپ نے حمزہ بنت الماریہ کو پیغام نکاح دیا۔ اور حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری اور ابو عبیدہ عمر بن المنذر نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اٹھارہ عورتوں سے نکاح کیا اور اس نے ان میں اشعث بن قیس کی بہن قتیلہ بنت قیس کا بھی ذکر کیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے دو ماہ قبل اس سے نکاح کیا اور بعض کا خیال ہے کہ آپ نے اپنی بیماری میں اس سے نکاح کیا، راوی بیان کرتا ہے کہ یہ عورت آپ کے پاس نہیں آئی اور نہ آپ نے اسے دیکھا ہے اور نہ اسے گھرا لئے ہیں اور بعض دیگر لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے وصیت کی کہ قتیلہ کو اختیار دیا جائے چاہے تو پردہ کرے اور مؤمنین پر حرام ہو جائے اور چاہے تو کسی سے نکاح کرے، تو اس نے نکاح کرنا پسند کیا اور حضرت عکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ نے حضور موت میں اس سے نکاح کر لیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب اس امر کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا میں نے ان دونوں کو جلا دینے کا ارادہ کیا ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نہ تو وہ عورت امہات المؤمنین میں سے ہے اور نہ آپ اسے گھرا لئے ہیں اور نہ اس کو پردے کی پابند کیا ہے، ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ بعض کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں کی اور وہ اس کے بعد مرتد ہو گئی تھی پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف اس کے ارتداد سے یہ جھٹ پکڑی کہ وہ امہات المؤمنین میں سے نہیں ہے اور ابن مندہ نے بیان کیا ہے کہ ارتداد اختیار کرنے والی عورت ابو جہل جو بنی عوف بن سعد بن ذبیان سے تعلق رکھتی تھی۔ اور حافظ ابن عساکر کئی طرق سے عن داؤد بن ابی ہند عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اشعث بن قیس کی بہن قتیلہ سے نکاح کیا اور آپ اسے اختیار دینے سے قبل ہی فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے خلاصی دے دی اور حماد بن سلمہ نے داؤد بن ہند سے بحوالہ شععی روایت کی ہے کہ جب حضرت عکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ نے قتیلہ سے نکاح کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر دینے کا ارادہ کیا پس حضرت عمر بن الخطاب نے ان سے گفتگو کی اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ اسے گھر نہیں لائے اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ارتداد اختیار کیا ہے۔ پس وہ اللہ اور اس کے رسول سے الگ ہو گئی ہے پس آپ مسکس ان سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما کے قتل سے رُک گئے۔

حاکم بیان کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے امہات المؤمنین کی تعداد میں فاطمہ بنت شریح اور سباء بنت اسماء بن الصلت السلمیہ کا بھی اضافہ کیا ہے اور یہی ابن عساکر نے ابن مندہ کے طریق سے اس کی سند سے بحوالہ قتادہ روایت کیا ہے اور محمد بن سعد نے بھی بحوالہ کلبی یہی بیان کیا ہے، ابن سعد بیان کرتے ہیں وہ سباء تھی، ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ اسے سباء بنت الصلت بن حبیب بن حارثہ بن ہلال بن حرام بن سماک بن عوف السلمی کہا جاتا ہے اور ہشام بن محمد بن السائب کلبی نے ہمیں بتایا کہ عرزمی نے نافع سے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی بیویوں میں سباء بنت سفیان بن عوف بن کعب بن ابی بکر بن کلاب بھی تھی نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو السید کو بنی عامر کی ایک عورت عمرہ بنت یزید بن

① سبیلی کی روایت میں سنی بنت الصلت یا سباء بنت اسماء بنت الصلت بیان ہوا ہے۔

عبید بن کلاب کو پیغام نکاح دینے کے لیے بھیجا بس آپ نے اس سے نکاح کر لیا تو آپ کو پتا چلا کہ اس کے جسم میں برص کی سفیدی کے داغ ہیں تو آپ نے اسے طلاق دے دی۔

اور محمد بن سعد بحوالہ واقدی بیان کرتے ہیں کہ ابو معشر نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ملیکہ بنت کعب سے نکاح کیا جس کے نیکتا جمال کے چرپے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جا کر اسے کہا کیا تجھے اپنے باپ کے قاتل سے نکاح کرتے شرم نہیں آئی تو اس نے آپ سے پناہ مانگی اور آپ نے اسے طلاق دے دی اور اس کی قوم کے لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ﷺ وہ چھوٹی ہے اور اس کی کوئی رائے نہیں اور وہ دھوکہ کھا گئی ہے آپ اسے واپس لائیں، آپ نے انکار کیا تو انہوں نے آپ سے اس کی بنی مندرہ کے ایک قرابت دارے اس کی شادی کر دینے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی، راوی بیان کرتا ہے اس کے باپ کو فتح مکہ کے روز، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، واقدی بیان کرتا ہے کہ عبدالعزیز الجندی نے اپنے باپ سے بحوالہ عطاء بن یزید مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اسے رمضان ۸ھ میں گھر لائے اور وہ آپ کے پاس ہی فوت ہوئی، واقدی بیان کرتا ہے کہ ہمارے اصحاب اس سے انکار کرتے ہیں، اور حافظ ابو القاسم بن عسا کر بیان کرتے ہیں کہ ابو الفتح یوسف بن عبد الواحد المہلبانی نے ہمیں بتایا کہ شجاع بن علی بن شجاع نے ہمیں خبر دی کہ ابو عبد اللہ بن مندہ نے ہمیں بتایا کہ حسن بن محمد بن حکیم مزدوری نے ہمیں خبر دی کہ ابو الموجد محمد بن عمرو بن الموجد الفراری نے ہم سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن عثمان نے ہمیں بتایا کہ عبد اللہ بن المبارک نے ہمیں خبر دی کہ جوہر بن یزید نے بحوالہ ابن شہاب زہری ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد مکہ میں نکاح کیا اور آپ سے پہلے وہ خنیس بن حذافہ سہمی کے نکاح میں تھیں، پھر آپ نے حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح کیا اور آپ سے پہلے وہ بنی عامر بن لوئی کے بھائی السکران بن عمر کے نکاح میں تھیں، پھر آپ نے حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان سے نکاح کیا اور آپ سے پہلے وہ بنی خزیمہ کے ایک شخص عبید اللہ بن جحش اسدی کے نکاح میں تھیں، پھر آپ نے حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، آپ کا نام ہندھا اور آپ سے پہلے وہ ابو سلمہ عبد اللہ بن عبد الاسد بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں، پھر آپ نے حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ سے نکاح کیا اور بنی کمر بن عمرو بن کلاب کی عالیہ بنت ظبیان سے نکاح کیا، اور کندہ میں سے بنی الجون کی ایک عورت سے نکاح کیا۔ اور خزاعہ میں سے بنو مصطلق کی جویریہ بنت الحارث بن ابی ضرار کو، غزوۃ المرسیع میں، جس میں مناتہ کو تباہ کیا گیا تھا، آپ نے قیدی بنایا۔ اور بنی نضیر میں سے صفیہ بنت حنی بن اخطب کو آپ نے قیدی بنایا اور یہ دونوں عورتیں اس لئے میں سے تھیں جو اللہ نے آپ کو عطاء کی تھی اور ان دونوں کو آپ کے حصہ دیا، اور حضرت ماریہ قبطیہ کو آپ نے لونڈی بنایا، جس سے آپ کے ہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اور بنی قریظہ میں سے آپ نے ریحانہ کو لونڈی بنایا، پھر اسے آزاد کر دیا اور وہ اپنے اہل کے پاس چلی گئی اور اپنے اہل کے پاس ہی محتجب ہو گئیں، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عالیہ بنت ظبیان جسے طلاق دی گئی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کے عورتوں کے حرام قرار دینے سے قبل اپنی قوم میں اپنے ایک عمزاد سے نکاح کر لیا تھا اور اس کے اولاد بھی ہوئی تھی، ہم نے اسے ایک غریب سند سے بیان کیا ہے، جس میں مدینہ میں آپ کے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا ذکر نہیں پایا جاتا، اور صحیح یہ ہے کہ ہجرت سے قبل آپ مکہ میں تھے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر

آئے ہیں۔ واللہ اعلم

یونس بن کبیر، محمد بن اسحاق کے موائے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت نوید رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے ہجرت کرنے سے تین دن قبل وفات پائی۔ اور آپ نے ان کی زندگی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اور حضرت ابوطالب نے ایک ہی سال میں وفات پائی، رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، ان کے سوا آپ نے کسی باکرہ عورت سے نکاح نہیں کیا، اور ان سے آپ کے ہاں وفات تک کوئی بیٹا نہیں ہوا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ نے حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ ام الماسکین سے نکاح کیا، پھر ان کے بعد حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، پھر ان کے بعد حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، پھر ان کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، پھر ان کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بنت الحارث بن ابی ضرار سے نکاح کیا۔ پھر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ نے حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب سے نکاح کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت میمونہ بنت الحارث ہلالیہ سے نکاح کیا، یہ ترتیب زہری کی ترتیب سے بہتر اور اچھی ہے۔ واللہ اعلم

اور یونس بن کبیر، عن ابی یحییٰ عن حمیل بن زید طائی عن سہل بن زید انصاری بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا اور اسے گھر لائے، اور آپ کے حکم سے اس نے اپنے کپڑے اتارے، تو آپ نے اس کے پستانوں کے پاس برص کی سفیدی دیکھی، تو رسول اللہ ﷺ نے اسے کش ہو گئے اور فرمایا اپنے کپڑے لے لو اور صبح کو اسے فرمایا، اپنے اہل کے پاس چلی جاؤ، اور اسے اس کا پورا مہر ادا کیا (اور ابو نعیم نے اسے حمیل بن زید کی حدیث سے بحوالہ سہل بن زید انصاری روایت کیا ہے اور وہ حضرت نبی کریم ﷺ کے دیکھنے والوں میں سے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا۔

میں کہتا ہوں کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا اور انہیں گھر نہیں لائے، ان میں ام شریک ازدیہ بھی ہے۔ واقدی کا بیان ہے کہ ثابت شدہ بات یہ ہے کہ وہ دوسری تھی، بعض انصاریہ بھی کہتے ہیں اور بعض عامریہ کہتے ہیں، اور وہ خولہ بنت الحکم السلمی تھی، اور واقدی بیان کرتا ہے کہ اس کا نام غزیہ بنت جابر بن حکیم تھا، اور محمد بن اسحاق عن حکیم بن حکیم عن محمد بن علی بن الحسین عن ابیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کل پندرہ عورتوں سے نکاح کیا، جن میں ام شریک انصاریہ بھی تھی، جس نے اپنا آپ حضرت نبی کریم ﷺ کو بخش دیا تھا، اور سعید بن ابی عمرو بہ بحوالہ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بنی نجار میں سے ام شریک سے نکاح کیا اور فرمایا میں انصاری عورتوں سے نکاح کرنا پسند کرتا ہوں، لیکن میں ان کی غیرت کو پسند نہیں کرتا۔ اور آپ اسے گھر نہیں لائے اور ابن اسحاق، عن حکیم، عن محمد بن علی بن ابیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے لیلیٰ بنت الحطیم انصاریہ سے نکاح کیا جو بڑی غیور تھی، اور اسے آپ کے متعلق اپنی حق تلفی کا خوف ہوا اور اس نے آپ سے فسخ نکاح کی درخواست کی تو آپ نے اس کا نکاح فسخ کیا۔

جن عورتوں کو آپ نے نکاح کا پیغام دیا اور ان سے عقد نہیں کیا

اسماعیل بن ابی خالد شعمی سے بحوالہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور فرمایا: بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹوں پر سوار ہوں اور قریش کی اچھی عورت وہ ہے جو چھوٹے بچے پر جو صغریٰ میں ہو بہت مہربان ہو اور جو کچھ اس کے خاوند کے قبضہ ہو اس کی بہت حفاظت کرنے والی ہو۔ اور عبدالرزاق نے عن معمر بن زہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میں بڑی عمر کی ہوں اور میرے بچے بھی ہیں۔ اور امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ عبد بن حمید نے ہم سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن موسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ اسرائیل نے عن السدی عن ابی صالح عن ام ہانی بنت ابی طالب ہم سے بیان کیا وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تو میں نے آپ کے پاس عذر کیا تو آپ نے مجھے معذور قرار دیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللَّاتِي أُجُوزُهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ

بَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَ بَنَاتِ خَالَاتِكَ وَ بَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ الْآيَةَ

آپ فرماتی ہیں میں آپ کے لیے حلال نہ تھی، کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی اور میں طلقاء میں سے تھی، پھر کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور ہم اسے السدی کی حدیث سے جانتے ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو مہاجرہ نہ ہو وہ آپ کے لیے حلال نہیں اور اس مذہب کو علی الاطلاق قاضی مآوردی نے اپنی تفسیر میں بعض علماء کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ سے مراد مذکورہ قرابت دار عورتیں ہیں اور قتادہ کہتے ہیں ﴿ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ یعنی جو آپ کے ساتھ مسلمان ہوئی ہیں اس لحاظ سے صرف کفار عورتیں ہی آپ پر حرام ہوں گی اور تمام مسلمان عورتیں آپ پر حلال ہوں گی، پس اگر انصاری عورتوں سے آپ کا نکاح ثابت ہو جائے تو وہ اس کے منافی نہیں، لیکن آپ ان میں سے اصلاً ایک کو بھی گھر نہیں لائے۔

اور ماوردی نے شعمی کے حوالے سے جو بیان کیا ہے کہ نہ بنت خزیمہ ام المساکین انصاریہ تھیں یہ روایت جید نہیں وہ بلا اختلاف ہلائیہ تھیں۔ جیسا کہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ واللہ اعلم۔ اور محمد بن سعد نے عن ہشام بن الکسبی عن ابیہ عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ لیلیٰ بنت الحطیم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی تو آپ سورج کی طرف پشت کیے ہوئے تھے اس نے آپ کے کندھے پر ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے سیاہ بھیریا کھائے اس نے کہا میں پرندوں کو کھانا کھلانے والے اور ہوا کا مقابلہ کرنے والے کی بیٹی ہوں میں لیلیٰ بنت الحطیم ہوں میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں مجھ سے نکاح کیجیے آپ نے فرمایا ”میں نے نکاح کیا“ پس وہ واپس جا کر اپنی قوم

سے کہنے لگی میں نے حضرت نبی کریم ﷺ سے نکاح کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا تو نے بہت برا کیا ہے تو بڑی غیرت مند عورت ہے اور رسول اللہ ﷺ عورتوں والے ہیں تو ان پر غیرت کرے گی اور وہ تیرے خلاف اللہ سے دعا کریں گے پس تو آپ سے منکح نکاح کی درخواست کرتی تو اس نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھے چھوڑ دیجئے تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور مسود بن اوس بن سواد بن ظنفر نے اس سے نکاح کر لیا اور اس کے ہاں اس سے بچے ہوئے اسی دوران میں وہ ایک روز مدینہ کے ایک باغ میں غسل کر رہی تھی کہ ایک سیاہ بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کا کچھ حصہ کھا گیا اور وہ مر گئی اور وہی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ضیاء بنت عامر بن قرط عبد اللہ بن جدعان کی بیوی تھی اس نے اسے طلاق دے دی تو اس کے بعد ہشام بن مغیرہ نے اس سے نکاح کر لیا تو اس سے اس کے ہاں سلمہ پیدا ہوا اور وہ ایک فربہ اندام خوبصورت عورت تھی جس کے بال بہت تھے جو اس کے جسم کو چھپا لیتے تھے رسول اللہ ﷺ نے اس کے بیٹے سلمہ کو پیغام نکاح دیا اس نے کہا میں اس سے مشورہ کر لوں تو اس نے اس سے اجازت طلب کی تو اس نے کہا اے میرے بیٹے کیا تو رسول اللہ ﷺ کے بارے میں اجازت طلب کرتا ہے پس اس کا بیٹا واپس آ گیا اور خاموشی اختیار کر لی اور کوئی جواب نہ دیا گویا اس نے کہا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کے بارے میں سکوت اختیار کر لیا اور وہی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صفیہ بنت ہشام بن مغیرہ کو نکاح کا پیغام دیا اور وہ قیدی ہو کر آپ کے پاس آئی تھی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے اسے اختیار دیا اور فرمایا چاہے تو مجھے اختیار کرے یا اپنے خاوند کو اس نے کہا میں اپنے خاوند کو اختیار کرتی ہوں تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور بنو تمیم نے اس پر لعنت کی۔

اور محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ واقدی نے ہمیں بتایا کہ کہ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم تمیمی نے اپنے باپ کے حوالے سے ہم سے بیان کیا کہ ام شریک بنی عامر بن لوی کی ایک عورت تھی اس نے رسول اللہ ﷺ کو اپنا آپ پیش کیا تو آپ نے اسے قبول نہ کیا اور اس نے وفات تک کوئی نکاح نہ کیا۔ محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ واقدی نے عن شریک بن جابر عن الجهم عن علی بن الحسین ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے ام شریک دوسرے سے نکاح کیا واقدی بیان کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ ازد کے دوس قبیلے سے تھی۔ محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ اس کا نام غزیہ بنت جابر بن حکیم تھا اور لیث بن سعد ہشام بن محمد سے اس کے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک گفتگو کرنے والے نے کہا کہ ام شریک نے اپنا آپ حضرت نبی کریم ﷺ کو بخش دیا تھا اور وہ ایک صالحہ عورت تھی۔

اور جن عورتوں کو آپ نے نکاح کا پیغام دیا اور ان سے عقد نہ کیا ان میں حمزہ بنت الحارث بن عون بن ابی حارثہ المری بھی تھی اس کے باپ نے کہا اسے ایک بیماری ہے۔ حالانکہ اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ وہ اس کے پاس واپس گیا تو اسے برص ہو گئی تھی اور وہ شعیب بن البرص شاعر کی ماں تھی یہی بات سعید بن عمرو نے بحوالہ قتادہ بیان کی ہے راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے حبیبہ بنت عباس بن عبدالمطلب کو نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے اس کے بھائی کو اپنا رضاعی بھائی پایا ان دونوں کو ابولہب کی اونٹنی ٹویہ نے دودھ پلایا تھا پس یہ تین قسم کی عورتیں ہیں ایک وہ جنہیں آپ گھرالائے اور ان کو چھوڑ کر فوت ہو گئے اور یہ نو عورتیں ہیں جن کے ذکر سے آغاز ہوا ہے اور یہ آپ کی وفات کے بعد دین کے محقق و معلوم اجماع سے ضرور ثلوث لوگوں پر حرام ہیں اور ان کی عدالت

ان کی عمروں کے ختم ہونے تک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾

دوسری قسم وہ ہے جن کو آپ گھر لائے اور اپنی زندگی میں ان کو طلاق دے دی پس کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ ان سے ان کی عدت کے خاتمہ کے بعد نکاح کرے؟ اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں ایک یہ کہ مذکورہ آیت کے عموم کے باعث نکاح کرنا جائز نہیں اور دوسرا یہ کہ نکاح کرنا جائز ہے اور اس کی دلیل آیت تخییر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتَعْتِكُنَّ وَأَسْرَحْتِكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَةَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

وہ کہتے ہیں کہ اگر اس عورت سے آپ کے چھوڑ دینے کے بعد کسی آدمی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں تو اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اگر آپ کا اس سے علیحدگی اختیار کر لینا اسے دوسرے کے لیے مباح قرار نہیں دیتا تو اس میں اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ملا اور یہ قول قوی ہے۔ واللہ اعلم اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس سے آپ نے نکاح کیا اور گھر لانے سے قبل طلاق دے دی اس عورت کے ساتھ دوسروں کا نکاح کرنا جائز ہے اور مجھے اس قسم کے بارے میں کسی نزاع کا علم نہیں اور جس عورت کو آپ نے نکاح کا پیغام دیا اور اس سے عقد نہ کیا اس سے نکاح کرنا اولیٰ ہے اور کتاب النکاح میں اس سے متعلق فصل عنقریب بیان ہوگی۔ واللہ اعلم



آپ کی لونڈیوں کے بیان میں

حضور ﷺ کی دو لونڈیاں تھیں ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھیں جو شمعون کی بیٹی تھیں جسے حاکم اسکندریہ جرجس بن مینا نے آپ کو تحفہ دیا تھا اور اس کے ساتھ ان کی بہن شیریں کو بھی تحفہ دیا تھا اور ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ اس نے آپ کو چار لونڈیاں والہ اعلم ایک خصی غلام بنام مایور اور ایک خچر جسے دلال کہتے ہیں ہدیۃ دیا تھا آپ نے ماریہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لیے پسند کر لیا جو ملک مصر کی ایک بستی خض ضلع انفسا کی رہنے والی تھیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی امارت کے زمانے میں آپ کے اکرام کی وجہ سے اس بستی کا ٹیکس ساقط کر دیا تھا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے ہاں ان سے ایک بچہ ابراہیم نام پیدا ہوا تھا مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سفید رنگ اور خوبصورت تھیں جو رسول اللہ ﷺ کو پسند آگئیں اور آپ نے ان سے محبت کی اور انہیں آپ کے پاس بڑی سربلندی حاصل ہو گئی خصوصاً حضرت ابراہیم کی پیدائش کے بعد اور اس کی بہن شیریں کو رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بخش دیا جس سے ان کے ہاں ان کا بیٹا عبدالرحمن بن حسان پیدا ہوا اور خصی غلام مایور حضرت ماریہ اور شیریں کے پاس مصر کے دستور کے مطابق بلا اجازت آتا جاتا تھا تو بعض لوگوں نے اس بارے میں باتیں کی اور انہیں پتہ نہ چلا کہ یہ خصی ہے یہاں تک کہ اس کا حال متکشف ہو گیا جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ اور خچر پر رسول اللہ ﷺ سواری کیا کرتے تھے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی خچر تھا جس پر حنین کے روز آپ سوار تھے۔ واللہ اعلم اور یہ خچر آپ کے بعد پیچھے رہ گیا اور لمبا زمانہ زندہ رہا حتیٰ کہ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی امارت میں ان کے پاس تھا اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو یہ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قبضہ میں چلا گیا اور بوڑھا ہو گیا حتیٰ کہ اس کے کھانے کے لیے جو کو کونا جاتا تھا۔ ابو بکر بن خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن زیاد بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان بن عیینہ نے عن بشیر بن المہاجر عن عبداللہ بن بریدہ بن النخعیب عن ابیہ ہمیں خبر دی کہ قبلیوں کے امیر نے رسول اللہ ﷺ کو دو لونڈیاں جو دونوں بہنیں تھیں اور ایک خچر ہدیۃ دیا اور آپ مدینہ میں خچر پر سوار ہوا کرتے تھے اور آپ نے دونوں لونڈیوں میں سے ایک کو بیوی بنا لیا اور اس سے آپ کے ہاں آپ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا اور دوسری کو آپ نے بخش دیا۔

اور واقدی بیان کرتا ہے کہ یعقوب بن محمد بن ابی صعصعہ نے بحوالہ عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی صعصعہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو پسند کرتے تھے اور وہ خوبصورت سفید رنگ اور گھنگھر یا لے بالوں والی تھی آپ نے اسے اور اس کی بہن کو حضرت ام سلیم بنت سلمان رضی اللہ عنہ کے ہاں اتارا اور رسول اللہ ﷺ دونوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو وہ دونوں وہیں مسلمان ہو گئیں پس ماریہ رضی اللہ عنہا کو بادشاہ نے پامال کیا اور آپ نے اسے عالیہ مقام پر پامال دے دیا جو بنی نفسیر کے اموال میں سے تھا اور وہ گرمی کے موسم میں وہاں کھجور کے پھلے ہوئے پھلوں میں رہتی تھیں اور

حضور ﷺ وہاں آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور آپ بہت دیندار عورت تھیں اور ان کی بہن شیریں کو حضرت سنان بن ثابت رضی اللہ عنہما کو بخش دیا جس سے ان کے ہاں عبدالرحمن پیدا ہوا اور حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے لیے ابراہیم نامی بیٹے کو جنم دیا اور آپ نے ساتویں روز اس کا عقیدہ کیا اور اس کا سر منڈایا اور اس کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر مساکین میں چاندی صدقہ کی اور آپ کے حکم سے ان کے بال زمین میں دفن کر دیئے گئے اور اس کا نام ابراہیم رکھا اور ان کی دایہ رسول اللہ ﷺ کی لوٹداری سلمیٰ تھی اس نے جا کر اپنے خاوند ابرارغ کو اطلاع دی کہ حضرت ماریہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے، پس ابرارغ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو خوشخبری دی تو آپ نے اسے ایک ہار دیا اور جب اسے بچہ ملا تو رسول اللہ ﷺ کی بیویوں نے غیرت کھائی اور انہیں یہ بات گراں گذری اور حافظ ابوالحسن دارقطنی نے عن ابی عبید القاسم بن اسماعیل عن زیاد بن ایوب عن سعید بن زکریا المدائنی عن ابی سارہ عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ جب ماریہ رضی اللہ عنہا کے ہاں لڑکا ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے لڑکے نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ پھر دارقطنی بیان کرتے ہیں کہ زیاد بن ایوب اس حدیث کی روایت میں متفرد ہیں اور ثقہ ہے اور ابن ماجہ نے اسے حسین بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس کی حدیث سے عکرمہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے اور ہم نے اسے ایک دوسرے طریق سے روایت کیا ہے اور ہم نے اس مسئلہ یعنی امہات الاولاد کی فروخت کے لیے ایک الگ تصنیف کی ہے اور اس میں ہم نے علماء کے اقوال بیان کیے ہیں جن کا ماہر حاصل آٹھ اقوال ہیں اور ہم نے ہر قول کے مستند کا ذکر کیا ہے۔

اور یونس بن بکر عن محمد بن اسحاق عن ابراہیم بن محمد بن علی بن ابی طالب عن ابیہ عن جدہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ام ابراہیم ماریہ کے پاس ایک قطبی جو اس کا عمر ادھوا آیا کرتا تھا اور لوگوں نے اس کی وجہ سے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بہت باتیں کیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس تلوار کو لو اور اگر تم سے ماریہ کے پاس پاؤ تو اسے قتل کر دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جب آپ مجھے بھیجیں گے تو میں آپ کے حکم کے بارے میں گرم پھالے کی طرح ہوں گا اور جو حکم آپ نے مجھے دیا ہے اس کے کر گزرنے سے مجھے کوئی چیز روکنے والی نہ ہوگی اور شاہد وہ دیکھتا ہے جسے غائب نہیں دیکھتا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلکہ شاہد وہ دیکھتا ہے جسے غائب نہیں دیکھتا، پس میں گردن میں تلوار لٹکا کر آیا تو میں نے اسے قتل کرنا چاہتا ہوں تو وہ ایک کھجور کے درخت پر میں نے تلوار سونت لی اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں تو وہ ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا اور پھر اس نے اپنی گھری کے بل اپنے آپ کو گرا دیا پھر اس نے اپنی دونوں ٹانگیں ٹھادیں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عضو بریدہ ہے اور اس کے پاس مردوں والی کوئی تھوڑی بہت چیز بھی نہیں ہے، پس میں نے رسول اللہ ﷺ کو آ کر اس کے متعلق بتایا تو آپ نے فرمایا۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم اہل بیت سے مصیبت کو دور کیا ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب نے بحوالہ حضرت علی رضی اللہ عنہما مجھ سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جب آپ مجھے بھیجیں گے تو میں گرم پھالے کی طرح ہوں گا اور شاہد وہ دیکھتا ہے جسے غائب نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا شاہد وہ دیکھتا ہے جسے غائب نہیں دیکھتا۔

امام احمد نے اسے اس طرح مختصر روایت کیا ہے اور یہ اس حدیث کی اصل ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے اور اس کے اسناد فقہ رجال ہیں اور طبرانی بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عمرو بن خالد حرانی نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ ابولہب نے یزید بن ابی صویب اور ثقیل سے عن زہری عن انس ہم سے بیان کیا کہ جب حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ابراہیم پیدا ہوئے تو قریب تھا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کے دل میں ان کے متعلق کچھ وسوسہ پڑ جاتا یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا اے ابراہیم کے باپ آپ پر سلامتی ہو اور ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ ابو بکر بن ابی عاصم نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن یحییٰ باہلی نے ہم سے بیان کیا کہ یعقوب بن محمد نے ایک آدمی کے حوالے سے جس کا اس نے نام بھی لیا تھا عن لیث بن سعد عن زہری عن عروہ عن عائشہ ہم سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ رومی جنزلوں میں سے ایک بادشاہ نے جسے مقوس کہا جاتا تھا۔ بادشاہوں کی بیٹیوں میں سے ایک قبلی لڑکی کو جسے ماریہ کہا جاتا تھا ہدیہ دیا اور اس کے ساتھ اس کا ایک نوجوان عمراد بھی ہدیہ دیا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے ایک روز اس سے خلوت کی تو وہ ابراہیم سے حاملہ ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب اس کا حمل نمایاں ہوا تو وہ اس سے گھبرا گئی اور رسول اللہ ﷺ خاموش ہو گئے اور اس کے دودھ نہ تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے ایک دودھیل دین خریدی جس سے بچے کو غذا دی جاتی، پس اس کا جسم درست ہو گیا اور رنگ بھی صاف اور خوبصورت ہو گیا۔ ایک روز وہ بچے کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے رسول کریم ﷺ کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا اے عائشہ! تو مثل کو کیسے دیکھتی ہے۔ میں نے کہا میں اور میرے سوا دوسرے بھی کوئی مثل نہیں دیکھتے، آپ نے فرمایا اور گوشت بھی نہیں؟ میں نے کہا میری زندگی کی قسم کس کو دنیوں کا دودھ دیا گیا ہے کہ اس کا گوشت اچھا ہو جائے، واقدی بیان کرتا ہے کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا محرم ۱۵ھ میں فوت ہوئیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا۔ اور یہی بات مفضل بن عسنان غلابی نے بیان کی ہے اور خلیفہ ابو عبیدہ اور یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا نے ۱۶ھ میں وفات پائی۔

اور دوسری بنی نضیر کی ریحانہ بنت زید تھی اور بعض کہتے ہیں کہ بنی قریظہ سے تھی۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ ریحانہ بنت زید بنی نضیر سے تھی اور بعض کہتے ہیں کہ بنی قریظہ سے تھی۔ واقدی کا بیان ہے کہ ریحانہ بنت زید بنی نضیر سے تھی اور ان میں بیابہ ہوئی تھی اور رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور وہ خوبصورت تھی، رسول اللہ ﷺ نے اسے مسلمان ہونے کی پیشکش کی تو اس نے یہودیت کے سوا کسی اور دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے علیحدہ کر دیا اور اپنے دل میں غم محسوس کیا اور ابن شعبہ کی طرف پیغام بھیجا اور اس سے یہ بات بیان کی، ابن شعبہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ مسلمان ہو جائے گی، پس وہ اس کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، اپنی قوم کی بیروی نہ کر، جی بنی نضیر نے انہیں جس مصیبت سے دوچار کیا، تو نے دیکھی ہے، مسلمان ہو جا رسول اللہ ﷺ تھے اپنے لیے منتخب کر لیں گے۔ اسی اثنا میں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے جو توں کی آواز سنی، آپ نے فرمایا یہ دونوں جوتے ابن شعبہ کے ہیں جو مجھے ریحانہ کے اسلام کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ اس سے

خوش ہو گئے۔

اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے قریظہ کو فتح کیا تو ریحانہ بنت عمرو بن خلف نو اپنے لیے انتخاب کر لیا، اور وہ آپ کے پاس آپ کی ملک میں تھی کہ آپ اسے چھوڑ کر فوت ہو گئے۔ آپ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور یہ کہ آپ اس سے نکاح کر لیں گے، مگر اس نے یہودیت کے سوا کسی اور دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر انہوں نے اس کے اسلام لانے کا وہی واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا ہے۔

واقدی بیان کرتا ہے کہ عبد الملک بن سلیمان نے ایوب بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ سے بحوالہ ایوب بن بشیر المعادی مجھ سے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے سلمیٰ بنت قیس ام المندر کے گھر بھیج دیا، پس وہ ام المندر کے گھر آئی تو آپ نے اسے کہا، اگر تو پسند کرے کہ میں تجھے آزاد کروں اور تجھ سے شادی کروں تو میں ایسا کرتا ہوں، اور اگر تو چاہے کہ تو میری ملک میں رہے اور میں تجھے ملک کی وجہ سے پامال کروں تو میں ایسے کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میرے اور آپ کے لیے آسان بات یہی ہے کہ میں آپ کی ملک میں رہوں اور وہ رسول اللہ ﷺ کی ملک میں رہی اور آپ اسے پامال کرتے رہے یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی۔

واقدی بیان کرتا ہے کہ ابن ابی ذئب نے مجھ سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے ریحانہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا وہ رسول اللہ ﷺ کی لونڈی تھی، آپ نے اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تھا، اور وہ اپنے اہل میں پردہ کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، رسول اللہ ﷺ کے بعد مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، واقدی کا بیان ہے کہ ہمارے نزدیک یہ دونوں حدیثوں سے اثبت ہے اور حضور ﷺ سے پہلے اس کا خاوند الحکم تھا، واقدی کا بیان ہے کہ عاصم بن عبد اللہ بن الحکم نے بحوالہ عمر بن الحکم ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ریحانہ بنت زید بن عمرو بن خلف کو آزاد کر لیا، اور وہ اپنے خاوند کے پاس تھی، جو اس سے بڑی محبت کرتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا، ریحانہ نے کہا میں اس کے بعد کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی، اور وہ بڑی حسین تھی، پس جب بنو قریظہ قیدی بنے تو قیدی عورتوں کو رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا، ریحانہ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی ان قیدی عورتوں میں شامل تھی، جنہیں رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، پس آپ نے میرے متعلق حکم دیا تو میں الگ ہو گئی، اور آپ کے لیے ہر غنیمت میں مخصوص حصہ ہوتا تھا، پس جب میں الگ ہو گئی تو آپ نے اللہ سے میری بہتری کے لیے دعا کی، اور مجھے کئی روز تک ام المندر بنت قیس کے گھر بھیج دیا، یہاں تک کہ قیدی قتل ہو گئے اور قیدی عورتیں تقسیم ہو گئیں، تو رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے اور میں نے حیا کی وجہ سے آپ سے اجتناب کیا، تو آپ نے مجھے بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا، اگر تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پسند کرے تو رسول اللہ ﷺ تجھے اپنے لیے منتخب کر لیں گے، میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، پس جب میں مسلمان ہو گئی تو آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ سے نکاح کر لیا اور مجھے بارہ اونٹنیوں اور عمدہ خوشبو مہر دیا، جیسے کہ آپ اپنی

۱ اصفی اور انصیہ مال غنیمت کے اس حصے کو کہتے ہیں جسے رئیس اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ (مترجم)

عورتوں کو مہر دیتے تھے اور ام المومنین کے گھر میں مجھ سے جماع کیا اور آپ نے اپنی بیویوں کی طرح میری باری بھی مقرر کی اور میرا پردہ کروادیا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اسے بہت پسند کرتے تھے اور وہ جو کچھ آپ سے مانگتی تھی آپ اسے دیتے تھے اسے کہا گیا کہ اگر تو رسول اللہ ﷺ سے بنی قریظہ کے متعلق سوال کرتی تو آپ انہیں آزاد کر دیتے اور وہ کہا کرتی تھی کہ آپ نے قیدی عورتوں کو تقسیم کر کے مجھ سے خلوت کی اور آپ اس سے بکثرت خلوت کرتے تھے اور وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہی یہاں تک کہ آپ کی حجۃ الوداع سے واپس پر اس کی وفات ہو گئی اور آپ نے بقیع میں اسے دفن کیا اور آپ نے محرم ۶ھ میں اس سے نکاح کیا۔

اور ابن وہب یونس بن یزید سے بحوالہ زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی قریظہ کی ریحانہ کو لونڈی بنایا پھر اسے آزاد کر دیا اور وہ اپنے اہل کے پاس چلی گئی اور ابو عبیدہ معمر بن المثنیٰ کہتے ہیں کہ ریحانہ بنت زید بن شمعون بنی نضیر سے تھی اور بعض کہتے ہیں کہ بنی قریظہ سے تھی اور وہ صدقہ کے کھجور کے درختوں میں رہتی تھی اور رسول اللہ ﷺ کبھی کبھی اس کے ہاں قیلولہ کرتے تھے۔ اور آپ نے اسے شوال ۶ھ میں قیدی بنایا تھا اور ابو بکر بن ابی خیثمہ بیان کرتے ہیں کہ احمد بن المقدام نے ہم سے بیان کیا کہ زہیر نے سعید سے بحوالہ قتادہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی دو لونڈیاں تھیں ماریہ قبطیہ اور ریحہ یاریحانہ بنت شمعون بن زید بن خنوفہ جو بنی عمرو بن قریظہ سے تعلق رکھتی تھی اور میری معلومات کے مطابق وہ اپنے عزا عبدالحکم کی بیوی تھی۔ اور اس نے رسول اللہ ﷺ کی وفات سے قبل وفات پائی اور ابو عبیدہ معمر بن المثنیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی چار لونڈیاں تھیں ماریہ قبطیہ ریحانہ قرظیہ اور آپ کی ایک اور بھی خوبصورت لونڈی تھی۔ آپ کی بیویوں نے اس کے متعلق تدبیر کی اور ڈر گئیں کہ وہ آپ کے بارے میں ان پر غالب آ جائے گی اور آپ کے پاس ایک نفیس لونڈی تھی جسے حضرت زینب بنت جحش نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا اور آپ نے زینب کو صفیہ بنت جحش کے کسی معاملے میں ذوالحجہ محرم اور صفر کو چھوڑ دیا اور جب ربیع الاول کا مہینہ آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ حضرت زینب بنت جحش سے راضی ہو گئے اور ان کے پاس گئے تو حضرت زینب بنت جحش نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ کو کیا بدلہ دوں پس آپ نے اس لونڈی کو رسول اللہ ﷺ کو بخش دیا اور سیف بن عمرو نے سعید بن عبد اللہ سے عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دفعہ ماریہ اور ریحانہ کی باری مقرر کرتے تھے اور ایک دفعہ دونوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ ابو محمد بن عمرو الواقدی کا بیان ہے کہ ریحانہ کی وفات ۱۰ھ میں ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں اسے دفن کیا۔



آپ کی اولاد کے بیان میں

اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ ابراہیم کے سوا جو ماریہ قبیلہ بنت شمعون کے بطن سے تھے آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ بنت خویلد کے بطن سے تھی، محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہشام بن الکسبی نے ہمیں خبر دی کہ میرے باپ نے ابوصالح سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھے بتایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سب سے بڑے لڑکے قاسم تھے، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر رقیہ رضی اللہ عنہا، پس قاسم فوت ہو گئے اور یہ مکہ میں آپ کے پہلے مرنے والے بیٹے تھے، پھر عبداللہ فوت ہوئے، تو عاص بن وائل سہمی نے کہا آپ کی نسل منقطع ہو گئی ہے اور آپ ابتر ہیں تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی:

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾

راوی بیان کرتا ہے پھر مدینہ میں ماریہ کے بطن سے آپ کے ہاں ذی الحجہ ۸ھ میں ابراہیم پیدا ہوئے جو اٹھارہ ماہ کے ہو کر فوت ہو گئے۔

اور ابوالفرج المعانی بن زکریا جریری بیان کرتے ہیں کہ عبدالباقی بن نافع نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن زکریا نے ہم سے بیان کیا کہ عباس بن بکار نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن زیاد اور الفرث بن السائب نے میمون بن مہران سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں عبداللہ بن محمد پیدا ہوئے، پھر ان کے بعد بچہ پیدا ہونے میں دیر ہو گئی، اس دوران میں رسول اللہ ﷺ ایک آدمی سے گفتگو کر رہے تھے اور عاص بن وائل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس آدمی نے اسے کہا یہ کون آدمی ہے؟ اس نے کہا یہ ابتر ہے اور فریٹش کی یہ عادت تھی کہ جب کسی آدمی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا، پھر اس کے بعد لڑکا پیدا ہونے میں دیر ہو جاتی تو وہ کہتے یہ ابتر ہے، پس اللہ تعالیٰ نے ان شانئک ہو الابتر کی آیت نازل فرمائی، کہ تجھ سے بغض رکھنے والا ہر خیر سے بے نصیب ہے۔ راوی بیان کرتا ہے، پھر آپ کے ہاں زینب پیدا ہوئی، پھر رقیہ، پھر قاسم، پھر طاہر، پھر مطہر، پھر مطیب، پھر مطیب، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے چھوٹی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ اسے دودھ پلانے والی کے سپرد کر دیتے، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا کسی نے دودھ نہیں پلایا۔

اور الہیثم بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے سعید بن المسیب سے ان کے باپ کے حوالے سے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے دو بیٹے تھے، طاہر اور مطیب، جن میں سے ایک کا نام عبد شمس اور دوسرے کا نام عبدالعزیٰ تھا، اور اس میں نکارت پائی جاتی ہے۔

اور محمد بن عائد بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مسلم نے بحوالہ سعید بن عبدالعزیز مجھے بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قاسم

طیب طاہر، ظہیر زینب رقیہ فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئے اور زبیر بن بکار بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا مععب بن عبد اللہ نے مجھے بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور طاہر کو طیب بھی کہا جاتا ہے اور طاہر نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور چھپنے میں ہی فوت ہو گئے اور ان کا نام عبد اللہ تھا اور فاطمہ زینب رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا بھی حضرت خدیجہ کے ہاں پیدا ہوئیں۔

زبیر بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن منذر نے عن ابن وصب عن ابن لہیعہ عن الاسود مجھ سے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ کے ہاں قاسم طاہر، طیب، عبد اللہ زینب، رقیہ، فاطمہ اور ام کلثوم پیدا ہوئے۔

اور محمد بن فضالہ نے اپنے ایک شیخ کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قاسم اور عبد اللہ پیدا ہوئے، قاسم تو پاؤں پر چلنے تک زندہ رہے اور عبد اللہ چھپنے میں ہی فوت ہو گئے اور زبیر بن بکار بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قاسم پیدا ہوئے اور یہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور انہی سے آپ کنیت کرتے تھے پھر زینب، پھر عبد اللہ پیدا ہوئے، جنہیں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور چھپنے میں فوت ہو گئے پھر آپ کی بیٹی ام کلثوم پھر فاطمہ اور پھر رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔

پھر قاسم مکہ میں فوت ہو گئے اور یہ آپ کے پہلے فوت ہونے والے بیٹے تھے پھر عبد اللہ فوت ہوئے، پھر ماریہ قبطیہ کے بطن سے جسے مقوقس حاکم اسکندریہ نے آپ کو ہبایہ دیا تھا ابراہیم پیدا ہوئے اور ماریہ کے ساتھ ان کی بہن شیریں اور خسی مایور کو بھی ہدیہ دیا تھا، آپ نے شیریں حضرت حسان رضی اللہ عنہا کو بخش دی، جس سے ان کا بیٹا عبد الرحمن پیدا ہوا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نسل ختم ہو گئی۔ اور ابو بکر بن الرقی کہتے ہیں کہ عبد اللہ ہی کو طاہر اور طیب کہا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ طیب اور مطیب اکٹھے ہی پیدا ہوئے اور طاہر اور مطہرا کٹھے پیدا ہوئے اور مطہر بن غسان، بحوالہ احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ عبد الرزاق نے ہم سے بیان کیا کہ ابن جریج نے بحوالہ مجاہد ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم سات راتیں زندہ رہے پھر فوت ہو گئے، مفضل کہتے ہیں یہ غلط ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ ۷ ماہ زندہ رہے۔

اور حافظ ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ قاسم سات دن کے تھے کہ فوت ہو گئے اور زہری کہتے ہیں کہ وہ دو سال کے تھے قدادہ کہتے ہیں کہ وہ پاؤں پر چلنے تک زندہ رہے اور ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ عراقیوں نے طیب اور طاہر کا ذکر چھوڑ دیا ہے اور ہمارے مشائخ عبد العزیٰ، عبد مناف اور قاسم اور عورتوں میں سے رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کا نام لیتے ہیں ابن عساکر نے اسے اسی طرح روایت کیا ہے اور یہ روایت منکر ہے اور جس نے اسے منکر قرار دیا ہے وہ معروف ہے اور زینب کا ذکر ساقط کر دیا ہے جو ضروری تھا۔ واللہ اعلم

عبد الرزاق بحوالہ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے چھوٹی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے زیادہ محبوب تھیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ابوالعاص بن الربیع نے نکاح کیا، جس سے علی اور امامہ پیدا ہوئے اور انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اٹھایا کرتے تھے اور جب سجدہ کرتے تھے تو نیچے بٹھا دیا کرتے تھے اور جب کھڑے ہوتے تھے تو اٹھایا کرتے تھے اور شاید یہ ان کی

وفات کی وجہ سے تھا جو ۸ھ کو فوت ہوئی تھیں، جیسا کہ واقعہ کی قنادہ اور عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم وغیرہ نے بیان کیا ہے، گویا وہ چھوٹی بچی تھیں۔ واللہ اعلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا جیسے کہ عنقریب بیان ہوگا، ان شاء اللہ اور حضرت زینب کی وفات ۸ھ میں ہوئی، یہ بات قنادہ نے بحوالہ عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم اور خلیفہ بن خیاط اور ابوبکر بن ابی خیثمہ اور کئی لوگوں نے بیان کی ہے اور قنادہ بحوالہ ابن حزم ۸ھ کے شروع میں بیان کرتے ہیں اور حماد بن سلمہ نے ہشام بن عروہ سے بحوالہ ان کے باپ کے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جب ہجرت کی تو ایک آدمی نے آپ کو دکھا دیا اور آپ ایک چٹان پر گر پڑیں اور آپ کا حمل ساقط ہو گیا، پھر مسلسل آپ تکلیف میں مبتلا رہیں یہاں تک کہ فوت ہو گئیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کو شہید خیال کرتے تھے اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے سب سے پہلے آپ کے عمراد عتبہ بن ابی لہب نے نکاح کیا جیسا کہ آپ کی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس کے بھائی عتیبہ بن ابی لہب نے نکاح کیا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے:

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ

الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾

نازل فرمائی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے بغض کی وجہ سے دونوں بہنوں کو دخول سے قبل طلاق دے دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا اور آپ نے ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، کہتے ہیں کہ آپ حبشہ کی طرف پہلے مہاجر تھے، پھر دونوں مکہ واپس آگئے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور آپ کے ہاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے عبد اللہ پیدا ہوئے اور چھ سال کی عمر کو پہنچے تو ان کی دونوں آنکھوں میں مرغ نے ٹھونگا مارا اور وہ مر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے انہی سے کنیت کرتے تھے، پھر آپ اپنے بیٹے عمرہ سے کنیت کرنے لگے۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اس وقت فوت ہوئیں جب رسول اللہ ﷺ نے بدر میں دونوں فوجوں کی مدد بھڑے روز یوم الفرقان کو فتح پائی اور جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کی قبر پر مٹی برابر کر دی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے ان کی تیمارداری کرتے رہے، اور آپ نے ان کا اجر اور حصہ مقرر کیا، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے ان کی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیا، اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہا بھی شعبان ۹ھ میں آپ کے پاس وفات پا گئیں اور آپ کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی، تو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کا نکاح کر دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر دس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیتا۔

اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کے عمراد حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے صفر ۲ھ میں نکاح کیا اور آپ کے ہاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ محسن بھی پیدا ہوئے، اور ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہم بھی پیدا ہوئیں اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بنت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھیں نکاح کیا اور ان کا بہت اکرام کیا اور انہیں رسول اللہ ﷺ کے نسب سے ہونے کی وجہ سے

پالیس ہزار درہم مہر دیا جس سے آپ کے ہاں زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور سب حسرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو آپ کے بعد حسرت ام کلثوم بنی ہاشم کے عمزاد عمون بن جعفر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور وہ بھی انہیں چھوڑ کر فوت ہو گئے تو ان کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ ان سے نکاح کر لیا اور وہ بھی انہیں چھوڑ کر فوت ہو گئے پھر ان دونوں کے بھائی عبداللہ بن جعفر بن جعفر نے ان سے نکاح کیا تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کے ہاں وفات پا گئیں اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کی بہن زینب بنت علی رضی اللہ عنہ سے بھی نکاح کیا اور وہ بھی ان کے ہاں وفات پا گئیں اور مشہور قول کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ ماہ بعد وفات پائی۔ اور صحیح میں یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت۔ اور زہری کا بھی یہی قول اور ابو جعفر باقر اور زہری تین ماہ اور ابو زبیر دو ماہ بیان کرتے ہیں اور ابو بربیدہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے بعد ستر دن زندہ رہیں اور عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ آپ کے بعد آٹھ ماہ زندہ رہیں اور یہی قول عبداللہ بن الحارث کا ہے اور عمرو بن دینار کی ایک روایت میں چار ماہ کا ذکر ہے۔

اور ابراہیم ماریہ قبلیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے آپ کی پیدائش ذوالحجہ ۸ھ میں ہوئی تھی اور ابن لہیعہ وغیرہ سے بحوالہ عبدالرحمن بن زیاد روایت کی گئی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم کا حمل ہو گیا تو جبریل نے آ کر کہا اے ابراہیم کے باپ آپ پر سلامتی ہوئے شکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ام ولد ماریہ سے لڑکا عطا کیا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اس کا نام ابراہیم رکھیں پس اللہ آپ کو اس میں برکت دے اور دنیا و آخرت میں اسے آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور حافظ ابو بکر البرزازی نے عن محمد بن مسکین عن عثمان بن صالح عن ابن لہیعہ عن عقیل بن یزید بن ابی حبیب عن زہری عن انس روایت کی ہے کہ جب حضور کے ہاں آپ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا تو آپ کے دل میں اس کے متعلق کچھ خلجان پیدا ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اے ابراہیم کے باپ آپ پر سلامتی ہو اور اسباب بحوالہ السدی اسماعیل بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کتنی عمر کے تھے؟ انہوں نے کہا انہوں نے گہوارے کو بھر دیا تھا اور اگر وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے لیکن وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے اس لیے کہ آپ کا باپ لوگوں کا آخری نبی ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمن بن مہدی نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے السدی سے بحوالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا کہ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ زندہ رہتے تو ضرور راستباز نبی ہوتے اور ابو عبیدہ بن مندہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن سعد اور محمد بن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن عثمان عیسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ منجاب نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عامر اسدی نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان نے السدی سے بحوالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم نے سولہ ماہ کی عمر میں وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسے بقیع میں دفن کر دو جنت میں اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے یہ اپنی رضاعت جنت میں پوری کرے گا۔ اور ابو یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابو خیمہ نے ہم سے بیان کیا کہ اسماعیل بن ابراہیم نے عن ایوب بن عمرو بن سعید عن انس ہم سے بیان کیا کہ میں نے کسی کو

رسول اللہ ﷺ سے بیٹے کہ عیال پر رحم کرنے والا نہیں پایا اور ابراہیم مدینہ کے بالا کی ملاقات میں دودھ پیتے تھے آپ چلتے تو ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے آپ ایک گھر میں باتے جہاں سے دھواں اٹھتا اور آپ کی دایہ ہم میں ہوتی پس آپ انہیں لے کر پوتے پھر واپس آ جاتے عمرو بیان کرتے ہیں جب ابراہیم فوت ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ ابراہیم میرا بیٹا ہے جو دودھ پینے کی حالت میں فوت ہو گیا ہے اور اس کی دوا یہ ہیں جو جنت میں اس کی رضاعت کی تکمیل کریں گی اور جریر اور ابو عوانہ نے عن عمش عن مسلم بن صبیح ابی الضحیٰ عن البراء روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بیٹے ابراہیم نے سولہ ماہ کی عمر میں وفات پائی تو آپ نے فرمایا اسے بقیع میں دفن کرو بلاشبہ جنت میں اس کی ایک دایہ ہے اور احمد نے اسے جابر کی حدیث سے عامر سے بحوالہ البراء روایت کیا ہے اور اسی طرح اسے سفیان ثوری نے عن فراس عن شعبی عن البراء بن عازب عن جابر روایت کیا ہے اور اسی طرح ثوری نے اسے ابواسحاق سے بحوالہ البراء روایت کیا ہے اور ابن عساکر نے اسے عتاب بن محمد بن شاذب کے طریق سے بحوالہ عبد اللہ بن ابی اوفی بیان کیا ہے کہ ابراہیم نے وفات پائی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ اپنا بقیہ دودھ جنت میں پئے گا اور ابو یعلیٰ موصلی بیان کرتے ہیں کہ زکریا بن یحییٰ واسطی نے ہم سے بیان کیا کہ ہشیم نے بحوالہ اسماعیل ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی اوفی سے پوچھا۔ یا میں نے اسے حضرت نبی کریم ﷺ کے بیٹے ابراہیم کے بارے میں دریافت کرتے سنا تو انہوں نے کہا وہ چھپنے میں فوت ہو گیا تھا اور اگر رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی ہونے کا فیصلہ ہوتا تو وہ زندہ رہتا اور ابن عساکر نے احمد بن محمد بن سعید الخافظ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ عبید بن ابراہیم الجعفی نے ہم سے بیان کیا کہ حسن بن ابی عبد اللہ الفراء نے ہم سے بیان کیا کہ مصعب بن سلام نے عن ابی حمزہ الثمالی عن ابی جعفر محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا اور ابن عساکر نے محمد بن اسماعیل بن سمرہ کی حدیث سے عن محمد بن حسن اسدی عن ابی شیبہ عن انس روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم فوت ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں اسے کفن میں نہ لپیٹنا پس آپ تشریف لائے اور اس پر جھک کر روئے یہاں تک کہ آپ کے دونوں جڑے اور دونوں پہلو ہلنے لگے۔

میں کہتا ہوں ابو شیبہ اپنی روایت پر عمل نہیں کرتا پھر اس نے مسلم بن خالد زنگی کی حدیث سے عن ابن خثیم عن شہر بن حوشب عن اسماء بنت یزید بن السکن روایت کی ہے وہ بیان کرتی ہیں جب ابراہیم فوت ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ روپڑے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا آپ علم الہی سے اس کے حق کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے اور دل غمگین ہے اور ہم وہ بات نہیں کہتے جو رب کو ناراض کر دے اور اگر وہ صادق وعدہ اور موعود جامع نہ ہوتا اور ہمارا آخری پہلے کی اتباع کرنے والا نہ ہوتا تو اسے ابراہیم ہمیں جو غم ہوا ہے ہم اس سے زیادہ تجھ پر غم کرتے ہیں اور اے ابراہیم ہم تیری وجہ سے غمگین ہیں اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اسود بن عامر نے ہم سے بیان کیا کہ اسرائیل نے عن جابر عن شعبی عن البراء ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بیٹے ابراہیم کا جنازہ پڑھا جو سولہ ماہ کی عمر میں فوت ہو گیا تھا اور آپ نے فرمایا بلاشبہ جنت میں اس کی رضاعت کی تکمیل کرنے والی ہے اور وہ صدیق ہے اور الحکم بن عیینہ کی حدیث سے شعبی سے بحوالہ البراء بھی روایت کی گئی ہے اور ابو یعلیٰ کہتے ہیں کہ القواریری نے ہم سے بیان کیا کہ اسماعیل بن ابی خالد نے بحوالہ ابن ابی اوفی ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے

اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا اور میں نے بھی آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا آپ نے اس پر چار تکبیریں کہیں، اور یونس بن کبیر نے بحوالہ محمد بن اسحاق روایت کی ہے کہ محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا صاحبزادہ ابراہیم اشعارہ ماہ کی عمر میں فوت ہوا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور ابن عساکر نے اسحاق بن محمد الفرووی کی حدیث سے عن عیسیٰ بن عبد اللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب عن ابیہ عن ابی جده عن علیؑ روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا صاحبزادہ ابراہیم فوت ہوا تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو ان کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا جو پینے پلانے کے کمرے میں تھیں، تو حضرت علیؑ نے سچے کوچامہ دان میں اٹھالیا اور گھاس پر آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اسے غسل دیا اور کفن پہنایا اور اسے لے گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ گئے، اور اسے اس گلی میں دفن کیا جو محمد بن زید کے گھر کے پاس ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہما اس کی قبر میں داخل ہوئے یہاں تک کہ اسے برابر کر کے آپ کو دفن کر دیا، پھر باہر نکل کر اس کی قبر پر چھڑکاؤ کیا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی قبر میں اپنا ہاتھ داخل کیا اور فرمایا قسم بخدا بلاشبہ یہ نبی ابن نبی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ رو پڑے اور آپ کے ارد گرد مسلمان بھی رو پڑے یہاں تک کہ آواز بلند ہو گئی، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آنکھ روتی ہے اور دل غمگین ہے اور ہم رب کو غصے کرنے والی بات نہیں کریں گے، اور اے ابراہیم ہم تجھ پر غمگین ہیں۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا صاحبزادہ ابراہیم ۱۰/ربیع الاول ۱۰ھ کو منگل کے روز فوت ہوا۔ اور وہ بنی مازن بن النجار میں ام برزہ بنت المنذر کے گھر میں اشعارہ ماہ کا تھا اور بقیع میں دفن ہوا۔

میں کہتا ہوں، قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان کی وفات کے روز سورج گرہن ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہ میں فرمایا:

”بلاشبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے دو نشان ہیں جو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہناتے۔“

یہ بات حافظ کبیر ابوالقاسم ابن عساکر نے بیان کی ہے۔



باب ۵۸

آپ کے غلاموں، لونڈیوں، خادموں، کاتبوں اور سیکٹریوں کا بیان

جو کچھ بیان کیا گیا ہے ہم اسے کمی بیشی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وبالمستعان

ان میں سے ایک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بن حارثہ ابو زید کلبی تھے اور انہیں ابو زید اور ابو محمد رسول اللہ ﷺ کے غلام اور آپ کے غلام کے بیٹے اور آپ کے محبوب اور آپ کے محبوب کے بیٹے بھی کہا جاتا ہے ان کی والدہ ام ایمن ہیں جن کا نام برکت تھا جو رسول اللہ ﷺ کی صفری میں آپ کی دایہ تھیں اور آپ کی بعثت کے بعد پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھیں اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ کو امیر بنایا اور اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ یا انیس سال تھی جس وقت آپ کی وفات ہوئی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم فوج کے امیر تھے جن میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے مگر یہ ضعیف قول ہے اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں امام مقرر کیا تھا جب حضور ﷺ کی وفات ہوئی اس وقت جیش اسامہ رضی اللہ عنہ جرف میں خیمہ زن تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق اجازت لی کہ انہیں ان کے پاس ٹھہرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ ان کی رائے سے روشنی حاصل کریں تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں بہت سے صحابہ سے گفتگو کرنے کے بعد جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور آپ سب کی بات کا انکار کر کے فرماتے رہے۔ ”خدا کی قسم جس جھنڈے کو رسول اللہ ﷺ نے باندھا ہے میں اسے نہیں کھولوں گا۔“ اس وقت وہ چلتے گئے حتیٰ کہ سرزمین شام میں بلقاء کی سرحدوں تک پہنچ گئے جہاں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے پس انہوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور غنیمت حاصل کی اور قیدی بنائے اور کامیاب و کامران واپس آ گئے جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا اس لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب بھی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے ملتے تو کہتے اے امیر آپ پر سلامتی ہو اور جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے امارت کا جھنڈا باندھا تو بعض لوگوں نے آپ کی امارت پر اعتراض کیا تو رسول اللہ ﷺ نے ایک تقریر کی اور فرمایا۔ اگر تم اس کی امارت پر معترض ہو تو تم قبل ازیں اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو اور تم بخدا یہ امارت کے لائق اور مجھے اس کے بعد سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ صحیح میں موسیٰ بن عقبہ کی حدیث سے سالم سے اس کے باپ کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔

اور صحیح بخاری میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مجھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھاتے اور فرماتے اے اللہ! مجھے ان دونوں سے محبت ہے پس تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔ اور شععی سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا محبت ہے وہ اسامہ بن زید

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ یہی ذبہ ہے کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فوجی و نلیفہ خواروں کا رجسٹر بنایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے پانچ ہزار درہم مقرر کیا اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو چار ہزار درہم دیئے اس بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رسول اللہ ﷺ کو تجھ سے زیادہ اور اس کا باپ تیرے باپ کے مقابلہ میں رسول اللہ ﷺ کو زیادہ محبوب تھا۔ اور عبدالرزاق نے عن معمر عن زہری عن عروہ عن اسامہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب جنگ بدر سے قبل حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گئے تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو گدھے پر اپنے پیچھے بٹھایا اور یہ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔

میں کہتا ہوں، اسی طرح آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے اپنی ناقہ پر اپنے پیچھے بٹھایا، یا جیسا کہ قبل ازیں ہم حجۃ الوداع میں بیان کر چکے ہیں، اور اسی طرح کئی مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کسی معرکے میں شامل نہیں ہوئے اور ان کے سامنے عذر پیش کیا کہ جب انہوں نے ایک لالہ الا اللہ کہنے والے آدمی کو قتل کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز لالہ الا اللہ کے مقابلہ میں تیرا کون حامی ہوگا، کیا تو نے اسے لالہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا ہے؟ قیامت کے روز لالہ الا اللہ کے مقابلہ میں تیرا کون حامی ہوگا۔ نیز انہوں نے آپ کے بہت سے فضائل کا ذکر کیا ہے۔

آپ شب رنگ، چھٹی ناک، شیریں فعال، فصیح البیان ربانی عالم تھے اور آپ کے والد صاحب بھی اسی طرح تھے مگر وہ بہت سفید قام تھے، یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو آپ کے نسب سے واقف نہیں انہوں نے ان سے قرابت کے متعلق اعتراض کیا ہے اور جب یہ دونوں ایک چادر میں اسامہ رضی اللہ عنہ اپنی سیاہی اور آپ کا والد اپنی سفیدی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں ننگے تھے تو مجر زید لہجی ان کے پاس سے گذرا اور کہنے لگا سبحان اللہ یہ قوم ایک دوسرے سے ہیں رسول اللہ ﷺ اس بات سے بہت خوش ہوئے اور خوش خوش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے آپ کے چہرے کی شکنیں چمک رہی تھیں، آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں ہوا کہ ابھی ابھی مجر زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر کہا ہے کہ یہ قوم ایک دوسرے سے ہیں، اسی لیے فقہائے حدیث امام شافعی اور امام احمد نے اس حدیث کے ثبوت و استیضار سے اختلاط و اشتباہ انساب میں قیافہ شناسوں کے قول پر عمل کرنا اخذ کیا ہے جیسا کہ اپنی جگہ پر اس بات کو ثابت کیا گیا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ۵۴ھ میں وفات پائی اسے ابو عمر نے صحیح قرار دیا ہے اور آپ کی وفات ۵۸ھ اور ۵۹ھ میں بھی بیان کی گئی ہے اور بعض کا قول ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وفات پائی۔ واللہ اعلم اور جماعت نے اپنی کتب سے میں ان کے لیے روایت کی ہے۔

دوسرے غلام حضرت اسلم تھے جنہیں بعض ابراہیم بعض ثابت اور بعض ہرمز اور ارفع قبلی کہتے ہیں، آپ جنگ بدر کے قبل مسلمان ہوئے اور بدر میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ آپ مکہ میں اپنے آل عباس کے سرداروں کے ساتھ تھے آپ تیر بنایا کرتے تھے اور ابولہب خبیث کے ساتھ جنگ بدر کی خبر آنے کے موقع پر آپ کا جو واقعہ ہوا وہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے ہجرت کی اور احد اور بحد کے معرکوں میں شامل ہوئے، آپ کا تب تھے، آپ نے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتابت کی، یہ قول مفضل بن

نسان غلابی کا ہے اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح مصر میں شامل ہوئے آپ پہلے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے غلام تھے انہوں نے ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا اور آزاد کر دیا اور اپنی لونڈی سلمیٰ سے ان کا نکاح کر دیا جس سے ان کے ہاں اولاد ہوئی اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی سامان کے محافظ و نگران ہوا کرتے تھے۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ محمد بن جعفر اور بہز نے بیان کیا کہ شعبہ نے من الحکم عن ابن ابی رافع عن ابی رافع ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم کے ایک آدمی کو صدقات کے لیے تیار کیا تو اس نے ابورافع سے کہا کہ میرے ساتھ چلو تاکہ تمہیں بھی ان سے حصہ ملے انہوں نے کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں اور میں آپ سے پوچھ نہ لوں میں نہیں جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا آپ نے فرمایا صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں اور قوم کا غلام بھی قوم میں شامل ہوتا ہے۔ اور ثوری نے اسے محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے بحوالہ الحکم روایت کیا ہے اور ابو یعلیٰ نے اپنے مسند میں اس سے روایت کی ہے کہ خیبر میں انہیں شدید سردی لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس لحاف ہے وہ اس شخص کو لحاف اوڑھا دے جس کے پاس لحاف نہیں ہے ابورافع بیان کرتے ہیں مجھے اپنے ساتھ لحاف اوڑھانے والا کوئی نہ ملا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تو آپ نے مجھ پر لحاف ڈال دیا اور ہم سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے پاس ایک سانپ دیکھا تو فرمایا ابورافع اسے مار دو اسے مار دو اور جماعت نے اپنی کتب میں ان کے لیے روایت کی ہے آپ کی وفات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔

تیسرے غلام انسہ بن زیادہ بن مشرح تھے کہتے ہیں ابومصرح السراة کی پیدائش ہیں۔ جنگ بدر میں شامل ہوئے عروہ زہری موسیٰ بن عقبہ محمد بن اسحاق بخاری اور کئی دوسرے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوس فرما ہو جاتے تو یہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کی اجازت دیا کرتے تھے اور خلیفہ بن خیاط نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ علی بن محمد نے عن عبدالعزیز بن ابی ثابت عن داؤد بن الحصین عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انسہ بدر کے روز شہید ہوئے۔ واقدہ کا بیان ہے کہ ہمارے نزدیک یہ بات ثابت نہیں اور میں نے اہل علم کو ثابت کرتے دیکھا ہے کہ وہ احد میں بھی شامل ہوئے اور ایک زمانہ تک زندہ رہے اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایام خلافت میں وفات پائی۔

تیسرے غلام حضرت ایمن بن عبید بن زید الحسبی تھے اور ابن مندہ نے انہیں عوف بن خزرج کی طرف منسوب کیا ہے مگر اس میں اعتراض پایا جاتا ہے اور یہ ام ایمن برکت کے بیٹے ہیں جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ماں جائے بھائی تھے ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لوٹے کے منتظم تھے اور حنین کے روز ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں شامل تھے کہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے اصحاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ حضرت امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ ایمن حنین کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتل ہوئے نیز بیان کرتے ہیں کہ مجاہد کی روایت ان سے منقطع ہے یعنی جسے ثوری نے عن منصور عن مجاہد عن عطاء عن ایمن الحسبی روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا ہے اور ان دنوں ڈھال کی قیمت ایک

دینا تھی اور ابو القاسم بغوی نے اسے مجتہد الصحابہ عن بارون بن عبد اللہ عن اسود بن عامر عن حسن بن صالح عن منصور عن الختم عن مجاہد روایت کیا ہے اور عطاء نے ایمن سے بحوالہ حضرت نبی کریم ﷺ اسی طرح روایت کی ہے۔ یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ ان کی موت رسول اللہ ﷺ کے بعد ہوئی ہے خواہ یہ حدیث ان سے، بس نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی دوسرا مراد ہو اور جمہور جیسے ابن اسحاق وغیرہ نے انہیں حنین میں شہید ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہم میں بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم اور ان کے بیٹے حجاج بن ایمن کا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے۔ چوتھے غلام باذام تھے جن کا تذکرہ طہمان کے حالات میں عنقریب بیان ہوگا۔

پانچویں غلام ثوبان بن لجد تھے جنہیں ابن جحر ابو عبد اللہ ابو عبد الکریم اور ابو عبد الرحمن بھی کہا جاتا ہے ان کا اصل السراة کے باشندوں میں ہے یہ مقام مکہ اور یمن کے درمیان واقع ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اہل یمن کے حمیر میں اور بعض کے نزدیک الہان میں اور بعض کہتے ہیں کہ حکم بن سعد العشیرہ جو ندج کا ایک قبیلہ ہے اس میں ان کا اصل ہے جس نے جاہلیت میں انہیں قیدی بنا لیا تھا پس رسول اللہ ﷺ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور اختیار دیا کہ اگر وہ اپنی قوم کے پاس واپس جانا چاہیں تو چلے جائیں اور اگر چاہیں تو ٹھہرے رہیں بلاشبہ ان کے گھر کے آدمی ہیں پس رسول اللہ ﷺ کی دوستی پر قائم رہے اور سفر و حضر میں آپ سے الگ نہ ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ فتح مصر میں شامل ہوئے اور اس کے بعد حمص میں فروکش ہوئے اور وہاں ایک گھر تعمیر کیا اور اپنی وفات تک جو ۴۵ھ میں ہوئی وہیں رہے اور بعض کہتے ہیں کہ ۴۴ھ میں ہوئی۔ مگر یہ غلط ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ کی وفات مصر میں ہوئی اور صحیح یہی ہے کہ آپ حمص میں فوت ہوئے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم بخاری نے کتاب الادب میں اور مسلم نے اپنی صحیح میں اور سنن اربعہ کے مؤلفین نے ان کے لیے روایت کی ہے۔

چھٹے غلام حضرت حنین رضی اللہ عنہ تھے یہ رسول اللہ ﷺ کے غلام ہیں۔ جو ابراہیم بن عبد اللہ بن حنین کے دادا ہیں اور ہم نے روایت کی ہے کہ آپ حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت کرتے تھے اور آپ کو وضو کرواتے تھے اور جب حضرت نبی کریم ﷺ وضو سے فارغ ہو جاتے تو آپ وضو کے بقیہ پانی کو لے کر آپ کے اصحاب کی طرف چلے جاتے، پس ان میں سے کوئی تو اس سے پی لیتا اور کوئی اسے مل لیتا، پس حنین نے پانی کو روک کر ایک منگے میں چھپا لیا یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس ان کی شکایت کی تو آپ نے انہیں فرمایا، آپ اس پانی کو کیا کریں گے؟ حنین نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ میں اسے اپنے پاس جمع رکھوں گا اور پیوں گا آپ نے فرمایا، کیا تم نے کوئی عقل مند غلام دیکھا ہے یہ کس قدر عقلمند ہے؟ پھر رسول کریم ﷺ نے اسے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بخش دیا اور انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ ساتویں غلام حضرت ذکوان تھے جن کا تذکرہ طہمان کے حالات میں بیان ہوگا۔

آٹھویں غلام حضرت رافع یا ابورافع تھے جنہیں ابوالہبی بھی کہا جاتا ہے ابوبکر بن ابی خشمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ابوالحجہ سعید بن العاص الاکبر کے غلام تھے پس ان کے بیٹے اس کے وارث ہوئے اور ان میں سے تین نے اپنے اپنے حصے کے غلاموں کو

آزاد کر دیا اور یہ بدر کے روز ان کے ساتھ شامل ہوئے اور میثوں قتل ہو گئے پھر ابورافع نے اپنے آقا بنی سعید کے بقیہ حصوں کو خالد بن سعید کے حصے کے سوا خرید لیا اور خالد نے اپنا حصہ رسول اللہ ﷺ کو بخش دیا اور آپ نے اسے قبول فرما کر آزاد کر دیا اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ ﷺ کا غلام ہوں اور اسی طرح ان کے بعد ان کے بیٹے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ ﷺ کا غلام ہوں اور اسی طرح ان کے بعد ان کے بیٹے بھی یہی کہا کرتے تھے۔ نویں غلام حضرت رباح تھے یہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے کی اجازت دیا کرتے تھے اور یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ ﷺ سے اجازت لی یہاں تک کہ وہ اس وقت کمرے میں داخل ہوئے جب آپ نے اپنی بیویوں سے ایلاء کیا تھا اور ان سے الگ ہو کر اس کمرے میں اکیلے رہتے تھے اسی طرح آپ کے نام کے ساتھ مصرح طور پر عکرمہ بن عمار کی حدیث میں عن سماک بن الولید عن ابن عباس عن عمر رضی اللہ عنہ بیان ہوئی ہے اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ واقع نے ہم سے بیان کیا کہ عکرمہ بن عمار نے عن ایاس بن سلمہ بن کوع عن ابیہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک غلام رباح نام تھا۔

دسویں غلام حضرت رذیفہ تھے مصعب بن عبد اللہ زبیری اور ابوبکر بن ابی خیشمہ نے انہیں غلاموں میں شمار کیا ہے یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں ان کے پاس گیا تو آپ نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا، دونوں کا بیان ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔

میں کہتا ہوں، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ ﷺ کے غلاموں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور ان سے حسن سلوک کرنے اور ان پر احسان کرنے کو پسند کرتے تھے اور آپ نے اپنے دور خلافت میں ابوبکر بن حزم کو جو آپ کے زمانہ میں اہل مدینہ کے عالم تھے، لکھا کہ وہ آپ کے رسول اللہ ﷺ کے غلاموں، عورتوں اور خادموں کی تلاش کریں اسے واقدی نے روایت کیا ہے، اور ابو عمرو نے مختصر اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس کی روایت کو نہیں جانتا، ابن الاثیر نے اسے الغابہ میں بیان کیا ہے۔

گیارہویں غلام حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ عنہ تھے، ہم نے ان کے کچھ حالات غزوہ موتہ میں آپ کی شہادت کے بیان میں ذکر کیے ہیں، یہ فتح مکہ سے چند ماہ قبل جمادی ۸ھ کا واقعہ ہے، اور آپ اس کے پہلے امیر تھے، آپ کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان دونوں کے بعد حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر بنے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جس سریہ میں بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لوگوں کا امیر بنا کر بھیجا، اور اگر حضرت زید آپ کے بعد زندہ رہتے تو آپ انہیں اپنا خلیفہ بناتے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

بارہویں غلام حضرت زید بن یسار رضی اللہ عنہ تھے، ابوالقاسم بغوی مجمع الصحابہ رضی اللہ عنہم میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی اور ایک حدیث کی روایت کی، میں اس کے سوا کسی حدیث کو نہیں جانتا، محمد بن علی جوز جانی نے ہم سے بیان کیا کہ ابوسلمہ التبوذکی نے ہم سے بیان کیا، کہ حفص بن عمر طائی نے ہم سے بیان کیا کہ ابوعمر بن مرہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کے غلام بلال بن یسار بن زید سے سنا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، اس نے میرے دادا کے حوالے سے

مجھے بتایا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الی القیوم و اتوب الیہ کہے گا، خواہ وہ جنگ سے بھاگا ہو، اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے، اسی طرح ابو داؤد نے اسے بحوالہ ابوسلمہ روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے عن محمد بن اسماعیل بخاری عن ابی سلمہ موسیٰ بن اسماعیل روایت کیا ہے اور ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں۔

تیسریوں غلام حضرت سفینہ ابوعبدالرحمن تھے، جنہیں ابوہریرہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام مہران تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ عیس تھا، اور بعض احمد، اور بعض رومان بیان کرتے ہیں، اور رسول اللہ ﷺ نے ایک بات کی وجہ سے، جسے ہم ابھی بیان کریں گے، انہیں لقب دیا جو آپ پر غالب آ گیا، آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں آزاد کر دیا اور یہ شرط مقرر کی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی وفات تک آپ کی خدمت کریں تو انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور کہا اگر آپ مجھ پر یہ شرط عائد نہ بھی کرتیں تب بھی میں آپ سے جدا نہ ہوتا، اور یہ حدیث سنن میں ہے، آپ عرب کی پیدائش تھے اور آپ کا اصل ایرانی باشندوں میں ہے اور آپ سفینہ بن مافنہ ہیں، امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابوالنضر نے ہم سے بیان کیا کہ حشر بن نباتہ عیسیٰ کوئی نے ہم سے بیان کیا کہ سعید بن جبہ نے ہم سے بیان کیا کہ سفینہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میری امت میں تیس سال خلافت ہوگی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ پھر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بتایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لازم رہا، پھر وہ بیان کرتے ہیں ہم نے انہیں تیس سال پایا، پھر بعد ازاں میں نے خلفا کا اندازہ کیا، میں نے تیس آدمیوں کو بھی ان کے لیے متفق نہ پایا، میں نے سعید سے پوچھا آپ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا سے کہاں ملے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، حجاج کے زمانہ میں وادی نخلہ میں، میں نے تین راتیں ان کے پاس قیام کیا اور ان سے رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے منقولات پوچھتا رہا، میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے میرا نام سفینہ رکھا ہے، میں نے کہا آپ نے تمہارا نام سفینہ کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ باہر نکلے تو ان کا سامان ان پر بوجھل ہو گیا، تو آپ نے مجھے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، میں نے چادر بچھائی تو انہوں نے اس میں اپنا سامان رکھ دیا، اور پھر اسے مجھ پر لاد دیا اور رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا اسے اٹھا لو، تم تو سفینہ ہو، اور اگر میں اس روز ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ یا چھ یا سات اونٹوں کا بوجھ بھی اٹھا لیتا تو وہ مجھے بوجھل معلوم نہ ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ کرید کر سوال کرتے، اور یہ حدیث ابو داؤد ترمذی اور نسائی سے مروی ہے اور ان کے نزدیک اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ”خلافت نبوت تیس سال ہے پھر ملوکیت ہوگی“ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ بہتر ہے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن سلمہ نے سعید بن جبہ سے بحوالہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا، ہم سے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں تھے، پس جب کوئی آدمی تھک جاتا تو وہ اپنے کپڑے ڈھال یا تلوار مجھ پر لاد دیتا یہاں تک کہ میں نے بہت سی چیزیں اٹھالیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تو سفینہ ہے“ یہی بات آپ کے سفینہ نام کے بارے میں مشہور ہے۔

اور ابوالقاسم بنوفی نے بیان کیا ہے کہ ابوالریح سلیمان بن داؤد زہرائی اور محمد بن جعفر ورکانی نے ہم سے بیان کیا کہ شریک

بن عبد اللہ شعی نے عمران التیمی سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے غلام کے حوالے سے ہم سے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ ہمارا ایک وادی یادریا سے نزر ہوا۔ اور میں سب لوگوں سے بڑھ کر چلنے میں قوی تھا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا تو تو آج ایک سفینہ ہے۔ اور اسی طرح امام احمد نے اسے اسود بن عامر سے بحوالہ شریک روایت کیا ہے اور ابو عبد اللہ بن مندہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بن مکرم نے ہم سے بیان کیا کہ عثمان بن مرنے ہم سے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے محمد بن المنکدر سے بحوالہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا ہم سے بیان کیا کہ میں نے کشتی میں سمندر کا سفر کیا تو وہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر سوار ہو گیا تو اس نے مجھے ایک جزیرہ میں پھینک دیا جس میں شیر رہتا تھا مجھے اسے سے خوف محسوس ہوا تو میں نے کہا اے ابو الحارث میں رسول اللہ ﷺ کا غلام ہوں تو وہ مجھے اپنے کندھے سے اشارہ کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے مجھے راستے پر ڈال دیا پھر وہ دھاڑا تو میں نے خیال کیا کہ وہ سلام کہہ رہا ہے۔

اور ابو القاسم بغوی نے اسے عن ابراہیم بن ہانی عن عبد اللہ بن موسیٰ عن رجل عن محمد بن المنکدر عن سفینہ روایت کیا ہے اور اسی طرح اس نے اسے عن محمد بن عبد اللہ الحزرمی عن حسین بن محمد روایت کیا ہے اور عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابی سلمہ نے محمد بن المنکدر سے بحوالہ سفینہ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اس نے اسے روایت کیا ہے کہ ہارون بن عبد اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ علی بن عاصم نے ہم سے بیان کیا کہ ابو یحناہ نے رسول اللہ ﷺ کے غلام سفینہ کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ مجھے ایک شیر ملا تو میں نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کا غلام ہوں راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے زمین پر اپنی دم پھیری اور بیٹھ گیا اور مسلم اور اہل سنن نے اس کے لیے روایت کی ہے اور قبل ازین امام احمد کی روایت کردہ حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ وادی نخلہ میں رہتے تھے اور حجاج کے زمانے تک پیچھے رہے۔

چودھویں غلام حضرت سلیمان فارسی ابو عبد اللہ اسلام کے غلام تھے اصل میں ایرانی تھے گردش احوال سے مدینہ کے ایک یہودی کے غلام بن گئے جب رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سلمان مسلمان ہو گئے اور آپ نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے اپنے یہودی آقا کے ساتھ مکہ تبت کی اور رسول اللہ ﷺ نے ان کے ذمے جو رقم آتی تھی اس کی ادائیگی میں آپ کی مدد کی اور آپ نے انہیں اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اور قبل ازین ہم اپنے ملک سے ہجرت کرنے اور یکے بعد دیگرے ان کے راہبوں سے صحبت کرنے کے حالات بیان کر چکے ہیں یہاں تک کہ حالات انہیں مدینہ نبویہ میں لے آئے اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ مدینہ کی طرف ہجرت کے اوائل میں ہوا اور آپ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں ۳۵ھ میں ہوئی۔ یا ۳۶ھ کے آغاز میں ہوئی۔ اور بعض کا قول ہے کہ آپ کی وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے عباس بن یزید بحرانی بیان کرتے ہیں کہ اہل علم کو اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ اڑھائی سو سال زندہ رہے اور اس سے زیادہ ساڑھے تین سو سال تک ان میں اختلاف پایا جاتا ہے اور بعض متاخرین حفاظ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی عمر سو سال سے زیادہ نہیں ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب

پندرھویں غلام حضرت شقران حبشی ہیں جن کا نام صالح بن عدی ہے حضور ﷺ نے انہیں اپنے والد صاحب کے ورثہ

سے پایا۔ اور سعید بن زبیر اور محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام تھے انہوں نے اسے رسول اللہ ﷺ کو بخش دیا۔ اور احمد بن حنبل نے اسحاق بن عیسیٰ سے بحوالہ ابی معشر روایت کی ہے کہ انہوں نے انہیں بدر میں شامل ہونے والوں میں بیان کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کا حصہ نہیں لگایا یا محمد بن سعد نے بھی انہیں بدریوں میں شامل کیا ہے اور یہ غلام تھے اس لیے ان کا حصہ نہیں لگایا بلکہ آپ نے اسے فیدیوں کا افسر مقرر کر دیا تو ہر آدمی نے جس کا قیدی تھا آپ کو کچھ دیا جس سے آپ کو پورے حصے سے بھی زیادہ مل گیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان کے علاوہ بدر میں تین غلام تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا غلام، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا غلام اور حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کا غلام آپ نے انہیں تھوڑا سا دیا۔ اور ان کا حصہ نہیں لگایا ابوالقاسم بغوی بیان کرتے ہیں کہ زہری کی کتاب اور ابن اسحاق کی کتاب میں بدریوں میں ان کا ذکر موجود نہیں اور واقدی نے عن ابی بکر بن عبد اللہ بن ابی سبرہ عن ابی بکر بن عبد اللہ بن ابی جہم بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے غلام شقران کو اس تمام سامان، ہتھیاروں، اونٹوں، بکریوں اور بچوں کو ایک طرف اکٹھا پرافسر مقرر کیا جو المرسیع کے گھروں سے ملا اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اسود بن عامر نے ہم سے بیان کیا کہ مسلم بن خالد نے عن عمرو بن یحییٰ مازنی عن ابیہ عن شقران مولیٰ رسول اللہ ﷺ ہم سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خیر کی طرف جاتے ہوئے گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا آپ اشارہ کرتے جاتے تھے اور ان حدیث میں اس بات کے شواہد پائے جاتے ہیں کہ حضرت شقران رضی اللہ عنہ ان معرکوں میں شامل ہوئے تھے۔

اور ترمذی نے عن زید بن اخزم عن عثمان بن فرقد عن جعفر بن محمد روایت کی ہے کہ ابن ابی رافع نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت شقران رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے سنا کہ۔ خدا کی قسم! میں نے قبر میں رسول اللہ ﷺ کے نیچے چادر ڈالی تھی۔ اور جعفر بن محمد سے ان کے باپ کے حوالے سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم ﷺ کی قبر بنائی۔ اور حضرت شقران رضی اللہ عنہ نے چادر ڈالی اور انہوں نے وہ چادر آپ کے نیچے ڈالی جس پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور کہا خدا کی قسم اسے آپ کے بعد کوئی شخص زیب تن نہیں کرے گا، اور حافظ ابوالحسن بن الاثیر نے الغابہ میں بیان کیا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو چکی ہے اور ہارون الرشید کے زمانے میں مدینہ میں آپ ان کے آخر میں فوت ہونے والے تھے۔

سولہویں غلام حضرت ضمیرہ بن ابی ضمیرہ حمیری تھے۔ یہ جاہلیت میں قیدی ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، مصعب زبیری ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نقیع میں آپ کا گھر اور اولاد تھی، اور عبد اللہ بن وہب عن ابی ذئب عن حسین بن عبد اللہ بن ضمیرہ عن ابیہ عن جدہ ضمیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ام ضمیرہ کے پاس سے گزرے تو وہ رورہی تھیں، آپ نے فرمایا، تو کیوں روتی ہے؟ کیا تو گرسنہ ہے یا برہنہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میرے اور میرے بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی گئی ہے، آپ نے فرمایا بچے اور اس کی والدہ کے درمیان تفریق نہ کی جائے۔ پھر آپ نے اس آدمی کے پاس پیغام بھیجا جس کے ہاں ضمیرہ غلام تھے اور اسے بلا کر اس سے ایک اونٹ کے بدلے انہیں خرید لیا، ابن ابی ذئب بیان کرتے ہیں، پھر اس نے مجھے وہ تحریر پڑھائی جو اس کے پاس تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”یہ محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے ابوخمیرہ اور اس کے اہل بیت کے نام تحریر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو آزاد کر دیا ہے اور وہ عرب گھرانے سے ہیں اگر وہ چاہیں تو رسول اللہ ﷺ کے پاس ٹھہر جائیں اور اگر چاہیں تو اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں، پس کوئی شخص حق کے سوا انہیں مانع نہ ہو، اور جو مسلمان انہیں ملے ان کے متعلق اچھی وصیت کرے۔“ (کاتب ابی بن کعب)

سترھویں غلام حضرت طہمانؓ تھے، جنہیں ذکوان، مہران، میمون، کیسان اور باذام بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں، اور قوم کا غلام انہیں میں سے ہوتا ہے۔ بغوی نے اسے عن منجاب بن الحارث وغیرہ عن شریک عن عطاء بن السائب عن ام کلثوم بنت علی بن طالب رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے غلام طہمان یا ذکوان نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور پھر آگے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

اٹھارہویں غلام حضرت عبید بن جراحؓ تھے، ابوداؤد طیالسی نے عن شعبہ عن سلیمان التیمی عن شیخ عن عبید مولیٰ رسول اللہ ﷺ بیان کیا ہے، میں نے پوچھا کیا حضرت نبی کریم ﷺ فرض نماز کے سوا بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا مغرب اور عشا کے درمیان نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ ابوالقاسم بغوی بیان کرتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ کسی اور نے بھی روایت کی ہو۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں بات ایسے نہیں جیسے انہوں نے بیان کی ہے، پھر انہوں نے ابویعلیٰ موصلی کے طریق سے بیان کیا ہے کہ عبدالاعلیٰ بن حماد نے ہم سے بیان کیا کہ سلمہ بن حماد نے سلیمان التیمی سے رسول اللہ ﷺ کے غلام عبید کے حوالے سے ہم سے بیان کیا کہ دو عورتیں روزہ دار تھیں اور لوگوں کی غیبت کرتی تھیں، رسول اللہ ﷺ نے ایک پیالہ منگوا دیا اور ان دونوں سے کہا تے کرو، تو انہوں نے پیپ، خون اور تازہ گوشت قے کیا، پھر فرمایا ان دونوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام پر افطار کیا۔ اور امام احمد نے اسے یزید بن ہارون اور ابن ابی عدی سے بحوالہ سلیمان ایک ایسے آدمی سے روایت کیا ہے، جس نے ابو عثمان کی مجلس میں رسول اللہ ﷺ کے غلام عبید کے حوالے سے ان کے پاس بات بیان کی۔ اور احمد نے اسے اسی طرح غندر سے بحوالہ عثمان بن غیاث روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو عثمان کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ سعید یا عبید نے مجھ سے بیان کیا، عثمان کو حضرت نبی کریم ﷺ کے غلام کے متعلق شک ہے، اور پھر اس حدیث کو بیان کیا۔

انیسویں غلام حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ تھے محمد بن سعید بیان کرتے ہیں کہ واقدی نے ہمیں بتایا کہ عتبہ بن خیرہ اشہلی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر محمد بن عمرو بن حزم کی طرف لکھا کہ آپ میرے لیے رسول اللہ ﷺ کے خادم مردوں، عورتوں اور غلاموں کو تلاش کریں تو انہوں نے آپ کی طرف لکھا کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک یمانی غلام فضالہ تھا، جو

۱ اصحاب میں اس کے حالات میں ایک دفعہ عن شیخ عن عبید اور دوسری دفعہ عن رجل عن عبید بیان ہوا ہے لیکن انہوں نے اس کا نام بیان نہیں کیا۔

پچیسویں غلام حضرت مہران تھے، جنہیں طہمان بھی کہا جاتا ہے، انہی سے حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما نے بنی ہاشم اور ان کے غلاموں پر صدقہ کے حرام ہونے کی روایت کی ہے۔

پچیسویں غلام حضرت نافع رضی اللہ عنہ تھے، حافظ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ ابوالفتح الماہانی نے ہمیں بتایا کہ صوفی شجاع نے ہمیں خبر دی کہ محمد بن اسحاق نے ہمیں بتایا کہ احمد بن محمد بن زیاد نے ہمیں خبر دی کہ محمد بن عبد الملک بن مروان نے ہم سے بیان کیا کہ یزید بن ہارون نے ہم سے بیان کیا کہ ابو مالک اشجعی نے یوسف بن میمون سے بحوالہ حضرت نافع مولیٰ رسول اللہ ﷺ ہمیں بتایا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ زانی بوڑھا، متکبر مسکین، اور اپنے کام کا اللہ پر احسان جتانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

ستائیسویں غلام حضرت نفع تھے، جنہیں مسروح اور نافع بن مسروح بھی کہا جاتا ہے اور صحیح، نافع بن الحارث بن کلدہ بن عمرو بن علاج بن سلمہ بن عبد العزیٰ بن غیرہ بن عوف بن قیس ہے جو ابوبکرہ ثقفی کا ثقیف ہے اور ان کی والدہ سمیہ ہے جو زیاد کی ماں ہے، یہ اور غلاموں کی ایک جماعت طائف کی فصیلوں سے اتری، تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں آزاد کر دیا۔ اور یہ ایک چرخہ میں نیچے آئے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام ابوبکرہ رکھ دیا، ابو نعیم بیان کرتے ہیں، یہ ایک صالح آدمی تھے۔ رسول اللہ ﷺ اور ابو بکرہ سلمی کے درمیان مواخات کروائی۔

میں کہتا ہوں ان کی نماز جنازہ انہی نے ان ہی وصیت کے مطابق پڑھائی اور حضرت ابوبکرہ معمر کہ جمل و صفین میں شامل نہیں ہوئے، اور ان کی وفات ۵۱ھ میں ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ ۵۲ھ میں ہوئی۔

اٹھائیسویں غلام حضرت واقد یا ابواقد رضی اللہ عنہ تھے، حافظ ابو نعیم اصہبانی بیان کرتے ہیں کہ ابو عمرو بن حمدان نے ہم سے بیان کیا کہ حسن بن سفیان نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن یحییٰ بن عبد الکریم نے ہم سے بیان کیا کہ حسین بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ ابیہیم بن حماد نے، عن الحارث بن غسان عن رجل من اهل المدینۃ عن ذاذان عن واقد مولیٰ رسول اللہ ﷺ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے ذکر الہی کیا، خواہ اس کے نماز روزے، تلاوت کم ہی ہو، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، خواہ اس کے نماز روزے اور تلاوت قرآن زیادہ ہی ہو۔

انیسویں غلام حضرت ابو کیسان رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں ہرمز یا کیسان بھی کہا جاتا ہے اور انہیں طہمان بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ علی بن عباس نے عطاء بن السائب سے بحوالہ حضرت فاطمہ بنت علیؓ یا حضرت ام کلثوم بنت علیؓ ہم سے بیان کیا آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے غلام جسے ہرمز کہا جاتا ہے اور اس کی کنیت ابو کیسان ہے، سے سنا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو فرماتے سنا کہ ہم اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں اور بلاشبہ ہمارے غلام بھی ہم میں سے ہیں پس تم صدقہ نہ کھاؤ۔ اور الربیع بن سلیمان نے اسے عن اسد بن موسیٰ عن ورقاء عن عطاء بن السائب روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہرمز یا کیسان نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور ابو القاسم بغوی بیان کرتے ہیں کہ منصور بن ابی مزاحم نے ہم سے بیان کیا کہ

ابو حفص الابار نے ابن ابی زیاد سے بحوالہ معاویہ ہم سے بیان کیا کہ بدر میں تیس غلام شامل ہوئے ان میں حضرت نبی کریم ﷺ کا غلام ہرمز بھی تھا رسول اللہ ﷺ نے اسے آزاد کر دیا اور فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد کیا ہے اور قوم کا غلام انہیں میں سے دوتا ہے اور ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے، پس تم بھی صدقہ نہ کھانا۔

تیسویں غلام حضرت ہشام تھے محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبداللہ الرقی نے ہمیں بتایا کہ محمد بن ایوب الرقی نے عن سفیان عن عبدالکریم عن ابی زبیر عن ہشام مولیٰ رسول اللہ ﷺ ہمیں بتایا کہ ایک آدمی نے آکر کہا یا رسول اللہ ﷺ میری بیوی کسی طلبگار کے ہاتھ کو نہیں ہناتی آپ نے فرمایا ”اسے طلاق دے دو“ اس نے کہا وہ مجھے اچھی لگتی ہے آپ نے فرمایا ”اس سے فائدہ اٹھاؤ“ ابن مندہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جماعت نے اسے سفیان ثوری سے عن ابی زبیر عن مولیٰ بنی ہاشم عن النبی ﷺ روایت کیا ہے اور اس غلام کا نام نہیں لیا، اور عبید اللہ بن عمرو نے اسے عن عبدالکریم عن ابی زبیر عن جابر روایت کیا ہے۔

اکیسویں غلام حضرت ابوالحمراء تھے جو حضرت نبی کریم ﷺ کے غلام اور خادم تھے، انہی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ہلال بن الحارث تھا، بعض کہتے ہیں ابن مظفر تھا، اور بعض ہلال بن الحارث بن ظفر السلمی بیان کرتے ہیں، یہ جاہلیت میں قیدی بن گئے تھے اور ابو جعفر محمد بن علی بن دجیم بیان کرتے ہیں کہ احمد بن حازم نے ہم سے بیان کیا کہ عبداللہ بن موسیٰ اور فضل بن دکین نے عن یونس بن ابی اسحاق عن ابی داؤد القاص عن ابی الحمراء ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں سات ماہ زاہدانہ طور پر یوں گزارے جیسے ایک دن ہو، اور حضرت نبی کریم ﷺ ہر صبح کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور فرماتا (الصلوة الصلوة انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطہرکم تطہیرا) احمد بن حازم بیان کرتے ہیں اور عبید اللہ بن موسیٰ اور فضل بن دکین نے عن یونس بن ابی اسحاق عن ابی داؤد عن ابی الحمراء ہمیں بتایا کہ حضرت نبی کریم ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، جس کے پاس ایک برتن میں کھانا تھا، تو آپ نے اس کھانے میں اپنا ہاتھ داخل کیا اور فرمایا تو نے اسے دھو کہ دیا ہے اور جو ہم سے دھو کہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ نے اسے ابو بکر بن ابی شیبہ سے بحوالہ ابو نعیم روایت کیا ہے اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی حدیث نہیں۔ اور یہ ابو داؤد، نفع بن الحارث الاعمی ہے جو متر و کین ضعیف میں سے ایک ہے۔ اور عباس الدوری بحوالہ ابن معین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھی ابوالحمراء کا نام ہلال بن الحارث تھا جو حمص میں رہتا تھا اور میں نے اس کے بچوں میں وہاں ایک نوجوان کو دیکھا اور بعض دوسروں کا قول ہے کہ اس کا گھر تمص کے دروازے سے باہر تھا، اور ابوالوازع بحوالہ سمرہ بیان کرتے ہیں کہ ابوالحمراء غلاموں میں سے تھا۔

تیسویں غلام حضرت یسار تھے، کہتے ہیں کہ عربیوں نے انہی کو قتل کیا تھا اور ان کا مثلہ کیا تھا۔ اور واقدی نے اپنی سند سے یعقوب بن عتبہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے قرقرۃ الکدر کے روز بنی غطفان اور سلیم کے اونٹوں کے ساتھ گرفتار کیا تھا، اور لوگوں نے اسے رسول اللہ ﷺ کو بخش دیا تو آپ نے اسے قبول کر لیا، کیونکہ آپ نے اسے بہت اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا تھا، پس آپ نے اسے آزاد کر دیا، پھر اونٹوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ہر آدمی کو سات اونٹ ملے اور وہ دوسو آدمی تھے۔

تینتیسویں غلام حضرت ابوسلمیٰ تھے۔ جو رسول اللہ ﷺ کے چرواہے تھے، انہیں ابو غلام بھی کہا جاتا تھا اور ان کا نام حریث تھا، ابو القاسم لغوی بیان کرتے ہیں کہ کامل بن طلحہ نے ہم سے بیان کیا کہ عباد بن عبد الصمد نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے چرواہے ابوسلمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جو شخص یہ گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے ملاقات کرے گا اور بعثت و حساب پر ایمان لائے گا وہ جنت میں داخل ہو گا۔ ہم نے پوچھا تو نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے تو اس نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کیں، پھر کہا میں نے یہ بات آپ سے کئی دفعہ سنی ہے نہ دو دفعہ نہ تین دفعہ نہ چار دفعہ، ابن عساکر نے اس کے سوا ان کی کوئی حدیث بیان نہیں کی، اور نسائی نے رات دن کے بارے میں ایک اور حدیث بیان کی ہے اور ابن ماجہ نے ان کی ایک تیسری حدیث بھی بیان کی ہے۔

چوتیسویں غلام حضرت ابوضمیرہ تھے، جو مستقدم الذکر ضمیرہ کے والد ہیں اور ضمیرہ کی ماں کے خاوند ہیں، اور ان کے بیٹے کے حالات میں ان کا کچھ تذکرہ اور ان کی تحریر میں ان کے کچھ حالات قبل ازیں بیان ہو چکے ہیں، اور محمد بن سعد الطبقات میں بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل بن عبد اللہ بن اولیس المدنی نے ہمیں بتایا کہ حسین بن عبد اللہ بن ابی ضمیرہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوضمیرہ کے لیے جو تحریر لکھی وہ یہ تھی:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد رسول اللہ (ﷺ) کی جانب سے، ابوضمیرہ لدراس کے اہل بیت کے لیے۔

”بلاشبہ یہ عرب گھرانے کے لوگ ہیں اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بطور غنیمت دیا تھا اور آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، پھر آپ نے ابوضمیرہ کو اختیار دیا کہ اگر وہ پسند کرے تو اپنی قوم کے پاس چلا جائے۔ اور آپ نے اسے اجازت دے دی اور اگر چاہے تو رسول اللہ ﷺ کے پاس ٹھہرا رہے۔ اور یہ لوگ آپ کے اہل بیت میں سے ہوں گے، پس اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا، پس جو کرے ان سے بھلائی کرے اور جو مسلمان انہیں ملے وہ ان کے متعلق بھلائی کی وصیت کرے۔“ (کاتب ابی بن کعب)

اسماعیل بن ابی اولیس بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے حمیری غلام تھے، ان کی قوم کے کچھ لوگ سفر کو گئے اور ان کے پاس یہ تحریر بھی تھی، تو ان کا چوروں سے سامنا ہو گیا، چوروں نے ان کے پاس جو کچھ تھا لوٹ لیا تو انہوں نے یہ تحریر بھی انہیں دی اور جو کچھ اس میں لکھا تھا اس کے متعلق بھی انہیں آگاہ کیا، تو انہوں نے اسے پڑھ کر جو کچھ ان سے لوثا تھا سب کچھ واپس کر دیا اور ان سے معترض نہ ہوئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حسین بن عبد اللہ بن ابی ضمیرہ، امیر المؤمنین مہدی کے پاس گیا اور یہ تحریر بھی اپنے ساتھ لے گیا، مہدی نے اس تحریر کو لے کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور حسین کو تین سو دینار عطا کیے۔

پینتیسویں غلام حضرت ابوعبیدؓ تھے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عفان نے ہم سے بیان کیا کہ ابان العطار نے ہم سے بیان کیا کہ قتادہ نے شہر بن حوشب سے بحوالہ ابی عبید، ہم سے بیان کیا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے لیے ہنڈیا پکا کی جس میں گوشت تھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اس کا دست دو“ میں نے آپ کو دیا تو آپ نے فرمایا: ”مجھے اس کا دست دو“ میں نے آپ کو دیا

تو آپ نے فرمایا: ”مجھے اس کا رست رو“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ بکری کے کتے رست ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو خاموش رہنا تو میں جتنے دست طلب کرتا تو وہ مجھے دیتا۔ تردی نے اسے الشمائل میں عن بندار عن مسلم بن ابراہیم عن ابان بن یزید العطار روایت کیا ہے۔

پھتیسویں غلام حضرت ابو عسیب^۱ تھے، بعض لوگ ابو عسیب کہتے ہیں، مگر پہلا نام درست ہے اور بعض لوگوں نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اور قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ یہ حضرت نبی کریم ﷺ کی نماز جنازہ میں شامل تھے اور آپ کے دفن کے وقت بھی موجود تھے۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور حارث بن ابی اسامہ بیان کرتے ہیں کہ یزید بن ہارون نے ہم سے بیان کیا کہ مسلم بن عبید ابونصیرہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے غلام ابو عسیب سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس بخارا اور طاعون لے کر آئے۔ میں نے بخارا کو مدینہ میں روک لیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا۔ طاعون میری امت کے لیے شہادت اور رحمت ہے اور کافر پر عذاب ہے۔ اور امام احمد نے بھی اسے یزید بن ہارون سے اسی طرح روایت کیا ہے، اور ابو عبد اللہ بن مندرہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن یعقوب نے ہمیں بتایا کہ محمد بن اسحاق صاعقانی نے ہم سے بیان کیا کہ یونس بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ حشر بن نباتہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابونصیرہ بصری نے رسول اللہ ﷺ کے غلام ابو عسیب کے حوالہ سے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ایک شب کو باہر نکلے تو میرے پاس سے گزرے اور مجھے بلایا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہیں بھی بلایا اور وہ آپ کے پاس آگئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہیں بھی بلایا اور وہ آپ کے پاس آگئے، پھر آپ چل پڑے یہاں تک کہ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے، رسول اللہ ﷺ نے باغ کے مالک سے فرمایا، ہمیں تازہ کھجوریں کھلاؤ، اس نے کھجوریں لا کر رکھیں تو رسول اللہ ﷺ نے کھائیں اور سب لوگوں نے بھی کھائیں، پھر آپ نے پانی منگو کر پیا پھر فرمایا۔ بلاشبہ یہ مال ہے اور قیامت کے روز اس کے متعلق تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھجور کے خوشے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا یہاں تک کہ تازہ کھجوریں بکھر گئیں اور کہنے لگے یا نبی اللہ! قیامت کے روز ہم سے اس کے متعلق پرسش ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر تین چیزوں کے بارے میں پرسش نہیں ہوگی، اس چیتھڑے کے متعلق جس سے مرد اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے یا اس ٹکڑے کے متعلق جس سے وہ اپنی بھوک کو دور کرتا ہے یا اس کمرے کے متعلق جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے داخل ہوتا ہے۔

اور امام احمد نے اسے شریح سے بحوالہ حشر روایت کیا ہے۔ اور محمد بن سعد نے الطبقات میں موسیٰ بن اسماعیل سے روایت کی ہے کہ سلمہ بنت ابان الغریبیہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے میمونہ بنت عسیب سے سنا وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو عسیب نبی ﷺ تین روزے رکھتے تھے اور چاشت کی نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ عاجز ہو گئے اور ایام البیض^۱ کے روزے رکھتے تھے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی چار پائی کے ساتھ گھنٹی لگی ہوئی تھی، جب وہ مجھے بلاتے اور ان کی آواز نہ نکلتی تو وہ گھنٹی کو ہلاتے تو میں آجاتی۔

① ایام البیض، تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں شب کے دنوں کو کہتے ہیں۔ (مترجم)

سیستیسویں غلام حضرت ابوبکبشہ انمار بنی ہمدانی تھے جو مشہور روایت کے مطابق مذبح کے انمار میں سے تھے ان کے نام کے بارے میں کئی اقوال ہیں سب سے مشہور قول یہ ہے کہ آپ کا نام سلیم تھا بعض عمرو بن سعد اور سعد بن عمرو بھی بیان کرتے ہیں اور اصل میں یہ سرزمین دوس کے ملہ سین میں سے ہیں اور یہ بدر میں شامل تھے یہ بات موسیٰ بن عقبہ نے بحوالہ زہری بیان کی ہے اور ابن اسحاق بخاری واقدی مصعب زبیری اور ابوبکر بن ابی خیشمہ نے بھی اسے روایت کیا ہے اور واقدی نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ احد اور بعد کے معرکوں میں بھی شامل ہوئے تھے اور جس روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما خلیفہ بنے اس روز آپ کی وفات ہوئی یہ ۲۲ جمادی الآخرہ ۱۳ھ منگل کے دن کا واقعہ ہے۔ اور خلیفہ بن خیاط بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے غلام ابوبکبشہ کی وفات ۱۳ھ میں ہوئی اور قبل ازیں حضرت ابوبکبشہ سے روایت بیان ہو چکی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ تہوک جاتے ہوئے حجر مقام سے گزرے تو لوگ اپنے گھروں میں داخل ہونے لگے۔ تو لوگوں کے جمع ہونے کے لیے اعلان کیا گیا جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کون سی چیز تمہیں ان لوگوں کے پاس لے جا رہی ہے جن پر غضب الہی ہوا ہے؟ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم ان سے متعجب ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس سے بھی عجب تر بات نہ بتاؤں؟ تم میں سے ایک آدمی تم سے پہلے کی اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمن بن مہدی نے معاویہ بن صالح سے بحوالہ ازہر بن سعید حرازی ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابوبکبشہ انمار سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب میں بیٹے ہوئے تھے پھر اندر چلے گئے پھر غسل کر کے باہر آئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا کوئی بات تھی؟ آپ نے فرمایا فلاں عورت میرے پاس سے گزری تو میرے دل میں عورت کی خواہش پیدا ہوئی تو میں نے اپنی ایک بیوی کے پاس جا کر اس سے صحبت کی اور تم بھی اسی طرح کیا کرو بلاشبہ تمہارے افضل اعمال سے حلال کام کرنا بھی ہے۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ وکیع نے ہم سے بیان کیا کہ اعمش نے سالم بن ابی الجعد سے بحوالہ ابوبکبشہ انمار سے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس امت کی مثال چار آدمیوں کی سی ہے ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا ہے اور وہ اپنے مال میں محنت کرتا ہے اور اسے صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور مال نہیں دیا اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس اس کی مانند مال ہوتا تو میں بھی اس کے بارے میں وہی کرتا جس طرح وہ کرتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ دونوں آدمی اجر میں برابر ہیں۔ تیسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے اور علم عطا نہیں کیا اور وہ اس سے باطل کام کرتا ہے اور اسے ناحق جگہ خرچ کرتا ہے اور چوتھا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے نہ مال دیا ہے اور نہ علم دیا ہے اور وہ کہے کہ اگر میرے پاس اس کی مانند مال ہوتا تو میں بھی وہی کام کرتا جو وہ کر رہا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اور اسی طرح ابن ماجہ نے اسے ایک اور طریق سے منصور کی حدیث سے عن سالم بن ابی الجعد عن ابی کبشہ عن ابیہ روایت کیا ہے اور بعض نے اسے عبداللہ بن ابی کبشہ کا نام دیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یزید بن عبد ربہ نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن حرب نے ہم سے بیان کیا کہ زبیدی نے من راشد بن سعد بن ابی عامر البورنی عن ابی کبشہ انمار سے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے

اس کے پاس آ کر کہا مجھے اپنے گھوڑے کے پاس لے چلو، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مسلمان کو راستہ پر ڈالے اور بعد میں اسے گھوڑا دے دے تو اسے راہ خدا میں ستر بوجھ کی مانند اجر ملے گا اور ترمذی نے عن محمد بن اسماعیل بن ابی نعیم، عن عبادہ بن مسلم، عن یونس بن خباب، عن سعید بن مسعود، عن ابی الہتخیر، عن الطائی، روایت کی ہے کہ ابوبکر نے مجھ سے بیان کیا کہ میں تین بانوں کے بارے میں قسم لھاتا ہوں اور تم سے حدیث بیان کرتا ہوں جسے تم یاد کرو، لو صدقہ دینے سے کسی شخص کے مال میں کمی نہیں ہوتی اور جس شخص پر ظلم ہو اور وہ اس پر سہم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمادیتا ہے اور جو شخص سوال کے دروازے کو وا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غربت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اور احمد نے اسے عن غندر عن شعبہ عن اعمش عن سالم بن ابی الجعد عن ابی کبشہ روایت کیا ہے اور ابوداؤد اور ابن ماجہ نے ولید بن مسلم کی حدیث سے عن ابن ثوبان عن ابیہ عن ابی کبشہ انماری روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے سر اور دونوں کندھوں کے درمیان چھپنے لگوا کرتے تھے۔ اور ترمذی نے روایت کی ہے کہ حمید بن مسعدہ نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن حمران نے بحوالہ ابی سعید، عبداللہ بن بسرہم سے بیان کیا کہ میں نے ابوبکر انماری کو بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی ٹوپیاں، سروں کے ساتھ چمکی ہوتی تھیں۔

اڑتیسویں غلام حضرت مویبہ بنت جحزینہ کے مولدین میں سے تھے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا آپ کا نام معلوم نہیں ہو سکا، ابو مصعب زبیری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو مویبہ غزوہ المربیع میں شامل ہوئے اور آپ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کو آگے سے کھینچ رہے تھے اور امام احمد نے اپنی سند سے آپ سے جو روایت کی وہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ آپ رات کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بقیع کی طرف گئے تو رسول اللہ ﷺ نے وہاں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا و استغفار کیا، پھر فرمایا: بعض لوگ جس حالت میں ہیں اس کی نسبت تم جس حالت میں ہوتے ہو مبارک ہو، شب تاریک کی طرح فتنے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں اور آخری فتنہ پہلے فتنے سے بہت سخت ہوگا، آپ جس حالت میں ہوتے ہو مبارک ہو۔ پھر واپس آ گئے اور فرمایا اے ابو مویبہ میرے بعد میری امت کو جو خزانے ملنے والے ہیں اور جنت اور میرے رب کی ملاقات میں مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد آپ سات یا آٹھ دن زندہ رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ سب حضور ﷺ کے غلام تھے۔

آپ کی لونڈیاں:

ان میں سے ایک امۃ اللہ بنت رزینہ تھیں، صحیح یہ ہے کہ وہ اپنی ماں رزینہ کے ساتھ تھیں جیسا کہ ابھی بیان ہوگا، لیکن ابن ابی عاصم کی روایت میں ہے کہ عقبہ بن کرم نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن موسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ علیہ بنت الکمیت العنقی نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے حضرت رسول اللہ ﷺ کی خادمہ امۃ اللہ کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے قرظہ اور نضیر سے جنگ کے روز حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو قیدی بنایا اور اسے آزاد کیا اور امۃ اللہ کی ماں رزینہ کو اسے مہر میں دیا اور یہ حدیث بہت غریب ہے۔

دوسری لونڈی حضرت امیرہ تھیں، ابن اثیر بیان کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی لونڈی تھیں، اہل شام نے ان کی حدیث

کو روایت کیا ہے اور ان سے جبیر بن نصیر نے روایت کی ہے حضرت امیہ رسول اللہ ﷺ کو وضو کروایا کرتی تھیں ایک دن ایک آدمی نے آ کر رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا مجھے وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا: کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا حلا دیا جائے اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا اور جان بوجھ کر چھوڑنے کا سے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل نہ ہوگی اور کسی نشہ آور چیز کو نہ پینا، بلاشبہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا خواہ وہ تجھے اپنے اہل اور دنیا سے الگ ہونے کا حکم دیں۔

تیسری لوٹدی حضرت برکت ام ایمنؓ اور ام اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما تھیں اور وہ برکت بنت ثعلبہ بن عمر بن نعمان حبشیہ تھیں ان پر ان کی کنیت ام ایمن غالب آگئی اور وہ ان کے پہلے خاوند عبید بن زید حبشی سے ان کا بیٹا تھا پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا جس سے ان کے ہاں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور آپ ام الظباء کے نام سے معروف ہیں اور آپ نے دو بچہ جنمیں کیں آپ حضرت نبی کریم ﷺ کی والدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی دایہ تھیں اور آپ ان لوگوں میں شامل تھیں جنہیں رسول اللہ ﷺ نے اپنے باپ کا وارث بنایا تھا یہ بات واقدی نے بیان کی ہے اور دوسرے مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ آپ نے انہیں اپنی ماں کا وارث بنایا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہمیشہ کی لوٹدی تھیں اور انہوں نے انہیں رسول اللہ ﷺ کو بخش دیا۔ آپ بہت پہلے ایمان لائیں اور ہجرت کی اور حضرت نبی کریم ﷺ کے بعد پیچھے رہیں۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان کی ملاقات کی تو یہ رو پڑیں اور ان دونوں حضرات نے ان سے کہا کہ تمہیں علم نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے لیے بہتر ہے آپ نے جواب دیا بے شک میں میں تو اس لیے روتی ہوں کہ اب آسمان سے وحی آنا بند ہو گئی ہے اور یہ دونوں حضرات بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔

امام بخاری تاریخ میں بیان کرتے ہیں اور عبد اللہ بن یوسف عن ابن وہب عن یونس بن یزید عن زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام ایمنؓ رسول اللہ ﷺ کی دایہ تھیں حتیٰ کہ آپ بڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے پانچ ماہ بعد وفات پائی اور بعض کا قول ہے کہ چھ ماہ بعد وفات پائی اور بعض کہتے ہیں کہ آپ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تک زندہ رہیں اسے مسلم نے ابوطاہر اور حرمہ سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے عن ابن وہب عن یونس عن زہری روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام ایمن حبشیہ تھیں اور پھر اس حدیث کو بیان کیا ہے اور محمد بن سعد بحوالہ واقدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام ایمنؓ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں وفات پائی واقدی بیان کرتا ہے کہ یحییٰ بن سعید بن دینار نے بنی سعد بن بکر کے ایک شیخ کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ام ایمنؓ کو اپنی ماں کہا کرتے تھے اور جب حضرت ام ایمنؓ کی طرف دیکھتے تو فرماتے۔ یہ میرے اہل بیت کی چیدہ شخصیت ہے۔ اور ابوبکر بن خثیمہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن ابی شیخ نے مجھے بتایا کہ حضرت نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ام ایمنؓ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ اور واقدی اپنے مدنی اصحاب سے بیان کرتا

ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام ایمنؓ نے حضرت نبی کریم ﷺ کو پانی پیتے دیکھا تو کہا مجھے بھی پانی پلائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا تو یہ بات رسول اللہ ﷺ سے کہتی ہے؟ حضرت ام ایمنؓ نے جواب دیا میں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ”آپ نے سچ کہا ہے“ اور پانی لا کر آپ کو پلایا اور مفضل بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ وہب بن جریر نے ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے عثمان بن قاسم سے سنا کہ جب حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی تو الروحاء سے پہلے المنصرف میں انہیں شام ہوگئی اور وہ روزہ دار تھیں پس انہیں شدید پیاس لگی تو آسمان سے ایک ڈول سفید رے کے ساتھ ان پر اترا جس میں پانی تھا، حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں نے پانی پیا تو اس کے بعد مجھے پیاس نے کبھی تکلیف نہیں دی اور مجھے روزے کے ساتھ دوپہر میں پیاس سے پالا پڑا مگر مجھے پیاس نہیں لگی۔

حافظ ابو یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن ابوبکر المقدسی نے ہم سے بیان کیا کہ مسلم بن قتیبہ نے عن حسین بن حرب عن یعلیٰ بن عطاء عن ولید بن عبد الرحمن عن ام ایمن ہم سے بیان کیا، آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک ٹھیکرے میں پیشاب کیا کرتے تھے اور جب صبح ہوتی تو فرماتے۔ اے ام ایمن! ٹھیکرے میں جو کچھ ہے اسے گرا دو پس ایک شب میں اٹھی اور میں پیاسی تھی تو جو کچھ اس میں تھا میں پی گئی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ام ایمن ٹھیکرے میں جو کچھ ہے اسے گرا دو میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں اٹھی تو مجھے پیاس لگ رہی تھی میں نے اس میں جو کچھ تھا پی لیا ہے آپ نے فرمایا: آج کے بعد تمہارے پیٹ میں کبھی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ابن اثیر ”الغابہ“ میں بیان کرتے ہیں کہ حجاج بن محمد نے عن ابن جریج عن حکیمہ بنت امیمہ عن امہا امیمہ بنت رقیہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ پیشاب کرتے تھے اور اسے چار پائی کے نیچے رکھتے تھے برکت نام ایک عورت نے آ کر اس پیالے کو پی لیا، آپ نے اسے تلاش کیا تو نہ پایا، آپ کو بتایا گیا برکت نے اسے پی لیا ہے آپ نے فرمایا: تو آگ کی شدید تپش سے ایک روکاوٹ کے ذریعے بیچ گئی ہے۔ حافظ ابوالحسن بن اثیر بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس عورت نے حضور ﷺ کا پیشاب پیا تھا وہ برکت حیشہ تھی جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حبشہ سے آئی تھی اور انہوں نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ واللہ اعلم

میں کہتا ہوں کہ بریرہ آل ابی احمد بن جحش کی لونڈی تھی انہوں نے اس کے ساتھ مکاتبت کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ کو ان سے خرید کر آزاد کر دیا اور بریرہ کی ولاء آپ کے لیے ثابت ہوگئی جیسا کہ اس کے متعلق صحیحین میں حدیث بیان ہوئی ہے اور ابن عساکر نے اس کا ذکر نہیں کیا۔

چوتھی لونڈی حضرت خضرہ تھیں جن کا ذکر ابن مندہ نے کیا ہے معاویہ نے ہشام سے عن سفیان عن جعفر بن محمد عن امیہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک خادمہ تھی جسے خضرہ کہتے تھے اور محمد بن سعد واقدی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ کے غلام فائد نے عبد اللہ بن علی بن رافع سے ان کی وادی سلمہ کے حوالے سے ہم بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں خضرہ رضوی اور میمونہ بنت سعد رسول اللہ ﷺ کی خادماں تھیں اور ان سب کو رسول اللہ ﷺ نے آزاد کر دیا تھا۔

پانچویں لونڈی حضرت خلیصہ تھیں جو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کی لونڈی تھیں ابن اثیر ”الغابہ“ میں بیان کرتے ہیں کہ

ان کی حدیث علیہ بنت الکمیت نے اپنی دادی سے بحوالہ خلیصہ روایت کی ہے جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی تھیں اور وہ حدیث اس واقعہ کے بارے میں ہے جو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کا حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا تھا اور ان دونوں نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مذاق کیا تھا کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے اور وہ باورچی خانے میں چھپ گئیں اور یہ دونوں ہنسنے لگیں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ”تم دونوں کس حال میں ہو؟“ تو دونوں نے آپ کو حضرت سودہ رضی اللہ عنہا والی بات بتادی حضور ﷺ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ ﷺ کیا دجال کا خروج ہو چکا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں“ وہ نکلا ہی چاہتا ہے پس وہ باہر نکلیں اور اپنے آپ سے کڑی کے انڈے جھاڑنے لگیں اور ابن اثیر نے حضرت خلیصہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی لونڈی بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ خلیصہ کا ذکر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے میں بیان ہو چکا ہے اور آپ نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور اس کے معاوضے میں حضور ﷺ نے کھجور کے تین سو پودے لگائے تھے میں نے ان کا ذکر الگ کیا ہے۔

چھٹی لونڈی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا تھیں جو حضور ﷺ کی خادمہ تھیں جیسا کہ ابن اثیر نے بیان کیا ہے اور ان کی حدیث کو حافظ ابو نعیم نے حفص بن سعید قرشی کے طریق سے ان کی ماں سے ان کی ماں خولہ کے حوالے سے روایت کیا ہے اور انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ ایک پلے کے باعث جو حضور ﷺ کی چار پائی کے نیچے مر گیا تھا اور آپ کو اس کے متعلق علم نہیں ہوا تھا وحی میں تاخیر ہو گئی اور جب آپ نے اسے نکال باہر کیا تو دیکھی آئی اور یہ آیت نازل ہوئی (والضحیٰ واللیل اذا سجی) یہ حدیث غریب ہے اور اس آیت کے نزول کا سبب اور ہے جو مشہور ہے۔ واللہ اعلم

ساتویں لونڈی حضرت رزینہ تھیں ابن عساکر بیان کرتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ آپ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کی لونڈی تھیں اور حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔

میں کہتا ہوں ان کی بیٹی امۃ اللہ کے حالات قبل ازیں بیان ہو چکے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کو ان کی والدہ رزینہ مہر میں دی تھی اس لحاظ سے اس کا اصل حضور ﷺ کے ساتھ ہوگا اور حافظ ابو یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید انجشی نے ہم سے بیان کیا کہ علیہ بنت الکمیت نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے اپنی ماں امینہ سے سنا وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی لونڈی امۃ اللہ بنت رزینہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو قریظہ اور نضیر کی جنگ کے روز جب اللہ نے آپ کو ان پر فتح دی قیدی بنایا پس آپ اسے قیدی بنا کر لائے تو جب اس نے عورتوں کو دیکھا تو کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اس کا بازو آپ کے ہاتھ میں تھا آپ نے اسے آزاد کر دیا پھر اسے پیغام نکاح دیا اور اس سے نکاح کیا اور رزینہ کو اسے مہر میں دیا اس سیاق میں ایسے ہی بیان ہوا ہے اور یہ ابن ابی عاصم کی پہلی روایت سے زیادہ بہتر ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو نضیر کی غنائم سے انتخاب کیا تھا اور انہیں آزاد کر کے ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا تھا۔ اور اس روایت میں جو قریظہ اور نضیر کی جنگ کے روز کے الفاظ بیان ہوئے ہیں یہ دیوانگی ہے بلاشبہ یہ دو الگ الگ دن ہیں جن کے درمیان دو سال کا

فرق ہے۔ واللہ اعلم

اور حافظ ابو بکر عیسیٰ الدلال میں بیان کرتے ہیں کہ ابن عبدان نے ہمیں بتایا کہ احمد بن عبید الصغار نے ہمیں خبر دی کہ علی بن حسن السکری نے ہم سے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عمر القواریری نے ہم سے بیان کیا کہ علیہ بنت الکتبت العتیک نے اپنی ماں ایند کے حوالے سے ہم سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی لونڈی امۃ اللہ بنت رزینہ سے کہا اے امۃ اللہ کیا تو نے اپنی ماں کو بیان کرتے سنا ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو عاشورہ کے روزے کا ذکر کرتے سنا ہے اس نے جواب دیا ہاں آپ اس روزہ کی عظمت بیان کرتے تھے اور اپنے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شیر خوار بچوں کو بلا کر ان کے مونہوں میں تھوکتے تھے اور ان کی ماؤں سے فرماتے تھے۔ انہیں رات تک دودھ نہ پلانا۔ صبح میں اس کا شاہد موجود ہے۔

آٹھویں لونڈی حضرت رضویٰ تھیں، ابن اثیر بیان کرتے ہیں کہ سعید بن بشیر سے قنادہ سے بحوالہ حضرت رضویٰ بنت کعب بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے حائضہ کے خضاب لگانے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں اسے ابو موسیٰ المدائنی نے روایت کیا ہے۔

نویں لونڈی حضرت ریحانہ بنت یعون القرظیہ تھیں، بعض کہتے ہیں انضر یہ تھیں، ان کا ذکر آپ کی ازواج میں بیان ہو چکا ہے۔

دسویں لونڈی حضرت سانیہ تھیں، یہ رسول اللہ ﷺ کی لونڈی تھیں، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے لفظ ۱ کے بارے میں حدیث روایت کی ہے۔ اور حضرت سانیہ سے طارق بن عبدالمعین نے روایت کی ہے اور ان کی حدیث کو ابو موسیٰ المدائنی نے روایت کیا ہے۔ ابن اثیر نے ”الغابہ“ میں اسی طرح بیان کیا ہے۔

دسویں لونڈی حضرت سدلیہ انصاریہ تھیں، بعض کا قول ہے کہ یہ حضرت حفصہ بنت حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی لونڈی تھیں، انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے جب بھی شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملامتہ کے بل گرا ہے۔ ابن اثیر بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن فضل بن الموفق نے اسے اپنے باپ عن اسرائیل، عن الاوزاعی عن سالم عن سدلیہ روایت کیا ہے۔ اور اسحاق بن یسار نے اسے فضل سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ عن سدلیہ عن حفصہ عن النبی ﷺ، اور اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور ابو نعیم اور ابن مندہ نے اسے روایت کیا ہے۔

گیارہویں لونڈی حضرت سلامہ تھیں، جو رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دائیہ تھیں، آپ نے رسول اللہ ﷺ سے حمل، طلاق، رضاع اور شب بیداری کی حدیث روایت کی ہے جس میں اسناد و متن کے لحاظ سے غرابت اور نکارت پائی جاتی ہے۔ ابو نعیم اور ابن مندہ نے اسے ہشام بن عمار بن نصیر خطیب دمشق کی حدیث سے اس کے باپ عمرو بن سعید خولانی سے بحوالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے، ابن اثیر نے بھی حضرت سلامہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے۔

۱ لفظ: اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر گری پڑی ہو اور اس کا مالک معلوم نہ ہو۔ مترجم

بارہویں لوٹدی حضرت سلمیٰ تھیں، جو رافع کی ماں اور ابو رافع کی بیوی تھیں بیسیا کہ واقعتی نے ان سے روایت کی ہے وہ بیان کرتی ہیں میں 'خضرہ رضویٰ اور مینونہ بنت سعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت کرتی تھیں آپ نے ہم سب کو آزاد کر دیا امام احمد بیان کرتے ہیں کہ بنی ہاشم کے غلام ابو عامر اور ابو اسید نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن ابی الموالی نے ابن ابی رافع کے غلام فائد سے اس کی دادی 'حضرت سلمیٰ سے جو رسول اللہ ﷺ کی خادمہ تھیں، ہم سے بیان کیا کہ جب کبھی بھی میں نے کسی آدمی کو رسول اللہ ﷺ کے پاس درود سر کی شکایت کرتے سنا آپ نے فرمایا: "ان کو مہندی لگاؤ" ابوداؤد نے اسے اسی طرح ابن ابی الموالی کی حدیث سے اور ترمذی اور ابن ماجہ نے زید بن النجباب کی حدیث سے روایت کیا ہے اور دونوں نے فائد سے اس کے آقا عبید اللہ بن علی بن ابی رافع سے اس کی دادی سلمیٰ کے حوالے سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے غریب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسے صرف فائد کی حدیث سے جانتے ہیں، حضرت سلمیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے متعدد احادیث روایت کی ہیں جن کا ذکر و استقصاء طویل ہے۔ مصعب زبیری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا معرکہ حنین میں شامل ہوئی تھیں۔

میں کہتا ہوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حضرت نبی کریم ﷺ کے لیے حریرہ^۱ پکایا کرتیں اور آپ کو تعجب میں ڈال دیتی تھیں، آپ حضور ﷺ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے موقع پر بھی موجود تھیں اور سب سے پہلے آپ حضور ﷺ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا کی لوٹدی تھیں، پھر رسول اللہ ﷺ کی لوٹدی بن گئیں اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لڑکوں کی بھی دایہ تھیں، اور آپ ہی نے رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دایہ گری کی تھی، اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے غسل میں شامل تھیں، اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے ساتھ غسل دیا۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو النضر نے ہم سے بیان کیا کہ ابراہیم بن سعد نے، عن محمد بن اسحاق، عن عبید اللہ بن علی عن ابی رافع عن ابیہ عن سلمیٰ ہم سے بیان کیا آپ بیان کرتی ہیں کہ جس بیماری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اس میں میں آپ کی تیمارداری کرتی تھی، تو ایک دن میں بھی ان کی طرح بیمار ہو گئی، آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کسی کام کے لیے باہر نکلے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے میری ماں میرے لیے غسل کا پانی ڈالو میں نے ان کے لیے پانی ڈالا، تو آپ نے بہت اچھی طرح غسل کیا، جیسے کہ میں آپ کو غسل کرتے دیکھا کرتی تھیں، پھر فرمانے لگیں اے میری ماں مجھے میرے نئے کپڑے دیجیے اور آپ نے انہیں زیب تن کر لیا، پھر فرمانے لگیں اے میری ماں، گھر کے وسط میں میرے بستر کو لگا کر میرے آگے کیچھے میں نے ایسے ہی کیا تو آپ پہلو کے بل لیٹ گئیں اور رو بہ قبلہ ہو گئیں اور اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیا، پھر فرمانے لگیں اے میری ماں! میں اب مر رہی ہوں اور میں پاک ہو چکی ہوں، پس کوئی میرا لباس نہ اتارے اور اسی جگہ فوت ہو گئیں، حضرت سلمیٰ بیان کرتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے انہیں اطلاع دی، یہ حدیث بہت غریب ہے۔

۱ حریرہ دودھ گھی اور آٹے کو ملا کر پکایا جاتا ہے۔

تیرھویں لونڈی حضرت شیریں تھیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں، قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حاکم اسکندریہ مقوقس نے جس کا نام جرج بن مینا تھا ان دونوں کو ایک غلام نے ساتھ جس کا نام مایور تھا اور ایک خچر جسے دلدل کہا جاتا تھا آپ کی خدمت میں بدیہ پیش کیا تھا رسول اللہ ﷺ نے شیریں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بخش دی جس سے ان کا بیٹا عبدالرحمن بن حسان رضی اللہ عنہ پیدا ہوا۔

چودھویں لونڈی حضرت عنقودہ ام بلح حبشیہ تھیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی تھیں، جن کا نام عنبہ تھا رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام عنقودہ رکھا، اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ ان کا نام غیرہ تھا۔

پندرھویں لونڈی حضرت فروہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو رسول اللہ ﷺ کی دایہ تھیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

مجھے فرمایا: جب تو اپنے بستر پر جائے تو قل یا ایہا الکفرون پڑھا کر بلاشبہ یہ شرک سے نجات دلانے والی ہے۔ اور ابن اثیر نے

”الغابہ“ میں بیان کیا ہے کہ ابو احمد العسکری نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فضہ نوبیہ کے متعلق ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ یہ حضرت

فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کی لونڈی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قول ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

کے بارے میں ایک تاریک اسناد محبوب عن حمید البصری عن القاسم بن بہرام عن لیث عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے جس کا

مضمون یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی عیادت کی اور عام عربوں نے بھی ان

کی عیادت کی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کاش آپ نذر مانتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ اپنی تکلیف سے صحت

مند ہو گئے تو میں اللہ کے لیے تین دن کے روزے رکھوں گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی نذر مانی اور حضرت فضہ نے بھی یہی

نذر مانی، پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحت دی تو ان سب نے روزے رکھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر شمعون خیبری سے جو

کے تین صاع قرض لیے اور ان میں سے ایک صاع اس شب کو تیار کیا اور جب انہوں نے رات کے کھانے کے لیے اسے رکھا تو

دروازے پر ایک سائل نے کھڑے ہو کر کہا، مسکین کو کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے دسترخوان پر کھلائے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ

نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے یہ کھانا اسے دے دیا اور خود بھوکے رہے اور جب دوسری شب آئی تو انہوں نے اپنے لیے دوسرے

صاع کو تیار کیا اور جب انہوں نے اسے اپنے آگے رکھا تو ایک سائل نے کھڑے ہو کر کہا، یتیم کو کھانا کھلاؤ تو انہوں نے وہ کھانا

اسے دے دیا اور خود بھوکے رہے اور جب تیسری شب آئی تو آپ نے فرمایا اسیر کو کھانا کھلاؤ تو انہوں نے اسے کھانا دے دیا اور

تین دن اور تین راتیں بھوکے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ...﴾

لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿یہ حدیث منکر ہے اور بعض ائمہ اسے موضوع قرار دیتے ہیں۔ اور اس کی تائید اس کی

رکاکت الفاظ کرتی ہے۔ نیز یہ صورت سچی ہے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما مدینہ میں پیدا ہوئے۔ واللہ اعلم

سولہویں لونڈی حضرت لیلیٰ تھیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی تھیں، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ﷺ آپ بیت الخلا سے

نکلنے میں تو میں آپ کے بعد داخل ہوتی ہوں اور میں کستوری کی خوشبو کے سوا کوئی چیز نہیں پاتی، آپ نے فرمایا: ہم جو انبیاء کا گروہ

ہیں، ہمارے جسم اہل جنت کی ارواح پر پیدا ہوتے ہیں، اور ہم سے جو بد بو نکلتی ہے اسے زمین نگل لیتی ہے۔ اور ابو نعیم نے اسے

ابو عبد اللہ مدنی جو ایک مجہول آدمی ہے۔ کی حدیث سے بحوالہ حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے۔

سترہویں لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ ام ابراہیم رضی اللہ عنہا تھیں، قبل ازیں جن کا ذکر امبات المؤمنین میں ہو چکا ہے، اور ابن اثیر نے ان کے اور ماریہ ام الرباب کے درمیان فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح حضرت نبی کریم ﷺ کی لونڈی تھیں، ان کی حدیث اہل بصرہ کے پاس ہے جسے عبد اللہ بن حبیب نے ام سلمہ سے ان کی ماں کے واسطے سے ان کی دادی ماریہ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں، جس شب رسول اللہ ﷺ نے مشرکین سے فرار اختیار کیا، میں آپ کے لیے جھکی تو آپ دیوار پر چڑھ گئے، پھر ابن اثیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا حضرت نبی کریم ﷺ کی خادمہ تھیں، ابو بکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثنی بن صالح کے واسطے سے ان کی دادی ماریہ سے۔ جو حضرت نبی کریم ﷺ کی خادمہ تھیں۔ روایت کیا ہے وہ بیان کرتی ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ ﷺ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم چیز کو کبھی نہیں چھوا۔ ابو عمر عبدالبر الاستیعیاب میں بیان کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ یہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے پہلے تھیں یا نہیں۔

اٹھارہویں لونڈی حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا تھیں، امام احمد بیان کرتے ہیں کہ علی بن محمد بن محرز نے ہم سے بیان کیا کہ عیسیٰ بن یونس نے ہم سے بیان کیا کہ نویر بن یزید نے زیاد بن سوہ سے ان کے بھائی کے حوالے سے ہم سے بیان کیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی لونڈی حضرت میمونہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہمیں بیت المقدس کے متعلق بتائیے؟ آپ نے فرمایا وہ سرزمین حشر و نشر ہے، بیت المقدس جا کر اس میں نماز پڑھو، بلاشبہ اس میں ایک نماز پڑھنا ایک ہزار نماز پڑھنے کے مانند ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جو شخص وہاں جانے کی سکت نہ پائے، فرمایا وہ وہاں تیل بھیج دے تاکہ اس میں چراغ جلایا جائے بلاشبہ جو اس کی تعظیم کے لیے تحفہ بھیجتا ہے وہ اس میں نماز پڑھنے والے کی مانند ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ نے اسے عن اسماعیل بن عبد اللہ الرقی عن عیسیٰ بن یونس عن ثور عن زیاد عن اذیہ عثمان بن ابی سوہ عن میمونہ مولاۃ النبی ﷺ روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے اسے عن فضل بن مسکین بن بکیر عن سعید بن عبد العزیز عن ثور عن زیاد عن میمونہ روایت کیا ہے، اور انہوں نے ان کے بھائی کا ذکر نہیں کیا۔ واللہ اعلم اور احمد بیان کرتے ہیں کہ حسین اور ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ اسرائیل نے عن زید بن جبیر عن ابی یزید النضعی عن میمونہ بنت سعد مولاۃ النبی ﷺ ہم سے بیان کیا وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے ولد الزنا کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں کچھ بھلائی نہیں، وہ دو جوتے جن کے ساتھ میں راہ خدا میں جہاد کرتا ہوں، مجھے ولد الزنا کے آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح نسائی نے اسے عباس الدوری سے، اور ابن ماجہ نے ابو بکر بن ابی شیبہ کی حدیث سے روایت کیا ہے، اور ان دونوں نے ابو نعیم الفضل بن دکین سے اسے روایت کیا ہے، حافظ ابو یعلیٰ موصلی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ حمار بنی نے ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ بن عبیدہ نے ایوب بن خالد سے بحوالہ حضرت میمونہ، جو حضرت نبی کریم ﷺ کی خادمہ تھیں، بیان کیا وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے اہل کے سوا دوسروں میں زینت کے ساتھ ناز سے چلنے والی عورت قیامت کے دن کی ایسی تاریکی ہے جس کے لیے کوئی نور نہیں ترندی نے اسے موسیٰ بن عبیدہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور بیان کیا ہے، ہم اسے صرف اس کی حدیث سے جانتے ہیں اور وہ اسے حدیث میں ضعیف قرار دیتے ہیں اور بعض لوگوں نے

اسے اس سے روایت کیا ہے۔ مگر اس نے اسے مرفوع نہیں کیا۔

انیسویں لوٹدی حضرت میمونہ بنت ابی عسیب یا عسبہ تھیں، یہ قول ابو عمرو بن مندہ کا ہے اور ابو نعیم اسے تصحیف^۱ کہتے ہیں اور صحیح نام میمونہ بنت ابی عسیب ہے، ان کی حدیث کو شیخ بن مصعب، ابو عبد اللہ العبدی نے ربیعہ بنت یزید سے جو بنی قریظ میں اترتا کرتی تھیں، عن منبہ عن میمونہ بنت ابی عسیب روایت کیا ہے اور بعض کا قول ہے ابو عسبہ کی بیٹی، حضرت نبی کریم ﷺ کی لوٹدی تھی، حریف کی ایک عورت، حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور پکار کر کہنے لگی، اے عائشہ رضی اللہ عنہا! رسول اللہ ﷺ سے دعا کرو اور میری مدد کرنا جس سے مجھے سکون و اطمینان حاصل ہو اور حضور ﷺ نے اسے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ کر پھیر اور کہہ:

بسم الله اللهم داوني بدوائك و اشفني بشفائك و اغنني بفضلك عن سواك

ربیعہ بیان کرتی ہیں، میں نے یہ دعا کی تو میں نے اسے بہت اچھا پایا۔

بیسویں لوٹدی حضرت ام عیاش تھیں جنہیں رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس وقت بھیجا تھا جب آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا نکاح کیا تھا، ابو القاسم بغوی بیان کرتے ہیں کہ عکرمہ نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الواحد بن صفوان نے ہم سے بیان کیا کہ ابو صفوان نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنی دادی حضرت ام عیاش سے جو رسول اللہ ﷺ کی خادمہ تھیں اور آپ نے انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس بھیجا تھا، مجھ سے بیان کیا، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے صبح کو کھجوریں بھگویا کرتی تھی اور باپ بیٹا کرتے تھے اور شام کو میں آپ کے لیے نبیذ بناتی تو وہ اسے صبح کو پیتے، ایک دن آپ نے مجھ سے پوچھا، تو اس میں کچھ ملائی بھی ہے، میں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا دو بارہ ایسا نہ کرنا۔ یہ آپ کی لوٹدیاں تھیں۔ رضی اللہ عنہن

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ کعب نے ہم سے بیان کیا کہ قاسم بن فضل نے ہم سے بیان کیا، کہ ثمامہ بن حزن نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبیذ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ حبشی لوٹدی رسول اللہ ﷺ کی خادمہ ہے اس سے دریافت کرو، اس نے کہا میں عشا کے وقت رسول اللہ ﷺ کے لیے ایک مشکیزے میں نبیذ بناتی تھی اور اس کو بندھن سے باندھ دیتی تھی اور جب حضور ﷺ صبح کو اٹھتے تو اس سے پی لیتے، مسلم اور نسائی نے اسے قاسم بن فضل کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور اصحاب الاطراف نے بھی اسی طرح اسے مسند عائشہ رضی اللہ عنہا میں بیان کیا ہے اور مسند جاریہ حبشیہ میں اس کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے، جو حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتی تھیں، یا تو وہ ان میں سے ایک تھی، جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں یا ان سے زائد تھی۔ واللہ اعلم



① تصحیف: لفظ کے پڑھنے یا لکھنے میں غلطی کرنے کو کہتے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے آپ کے وہ خدام جو آپ کے غلام نہیں تھے

حضرت انس بن مالک بن الحضرم بن مضمہ بن زید بن حرام بن جندب بن عاصم بن غنم بن عدی ابن التجار الانصاری التجاری ابو حمزہ المدنی نزیل البعرہ انہوں نے مدینہ کے دس سالہ قیام میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی، آپ نے کبھی کسی بات کے بارے میں انہیں ملامت نہیں کی، اور نہ کسی کام کے کرنے پر فرمایا کہ تو نے کیوں نہیں کیا ہے، اور نہ کسی کام کے نہ کرنے پر فرمایا کہ تو نے کیوں نہیں کیا، آپ کی والدہ ام سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام ہیں، انہوں نے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کو دیا اور آپ نے انہیں قبول کیا اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ انس کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا۔ اے اللہ اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور اس کی عمر دراز کر اور اسے جنت میں داخل کر حضرت انس بیان کرتے ہیں، دو باتوں کو تو میں دیکھ چکا ہوں اور تیسری بات کا منتظر ہوں، خدا کی قسم میرے پاس بہت مال ہے، اور میرے بیٹے اور پوتے ایک سو سے بھی زیادہ ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے ان گور سال میں دو بار بار آ اور ہوتے ہیں اور میری صلیبی اولاد ایک سو چھ لڑکے ہیں، آپ کے بدر میں شامل ہونے کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے اور انصاری نے اپنے باپ سے بحوالہ ثمامہ روایت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بدر میں شامل تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری ماں نہ رہے میں بدر سے کہاں غائب ہو سکتا تھا، اور مشہور یہ ہے کہ آپ صغریٰ کی وجہ سے بدر واحد میں شامل نہیں ہوئے، اور حدیبیہ، خیبر، عمر القضا، فتح مکہ، ام سلیم یعنی انس بن مالک، کے سوا کسی شخص کو رسول اللہ ﷺ کی ماں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے سفر و حضر میں سب لوگوں سے بہتر نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ کی وفات بصرہ میں ہوئی۔ اور ابن المدائنی کے قول کے مطابق آپ بصرہ کے باقی ماندہ صحابہ میں سے آخری صحابی تھے۔

آپ کی وفات ۹۰ھ میں ہوئی، بعض کا قول ہے ۹۱ھ میں ہوئی، بعض کہتے ہیں ۹۲ھ میں ہوئی، اور بعض کا قول ہے کہ ۹۳ھ میں ہوئی اور یہی قول سب سے مشہور ہے، اور جس روز آپ کی وفات ہوئی، امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کی ہے کہ معتمر بن سلیمان نے بحوالہ حمید ہم سے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر ۹۹ سال تھی، اور کم از کم آپ کی عمر ۹۶ سال اور زیادہ سے زیادہ ۷۰ سال بیان کی گئی ہے، اور بعض ۱۰۶، اور بعض ۱۰۳ سال بیان کرتے ہیں۔

حضرت اسلم بن شریک بن عوف اعرجی، محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام میمون بن سبناذ تھا، ربیع بن بدر اعرجی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بحوالہ اسلم روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت گیا کرتا تھا اور آپ کے ساتھ سوار ہوتا تھا، ایک شب آپ نے فرمایا، اے اسلم اٹھ اور کجاوہ باندھ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں جنبی ہوں، راوی بیان کرتا ہے آپ کچھ دیر خاموش رہے تو حضرت جبریل آیۃ الصعید لے کر آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اے

آپ کے وہ صحابی خدام جو آپ کے غلام نہیں تھے ان کا بیان میں

اسلع اٹھ کر تیمم کرنا ہی بیان کرتا ہے میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھی اور جب میں پانی کے پاس پہنچا آپ نے فرمایا اے اسلع اٹھ کر غسل کرنا ہی بیان کرتا ہے آپ نے مجھے تیمم کر کے دکھایا رسول اللہ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں جھاڑا پھر انہیں اپنے منہ پر پھیرا پھر دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں جھاڑا اور انہیں اپنے بازوؤں پر پھیرا ادایاں ہاتھ بائیں پر اور بایاں ہاتھ دائیں پر اندر اور باہر اجمع کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے اس طرح کر کے دکھایا جیسے اس کے باپ نے اسے کر کے دکھایا تھا اور جیسے اسے اسلع نے دکھایا تھا اور جیسے اسے رسول اللہ ﷺ نے دکھایا تھا ربيع بیان کرتے ہیں میں نے یہ حدیث عوف بن ابی جمیلہ کو بتائی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہما کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابن مندہ اور بغوی نے اسے اپنی کتاب معجم الصحابہ میں ربيع بن بدر کی حدیث سے روایت کیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کسی اور نے بھی اسے روایت کیا ہوا ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو الہیثم بن رزینق ماکلی مدلجی نے اپنے باپ سے بحوالہ اسلع بن شریک روایت کیا ہے۔

حضرت اسماء بن حارثہ بن سعد بن عبد اللہ بن عباد بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبہ بن مالک بن اقصیٰ اسلمی محمد بن سعد کا قول ہے کہ یہ اصحاب الصفہ میں سے تھے اور یہ ہند بن حارثہ کے بھائی ہیں اور یہ دونوں حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت کرتے تھے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عفان نے ہم سے بیان کیا کہ وہیب نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن حرمہ نے بحوالہ یحییٰ بن ہند بن حارثہ ہم سے بیان کیا اور ہند اصحاب حدیبیہ میں سے تھے اور ان کے جس بھائی کو رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا وہ اپنی قوم کو یوم عاشوراء کے روزے کا حکم دیتا تھا اور اس کا نام اسماء بن حارثہ تھا یحییٰ بن ہند نے بحوالہ اسماء بن حارثہ مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے بھیجا اور فرمایا: اپنی قوم کو اس دن کے روزے کا حکم دو اس نے کہا اگر وہ کھاپی چکے ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بقیہ دن کے روزے کو پورا کریں۔ احمد بن خالد الوہبی نے اسے محمد بن اسحاق کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ عبد اللہ بن ابی بکر نے حبیب بن ہند اسماء اسلمی نے اپنے باپ ہند کے حوالے سے مجھے بتایا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اسلم کے کچھ لوگوں کے پاس بھیجا اور فرمایا: اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں اور جو شخص دن کے پہلے حصہ میں کھا پی چکا ہو وہ اس کے آخری حصے کا روزہ رکھے محمد بن سعد واقدی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ محمد بن نعیم بن عبد اللہ الجمر نے اپنے باپ کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو بیان کرتے سنا میں تو حارثہ کے دونوں بیٹوں ہند اور اسماء کو رسول اللہ ﷺ کے غلام سمجھتا تھا واقدی کا بیان ہے کہ وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت کرتے تھے۔ اور وہ دونوں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑتے تھے۔

محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ اسماء بن حارثہ نے اسی سال کی عمر میں ۶۶ھ میں بصرہ میں وفات پائی۔

حضرت بکیر بن الشداخ اللیشی ابن مندہ نے ابی بکر ہذلی کے طریق سے عبد الملک بن لیلیٰ اللیشی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ بکیر بن شداخ لیشی حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا پس وہ بالغ ہو گیا تو اس نے رسول اللہ ﷺ کو اس کے متعلق بتایا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اب بالغ ہو گیا ہوں اور میں آپ کے اہل کے پاس جاتا رہتا ہوں آپ نے فرمایا: اے اللہ اس کے قول کو سچا کر اور اسے کامیابی سے ہمکنار کر۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں ایک یہودی قتل ہو گیا تو حضرت

عمر بنی ہود تشریح کے ایسے کھڑے ہوئے۔ اور فرمایا میں اللہ کے نام پر اس شخص سے اپیل کرتا ہوں جسے اس کے بارے میں کچھ علم ہے تو حضرت بکیر بنی ہود نے کھڑے ہو کر کہا یا امیر المؤمنین میں نے اسے قتل کیا ہے حضرت عمر بنی ہود نے فرمایا آپ نے اس کے خون کا اقرار کیا ہے، پس مخلصی کی سبیل کہاں؟ حضرت بکیر نے کہا یا امیر المؤمنین ایک غازی نے مجھے اپنے اہل پر قائم مقام بنایا میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ یہودی اس کی بیوی کے پاس یہ اشعار پڑھ رہا ہے۔

”اس پر اگندہ موکو اسلام نے میرے بارے میں فریب دیا ہے اور میں نے پوری رات اس کی بیوی سے خلوت کی ہے اور میں نے اس کی چھاتیوں پر رات گزاری ہے اور وہ کم موگھوڑوں اور تنگ پر رات گزارتا ہے اور اس کی رانوں کے جوڑوں کے گوشت سے ایک جماعت اٹھ کر دوسری جماعت کی طرف جاتی ہے۔“

راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بنی ہود نے آپ کے قول کی تصدیق کی اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت بکیر بنی ہود کے لیے جو مقدمہ لڑ کر دعا کی تھی اس کی برکت سے یہودی کا خون رائیگاں گیا۔

حضرت بلال بن رباح حبشی بنی ہود آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر بنی ہود نے اسے بہت سامان دے کر آپ کو اس سے خرید لیا، کیونکہ امیہ آپ کو اسلام سے مرتد کرنے کے لیے شدید عذاب دیا کرتا تھا اور آپ صرف اسلام کو پسند کرتے تھے جب حضرت ابو بکر بنی ہود نے آپ کو خرید تو رضائے الہی کی خاطر آپ کو آزاد کر دیا۔ اور جب لوگوں نے ہجرت کی تو آپ نے بھی ہجرت کی اور آپ بدر واحد اور بعد کے معرکوں میں بھی شامل ہوئے اور آپ بلال بن حمامہ کے نام سے مشہور تھے، حمامہ آپ کی والدہ تھیں اور آپ سب لوگوں سے بڑھ کر فصیح البیان تھے، نہ کہ جس طرح بعض لوگ آپ کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ آپ سین کے حرف کو ادا نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس بارے میں ایک حدیث بھی روایت کی ہے، جس کا رسول اللہ ﷺ سے مروی ہونے کا کوئی اصل موجود نہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت بلال بنی ہود کے سین میں کچھ گڑ بڑ ہے اور آپ چار مؤذنین میں سے ایک تھے جیسا کہ ابھی بیان ہوگا، اور آپ پہلے مؤذن تھے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور جب رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے تو آپ جنگ کے لیے شام چلے گئے، کہتے ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر بنی ہود کے ایام خلافت میں ان کے لیے اذان دیتے تھے، مگر پہلی بات زیادہ صحیح اور مشہور ہے۔

واقندی کا بیان ہے کہ آپ نے ۲۰ھ میں دمشق میں وفات پائی اور آپ کی عمر ساٹھ سال سے کچھ زیادہ تھی، اور الفلاس کا بیان ہے کہ آپ کی قبر دمشق میں ہے، بعض کا قول ہے کہ دار یا میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کی وفات حلب میں ہوئی، اور صحیح بات یہ ہے کہ حلب میں آپ کا بھائی خالد فوت ہوا تھا۔ مکحول کا بیان ہے کہ مجھے حضرت بلال بنی ہود کے ایک دیکھنے والے نے بتایا کہ آپ بہت سیاہ فام، نحیف اور جھکے ہوئے تھے آپ کے بال بہت تھے اور آپ اپنے بالوں کی سفیدی کو تبدیل نہیں کرتے تھے۔

حضرت حبہ اور سواہ یہ حضرت خالد بنی ہود کے بیٹے تھے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ابو معاویہ نے ہم سے بیان کیا اور کعب نے ہم سے بیان کیا کہ اعمش نے سلام بن شریحیل سے حضرت خالد بنی ہود کے صاحبزادوں حبہ اور سواہ کے حوالے سے ہم سے بیان کیا، وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے تو آپ کسی چیز کو درست کر رہے تھے جس نے آپ کو تکلیف

کی خدمت کیا کرتا تھا یہاں تک کہ آپ عشا کی نماز پڑھ لیتے اور میں آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو میں کہتا: شاید رسول اللہ ﷺ کو کوئی ضرورت پڑ جائے اور میں ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کو 'سبحان اللہ و بحمہ' پڑھتے سنتا، یہاں تک کہ میں اکتا کروا لیں آجاتا یا مجھے نیند آ جاتی اور میں سو جاتا، ایک روز آپ نے میری خدمت گزار کو دیکھ کر مجھ سے فرمایا اے ربیعہ بن کعب! مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا، میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا، راوی بیان کرتا ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ دنیا ختم اور زائل ہونے والی ہے اور اس میں میرا رزق مجھے کفایت کرے گا اور مجھے ملتا رہے گا، میں نے اپنے دل میں کہا، میں رسول اللہ ﷺ سے اپنی آخرت کے متعلق سوال کروں گا، بلاشبہ اللہ کے ہاں آپ کو جو مقام حاصل ہے وہ حاصل ہی ہے، راوی بیان کرتا ہے میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، اے ربیعہ تو نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے رب کے پاس میرے لیے سفارش کریں اور وہ مجھے آگ سے آزادی بخش دے، آپ نے فرمایا اے ربیعہ یہ مشورہ تجھے کس نے دیا میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے مجھے کسی نے اس کے متعلق مشورہ نہیں دیا، مگر جب آپ نے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا، اور آپ کو اللہ کے ہاں جو مقام حاصل ہے وہ حاصل ہی ہے، تو میں نے اپنے بارے میں غور و فکر کیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ دنیا ختم اور زائل ہونے والی ہے اور اس میں میرا رزق مجھے ملتا رہے گا، تو میں نے کہا، میں رسول اللہ ﷺ سے اپنی آخرت کے بارے میں سوال کروں گا، راوی بیان کرتا کہ رسول اللہ ﷺ نے دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی پھر مجھے فرمایا، میں یہ کام کروں گا، تم کثرت سجد سے اپنے نفس کی مدد کرو۔

حافظ ابو یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابو یثمہ نے ہم سے بیان کیا کہ زید بن ہارون نے ہمیں بتایا کہ مبارک بن فضالہ نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عمران الجونی نے بحوالہ ربیعہ اسلمی۔ جو رسول اللہ ﷺ کا خادم تھا۔ ہم سے بیان کیا کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا، اے ربیعہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز مجھے آپ کی خدمت سے غافل کر دے اور میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں جو میں عورت کو دوں، راوی بیان کرتا ہے اس کے بعد میں نے کہا جو کچھ میرے پاس ہے اسے رسول اللہ ﷺ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو مجھے شادی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر اس دفعہ آپ نے مجھے دعوت دی تو میں آپ کو ضرور جواب دوں گا، راوی بیان کرتا ہے آپ نے مجھے فرمایا، اے ربیعہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کون میری شادی کروائے گا، میرے پاس عورت کو دینے کے لیے کچھ نہیں، آپ نے مجھے فرمایا فلاں لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کہ تم اپنی فلاں لڑکی سے میرا نکاح کر دو، راوی بیان کرتا ہے میں نے ان کے پاس آ کر کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم اپنی فلاں لڑکی سے میرا نکاح کر دو، انہوں نے کہا فلاں لڑکی سے اس نے کہا ہاں! وہ کہنے لگے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ایلچی کو خوش آمدید پس انہوں نے میرا نکاح کر دیا، اور میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ ﷺ میں اچھے گھرانے والوں سے آپ کے پاس آیا ہوں انہوں نے میری تصدیق کی اور میرا نکاح کر دیا، میں اپنا مہر کہاں سے ادا کروں گا، رسول اللہ ﷺ نے بریدہ اسلمی سے فرمایا ربیعہ کے مہر کے لیے

کھٹلی کے وزن کے برابر سونا جمع کرو پس انھوں نے اسے جمع کر کے مجھے دیا اور میں نے انھیں دے دیا جسے انھوں نے قبول کر لیا میں نے رسول اللہ کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ ﷺ انہوں نے قبول کر لیا ہے میں ولید کہاں سے کروں گا؟ رسول اللہ ﷺ نے بریدہ اسلمی سے فرمایا: ربیعہ کے لیے ایک مینڈھے کی قیمت جمع کر، انہوں نے رقم جمع کی تو آپ نے مجھے فرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر انہیں کہو کہ ان کے پاس جتنے جو ہیں وہ تجھے دے دیں راوی بیان کرتا ہے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا تو آپ نے مجھے جو دے دیئے۔ تو میں مینڈھا اور جو لے کر چل پڑا تو وہ کہنے لگے جو کے متعلق تو ہم تجھے کفایت کریں گے اور مینڈھے کے بارے میں اپنے اصحاب کو حکم دو کہ وہ لے سے ذبح کریں اور انہوں نے جو تیار کیے تو خدا کی قسم ہمارے پاس روٹی اور گوشت ہو گئے پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی زمین جاگیر میں دی تو ہم نے کھجور کے ایک درخت کے متعلق اختلاف کیا میں نے کہا وہ میری زمین میں ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ میری زمین میں ہے پس ہم نے آپس میں تنازعہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک بات کہی جسے میں نے ناپسند کیا پس آپ شرمندہ ہوئے اور مجھے بلا کر کہا جو بات میں نے کہی ہے وہی بات مجھے کہہ لو راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا خدا کی قسم میں وہ بات آپ سے نہیں کہوں گا جو آپ نے مجھے کہی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤں گا راوی بیان کرتا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا اور میری قوم کے لوگ میرے پیچھے پیچھے تھے وہ کہنے لگے جس شخص نے آپ سے بات کہی ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس شکایت کرنے جا رہا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ صدیق ہیں اور مسلمانوں کے سفید موزرگ ہیں، واپس چلے جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ لیں اور خیال کریں کہ تم ان کے خلاف میری مدد کرنے آئے ہو اور آپ غصے ہو جائیں اور رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر انہیں اطلاع دیں اور ربیعہ ہلاک ہو جائے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر کہا کہ میں نے ربیعہ سے ایک بات کہی ہے جسے ربیعہ نے ناپسند کیا ہے تو میں نے اسے کہا ہے کہ جو بات میں نے اسے کہی ہے وہ بھی مجھے کہہ لے تو اس نے انکار کر دیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ربیعہ تجھے صدیق سے کیا نسبت ہے؟ راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ خدا کی قسم میں وہ بات ان سے نہیں کہوں گا جو انہوں نے مجھے کہی ہے تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا ان سے وہ بات نہ کہو جو انہوں نے تجھے کہی ہے بلکہ کہو اے ابوبکر اللہ تجھے بخش دے۔

حضرت سعد جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے غلام تھے اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ کے غلام تھے ابوداؤد طیالسی بیان کرتے ہیں کہ ابوعامر نے حسن سے بحوالہ سعد مولیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور حضرت سعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے غلام تھے اور رسول اللہ ﷺ ان کی خدمت کو پسند کرتے تھے۔ سعد کو آزاد کر دو تمہارے پاس آدمی آئیں گے تمہارے پاس آدمی آئیں گے۔ احمد نے اسے اسی طرح ابوداؤد طیالسی سے روایت کیا ہے اور ابوداؤد طیالسی بیان کرتے ہیں کہ ابوعامر نے حسن سے بحوالہ سعد ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے آگے کھجوریں پیش کیں تو لوگ دو دو کھجوریں ملانے لگے تو آپ نے انہیں دو دو کھجوریں ملانے سے منع فرمایا اور ابن ماجہ نے

است۔ ہمارے بحوالہ ابوداؤد روایت کیا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزگاہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کو آگے سے کھینچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے:

”اے کافر زادہ! آپ کا راستہ چھوڑ دو آج ہم اس کی تاویل پر تم سے شمشیر زنی کریں گے جیسا کہ ہم نے اس کی تنزیل

پر تم سے شمشیر زنی کی تھی جو چوٹی کو اس کی کھوپڑی سے الگ کر دیتی ہے اور دوست کو دوست سے غافل کر دیتی ہے۔“

ہم قبل ازیں اس بات کو مفصل بیان کر چکے ہیں، اس کے چند ماہ بعد حضرت عبد اللہ بن رواحہ معرکہ موتہ میں شہید ہو گئے۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شیح ابو عبد الرحمن البہذلی، آپ ائمہ صحابہؓ میں سے ایک تھے، آپ نے دو

ہجرتیں کیں اور بدر اور بعد کے معرکوں میں شامل ہوئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں اور پانی کے منتظم تھے اور جب آپ

سواری کے خواہاں ہوتے، تو آپ حضور کی سواری پر کجاوہ باندھتے، آپ کو کلام الہی کی تفسیر میں ید طولیٰ حاصل تھا، اور آپ بڑے

صاحب علم و حلم و فضل تھے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا جبکہ وہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی

پنڈلیوں کے پتلا ہونے پر تعجب کر رہے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میزان میں ان دونوں پنڈلیوں کا

وزن احد سے بھی زیادہ گراں ہوگا۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ وہ علم کا

ایک بھر پور باڑا ہیں، مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ آپ درجہ جسم اور اچھے اخلاق والے تھے، کہتے ہیں کہ جب آپ چلتے تو بیٹھنے کی

مانند معلوم ہوتے، نیز آپ اپنی حرکات و سکنات اور گفتگو میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے اور حتی المقدور عبادت

میں بھی آپ سے مشابہت اختیار کرتے تھے، آپ کی وفات عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ۶۳ سال کی عمر میں ۳۲ھ یا ۳۳ھ میں

مدینہ میں ہوئی، بعض کا قول ہے کہ آپ نے کوفہ میں وفات پائی، مگر پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر الجبلی، امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مسلم نے ہم سے بیان کیا کہ ابن جابر نے قاسم ابو عبد الرحمن

سے، بحوالہ عقبہ بن عامر ہم سے بیان کیا کہ میں ان پہاڑی راستوں میں سے ایک راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کی رسی پکڑ کر

آگے آگے چل رہا تھا کہ آپ نے مجھے فرمایا اے عقبہ آپ سوار نہیں ہوں گے؟ راوی بیان کرتا ہے میں ڈرا کہ ایسا کرنا معصیت ہو

گا، راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر پڑے اور میں تھوڑی دیر سوار ہوا پھر آپ سوار ہوئے اور فرمایا۔ اے عقبہ

کیا میں تم کو دو بہترین سورتوں کے متعلق نہ بتاؤں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بتائیے، تو

آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کیں، پھر نماز کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہو کر ان

دونوں سورتوں کو پڑھا، پھر میرے پاس سے گزرے اور فرمایا، جب کبھی تو سوئے اور جاگے ان دونوں کو پڑھا کر۔ نساء نے اسے

اسی طرح ولید بن مسلم اور عبد اللہ بن المبارک کی حدیث سے بحوالہ ابن جابر روایت کیا ہے، اور اسی طرح ابوداؤد اور نساء نے

اسے ابن وہب کی حدیث سے عن معاویہ بن صالح عن علاء بن الحارث عن القاسم ابی عبد الرحمن عن عقبہ روایت کیا ہے۔

حضرت قیس بن سعد بن عبادہ الانصاری النزر رجبی رضی اللہ عنہما امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کا حضرت نبی کریم ﷺ کے ہاں وہی مقام تھا جو گورنر کے ہاں ایس پی کا ہوتا ہے حضرت قیس بڑے دراز قد تھے اور آپ کی داڑھی کے بال صرف ٹھوڑی پر تھے رخساروں پر نہ تھے کہتے ہیں کہ طویل ترین آدمی آپ کی شلوار کو اپنی ناک پر رکھتا تو اس کے پاؤں زمین تک پہنچتے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی شلوار شاہ روم کی طرف یہ کہتے ہوئے بھیجی کہ کیا تمہارے پاس کوئی آدمی ہے جس کے طول کے برابر یہ شلوار ہو؟ تو شاہ روم اس سے بہت متعجب ہوا مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ آپ بڑے سخی قابل تعریف اور دانشمند آدمی تھے اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور مسعر، بحوالہ معبد بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہما ہمیشہ اپنی انگشت شہادت اٹھائے ہوئے دعا کرتے رہتے تھے۔ واقدی اور خلیفہ بن خیاط وغیرہما بیان کرتے ہیں کہ آپ کی وفات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر میں ہوئی اور حافظ ابو بکر البربار بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب بھستانی نے ہم سے بیان کیا کہ علی بن یزید حنفی نے ہم سے بیان کیا کہ سعید بن الصلت نے عن اعمش عن ابی سفیان عن انس ہم سے بیان کیا کہ انصار کے بیٹے نوجوان رسول اللہ ﷺ کی ضروریات کے لیے آپ کے ساتھ رہتے تھے اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے تو انہیں اس کام کے لیے بھیجتے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ عنہما آپ رسول اللہ ﷺ کے آگے ایک ہتھیار بند جوان کی حیثیت رکھتے تھے اور حدیبیہ کے روز خیمہ میں آپ رسول اللہ ﷺ کے سر پر تلوار بلند کیے ہوئے تھے اور جب کبھی آپ کا چچا عروہ بن مسعود جب وہ پیغام بری کے لیے آیا تھا عربوں کے دستور گفتگو کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی ریش مبارک کی طرف جھکتا تو آپ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ کو ٹھوکا دیتے اور فرماتے اپنے ہاتھ کو رسول اللہ ﷺ کی ریش مبارک سے پیچھے رکھو قبل اس کے کہ وہ تجھ تک نہ پہنچے اس حدیث کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور محمد بن سعد وغیرہ کا بیان ہے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تمام معرکوں میں شامل ہوئے اور حضور ﷺ نے ابوسفیان کے ساتھ ایک دفعہ ان کی ڈیوٹی لگائی اور ان دونوں نے جا کر اہل طائف کے معبود کو تباہ و برباد کر دیا۔ جسے رہہ کہا جاتا تھا اور وہی لات تھا اور آپ عرب کے دانشمندیوں میں سے ایک تھے شععی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے سنا کہ میں کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوا۔ اور شععی بیان کرتے ہیں کہ میں نے قبیصہ بن جابر کو بیان کرتے سنا کہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ہوں اگر شہر کے آٹھ دروازے ہوں اور ان میں سے کسی دروازے سے دھوکے کے بغیر نہ نکلا جاسکتا ہو تو یہ اس کے سب دروازوں سے نکل جائیں گے۔ شععی بیان کرتے ہیں کہ قاضی چارہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم اور دانشمند بھی چارہیں، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اور زیاد۔

زہری کا بیان ہے کہ دانشمند پانچ ہیں، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دو دانشمند حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما اور حضرت عبد اللہ بن بدیل بن ورقاء رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ، عورتوں سے بہت نکاح کرتے تھے اور وہ ایک بیوی والے سے کہا کرتے تھے کہ اگر وہ حائضہ

ہو جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ بیمار ہو جاتا ہے اور دو بیویوں والا دو بچتی آگوں کے درمیان ہوتا ہے راوی بیان کرتا ہے کہ آپ چار عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ اور سب کو طلاق دے دیتے تھے اور امام مالک کے سوا دوسروں کا بیان ہے کہ آپ نے اسی عورتوں سے نکاح کیا اور بعض کہتے ہیں کہ تین سوعورتوں سے اور بعض کا قول ہے کہ آپ نے ایک ہزار عورتوں سے شادی کی آپ کی وفات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور سب سے مشہور اور صحیح قول وہ ہے جس پر بغدادی نے اجماع بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات ۵۰ھ میں ہوئی۔

حضرت مقداد بن اسود ابو معبد الکندی حلیف بنی زہرہ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عفان نے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن سلمہ نے عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ عن المقداد بن الاسود ہم سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی مدینہ آئے اور ہم لوگوں سے ملے تو کسی نے ہماری مہمان نوازی نہ کی ہم نے حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر اس بات کا ذکر کیا تو آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ آپ کے پاس چار بکریاں تھیں آپ نے فرمایا اے مقداد ان کا دودھ دو ہو اور ان کے چار حصے کر دو اور ہر آدمی کو ایک حصہ دے دو۔ پس میں یہ کام کرتا تھا ایک شب میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے دیر کر دی ہے اور میں اپنے بستر پر لیٹ گیا تو میرے دل نے مجھے کہا حضرت نبی کریم ﷺ ایک انصاری گھرانے میں گئے ہیں تو اٹھ کر اس مشروب کو پی لے یہ خیال مجھے مسلسل آتا رہا۔ یہاں تک کہ میں نے اٹھ کر آپ کے حصے کا دودھ پی لیا اور جب وہ دودھ میرے پیٹ اور آنتوں میں گیا تو اس نے مجھے پہلے اور نئے کھانے سمیت گرفت میں لے لیا اور میں کہنے لگا اب حضرت نبی کریم ﷺ تشنہ و گرسنہ آئیں گے اور پیالے میں کوئی چیز نہیں پائیں گے پس میں نے اپنے چہرے پر کپڑا پیٹ لیا اور حضرت نبی کریم ﷺ نے آ کر ایسا سلام کہا جسے بیدار سن سکتا تھا اور وہ سوسے شخص کو بیدار نہ کرتا تھا آپ نے پیالے سے برتن ہٹا کر دیکھا تو کوئی چیز نہ پائی اور آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کر دعا فرمائی۔ اے اللہ! جس نے مجھے کھلایا پلایا ہے اسے کھلا پلا۔ پس میں نے آپ کی دعا کو غنیمت جانا اور کھڑے ہو کر چھری پکڑی اور بکریوں کی طرف بڑھا اور انہیں ٹٹولنے لگا کہ ان میں سے سب سے موٹی کو ذبح کروں تو ایک بکری کے تھنوں کو میرا ہاتھ جا لگا دیکھا ہوں کہ وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے میں نے دوسری بکری کی طرف دیکھا تو وہ بھی دودھ سے بھری ہوئی تھی میں نے دیکھا تو سب کی سب دودھ سے بھر پور تھیں میں نے ایک برتن میں دودھ دو با اور اسے حضور کے پاس لا کر عرض کیا نوش فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے مقداد کیا بات ہے میں نے عرض کیا نوش فرمائیے پھر بات بتاؤں گا آپ نے فرمایا اے مقداد تیری ایک بری خصلت ہے آپ نے دودھ پیا پھر فرمایا پیو میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! نوش فرمائیے آپ نے پیا یہاں تک کہ آپ سیر ہو گئے پھر میں نے آپ سے دودھ لے کر پی لیا پھر میں نے آپ کو بات بتائی تو حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے میں نے کہا اس طرح ہوا تھا تو حضور ﷺ نے فرمایا یہ آسمان سے نازل شدہ برکت ہے تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں تیرے دونوں ساتھیوں کو بھی پلا دیتا میں نے کہا جب میں اور آپ برکت کو پی لیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کسی سے چوک گیا ہوں امام احمد نے اسے اسی طرح عن ابی النضر عن سلیمان بن المغیرہ عن ثابت عن عبد الرحمن ابن ابی لیلیٰ عن المقداد روایت کیا ہے اور جو بات پہلے بیان ہو چکی ہے اس کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ ذکر بھی ہے کہ انہوں نے اس برتن میں

دودھ دو با جس میں وہ دوہنے کی سلت نہیں رکھتے تھے پس انہوں نے دودھ دو با یہاں تک کہ اس کے اوپر جھاگ آ گیا اور جب وہ اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے تو آپ نے انہیں فرمایا اے مقداد کیا تم نے اپنا رات کا دودھ نہیں پیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نوش فرمائیے پس آپ نے پیا پھر مجھے دے دیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نوش فرمائیے آپ نے پیا پھر مجھے دے دیا تو میں نے بقیہ دودھ لے کر پی لیا اور جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ سیر ہو گئے ہیں تو مجھے آپ کی دعا پہنچ گئی اور میں نس نس کر زمین پر لیٹ گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے مقداد! تیری ایک بری خصلت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرا معاملہ یوں ہے اور میں نے یوں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو صرف رحمت الہی ہے تو نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اپنے ان دو ساتھیوں کو جو گواہ بھی اس سے حصہ لیں۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے جب میں نے اور آپ نے اس رحمت کو پایا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگوں میں سے اسے کس نے پایا ہے، مسلم ترمذی اور نسائی نے اسے سلیمان بن مغیرہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

حضرت مہاجر مولیٰ ام سلمہ: طہرائی بیان کرتے ہیں کہ ابو الزنباہ روح بن الفزح نے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن عبد اللہ بن کبیر نے ہم سے بیان کیا کہ ابراہیم بن عبد اللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کبیر کو کہتے سنا کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے غلام مہاجر سے سنا اس نے بیان کیا کہ میں نے نبی جلال رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی اور آپ نے مجھے کسی کام کے کرنے پر نہیں کہا کہ تو نے کیوں کیا اور نہ کسی کام کے نہ کرنے پر کہا کہ تو نے اسے کیوں نہیں کیا اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے آپ کی دس سال یا پانچ سال خدمت کی۔

حضرت ابوالسح: ابوالعباس محمد بن اسحاق ثقفی بیان کرتے ہیں کہ مجاہد بن موسیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن مہدی نے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن الولید نے ہم سے بیان کیا کہ محل بن خلیفہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ابوالسح نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا اور آپ جب غسل کا ارادہ فرماتے تو فرماتے میری چھاگل مجھے دے دو میں چھاگل آپ کو دے دیتا اور خود آپ سے اوٹ میں ہو جاتا پس آپ حضرت حسن یا حضرت حسین کو لے کر آئے تو انہوں نے آپ کے سینے پر پیشاب کر دیا میں اسے دھونے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا لڑکی کے پیشاب کرنے سے کپڑے پر پانی چھڑکا جائے ابوداؤد نسائی اور ابن ماجہ نے اسے بحوالہ مجاہد بن موسیٰ روایت کیا ہے۔

اور ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے علی الاطلاق سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سفر ہجرت میں بہ نفس نفیس آپ کی خدمت کی، خصوصاً غار میں اور غار سے نکلنے کے بعد بھی، حتیٰ کہ حضور مدینہ پہنچ گئے جیسا کہ پہلے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔



آپ کے کاتبین وحی

ان میں خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک کے حالات ان کے دور خلافت میں عنقریب بیان ہوں گے۔ ان شاء اللہ

حضرت ابان بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی الاموی انہوں نے اپنے دونوں بھائیوں خالد اور عمرو کے بعد اسلام قبول کیا، آپ نے حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا، کیونکہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس وقت پناہ دی تھی جب حضور ﷺ نے حدیبیہ کے روز انہیں اہل مکہ کے پاس بھیجا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ خیبر کے روز آپ نے اسلام قبول کیا، کیونکہ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں خیبر کی غنائم کی تقسیم میں آپ کا ذکر آتا ہے۔ اور آپ کے قبول اسلام کا باعث یہ ہے کہ شام میں تجارت کے دوران آپ کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا تو راہب نے آپ سے کہا، ان کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا محمد ﷺ اس نے کہا میں آپ کے سامنے ان کی تعریف کرتا ہوں، اور اس نے آپ کی خوب تعریف کی اور کہا جب تو اپنے اہل کے پاس واپس جائے تو میرا انہیں سلام کہنا اور وہ آپ کی واپسی کے بعد مسلمان ہو گیا اور وہ عمرو بن سعید الاشدق کا وہ بھائی تھا جسے عبدالملک بن مروان نے قتل کر دیا تھا، ابوبکر بن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے سامنے وحی کو لکھا، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے اور جب وہ موجود نہ ہوتے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھتے اور حضرت عثمان اور حضرت خان بن سعید اور حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہم نے بھی مدینہ میں آپ کے لیے وحی کو لکھا۔ اور کئی سورتوں کے نزول کے وقت ابی بن کعب موجود نہ تھے ان سورتوں کو مکہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے لکھا، اور حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کی وفات کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، موسیٰ بن عقبہ، مصعب بن زبیر، زبیر بن بکار اور اکثر نساہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ جنگ اجنادین میں شہید ہوئے، یعنی جمادی الاولیٰ ۱۲ھ میں، اور دوسروں کا قول ہے کہ آپ مرج الصفر کی جنگ میں ۱۴ھ میں شہید ہوئے، اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں، کہ آپ اور آپ کا بھائی عمر و جنگ یرموک میں ۵/۵ھ کو شہید ہوئے اور بعض کہتے ہیں، کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ اور آپ امام علی کا مصحف، حضرت زید بن ثابت کو لکھواتے تھے، پھر ۲۹ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ واللہ اعلم

حضرت ابی بن کعب بن قیس بن عبید الخزرجی الانصاری، ابوالمندز، آپ کو ابوالطفیل بھی کہا جاتا ہے آپ سید القراء تھے، عقبہ ثانیہ بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شامل ہوئے، آپ میانہ قد، دبلے، اور سفید ریش اور سفید سر تھے، اور سفیدی کو تبدیل نہیں کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، انصار میں سے چار آدمیوں حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید

بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ابو یزید نے قرآن جمع کیا ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بنیہود سے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بنیہود نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔

علامہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ اقرأ علیک قرأۃ کا مفہوم ابلاغ و اسامع (پہنچانا اور سنانا) ہے نہ کہ قرأت سیکھنا اس مفہوم کو کسی اہل علم نے نہیں سمجھا اور ہم نے اس مفہوم سے اس لیے آگاہ کر دیا ہے تاکہ کوئی اس مفہوم کے خلاف اعتقاد نہ کرے اور ہم نے ایک اور جگہ پر انہیں سنانے کا سبب بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ آپ نے انہیں سورت ﴿لَمْ یَکُنِ الذِّیْنَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِیْنَ مُنْفَکِیْنَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ رَسُوْلٌ مِنَ اللّٰهِ یَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِیْهَا کُتِبَ قِیْمَةٌ لِّسَانًا وَّ اٰرَابًا﴾ بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی پر جس نے ابی بن کعب کے طریق کے خلاف سورت کو پڑھا اس پر عیب لگایا نیز ابی اس معاملہ کو رسول اللہ ﷺ تک لے گئے تو آپ نے فرمایا اے ابی پڑھیے آپ نے پڑھا تو آپ نے فرمایا یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے پھر اس آدمی سے فرمایا پڑھیے اس نے پڑھا تو آپ نے فرمایا یہ سورت اس طرح نازل ہوئی ہے۔ ابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے شک پیدا ہو گیا حالانکہ میں اس وقت جاہلیت میں نہ تھا راہ کی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا تو وہ پسینے سے شرابور ہو گئے، گویا میں ڈر کر اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے ان کی تثبیت و وضاحت کے لیے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی بلاشبہ یہ قرآن حق اور سچ ہے اور یہ بندوں پر لطف و رحمت کے لیے بہت سے حروف پر نازل ہوا ہے۔ اور ابن ابی خیمہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضرت نبی کریم ﷺ کے سامنے وحی کو لکھا اور آپ کی وفات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کا قول ہے کہ آپ نے ۱۹ھ میں وفات پائی اور بعض ۲۰ھ اور بعض ۲۳ھ بیان کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ایک جمعہ پہلے وفات پائی۔

حضرت ارقم بن ابی الارقم، آپ کا نام عبد مناف بن اسد بن جندب بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم المخزومی تھا آپ نے بہت پہلے اسلام قبول کیا آپ ہی کے گھر میں جو صفا کے پاس تھا رسول اللہ ﷺ روپوش ہوئے اور اس کے بعد یہ گھر خیزران کے نام سے مشہور ہوا اور آپ نے ہجرت کی اور بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شامل ہوئے اور رسول اللہ ﷺ نے آپ کے اور حضرت عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات کروائی اور آپ نے ہی رسول اللہ ﷺ کے حکم سے عظیم بن حارث محاربی کو فتح وغیرہ کی جاگیر لکھ دی۔ اسے حافظ ابن عساکر نے عتیق بن یعقوب زہری کے طریق سے روایت کیا ہے کہ عبد الملک بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے اپنے باپ اور دادا عمرو بن حزم کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا۔ اور آپ کی وفات ۵۳ھ اور بعض کے قول کے مطابق ۵۵ھ میں ۵۸ سال کی عمر میں ہوئی اور امام احمد نے آپ کی دو حدیثیں روایت کی ہیں اول احمد اور حسن بن عرفہ بیان کرتے ہیں۔ یہ الفاظ احمد کے ہیں۔ کہ عباد بن عباد مہلمی نے عن ہشام بن زیاد عن عمار بن سعد عن عثمان بن ارقم بن ابی الارقم عن ایہ۔ جو کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے تھے۔ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ جو شخص جمعہ

کے روز لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر آگے جاتا ہے اور امام کے خردوں کے بعد دو آدمیوں میں تفریق کرتا ہے اس شخص کی مانند ہے جو اپنی آنتوں کو آگ میں گھسیٹتا ہے۔ دوم احمد بیان کرتے ہیں کہ عصام بن خالد نے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن عمران نے عبد اللہ بن عثمان بن الارقم سے اپنے دادا ارقم کے حوالے سے ہم سے بیان کیا کہ عطف بن خالد نے ہم سے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اس جگہ اور اپنے ہاتھ سے بیت المقدس کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا تم کس کام سے اس کی طرف جا رہے ہو؟ کیا تجارت کے لیے انہوں نے کہا نہیں، بلکہ میں اس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس جگہ نماز پڑھنا، ہزار نماز سے افضل ہے اور اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا، احمد ان دونوں حدیثوں کے بیان میں متفرد ہیں۔

حضرت ثابت بن قیس بن شماس الانصاری الخزرجی ابو عبد الرحمن، آپ کو ابو محمد المدنی خطیب الانصار بھی کہا جاتا ہے، نیز آپ کو خطیب النبی ﷺ بھی کہا جاتا ہے، محمد بن سعد کا بیان ہے کہ علی بن محمد المدائنی نے اپنی اسانید سے رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے والے وفود کے شیوخ سے ہمیں خبر دی، وہ بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عیس یمانی اور مسلمہ بن ہارن الحدالی فتح مکہ کے بعد اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، اور مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کی اور آپ نے انہیں ایک تحریر لکھ دی جس میں ان کے امراء میں فرض زکوٰۃ کے متعلق لکھا، اور اس تحریر کو حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے لکھا، اور حضرت سعد بن معاذ اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما نے اس پر گواہی دی، اور اس آدمی کے متعلق صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور زندی نے اپنی جامع میں مسلم کی شرط کے مطابق اسناد سے بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کیا ہی اچھا آدمی ہے۔ اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کیا ہی اچھا آدمی ہے۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، معاذ بن عمرو بن الجوح رضی اللہ عنہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، آپ جنگ یمامہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ۱۲ھ میں شہید ہوئے، ہم ان کے واقعہ کو آخر پر بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ

حضرت حنظلہ بن الربیع بن صیفی بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاویہ ابن شریف بن جروہ بن اسید بن عمرو بن تمیم التیمی الاسیدی الکاتب، آپ کے بھائی حضرت رباح رضی اللہ عنہ بھی صحابی تھے، اور آپ کا چچا اثم بن صیفی عرب کا دانا تھا، واقدی کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت نبی کریم ﷺ کے لیے تحریر لکھی۔ اور دوسروں کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو صلح میں جماعتوں کی طرف بھیجا، اور آپ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ عراق کی جنگوں میں شامل ہوئے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی پایا اور جنگ جمل وغیرہ میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے تخلص کیا، پھر کوفہ سے چلے آئے کیونکہ وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دشنام دی جاتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد آپ نے وفات پائی، اور ابن اثیر نے ”الغابہ“ میں بیان کیا ہے کہ جب آپ فوت ہوئے، تو آپ کی بیوی نے آپ پر جزع فزع کی تو اس کی پڑوسنوں نے اس بارے میں اسے ملامت کی تو اس نے کہا۔

”ایک غمزہ عورت پر رعد نے تعجب کیا ہے جو ایک متغیر اللون بوڑھے پر گریہ کناں ہے۔ اگر تو مجھ سے دریافت کرتی

کہ مجھے بس چیز نے کمزور کر دیا ہے تو میں تجھے ایک جی بات بتاتی حظلہ کاتب کے نم نے آنکھ کی پتلی کو تباہ کر دیا ہے۔
احمد بن عبد اللہ بن الرقی بیان کرتے ہیں کہ آپ فتنہ سے الگ رہے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد وفات پا گئے
آپ نے دو حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں بلکہ تمہیں بیان ہوئی ہیں۔

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبد الصمد اور عفان نے ہم سے بیان کیا کہ ہمام نے ہم سے بیان کیا کہ قتادہ نے بحوالہ حظلہ
کاتب ہم سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جو شخص رکوع و سجود اور وضو اور مقررہ اوقات کے ساتھ پانچوں
نمازوں پر مداومت کرے اور اسے یہ بھی علم ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا آپ نے فرمایا اس کے
لیے جنت واجب ہوگی احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں اور یہ قتادہ اور حظلہ کے درمیان منقطع ہے۔ واللہ اعلم

دوسری حدیث کو احمد، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے سعید الجریری کی حدیث سے ابو عثمان النهدی سے بحوالہ حضرت حظلہ
رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ اگر ہمیشہ تمہارا وہی حال رہتا جو میرے پاس ہوتا ہے تو تمہاری نشست گاہوں راستوں اور بستروں میں
فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، لیکن گھڑی گھڑی کی بات ہے اور احمد اور ترمذی نے اسے اسی طرح عمران بن داؤد القطان کی حدیث
سے عن قتادہ عن یزید بن عبد اللہ بن الشثیر بن حظلہ روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث کو احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے سفیان ثوری کی
حدیث سے عن ابی الزناد عن المرقع بن صفی بن حظلہ عن جدہ روایت کیا ہے یہ حدیث عورتوں کو جنگ میں قتل کرنے سے منافی کے
بارے میں ہے، لیکن امام احمد نے اسے عبد الرزاق سے بحوالہ ابن جریج روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں مجھے ابو الزناد نے مرقع
بن صفی بن رباح بن ربیع سے اس کے دادا رباح بن ربیع کے حوالے سے بتایا جو حظلہ کاتب کے بھائی تھے اور پھر اس حدیث کو
بیان کیا ہے۔ اسی طرح احمد نے اسے حسین بن محمد اور ابراہیم بن ابی العباس سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے مغیرہ بن
عبد الرحمن اور اس کے باپ سعید بن منصور اور ابو عامر العقدی سے روایت کی ہے اور ان دونوں نے مغیرہ بن عبد الرحمن عن ابی
الزناد عن مرقع عن جدہ رباح روایت کی ہے۔ اور نسائی اور ابن ماجہ نے اسے مغیرہ کے طریق سے اسی طرح بیان کیا ہے اور ابو داؤد
اور نسائی نے عمر بن مرقع کی حدیث سے اس کے باپ اور دادا رباح سے روایت کی ہے۔ پس حدیث رباح سے مروی ہے نہ کہ
حظلہ سے، اس لیے ابو بکر بن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے کہ سفیان ثوری اس حدیث میں غلطی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابن الرقی کا
قول درست ہے کہ آپ نے صرف دو حدیثیں روایت کی ہیں۔ واللہ اعلم

حضرت خالد بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، ابو سعید الاموی، آپ بہت پہلے مسلمان ہوئے، کہتے
ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے نین یا چار آدمیوں کے بعد اور زیادہ سے زیادہ پانچ آدمیوں کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا
مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ جہنم کے کنارے پر کھڑے
ہیں جس کی وسعت کو خدائے عظیم ہی جانتا ہے، اور آپ کا باپ آپ کو اس میں دھکیلتا ہے اور رسول اللہ ﷺ آپ کو گرنے سے
بچانے کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا آپ سے
بھلائی ہوگی، یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی پیروی کرو، تمہیں جس بات کا خوف ہے اس سے تم نجات پاؤ گے، تو انہوں نے رسول

کریم ﷺ کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا اور جب آپ کے باپ کو آپ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تو وہ آپ سے سنتے، سوا اور اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس نے اسے آپ کے سر پر مار مار کر اسے نوزدیا اور اپنے گھر سے نکال دیا اور نورا ک بند کر دی اور آپ کے دیگر بھائیوں کو بھی آپ سے بات کرنے سے منع کر دیا حضرت خالد شب و روز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہتے پھر آپ کے بھائی عمرو بھی مسلمان ہو گئے اور جب لوگوں نے حبشہ کے علاقے کی طرف ہجرت کی تو آپ نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں آپ ہی نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی ذمہ داری لی پھر آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ارض حبشہ سے ہجرت کی اور دونوں خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اس وقت آپ خیبر کو فتح کر چکے تھے پس آپ نے مسلمانوں کے مشورہ سے ان دونوں کا حصہ لگایا اور ان دونوں کا بھائی ابان بن سعید بھی آیا اور فتح خیبر میں شمولیت اختیار کی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں پھر رسول اللہ ﷺ ان کے سپرد کام کرتے رہے۔

اور جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو یہ جنگ کے لیے شام چلے گئے اور حضرت خالد اجنادین میں شہید ہو گئے۔ اور مرج الصفر میں بھی آپ کا شہید ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

عتیق بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ عبد الملک بن ابی بکر نے اپنے باپ اور دادے سے بحوالہ عمرو بن حزم مجھ سے بیان کیا کہ حضرت خالد بن سعید نے رسول اللہ ﷺ کی جانب سے ایک تحریر لکھی:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”محمد رسول اللہ ﷺ نے راشد بن عبد رب السلمی کو رہا مقام پر پتھر مارنے کے انتہائی فاصلہ کے مطابق زمین عطا کی ہے پس جو اس سے خوف کھائے اس کا کوئی حق نہیں اور اس کا حق درست ہے۔“ خالد بن سعید نے لکھا۔

محمد بن سعد واقدی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جعفر بن محمد بن خالد نے بحوالہ محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان مجھ سے بیان کیا کہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے ارض حبشہ سے آنے کے بعد مدینہ میں قیام کیا اور آپ رسول اللہ ﷺ کے لیے کتابت کرتے تھے اور آپ ہی نے وفد ثقیف کو اہل طائف کے لیے تحریر لکھ کر دی تھی اور ان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صلح کے لیے کوشش کی تھی۔

حضرت خالد بن ولید بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم (ابو سلیمان) الحزومی آپ فاتح اسلامی افواج محمدی لشکروں اور مشہود و محمود ایام و مواقف کے سالار صاحب الرائے بڑے دلیر اور قابل تعریف خصائل کے حامل ہیں ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی فوج نے جاہلیت اور اسلام میں کبھی شکست نہیں کھائی اور زید بن بکرا کا قول ہے کہ قریش میں خیمہ اور گھوڑوں کی لگا میں آپ کے پاس تھیں حدیبیہ کے بعد اور بعض کا قول ہے کہ خیبر کے بعد آپ نے اور عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے جس فوج میں بھی آپ کو بھیجا سالار بنا کر بھیجا پھر آپ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تمام فوجوں کے سپہ سالار رہے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس شرط پر سالار بنایا کہ وہ ابو سلیمان کی رائے سے تجاوز نہ کریں حضرت

خالد بن ولیدؓ نے حضرت عمرؓ کی طرف سے دور خلافت میں ۲۱ھ یا ۲۲ھ میں (۲۱ھ زیادہ صحیح ہے) خمس سے ایک میل کے فاصلے پر ایک بستی میں وفات پائی، والدی کا بیان ہے کہ میں نے اس بستی کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کا نام دثرت ہے اور وحیم کا قول ہے کہ آپ نے مدینہ میں وفات پائی، مگر پہلی بات اصح ہے، بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں جن کا ذکر باعث طہالت ہو گا۔ عتیق بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ عبدالملک بن ابی بکر نے اپنے باپ اور دادے عمرو بن حزم کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ یہ جاگیریں رسول اللہ ﷺ نے دی ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے مومنین کی طرف

صید ووح اور صیدہ کو نونہ تکلیف دی جائے اور نہ مارا جائے اور جو ایسا فعل کرتا پایا گیا، اسے کوڑے مارے جائیں گے اور اس کا لباس اتار دیا جائے گا، اور اگر کسی نے تجاوز کیا تو اسے حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچایا جائے گا، یہ محمد نبی ﷺ کا فرمان ہے، جسے خالد بن ولیدؓ نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے لکھا۔ پس محمد رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس سے کوئی شخص تجاوز نہ کرے، ایسا کرنے والا اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔

حضرت زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، ابو عبد اللہ الاسدی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں اور ان چھ اصحاب شوریٰ میں سے بھی ایک ہیں، جن سے رسول اللہ ﷺ وفات کے وقت راضی تھے آپ رسول اللہ ﷺ کے حواری ہیں اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے اور حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے خاوند ہیں۔

عتیق بن یعقوب نے اپنی متقدم سند سے روایت کی ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے بنی معاویہ بن جریول کے لیے تحریر لکھی اور ابن عساکر نے عتیق کے اسناد سے اسے روایت کیا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بہت پہلے ۱۶ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور بعض کا قول ہے کہ آٹھ سال کی عمر میں آپ نے دو ہجرتیں کیں اور تمام معرکوں میں شامل ہوئے، آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے راہ خدا میں تلوار سونپی، آپ نے معرکہ یرموک میں بھی شرکت کی اور جن معرکوں میں بھی آپ نے شرکت کی ان کی نسبت اس معرکہ میں سب سے بہتر رہے اس دن آپ نے رومیوں کی صفوں کو دو بار اول سے آخر تک چیر دیا اور دوسری جانب صحیح سلامت نکل گئے، لیکن گدی پر دو تلواریں لگنے سے زخمی ہو گئے۔ اور آپ نے خندق کے روز رسول اللہ ﷺ سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت ہیں، آپ کی وفات جنگ جمل کے روز ہوئی۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ آپ نے جنگ سے واپسی پر حملہ کیا تو عمرو بن جرموز فضالہ بن حابس اور ایک تیسرا آدمی جسے فنیح التیمیون کہا جاتا ہے، آپ کو ایک جگہ ملے، جسے وادی السباع کہا جاتا ہے، آپ سوئے ہوئے تھے کہ عمرو بن جرموز نے سبقت کر کے ان کو قتل کر دیا، یہ ۱۰ جمادی الاولیٰ بروز جمعرات ۳۶ھ کا واقعہ ہے، اس وقت آپ کی عمر ۶۷ سال کی تھی، آپ نے اپنے پیچھے بہت ترکہ چھوڑا، اور اس سے دو کروڑ دو لاکھ قرض نکال کر ۳/۱ کی آپ نے وصیت کر دی اور جب آپ کا قرض ادا ہو گیا اور آپ کے مال سے ۳/۱ نکال لیا گیا تو باقی مال درثوں میں تقسیم کر دیا گیا اور آپ کی

چار بیویوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کروڑ اور دودو لاکھ درہم ملے، ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس لحاظ سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جموی طور پر ۵۹ کروڑ ۸۰ لاکھ درہم ترکہ چھوڑا۔^① اور آپ نے یہ سب مال اپنی زندگی میں فقی غنائم اور حلال تجارت سے حاصل کیا اور یہ تمام مال وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے اور حاجت مندوں کو رضا کارانہ صدقات و خیرات دینے کے بعد آپ کو بچا تھا، رضی اللہ عنہ وارضاه۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فردوس کے باغات میں جگہ دے اور اللہ نے واقعی آپ کو فردوسی باغات میں جگہ دے دی ہے اس لیے کہ سید الاولیاء والآخرین اور رسول رب العالمین نے آپ کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے، ابن اثیر نے الغابہ میں بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہزار غلام تھے، جو آپ کو خراج دیتے تھے اور آپ اس سب خراج کو صدقہ کر دیتے تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعریف و فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

”حضرت نبی کریم ﷺ کا حواری آپ کے عہد اور آپ کی ہدایت پر قائم رہا، اور قول فعل کے ساتھ برابری کرتا ہے، وہ آپ کے طریق اور راستے پر قائم رہا اور حقدار کی مدد کرتا رہا اور حق سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے، وہ مشہور شاہسوار اور وہ بہرہ ہے جو خوشی و مسرت کے دن حملہ کرتا ہے، وہ ایسا شخص ہے جس کی ماں صفیہ ہے اور وہ بنی اسد سے ہے اپنے گھر میں آسودہ حال ہے اور اس کی رسول کریم ﷺ سے قریبی قرابت داری ہے اور اس نے اصل شرافت سے اسلام کی مدد کی ہے اور کتنی ہی مصیبتوں کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے رسول اللہ ﷺ سے دور کر دیا اور اللہ آپ کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے گا، جب جناب شدت سے بھڑک اٹھتی ہے تو آپ آبدار تلوار کے ساتھ موت کی طرف ناز و ادا کے ساتھ چل کر جاتے ہیں، پس ان میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا مثل کوئی نہیں اور نہ ہی آپ سے پہلے کوئی پہلے تھا، اور جب تک آپ ناز سے چلتے ہیں زمانہ ان کی مثل پیدا نہیں کر سکے گا۔“

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ دادی السباع میں جرموز تہمی نے آپ کو سوتے ہوئے قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حیران ہو کر نیند سے بیدار ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ابن جرموز نے آپ کو دعوت مبارزت دی، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات پر کان نہ دھرا، تو اس کے دو ساتھیوں فضالہ اور النعر نے اس کی مدد کی اور عمرو بن جرموز نے آپ کا سر اور تلوار لے لی اور ان دونوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار کو دیکھ کر فرمایا۔ اس تلوار نے کئی دفعہ رسول اللہ ﷺ کے چہرے سے پریشانیوں کو دور کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ ابن صفیہ کے قاتل کو دوزخ کی بشارت دو، کہتے ہیں کہ ابن جرموز نے، جب یہ بات سنی تو خود کشی کر لی، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد بھی زندہ رہا یہاں تک کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا تو انہوں نے اپنے بھائی مصعب کو عراق پر اپنا نائب مقرر کیا، تو عمرو بن جرموز آپ کے حملے سے خوفزدہ ہو کر چھپ گیا۔ کہ آپ اسے اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیں گے، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے اطلاع دے دو، کہ وہ امن میں ہے کیا وہ خیال کرتا ہے کہ میں اسے ابو عبد اللہ کے بدلے میں قتل کروں گا؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، یہ

① التیورہ میں ۵۹ کروڑ دو لاکھ بیان ہوا ہے اور ابن سعد نے طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ نے ۳۵۲۰۰۰۰۰ ترکہ چھوڑا اور آپ کا قرضہ

۲۰۰۰۰۰ درہم تھا، اور آپ کی چار بیویوں میں سے ہر ایک نے ۱۰۰۰۰۰۰ درہم ورضہ حاصل کیا، یہ ارضی اور جاگیروں کے علاوہ ہے۔

دونوں برابر نہیں ہیں یہ بات حضرت مصعب بن عمیر کے علم و فضل اور سرداری پر دلالت کرتی ہے۔

اور حضرت زبیر بن عوف نے رسول اللہ ﷺ سے بہت سی احادیث بیان کی ہیں جن کا ذکر طویل ہے۔ اور جب حضرت زبیر بن عوف کو ابی السباع میں قتل ہو گئے تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ بنت زید بن عمرو بن نفیل نے آپ کا مرثیہ کہتے ہوئے کہا۔

”ابن جرموز نے جنگ کے روز اس شاہسوار سے خیانت کی ہے جس پر کسی ہم سر کا بس نہیں چلتا اور نہ ہی وہ رستہ کو چھوڑ کر مڑنے والا تھا، اے عمر! اگر تو اسے جگاتا تو تو اسے اوجھا اور لرزاں دل و ہاتھ والا نہ پاتا، کتنی ہی سخت مصیبتوں میں وہ گھس گیا، اور اسے سخت زمین کو کھمبھی کے بیٹے کسی حملے نے اسے ان مصیبتوں سے نہیں موڑا، تیری ماں تجھے کھودے اس جیسے شخص پر فتح پا گیا ہے، تو وہ صبح و شام جانے والوں کے ساتھ چلا گیا ہے، خدا کی قسم تو نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، تجھ پر قتل عمد کی سزا نازل ہوگی۔“

حضرت زید بن ثابت بن الضحاک بن لوزان بن عمرو بن عبید بن عوف بن غنم بن مالک بن النجار الانصاری انجاری، آپ کو ابوسعید ابو خارجہ اور ابو عبد الرحمن المدنی بھی کہا جاتا ہے، جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو آپ گیارہ سال کے تھے، اس لیے آپ اپنی صغر سنی کی وجہ سے بدر میں شامل نہیں ہوئے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ احد میں بھی شامل نہیں ہوئے، آپ نے سب سے پہلے معرکہ خندق میں شمولیت کی، پھر اس کے بعد کے معرکوں میں شامل ہوتے رہے، آپ دانا عقلمند! اور عالم حافظ تھے صحیح بخاری میں ان دونوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہود کی تحریر کو سیکھیں تاکہ جب وہ آپ کو خط لکھیں آپ اسے پڑھ کر حضرت نبی کریم ﷺ کو سنایا کریں آپ نے اسے پندرہ دن میں سیکھ لیا۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالرحمن نے ابوالزناد سے بحوالہ خارجہ بن زید ہم سے بیان کیا کہ ان کے باپ زید نے انہیں بتایا کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو مجھے رسول کریم ﷺ کے پاس لے جایا گیا تو آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ بنی نجار کا لڑکا ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو دس پندرہ سورتیں نازل فرمائی ہیں وہ اس کے پاس ہیں، اس بات نے رسول اللہ ﷺ کو حیرت زدہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے زید! میرے لیے یہود کی تحریر کو سیکھو، خدا کی قسم یہودی میری کتاب پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت زید بیان کرتے ہیں، ابھی پندرہ راتیں نہیں گزری تھیں کہ میں ان کی تحریر سیکھ کر اس میں ماہر ہو گیا، اور جب وہ آپ کو خط لکھتے تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا اور جب آپ لکھواتے تو میں آپ کی طرف سے جواب دیتا، پھر احمد نے اسے شرح بن العمان سے عن ابن ابی الزناد عن ابیہ عن خارجہ عن ابیہ روایت کیا ہے اور اسی طرح اسے بیان کیا ہے اور بخاری نے اسے احکام میں خارجہ بن زید بن ثابت سے جزم کے صیغے کے ساتھ معلق قرار دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ خارجہ بن زید نے کہا ہے اور پھر اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور ابوداؤد نے اسے احمد بن یونس سے، اور ترمذی نے علی بن حجر سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے عن عبدالرحمن بن ابی الزناد عن ابیہ عن خارجہ عن ابیہ اسی طرح روایت کی ہے، اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے اور یہ بہت تیز فہمی ہے۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور احمد اور نسائی نے ابی قلابہ کی حدیث

تے بحوالہ انس حضرت نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکرؓ ہیں اور دین کے بارے میں سب سے سخت عمرؓ ہیں اور سب سے زیادہ سچے حیا دار عثمانؓ ہیں اور سب سے زیادہ فیصلے کرنے والے علی بن ابی طالبؓ ہیں اور حلال و حرام کے سب سے زیادہ عالم معاذ بن جبلؓ ہیں اور فرائض کے زیادہ عالم زید بن ثابتؓ ہیں اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراحؓ ہیں اور بعض حفاظ نے اس حدیث کو سوائے اس بات کے جو حضرت ابو عبیدہؓ سے متعلق ہے، مرسل قرار دیا ہے اور صحیح بخاری میں یہ بھی یہ حدیث اسی طریق سے مرسل ہے اور آپ نے کئی مقامات پر رسول اللہ ﷺ کے سامنے وحی کو لکھا اور سب سے زیادہ واضح وہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں آپ سے مروی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْآيَةَ﴾ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلایا اور فرمایا لکھو ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور حضرت ابن ام کلتومؓ آ کر اپنی نابینائی کی شکایت کرنے لگے تو رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ کی ران میری ران پر اتنی بوجھل ہو گئی کہ قریب تھا کہ وہ اسے کچل دیتی، پس آیت (غیر اولی الضرر) نازل ہوئی اور میں نے آپ کے حکم سے اسے (دیگر آیات کے ساتھ) ملا دیا، حضرت زیدؓ فرماتے ہیں میں اس کے ملانے کی جگہ کو جانتا ہوں وہ ہڈی کی اس تختی کے شکاف کے پاس تھی اور حضرت زیدؓ جنگ یمامہ میں شامل ہوئے اور آپ کو تیرا لگا جس نے آپ کو ضرر نہیں پہنچایا۔ اور اس کے بعد حضرت صدیقؓ نے آپ کو قرآن کو تلاش کرنے کا حکم دیا، نیز فرمایا آپ دانشمند نوجوان ہیں اور ہم آپ پر الزام نہیں لگاتے اور آپ رسول اللہ ﷺ کے لیے وحی کو لکھنا کرتے تھے۔ پس قرآن کو تلاش کر کے اسے جمع کیجیے اور آپ نے حضرت صدیقؓ کے حکم کے مطابق کام کیا، اور اس میں بہت بھلائی تھی اور حضرت عمرؓ نے دو جوں میں آپ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا اور جب آپ شام کو گئے تب بھی آپ کو نائب مقرر کیا، اسی طرح حضرت عثمانؓ بھی آپ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا کرتے تھے اور حضرت علیؓ بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ بھی حضرت علیؓ کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کے مقام کو جانتے تھے، لیکن آپ نے حضرت علیؓ کے ساتھ جنگوں میں شمولیت نہیں کی، اور آپ حضرت علیؓ کے بعد بھی زندہ رہے یہاں تک کہ ۴۵ھ میں آپ کی وفات ہو گئی اور بعض کا قول ہے کہ ۴۱ھ میں ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ ۵۵ھ میں ہوئی، اور آپ ان ائمہ مصاحف کے لکھنے والوں میں سے تھے جنہیں حضرت عثمانؓ نے دیگر آفاق میں بھیجا، جن کی تحریر کی تلاوت پر اجماع و اتفاق ہو چکا ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب فضائل القرآن میں اسے بیان کیا ہے جسے ہم نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے۔

حضرت السجلی، جیسا کہ ابن عباسؓ سے مروی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اگر وہ صحیح ہو تو اور اس میں اعتراض پایا جاتا ہے۔ ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ قتیبہ بن سعید نے ہم سے بیان کیا کہ نو ح بن قیس نے، عن یزید بن کعب عن عمرو بن مالک عن ابی الجوزاء عن ابن عباسؓ ہم سے بیان کیا کہ حضرت السجلی، حضرت نبی کریم ﷺ کے کاتب تھے اور اسی طرح نسائی نے اسے قتیبہ سے بحوالہ ابن عباسؓ روایت کیا ہے کہ وہ اس آیت (یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب) کے بارے میں

فرماتے تھے کہ السجل ایک آدمی تھے یہ اس کے الفاظ ہیں اور ابو جعفر بن بریر نے اسے اپنی تفسیر میں قول الہی (یوم نظوی السماء کسطی السجل للکتب) نے پاس نصر بن مثنیٰ سے بحوالہ نوح بن قیس بیان کیا ہے جو ثقہ ہے اور مسلم کے رجال میں سے ہے اور ابن معین نے اسے اس سے روایت کرنے میں ضعیف قرار دیا ہے اور اس کے شیخ یزید بن کعب عموی بصری سے نوح بن قیس کے سوا کسی نے روایت نہیں کی اس کے باوجود ابن حبان نے اسے ثقات میں بیان کیا ہے اور میں نے اس حدیث کو اپنے شیخ حافظ کبیر ابو الحجاج المزنی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے بہت منکر قرار دیا اور میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے شیخ علامہ ابو العباس ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اگرچہ سنن ابوداؤد میں مروی ہے۔ اور ہمارے شیخ المزنی نے فرمایا میں بھی اسے موضوع ہی کہتا ہوں۔

میں کہتا ہوں حافظ ابن عدی نے اسے اپنی کتاب الکامل میں محمد بن سلیمان الملقب بہ بومہ کی حدیث سے عن یحییٰ ابن عمرو عن مالک النضر عن ابیہ عن ابی الجوزاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک کاتب کو السجل کہا جاتا تھا اور وہ اللہ کا قول (یوم نظوی السماء کسطی السجل للکتب) ہے آپ بیان کرتے ہیں جس طرح رجسٹر تحریر کو لپیٹ لیتا ہے اسی طرح آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح بیہی نے اسے عن ابی نصر بن قتادہ عن ابی علی الرفاعن علی بن عبدالعزیز عن مسلم بن ابراہیم عن یحییٰ بن عمرو بن مالک روایت کیا ہے اور یہ یحییٰ بہت ضعیف ہے جو متابعت کے قابل نہیں۔ واللہ اعلم اور اس سے بھی غریب تر وہ حدیث ہے جسے حافظ ابوبکر خطیب اور ابن مندہ نے احمد بن سعید بغدادی المعروف بہ حمدان کی حدیث سے عن بہز بن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا ایک کاتب تھا جسے السجل کہا جاتا تھا پس اللہ تعالیٰ نے (یوم نظوی السماء کسطی السجل للکتب) کی آیت نازل فرمائی ابن مندہ نے اسے غریب قرار دیا ہے اور حمدان اس کی روایت میں متفرد ہے البتہ القانی بیان کرتے ہیں کہ ابوالفتح ازدی نے کہا ہے کہ ابن نمیر اس کی روایت میں متفرد ہے۔ خواہ صحیح ہو۔

میں کہتا ہوں یہ جس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منکر ہے اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منکر ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف بھی بیان ہوا ہے اور الوالمی اور العوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح کاغذ کتاب میں لپیٹ دیا جاتا ہے یہی بات مجاہد نے کہی ہے اور ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ لغت میں یہی معروف ہے کہ السجل کاغذ کو کہتے ہیں نیز بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی شخص اس کے نام السجل کو نہیں جانتا اور انہوں نے کسی فرشتے کا نام السجل ہونے سے انکار کیا ہے جیسا کہ انہوں نے اسے ابوبکر سے بحوالہ ابن میمان روایت کیا ہے کہ ابوالوفا الشجعی نے اپنے باپ سے بحوالہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما (یوم نظوی السماء کسطی السجل للکتب) کے متعلق بیان کیا ہے کہ السجل ایک فرشتہ ہے اور جب وہ استغفار کے ساتھ معود کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے نور لکھ دو اور بندار نے مؤمل بحوالہ سفیان ہم سے بیان کیا کہ میں نے السدی کو بیان کرتے سنا اور پھر اس نے اس کی مانند بیان کیا ہے اور اسی طرح ابو جعفر الباقری نے بیان کیا ہے جسے ابوبکر سے بحوالہ معروف بن خربوذ اس شخص سے

روایت کیا ہے جس نے ابو جعفر کو بیان کرتے سا کہ السجل ایک فرشتہ ہے اور ابن جریر نے السجل کے کسی صحابی یا نہایت طاقتور فرشتے کے نام ہونے سے انکار کیا ہے اور اس بارے میں جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ بہت سنگر ہے اور جن لوگوں نے اسے اسما نے صحابہ میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ابن مندہ ابو نعیم اصہبانی اور ابن اثیر نے الغابہ میں بیان کیا ہے انہوں نے اس حدیث کے بارے میں حسن ظن کے باعث بیان کیا ہے یا اس کی صحت پر حاشیہ آرائی کی ہے۔ واللہ اعلم

حضرت سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ، خلیفہ بن خیاط نے ان کے متعلق بیان کیا ہے اور انہیں وہم ہو گیا ہے کہ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح ان کے بیٹے ہیں جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا۔

حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالرزاق نے بحوالہ معمر ہم سے بیان کیا کہ زہری نے بیان کیا کہ سراقہ بن مالک کے بھتیجے عبد الملک بن مالک مدلی نے مجھے بتایا کہ اس نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے سنا اور انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ کی ہجرت کا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے لیے دیت مقرر کی ہے اور میں نے انہیں ان کے سفر کے حالات سے اور جو کچھ لوگ ان سے کرنا چاہتے تھے اس کے متعلق بتایا اور میں نے ان کو زاد اور متاع کی پیشکش کی تو انہوں نے مجھ سے کچھ کمی نہ کی اور مجھ سے یہی مطالبہ کیا کہ ہمارے بارے میں جو شخص دریافت کرے اس سے ہماری خبر مخفی رکھو اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ مجھے ایک پروانہ امان لکھ دیجیے جس کی وجہ سے میں امن میں رہوں آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا تو آپ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر پروانہ امان لکھ دیا اور پھر چلے گئے۔

میں کہتا ہوں ہجرت کے متعلق مکمل بات پہلے بیان ہو چکی ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو یہ تحریر لکھ کر دی تھی۔ واللہ اعلم

حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمرو تھی اور آپ ازد کے مؤلداً ہیں میں سے تھے اور شب رنگ تھے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ماں جائے بھائی، طفیل بن حارث کے غلام تھے، طفیل کی ماں کا نام ام رومان تھا، آپ رسول اللہ ﷺ کے صفا کے پاس دار ارقم بن ابی الارقم میں پوشیدہ ہونے سے قبل مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو مکہ کے جملہ کمزوروں کے ساتھ عذاب دیا جاتا تھا، تاکہ آپ اپنے دین سے پھر جائیں، مگر آپ نے اس امر سے انکار کیا، پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ مکہ کے باہر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور جب حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تو آپ دونوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ردیف تھے اور ان کے ساتھ فقط الدلی کا راہنما تھا، جیسا کہ پہلے مفصل بیان کیا جا چکا ہے اور جب یہ مدینہ پہنچے تو حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہما کے ہاں مہمان اترے اور رسول اللہ ﷺ نے آپ کے اور اوس بن معاذ کے درمیان مواخات کروادی، آپ بدر واحد میں شامل ہوئے اور بیڑ معونہ کے روز شہید ہوئے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ ۲ھ کا واقعہ ہے اس وقت آپ کی عمر چالیس سال کی تھی۔ واللہ اعلم

عروہ واقدی اور ابن اسحاق اور کئی مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بیڑ معونہ کے روز، بنی کلاب

نے ایک آدمی نے قتل کیا جسے بہار بن سلمیٰ کہا جاتا تھا اور جب اس نے آپ کو نیرہ مارا تو آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور حضرت عامر بن عبد کاشم ہوا یہاں تک کہ آپ آنکھوں سے عاب ہو گئے حتیٰ کہ عامر بن طفیل نے کہا کہ آپ اس حد تک مرفوع ہوئے کہ میں نے آسمان کو آپ کے نیچے دیکھا اور عمرو بن امیہ سے آپ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا آپ ہمارے افضل آدمیوں میں سے تھے اور ہمارے نبی کے اولین اہل بیت میں سے تھے بہار بیان کرتے ہیں میں نے سخاک بن سفیان سے پوچھا کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا جنت مراد ہے۔ اور سخاک نے مجھے دعوت اسلام دی تو میں نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے قتل کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، تو سخاک نے میرے مسلمان ہونے کی خبر اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لکھا تو آپ نے فرمایا اسے ملائکہ نے ذبح کیا ہے اور علیین میں اتارا ہے۔ اور صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بارے میں قرآن پڑھا کہ ہماری طرف سے ہماری قوم کو اطلاع دے دو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے ہمیں راضی کیا ہے۔ اور اس سے پہلے اس کی تفصیل اپنے مقام پر غزوہ بدر معونہ میں بیان ہو چکی ہے۔ اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ کے حوالے سے ہم سے بیان کیا کہ حضرت عامر بن طفیل فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کون آدمی ہے جب وہ قتل ہوا تو میں نے اسے زمین و آسمان کے درمیان مرفوع دیکھا یہاں تک کہ میں نے آسمان کو اس سے نیچے دیکھا تو وہ کہتے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ و اقدی کا بیان ہے کہ محمد عبد اللہ نے عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور ان کا بدن موجود تھا ان کا خیال ہے کہ فرشتوں نے آپ کو ذبح کیا۔

حضرت عبد اللہ بن ارقم بن ابی الارقم المخزومی آپ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے اور حضرت نبی کریم ﷺ کے کاتب بنے، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ جو کام کرتے اس میں سبقت کر جاتے اور اسے بہت اچھی طرح سرانجام دیتے اور سلمہ محمد بن اسحاق بن یسار کے حوالے سے محمد بن جعفر بن زبیر سے بحوالہ عبد اللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن ارقم بن عبد یغوث کو اپنا کاتب بنایا اور وہ آپ کی طرف سے بادشاہوں کو جواب دیا کرتے تھے اور آپ اس قدر معتمد علیہ تھے کہ آپ انہیں بعض بادشاہوں کی طرف خط لکھنے کا حکم دیتے تو آپ خط لکھا کرتے اور حضور ﷺ کے ہاں اپنے اعتماد کی وجہ سے ان پر مہربانی لگا دیتے آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بھی کاتب رہے آپ نے بیت المال کو ان کے سپرد کر دیا اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کو ان دونوں کاموں پر قائم رکھا، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے انہیں معزول کر دیا۔

میں کہتا ہوں، حضرت عثمان نے عبد اللہ بن ارقم کے استعفیٰ دینے کے بعد آپ کو معزول کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو تین لاکھ درہم آپ کے کام کا معاوضہ پیش کیا تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے اور میرا اجر میرے اللہ کے ذمے ہے۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رسول اللہ ﷺ کے کاتب تھے اور جب حضرت زید بن ارقم اور

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوتے تو حاضرین میں سے کوئی آدمی لکھ دیتا اور حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ حضرت معاویہؓ حضرت خالد بن سعید بن العاصؓ اور دوسرے لوگ جن کا عربوں نے نام لیا ہے بھی کاتب تھے اور امش کہتے ہیں کہ میں نے شقیق بن سلمہ سے پوچھا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کے کاتب کون تھے کہنے لگے: عبداللہ بن ارقمؓ اور ہمارے پاس قادیہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا اور اس کے نیچے لکھا تھا: عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے لکھا۔

اور یہی بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو عبداللہ نے ہمیں بتایا کہ محمد بن صالح بن ہانی نے ہم سے بیان کیا کہ فضل بن محمدؓ لہیقی نے ہم سے بیان کیا کہ عبداللہ بن صالح نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ ماضون نے عن ابی عون عن قاسم بن محمد عن عبداللہ بن عمر ہم سے بیان کیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس ایک آدمی کا خط آیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ سے فرمایا: میری طرف سے جواب دیجیے تو آپ نے اس کا جواب لکھا اور آپ کو سنایا تو آپ نے فرمایا: آپ نے بہت اچھا اور ٹھیک جواب لکھا ہے اے اللہ! اس کو توفیق عطا فرما۔ راوی بیان کرتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکمران بنے تو وہ آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنروں میں ان سے زیادہ خوف خدا والا کوئی نہیں دیکھا، آپ اپنی وفات سے قبل نابینا ہو گئے تھے۔

حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ الازہاری الخزرجی، آپ مؤذن تھے بہت پہلے مسلمان ہوئے اور عقبہ کے ستر آدمیوں میں شامل ہوئے اور بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شمولیت کی اور آپ کی سب سے بڑی منقبت یہ ہے کہ آپ نے خواب میں اذان و اقامت کو دیکھا اور آپ نے اسے رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے انہیں اس کام پر مقرر کر دیا، نیز آپ نے انہیں فرمایا: یہ سچا خواب ہے یہ بلال کو لکھو او دؤ بلاشبہ وہ آپ سے زیادہ دل پسند اور بلند آواز ہیں اور قبل ازیں اس بارے میں ہم حدیث کو اس کے موقع پر بیان کر چکے ہیں۔

اور واقدی نے اپنی اسانید سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت کی ہے کہ آپ نے جرش سے مسلمان ہونے والوں کے لیے ایک خط لکھا جس میں انہیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور غنیمت سے شمس دینے کا حکم دیا، آپ نے ۶۳ سال کی عمر میں ۳۲ھ میں وفات پائی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔

حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح قرشی عامری، آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کاتب وحی تھے پھر اسلام سے ارتداد اختیار کر کے مشرکین مکہ سے جا ملے اور جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ کو فتح کیا تو آپ نے جن لوگوں کے خون کو مباح کیا تھا، ان میں یہ بھی شامل تھے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے ان کے لیے امان حاصل کی اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو امان دے دی، جیسا کہ قبل ازیں ہم غزوة الفتح میں بیان کر چکے ہیں، پھر عبداللہ بن سعد نہایت اچھے مسلمان بن گئے، ابوداؤد بیان کرتے ہیں کہ احمد بن محمد المروزی نے ہم سے بیان کیا کہ علی بن حسین بن واقد نے اپنے باپ سے عن یزید نحوی عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ہم سے بیان کیا آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رسول اللہ ﷺ کے کاتب تھے، شیطان نے انہیں پھسلا یا تو یہ کفار سے مل گئے، رسول اللہ ﷺ

نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے پناہ مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دے دی نسانی نے اسے علی بن حسین بن واقد کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ۲۰ھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر کو فتح کیا تو آپ ان کے میمنہ پر تھے اور حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر پر اپنا نائب مقرر کیا اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی گورنری سے معزول کر دیا اور حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کو ۲۵ھ میں مصر کا گورنر مقرر کیا اور آپ کو بلاد افریقہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا آپ نے جنگ کر کے انہیں فتح کر لیا اور وہاں سے فوج کے لیے بہت سامان حاصل کیا جس سے غنیمت میں فوج کے ہر سوار کو تین ہزار مثقال سونا حصہ ملا اور پیادہ کو ایک ہزار مثقال اور آپ کے ساتھ اس فوج میں تین عبادلہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم پھر حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے ارض نوبہ کے افریقہ الا ساور سے جنگ کی اور ان کو امان دی جو آج تک جاری ہے اور یہ ۳۱ھ کا واقعہ ہے پھر آپ نے رومیوں سے سمندر میں الصواری کا معرکہ کیا جو ایک عظیم معرکہ ہے جس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔ ان شاء اللہ اور جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اختلاف کیا تو آپ مصر سے نکلے اور مصر پر اپنا نائب مقرر کیا تاکہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جائیں اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو آپ عسقلان میں اور بعض کہتے ہیں کہ رملہ میں ٹھہر گئے اور اللہ سے دعا کی کہ وہ آپ کو نماز میں موت دے پس ایک روز آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورہ عادیات پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ پڑھی اور جب آپ تشہد سے فارغ ہوئے اور پہلا سلام پھیرا اور دوسرا سلام پھیرنے کا ارادہ کیا تو دونوں کے درمیان آپ کی وفات ہو گئی یہ ۳۶ھ کا واقعہ ہے اور بعض کا قول ہے کہ ۳۷ھ کا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ ۵۹ھ تک زندہ رہے۔ مگر پہلی بات درست ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہ ہی کتب ستہ میں اور نہ ہی امام احمد کے مسند میں آپ کی کوئی روایت موجود ہے۔

حضرت عبداللہ بن عثمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما ہم پہلے وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ کے حالات آپ کے دور خلافت میں بیان ہوں گے۔ ان شاء اللہ اور میں نے آپ کی سیرت اور مروی احادیث و آثار کے متعلق ایک جلد اکٹھی کی ہے اور آپ کی کتابت کی دلیل موسیٰ بن عقبہ کا وہ بیان ہے جو اس نے زہری سے عن عبدالرحمن بن مالک بن عجم عن ابیہ عن سراقہ بن مالک اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا جبکہ آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما غار سے نکل کر ان کے علاقے سے گزرے تھے اور جب اس نے انہیں آلیا تو اس کے گھوڑے کے ساتھ جو واقعہ ہوا۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ سے پروا نہ امان لکھ دیں تو آپ نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے لیے تحریر لکھ کر اسے دے دی اور امام احمد نے زہری کے طریق سے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ اسے حضرت عامر بن فہیرہ نے لکھا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہو اور پھر آپ نے اپنے غلام عامر کو حکم دیا ہو تو باقی اس نے لکھ دیا ہو۔ واللہ اعلم

حضرت عثمان بن عفان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ کے حالات آپ کے دور خلافت میں بیان ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

ماننے آپ کا کتاب کرنا ایک مشہور بات ہے۔ اور واقدی نے اپنی اسانید کے ساتھ روایت کی ہے کہ جب نائل بن مالک انواری رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو آپ نے اس کے لیے ایک تحریر لکھی جس میں اسلامی قوانین بیان ہوئے تھے۔

حضرت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ! آپ کے حالات آپ کے دور خلافت میں بیان ہوں گے اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے حدیبیہ کے روز رسول اللہ ﷺ اور قریش کے درمیان صلح کی تحریر لکھی کہ لوگ امن سے رہیں اور خیانت اور چوری نہ ہو اور دس سال جنگ موقوف رہے اس کے علاوہ بھی آپ نے آپ کے سامنے کئی تحریرات لکھیں۔

اور یہ جو یہود خیبر کی ایک پارٹی ادعا کرتی ہے کہ ان کے پاس جزیہ کے موقوف ہونے کے متعلق حضرت نبی کریم ﷺ کی ایک تحریر موجود ہے اور اس کے آخر میں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ اس کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت جس میں حضرت سعادت بن معاذ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں کی شہادت موجود ہے کہ یہ ایک گھڑا گھڑا جھوٹ اور بہتان ہے اور علماء کی ایک جماعت نے بھی اس کے بطلان کو واضح کیا ہے اور بعض متقدمین فقہاء نے دھوکہ کھا کر ان کے جزیہ کے موقوف ہونے کے متعلق بیان کیا ہے اور یہ قول بہت ضعیف ہے۔ اور میں نے اس کے متعلق ایک الگ جلد لکھی ہے جس نے اس کے بطلان کو واضح کیا ہے نیز یہ کہ یہ ایک باوثی اور جعلی تحریر ہے جسے انہوں نے از خود بنا لیا ہے اور وہ ایسے کام کے اہل ہیں اور میں نے اسے واضح کیا ہے کہ اس میں ائمہ کے کلام کے اختلافی مقام میں تطبیق کر دی ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ! آپ کے حالات اپنے مقام پر بیان ہوں گے اور میں نے آپ کے لیے ایک الگ جلد لکھی ہے نیز آپ نے جو احادیث رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہیں اور جو احکام و آثار آپ سے مروی ہیں ان کے لیے میں نے ایک ضخیم جلد لکھی ہے اور آپ کے کتابت کرنے کی تفصیل حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کے حالات میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔

حضرت العلاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ! الحضرمی کا نام عباد ہے اور آپ کو عبداللہ بن عباد بن اکبر بن ربیعہ بن عریقہ بن مالک بن الخزرج بن ایاد بن الصدق بن زید بن مقنع بن حضرموت ابن قحطان کہا جاتا ہے اور آپ کے نسب کے بارے میں اس کے علاوہ بھی بیان کیا گیا ہے آپ بنی امیہ کے حلیفوں میں سے تھے اور آپ کے کتابت کرنے کی تفصیل حضرت ابان بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے حالات میں بیان ہو چکی ہے آپ کے علاوہ آپ کے دس بھائی تھے جن میں سے ایک عمرو بن الحضرمی بھی تھا یہ پہلا مشرک مقتول تھا جسے مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے سر یہ میں شامل ہو کر قتل کیا اور جیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے یہ پہلا سریہ تھا دوسرا عمر بن الحضرمی تھا جسے ابو جہل لعنہ اللہ علیہ نے حکم دیا تو اس نے اپنی شرمگاہ کو ننگا کر دیا اور جب بدر کے روز مسلمانوں اور مشرکوں نے صف بندی کر لی تو اس نے پکارا ”واعمرہ“ ہائے عمر پس جنگ ٹھن گئی اور جو کچھ ہوا ہم اسے قبل ازیں اپنے مقام پر مفصل بیان کر آئے ہیں تیسرا شریح بن الحضرمی تھا یہ نیک صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تھا اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ آدمی قرآن کو نیکے کے نیچے نہیں رکھتا یعنی سوتا نہیں اور نہ اسے چھوڑتا ہے بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اسے پڑھتا رہتا ہے۔

اور ان سب کی ایک ہی بہن تھی الصعبہ بنت الحضرمی ام طلحہ بن عبید اللہ اور رسول اللہ ﷺ نے العلاء بن الحضرمی کو شاہ

نجرین منذر بن سادی کے پاس بھیجا پھر جب آپ نے نجرین کو فتح کیا تو آپ کو اس کا امیر مقرر کیا اور حضرت صدیق نے آپ کو نجرین کی امارت پر قائم رکھا پھر حضرت عمر بن الخطاب نے بھی آپ کو امارت پر قائم رکھا اور آپ وہاں مسلسل امیر رہے یہاں تک کہ حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کو وہاں سے معزول کر دیا اور بصیرہ کا امیر بنا دیا اور ابھی آپ راستے ہی میں تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی یہ ۲۱ھ کا واقعہ ہے۔

اور یہی آپ سے اور دوسروں سے آپ کی بہت سی کرامات بیان کی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ سطح سمندر پر چلے اور وہ ان کے گھوڑوں کے گھنٹوں تک بھی نہ پہنچا اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے گھوڑوں کے نعلوں کا نچلا حصہ بھی تر نہ ہوا اور آپ نے ان سب کو حکم دیا اور وہ یا حلیم یا عظیم کہنے لگے دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ اپنی فوج میں تھے کہ انہیں پانی کی ضرورت پڑی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس نے ان کی ضرورت کے مطابق ان پر بارش کر دی اور تیسری کرامت یہ ہے کہ جب آپ کو دفن کیا گیا تو کلیتہً آپ کا کوئی نشان نظر نہ آیا اور آپ نے اس بارے میں اللہ سے دعا کی تھی اور یہ بات عنقریب کتاب ”دلائل النبوة“ میں بیان ہوگی اور آپ نے رسول اللہ ﷺ سے تین احادیث روایت کی ہیں۔

اول: امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے ہم سے بیان کیا کہ عبدالرحمن بن حمید بن عبدالرحمن بن عوف نے السائب بن یزید سے بحوالہ العلاء بن الحضرمی ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مہاجر اپنی عبادت کی ادائیگی کے بعد تین دن ٹھہرے گا۔ اور ایک جماعت نے آپ کی حدیث کو روایت کیا ہے۔

دوم: احمد بیان کرتے ہیں کہ ہشیم نے ہم سے بیان کیا کہ منصور نے ابن سیرین سے بحوالہ العلاء بن الحضرمی ہم سے بیان کیا کہ ان کے باپ نے حضرت نبی کریم ﷺ کو خط لکھا اور خط کا آغاز اپنے نام سے کیا اور اسی طرح ابوداؤد نے اسے بحوالہ احمد بن حنبل روایت کیا ہے۔

سوم: احمد اور ابن ماجہ نے اسے محمد بن زید کے طریق سے بحوالہ حبان الاعرج العلاء بن الحضرمی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک باغ کے بارے میں نجرین سے رسول اللہ ﷺ کو خط لکھا جو کئی بھائیوں کے درمیان مشترک ہو اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے؟ اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مسلمان سے عشر وصول کریں اور غیر مسلموں سے خراج لیں۔

حضرت العلاء بن عقبہ حافظ ابن عساکر کا بیان ہے کہ آپ حضرت نبی کریم ﷺ کے کاتب تھے اور مجھے معلوم نہیں کہ کسی نے ان کا ذکر کیا ہو سوائے اس کے جس نے ہمیں بتایا پھر انہوں نے اس کا اسناد عتیق بن یعقوب تک بیان کیا ہے عبدالملک بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے اپنے باپ اور دادے اور عمرو بن حزم سے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو یہ جاگیریں دی ہیں پھر اسی نے ان جاگیروں کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”محمد نبی ﷺ نے مدور کی یہ جاگیر عباس بن مرد اس سلمیٰ کو عطا کی ہے پس جو کوئی اس میں اس کا حق مارے اس کا کوئی

حق نہیں ہے اور اس کا حق برحق ہے۔“

العلاء بن عقبہ نے لکھا اور گواہی دی۔

پھر وہ بیان کرتے ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”محمد رسول اللہ ﷺ نے یہ جاگیر عوجہ بن حرمہ جہنی کو دی ہے جو ذوالمرہ سے لے کر بلکنہ کے درمیان طیبہ سے جولات اور جبل القبلیہ تک ہے پس جو کوئی اس کی حق تلفی کرے اس کا کوئی حق نہیں اور اس کا حق برحق ہے۔“

العلاء بن عقبہ نے لکھا۔

اور واقدی نے اپنی اسانید سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مہینہ کے بنی سح کو جاگیر دی اور اس کے متعلق العلاء بن عقبہ نے تحریر لکھی اور گواہی دی اور ابن اثیر نے ”الغابہ“ میں مختصر اس آدمی کا ذکر کیا ہے اس نے بیان کیا ہے کہ العلاء بن عقبہ حضرت نبی کریم ﷺ کے کاتب تھے عمرو بن حزم کی حدیث میں اس کا ذکر ہے اور جعفر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ابو موسیٰ المدائنی نے اپنی کتاب میں اسے روایت کیا ہے۔

حضرت محمد بن مسلمہ بن جریس بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث بن الخزرج الانصاری الحارثی ابو عبد اللہ آپ کو ابو عبد الرحمن کہا جاتا ہے اور ابو سعید الخدری بھی کہا جاتا ہے جو بنی عبد الاشبل کے حلیف تھے آپ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور بعض کا قول ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے مدینہ آنے پر رسول اللہ ﷺ نے آپ کے اور حضرت سعیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہما کے درمیان مواخات کرائی آپ بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شامل ہوئے اور تبوک کے سال رسول اللہ ﷺ نے آپ کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بنایا ابن عبد البر استیعاب میں بیان کرتے ہیں کہ آپ شدید گندم گوں، طویل سر کے اگلا حصے کے بال اڑے ہوئے اور باغات والے تھے اور فضلاء صحابہ میں سے تھے اور آپ فتنہ میں کنارہ کش رہنے والوں میں تھے آپ نے ایک چوبی تلوار بنائی اور جمہور کے نزدیک مشہور قول کے مطابق آپ نے ۴۳ھ میں مدینہ میں وفات پائی اور مروان بن الحکم نے آپ کا جنازہ پڑھایا آپ نے رسول کریم ﷺ سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں اور محمد بن سعید نے بحوالہ علی بن محمد المدائنی اپنی اسانید سے روایت کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ نے ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے ایک وفد کے لیے تحریر لکھی۔

حضرت معاویہ بن ابی سفیان صحیح بن حرب بن امیہ اموی آپ کے حالات آپ کے دور امارت میں بیان ہوں گے ان شاء اللہ اور مسلم بن الحجاج نے حضور ﷺ کے کاتبوں میں آپ کا ذکر کیا ہے اور مسلم نے اپنی صحیح میں عکرمہ بن عمار کی حدیث سے

① اصل میں بلکنہ سے طیبہ اور جولاہ سے جبل القبلہ تک ہے اور صحیح مجم کی طرف سے ہے اصل عبارت یہ ہے یہ جاگیر محمد نبی ﷺ نے عوجہ بن حرمہ جہنی کو عطا کی ہے جو ذوالمرہ سے طیبہ اور جولات سے جبل القبلہ تک ہے کوئی آدمی اس بارے میں جھگڑا کر کے اپنے حق کا مدعی نہ بنے اور جو اس سے جھگڑا کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا اور اس کا حق برحق ہے۔ العلاء بن عقبہ نے لکھا۔

② اصل میں ابن حریش ہے اور اصابہ میں ابن سلمہ ہے اور مؤلف اصابہ نے آپ کے نسب میں جریش اور حریش کا ذکر نہیں کیا۔

ابوزمیل - ماک بن دایہ۔ کہو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ تین باتیں مجھے عطا فرمادیں آپ نے فرمایا بہت اچھا ابوسفیان نے کہا مجھے حکم دیجیے تاکہ میں کفار سے اسی طرح جنگ کروں جیسے میں مسلمانوں سے جنگ کرتا تھا آپ نے فرمایا بہت اچھا پھر کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے! آپ نے فرمایا بہت اچھا! الحدیث میں نے اس حدیث کے لیے ایک الگ جلد اس وجہ سے تیار کی ہے کہ اس میں ابوسفیان نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی تزویج کا مطالبہ کیا ہے بلکہ اس میں ابوسفیان کے امیر بنانے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ کے ہاں منصب کتابت تفویض کرنے کا ذکر بھی محفوظ ہے اور یہ تمام لوگوں کے درمیان ایک متفقہ بات ہے۔ اب رہی حدیث تو حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں بیان کیا ہے کہ ابو غالب بن البنانے ہمیں بتایا کہ ابو محمد جو ہری نے ہمیں خبر دی کہ ابو علی محمد بن احمد بن یحییٰ بن عبد اللہ العطشی نے ہمیں بتایا کہ احمد بن محمد البورانی نے ہم سے بیان کیا کہ السری بن عاصم نے ہم سے بیان کیا کہ حسن بن زیاد نے عن قاسم بن بہرام عن ابی الزبیر عن جابر ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتب مقرر کرنے کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا اسے کاتب بناؤ وہ امین ہے یہ حدیث غریب بلکہ منکر ہے اور السری بن عاصم وہ ابو عاصم الہمدانی ہے جو المعتمر باللہ کو ادب سکھاتا تھا ابن خراش نے حدیث میں اسے کاذب قرار دیا ہے اور ابن حبان اور ابن عدی کہتے ہیں یہ حدیث چرایا کرتا تھا اور ابن حبان نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ یہ موقوف احادیث کو مرفوع بنانا تھا اس سے حجت پکڑنا جائز نہیں اور دارقطنی اسے ضعیف الحدیث قرار دیتے ہیں اور اس کا شیخ حسن بن زیاد تھا۔ اگر لؤلؤی ہے تو اسے کئی ائمہ نے متروک قرار دیا ہے اور ان میں سے بہت سے ائمہ نے اس کے جھوٹا ہونے کی صراحت کی ہے اور اگر وہ کوئی اور ہے تو وہ مجہول العین والحال ہے اور قاسم بن بہرام دو ہیں ایک کو قاسم بن بہرام اسدی واسطی اعرج کہا جاتا ہے جو اصل میں اصہبانی ہے نسائی نے سعید بن جبیر سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث قنوت کو پوری طوالت کے ساتھ اس کی جانب سے روایت کیا ہے اور اسے ابن معین ابو حاتم اور ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے اور دوسرے کو قاسم بن بہرام ابو حمدان قاضی ہیث کہتے ہیں۔ ابن معین نے اس کو کذاب کہا ہے اور فی الجملہ یہ حدیث اس طریق سے ثابت نہیں اس لیے اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے تعجب ہے کہ حافظ ابن عساکر نے اپنی جلالت شان اور اپنے زمانے کے اکثر محدثین بلکہ اپنے زمانے سے پہلے کے محدثین سے بھی فن حدیث میں ماہر ہونے کے باوجود کس طرح اس حدیث کو اور اس قسم کی دیگر بہت سی احادیث کو اپنی تاریخ میں درج کر دیا ہے۔ پھر وہ ان کا حال بھی بیان نہیں کرتے اور نہ ان کی طرف کوئی ظاہری اور خفیہ اشارہ کرتے ہیں اور اس قسم کی مہارت میں اعتراف پایا جاتا ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ عنہ آپ کے حالات حضور ﷺ کے غیر موالی خدام صحابہ رضی اللہ عنہم میں پہلے بیان ہو چکے ہیں آپ رسول اللہ ﷺ کے سر پر تلوار سونٹے رہتے تھے اور ابن عساکر نے اپنی سند سے عتیق بن یعقوب سے اپنے متقدم اسناد کے ساتھ کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ہی حصین بن نھلہ اسدی کی جاگیروں کی کتابت کی تھی جسے رسول اللہ ﷺ نے اپنے حکم سے جاگیر دی تھی یہ حضور ﷺ کے وہ کاتب ہیں جو آپ کے حکم سے آپ کے سامنے کتابت کرتے تھے۔

آپ کے اُمناء

ابن عساکر نے آپ کے اُمناء میں سے حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبد اللہ بن الجراح رضی اللہ عنہ قرشی فہری اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بخاری نے ابو قلابہ کی حدیث سے بحوالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نجران کے عبد القیس کے وفد سے فرمایا کہ: میں تمہارے ساتھ صحیح امین کو بھیجوں گا۔ اور آپ نے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان اُمناء میں سے معقیب بن ابی فاطمہ دوسی بھی تھے جو بنی عبد شمس کے غلام تھے یہ آپ کی انگوٹھی کے امین تھے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کے خادم تھے، اور دوسروں کا قول ہے کہ آپ بہت پہلے مسلمان ہوئے اور لوگوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شامل ہوئے، اور آپ حضور ﷺ کی انگوٹھی کے امین تھے، اور شیخین نے آپ کو بیت المال کا خزانچی مقرر کیا، مورخین کا بیان ہے کہ آپ کو جزام ہو گیا تھا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حکم سے حنظل سے آپ کا علاج کیا گیا، تو مرض زک گیا، آپ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ ۴۰ھ میں ہوئی۔ واللہ اعلم

امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی بکیر نے ہم سے بیان کیا کہ شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بحوالہ ابو سلمہ ہم سے بیان کیا کہ معقیب نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کے بارے میں جو سجدہ کی جگہ سے مٹی برابر کرتا ہے، فرمایا: اگر تو نے ضروری یہ کام کرنا ہے تو ایک دفعہ کیا کر۔ اور صحیحین میں اسے شیبان نحوی کی حدیث سے روایت کیا گیا ہے، مسلم اور ہشام نے الحدیث کا اضافہ کیا ہے، اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اوزاعی نے بھی اس کا اضافہ کیا ہے اور ان تینوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی ہے اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ خلف بن ولید نے ہم سے بیان کیا کہ ایوب نے عن عقبہ بن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن معقیب، ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ امام احمد اس کی روایت میں متفرد ہیں۔ اور ابو داؤد اور نسائی نے ابو عتاب سہل بن حماد الدلال کی حدیث سے عن ابی مکین نوح بن ربیعہ عن ایاس بن الحارث بن المعقیب عن جدہ روایت کی ہے۔ جو آپ کی انگوٹھی کا امین تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی انگوٹھی لوہے کی تھی جس پر چاندی مڑھی ہوئی تھی، راوی بیان کرتا ہے کہ بسا اوقات وہ میرے ہاتھ میں بھی ہوتی تھی۔

میں کہتا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا، جیسا کہ عنقریب صحیحین کے حوالے سے بیان ہوگا، اور اس سے قبل آپ نے سونے کی انگوٹھی بنائی تھی، جسے آپ نے کچھ وقت پہنا، پھر اسے

پسینک دیا اور فرمایا قسم بخدا میں اسے نہیں پہوں گا پھر آپ نے چاندی کی یہ انگوٹھی بنائی اور اس کا تئید بھی چاندی کا تھا اور اس کا نقش محمد رسول اللہ ﷺ تھا ایک سطر میں محمد دوسری میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ لکھا ہوا تھا اور یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہی پھر آپ کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھ میں رہی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چھ سال تک رہی پھر آپ سے اریس کے کنویں میں گر پڑی آپ نے اس کے حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں صرف آپ کی انگوٹھی کے بارے میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے اور ہم عقرب حسب ضرورت اس سے کچھ بیان کریں گے۔ اب رہی بات معقیب کے اس انگوٹھی کو پہننے کی تو یہ اس روایت کی کمزوری پر دال ہے کہ معقیب کو جذام کی بیماری ہو گئی تھی جیسا کہ ابن عبدالبر وغیرہ نے بیان کیا ہے لیکن یہ ایک مشہور بات ہے شاید اسے حضرت نبی کریم ﷺ کے بعد جذام ہو گیا ہو یا اسے ایسا جذام ہو جو متعدی نہ ہو یا حضرت نبی کریم ﷺ کی قوت توکل کی وجہ سے آپ کے خصائص میں سے ہو جیسا کہ آپ نے اس مجذوم سے فرمایا اور اس کے ہاتھ کو پیالے میں ڈال دیا۔ یہ سب کچھ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجذوم سے یوں فرار اختیار کر جیسے تو شہر سے فرار اختیار کرتا ہے۔ واللہ اعلم

اور آپ کے امراء کا ذکر ہم نے سرایا۔ کے بھجنے کے موقع پر معین اسماء کے ساتھ کیا ہے۔

اور جملہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ابو زرہ سے منقول ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو جن مسلمانوں نے آپ کی باتوں کو سنا اور آپ کو دیکھا ان کی تعداد تقریباً ساٹھ ہزار تھی اور حاکم ابو عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں ان کی تعداد پانچ ہزار صحابی بیان کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں امام احمد نے اپنی کثرت روایت و اطلاع اور وسعت سفر و امامت کے باوجود ان سے روایت کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نو سو ستاسی نفوس تھے اور کتب ستہ میں تقریباً تین سو صحابی رضی اللہ عنہم کا اضافہ کیا گیا ہے اور حافظ رحمہم اللہ کی ایک جماعت نے ان کے اسماء و ایام اور وفیات کے ضبط کا اہتمام کیا ہے جن میں سب سے جلیل القدر حافظ شیخ ابو عمر بن عبد البر النمری نے اپنی کتاب الاستیعاب میں اور ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق بن مندہ اور ابو موسیٰ المدائنی نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور پھر ان سب کو حافظ عز الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم الجزری المعروف ابن صحابیہ نے مرتب کیا ہے اور اس بارے میں ایک شاد کتاب ”الغابہ“^۱ تصنیف کی ہے اور اپنے مقصود و مطلوب کو حاصل کیا ہے:

فرحمہ اللہ و اثابہ و جمعہ و الصحابة امین یا رب العالمین.



① اس کا نام ”اسد الغابہ“ ہے اور پانچ جلدوں میں طبع شدہ ہے۔